

فقہ حنفی کی عالم بینا زوالی کتاب

تخریج شدہ

بہارِ شریعت

جلد اول (1)
حصہ 6۲4
(ب)



صدر الشریعہ بدرالطریقہ
حضرت علامہ مولانا مفتی
محمد امجد علی اعظمی
علیہ رحمۃ
اللہ تعالیٰ



شعبہ تخریج

اجمالی فہرست

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
799	کتاب الجنازہ۔		چوتھا حصہ (بقیہ مسائل نماز کا بیان)
806	موت آنے کا بیان۔	652	وتر کا بیان۔
817	کفن کا بیان	658	سنن و نوافل کا بیان۔
822	جنازہ لے چلنے کا بیان۔	681	نماز استخارہ۔
842	قبر و دفن کا بیان۔	683	صلاۃ التسلیح۔
852	تعزیت کا بیان	685	نماز حاجت۔
857	شہید کا بیان	687	نماز توبہ و صلاۃ الرغائب۔
864	کعبہ معظمہ میں نماز پڑھنے کا بیان	688	تراویح کا بیان۔
	پانچواں حصہ (زکوٰۃ اور روزہ کا بیان)	699	قضا نماز کا بیان۔
	زکاۃ کا بیان	708	سجدہ سہو کا بیان۔
866	زکاۃ کا بیان۔	720	نماز مریض کا بیان۔
892	سائمنہ کی زکاۃ کا بیان۔	726	سجدہ تلاوت کا بیان۔
893	اونٹ کی زکاۃ کا بیان۔	739	نماز مسافر کا بیان۔
895	گائے کی زکاۃ کا بیان۔	752	جمعہ کا بیان۔
896	بکریوں کی زکاۃ کا بیان۔	777	عیدین کا بیان۔
901	سونے چاندی اور مال تجارت کی زکاۃ کا بیان۔	786	گھن کی نماز کا بیان۔
909	عاشر کا بیان۔	790	نماز استسقا کا بیان۔
912	کان اور وینہ کا بیان۔	795	نماز خوف کا بیان۔

1067	میقات کا بیان۔	914	زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ یعنی عشر و خراج کا بیان۔
1069	احرام کا بیان۔	934	صدقہ فطر کا بیان۔
1089	طوافِ وسیع صفا و مروہ و عمرہ۔	940	سوال کے حلال ہے اور کئے نہیں۔
1154	قرآن کا بیان۔	946	صدقاتِ نفل کا بیان۔
1157	تمتع کا بیان۔	957	روزہ کا بیان۔
1161	جرم اور ان کے کفارے۔	973	چاند دیکھنے کا بیان۔
1194	مخسر کا بیان۔	995	روزہ کے مکروہات کا بیان۔
1198	حجِ فوت ہونے کا بیان۔	999	سحری و افطار کا بیان۔
1199	حجِ بدل کا بیان۔	1015	منت کے روزے کا بیان
1211	ہدی کا بیان۔	1019	اعتکاف کا بیان
1215	حج کی منت کا بیان۔	چھٹا حصہ (حج کا بیان)	
1217	فضائلِ مدینہ طیبہ۔	1030	حج کا بیان اور فضائل۔

نہایت کی تعریف

غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے

خَاتَمُ الْمُؤْمِنِينَ، رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَأَفْرَانِ عِمْرَتِ نِشَانِ هِيَ: غَضَبُ الْإِيمَانِ كَوَأْسٍ طَرَحَ خَرَابَ كَرْتَا هِيَ جَسْ طَرَحَ أَيْلُو (یعنی ایک کڑے درخت کا جما ہوا رس) شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ (شعب الایمان للبیہقی ج ۶ ص ۳۱۱ حدیث ۸۲۹۴)

شہادت کی تعریف

دوسروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر خوشی کا اظہار کرنے کو شہادت کہتے ہیں۔ (حدیثہ ندبہ شرح طریقہ محمدیہ ج ۱ ص ۶۳۱)

چغل خور جنت میں نہیں جائیگا

مُخَوِّرَا كَرْمٍ، نُورٍ مُجَسَّمٍ، شَاوِنِي آدَمَ، رَسُولٍ مُحْتَسَمٍ، شَافِعِ أُمِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَأَفْرَانِ عِمْرَتِ نِشَانِ هِيَ: بَخْلُ خَوْرَجَتٍ مِثْلٍ دَاخِلٍ نِشَانِ هُوَ كَا۔ (صحيح البخاری ج ۴ ص ۱۱۵ حدیث ۶۰۵۶ دارالکتب العلمیہ بیروت)

نہایت کی تعریف

تفصیلی فہرست

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
676	نماز سفر و نماز واپسی سفر کے مسائل و فضائل صلاۃ اللیل و نماز تہجد کے مسائل و فضائل۔		چوتھا حصہ (بقیہ مسائل نماز کا بیان)
680	رات میں پڑھنے کی بعض دعائیں۔	652	وتر کے فضائل۔
681	نماز استخارہ	653	وتر کے مسائل اور دعائے قنوت۔
683	صلاۃ التسبیح	658	سنن و نوافل کا بیان
685	نماز حاجت	658	نفل کی فضیلت۔
686	نماز غوثیہ کی ترکیب۔	659	سنن مؤکدہ کا ذکر۔
687	نماز توبہ و صلاۃ الرغائب	659	سنت فجر کے فضائل۔
688	تراویح کا بیان	660	سنت ظہر کے فضائل۔
695	تہما نماز شروع کی اور جماعت قائم ہوئی، اس کے مسائل۔	661	سنت عصر کے فضائل۔
697	اذان کے بعد مسجد سے چلے جانے کی ممانعت۔	661	سنت مغرب و صلاۃ الاوائتین کے فضائل۔
698	امام کی مخالفت کرنے اور جماعت میں شامل ہونے کے مسائل۔	662	سنت عشاء کا تا کد۔
699	قضا نماز کا بیان	662	سنن مؤکدہ و نوافل کے مسائل۔
700	نماز قضا کرنے کے عذر۔	668	نفل نماز شروع کر کے توڑنے کے مسائل۔
701	قضا اور اعادہ کی تعریفیں اور قضا ہونے اور ان کے پڑھنے کی صورتیں۔	670	کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر گاڑی پر نفل نماز پڑھنے کے مسائل۔
703	چند نمازیں قضا ہوئیں تو ان میں ترتیب واجب ہے اور اسکے شرائط۔	672	فرض و واجب نماز سواری یا گاڑی پر پڑھنے کے مسائل و اعذار۔
706	قضا کے عمری کے مسائل۔	673	منت مان کر نماز پڑھنے کے مسائل۔
706	قضا کے متفرق مسائل۔	674	تحیۃ المسجد کے مسائل و فضائل۔
707	فدیہ نماز کے مسائل۔	675	تحیۃ الوضو و نماز اشراق و نماز چاشت کے فضائل و مسائل۔
708	سجدہ سہو کا بیان		

762	جمعہ پڑھنے کے شرائط۔	720	نماز مریض کا بیان
762	پہلی شرط مصر اور اس کی تعریف و احکام۔	726	سجدہ تلاوت کا بیان
764	دوسری شرط بادشاہ اسلام اور اس کے احکام۔	726	آیات سجدہ۔
766	تیسری شرط وقت ظہر اور اس سے مراد۔	732	سجدہ تلاوت کی دعائیں۔
766	چوتھی شرط خطبہ اور اس کے شرائط اور اس کی سنتیں اور مستحبات۔	733	نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کے مسائل۔
769	پانچویں شرط جماعت اور اس کے مسائل۔	735	ایک مجلس میں آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کے مسائل اور مجلس
770	چھٹی شرط اذن عام۔		بدلنے اور نہ بدلنے کی صورتیں۔
770	جمعہ واجب ہونے کے شرائط۔	738	سجدہ شکر کے بعض مواقع۔
773	شہر میں جمعہ کے دن ظہر پڑھنے کے مسائل۔	739	نماز مسافر کا بیان
774	خطبہ کے بعض دیگر مسائل۔	740	مسافر کس کو کہتے ہیں۔
776	روز جمعہ و شب جمعہ کے بعض اعمال۔	743	مسافر کے احکام۔
777	عیدین کا بیان	744	نیت اقامت کے شرائط۔
779	عید کے دن مستحبات۔	748	مسافر نے یتیم کی اقدار یا یتیم نے مسافر کی، اس کے احکام۔
781	نماز عید کی ترکیب اور مسبوق و لاحق کے احکام۔	750	وطن اصلی و وطن اقامت کے مسائل۔
784	تکبیر تشریح کے مسائل۔	752	جمعہ کا بیان
786	گھن کی نماز کا بیان	752	فضائل روز جمعہ۔
788	بعض ایسے مواقع جن میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔	754	جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔
789	آندھی اور بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کے وقت دعائیں۔	755	جمعہ کے دن یارات میں مرنے کے فضائل۔
790	نماز استسقا کا بیان	756	فضائل نماز جمعہ۔
795	نماز خوف کا بیان	757	جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں۔
799	کتاب الجنائز	759	جمعہ کے دن نہانے اور خوشبو لگانے کے فضائل۔
799	بیماری کا بیان اور اس کے بعض منافع۔	761	جمعہ کے لیے اول جانے کا ثواب اور گردن پھلانگنے کی ممانعت۔

866	زکاۃ کا بیان	803	عیادت کے فضائل۔
868	زکاۃ نہ دینے کی برائی اور دینے کے فضائل میں احادیث۔	806	موت آنے کا بیان
874	زکاۃ کی تعریف اور واجب ہونے کی شرطیں۔	810	میت کے نہلانے کا بیان۔
887	زکاۃ کس طرح ادا ہوتی ہے اور کس طرح نہیں۔	817	کفن کا بیان
892	سائمہ کی زکاۃ کا بیان	820	کفن پہنانے کا طریقہ۔
893	اونٹ کی زکاۃ کا بیان	821	مسئلہ ضروریہ۔
895	گانے کی زکاۃ کا بیان	822	جنازہ لے چلنے کا بیان
896	بکریوں کی زکاۃ کا بیان	825	نماز جنازہ کا بیان۔
897	جانوروں کی زکاۃ کے متفرق مسائل۔	825	نماز جنازہ کے شرائط۔
901	سونے چاندی اور مال تجارت کی زکاۃ کا بیان	829	جنازہ کی چودہ دعائیں۔
909	عاشر کا بیان	836	نماز جنازہ کون پڑھائے۔
912	کان اور دھینہ کا بیان	842	قبر و دفن کا بیان
914	زراعت اور پھلوں کی زکاۃ یعنی عشرو خراج کا بیان	848	زیارت قبور۔
		850	دفن کے بعد تلقین۔
922	مال زکاۃ کن لوگوں پر صرف کیا جائے۔	852	تعزیت کا بیان
934	صدقہ فطر کا بیان	854	سوگ اور نوحہ کا بیان۔
940	سوال کسے حلال ہے اور کسے نہیں	857	شہید کا بیان
946	صدقات نفل کا بیان	857	جہاد میں مقتول ہونے کے علاوہ جن کو ثواب شہادت ملتا ہے۔
957	روزہ کا بیان	860	شہید فقہی کی تعریف اور احکام۔
958	ماہ رمضان اور روزہ کے فضائل۔	864	کعبہ معظمہ میں نماز پڑھنے کا بیان
966	روزہ کی تعریف اور اس کی قسمیں۔	865	تقریب اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن۔
968	روزہ کی نیت۔		پانچواں حصہ (زکوٰۃ اور روزہ کا بیان)

1035	حج کے مسائل۔	972	تیسویں شعبان کا روزہ۔
1036	حج واجب ہونے کے شرائط۔	973	چاند دیکھنے کا بیان
1043	وجوب ادا کے شرائط۔	980	کن چیزوں سے روزہ نہیں جاتا۔
1046	صحت ادا کے شرائط۔	985	روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔
1047	حج فرض ادا ہونے کے شرائط۔	989	جن صورتوں میں صرف قضا لازم ہے۔
1047	حج کے فرائض و واجبات۔	991	اُن صورتوں کا بیان جن میں کفارہ بھی لازم ہے۔
1050	حج کی سنتیں۔	994	روزہ توڑنے کا کیا کفارہ ہے۔
1051	آداب سفر و مقدمات حج۔	995	روزہ کے مکروہات کا بیان
1067	میقات کا بیان	999	سحری و افطار کا بیان
1069	احرام کا بیان	1002	ان وجوہ کا بیان جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔
1071	احرام کے احکام۔	1008	روزہ نفل کے فضائل۔
1078	وہ امور جو احرام میں حرام ہیں۔	1008	عاشورا کے فضائل۔
1079	احرام کے مکروہات۔	1009	عرفہ کے دن روزہ کا ثواب۔
1080	وہ باتیں جو احرام میں جائز ہیں۔	1010	شش عید کے روزوں کے فضائل۔
1083	احرام میں مرد و عورت کے فرق۔	1011	پندرہویں شعبان کا روزہ اور اُس کے فضائل۔
1083	داخلی حرم محترم و مکہ مکرمہ و مسجد الحرام۔	1012	ایام بیض کے فضائل۔
1089	طواف وسعی صفا و مروہ و عمرہ	1013	پیر اور جمعرات کے روزے۔
1091	طواف کے فضائل۔	1013	بعض اور دنوں کے روزے۔
1092	حجر اسود کی بزرگی۔	1015	منت کے روزے کا بیان
1093	مسجد الحرام کا نقشہ و حدود۔	1019	اعتکاف کا بیان
1095	طواف کا طریقہ اور دعائیں۔		چھٹا حصہ (حج کا بیان)
1099	طواف کے مسائل۔	1030	حج کا بیان اور فضائل

1130	مزدلفہ کی روانگی اور اس کا وقوف۔	1102	نماز طواف۔
1132	مزدلفہ میں نماز مغرب و عشا۔	1103	ملترزم سے لپٹنا۔
1133	مزدلفہ کا وقوف اور دعائیں۔	1105	زمزم کی حاضری۔
1135	منے کے اعمال۔	1105	صفا و مروہ کی سعی۔
1139	جمرة العقبہ کی رمی۔	1106	سعی کی دعائیں۔
1139	رمی کے مسائل۔	1109	سعی کے مسائل۔
1140	حج کی قربانی۔	1111	سرمونڈانا یا بال کتروانے۔
1142	حلق و تقصیر۔	1112	ایام اقامت کے اعمال۔
1144	طواف فرض۔	1112	طواف میں سات باتیں حرام ہیں۔
1146	باقی دنوں کی رمی۔	1113	طواف میں پندرہ باتیں مکروہ ہیں۔
1148	رمی میں بارہ چیزیں مکروہ ہیں۔	1114	سات باتیں طواف و سعی میں جائز ہیں۔
1149	مکہ معظمہ کو روانگی۔	1114	دس باتیں سعی میں مکروہ ہیں۔
1150	مقامات متبرکہ کی زیارت۔	1115	طواف و سعی میں مرد و عورت کے فرق۔
1150	کعبہ معظمہ کی داخلی۔	1115	منے کی روانگی اور عرفات کا وقوف۔
1151	حریم شریفین کے تبرکات۔	1123	عرفات میں ظہر و عصر کی نماز۔
1151	طواف رخصت۔	1123	عرفات کا وقوف۔
1154	قرآن کا بیان	1124	وقوف کی سنتیں۔
1157	تمتع کا بیان	1125	وقوف کے آداب۔
1161	جرم اور ان کے کفارے	1125	وقوف کی دعائیں۔
1163	خوشبو اور تیل لگانا۔	1127	وقوف کے مکروہات۔
1167	سلے کپڑے پہننا۔	1128	ضروری فصیحت۔
1170	بال دور کرنا۔	1128	وقوف کے مسائل۔

1199	حج بدل کا بیان	1172	ناخن کترنا۔
1201	حج بدل کے شرائط۔	1172	بوس و کنار و جماع۔
1211	ہدی کا بیان	1175	طواف میں غلطیاں۔
1215	حج کی منت کا بیان	1177	سعی و قوف عرفہ و قوف مزدلفہ اور رمی کی غلطیاں۔
1217	فضائل مدینہ طیبہ	1179	قربانی اور حلق میں غلطی۔
1217	مدینہ طیبہ میں اقامت۔	1179	شکار کرنا۔
1218	مدینہ طیبہ کے برکات۔	1186	حرم کے جانور کو ایذا دینا۔
1219	اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرنے کے نتائج	1189	حرم کے پیڑ وغیرہ کاٹنا۔
1220	حاضری سرکارِ اعظم۔	1190	جول مارنا۔
1228	اہل بیعت کی زیارت۔	1191	بغیر احرام میقات سے گزرنا۔
1230	قبا کی زیارت۔	1193	احرام ہوتے ہوئے احرام باندھنا۔
1231	احد و شہدائے احد کی زیارت۔	1194	محصر کا بیان
1233	حج و عمرہ کے اعمال کا نقشہ ایک نظر میں	1198	حج فوت ہونے کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ ط

وتر کا بیان

حدیث ۱ صحیح مسلم شریف میں ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں میں سویا تھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو کیا اور اسی حالت میں آئیہ ﴿ **اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّنَاتِ وَالْاَنْفُسِ** ﴾^(۱) ختم سورہ تک پڑھی پھر کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھیں جن میں قیام و رکوع و سجود کو طویل کیا پھر پڑھ کر آرام فرمایا یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی، یوہیں تین بار میں چھ رکعتیں پڑھیں ہر بار مسواک و وضو کرتے اور ان آیتوں کی تلاوت فرماتے پھر وتر کی تین رکعتیں پڑھیں۔^(۲)

حدیث ۲ نیز اسی میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: رات کی نمازوں کے آخر میں وتر پڑھو اور فرماتے ہیں: ”صبح سے پیشتر وتر پڑھو۔“^(۳)

حدیث ۳ مسلم و ترمذی و ابن ماجہ و غیر ہم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جسے اندیشہ ہو کہ کچھلی رات میں نہ اٹھے گا وہ اول میں پڑھ لے اور جسے امید ہو کہ کچھلے گا اٹھے گا وہ کچھلی رات میں پڑھے کہ آخر شب کی نماز مشہود ہے (یعنی اُس میں ملنگہ رحمت حاضر ہوتے ہیں) اور یہ افضل ہے۔“^(۴)

حدیث ۶۲۳ ابوداؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ وتر ہے و تر کو محبوب رکھتا ہے، لہذا اے قرآن والو! وتر پڑھو۔^(۵) اور اسی کے مثل جابر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی۔

حدیث ۱۱۲۷ ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”اللہ تعالیٰ نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی کہ وہ سُرخ اونٹوں سے بہتر ہے وہ وتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اُسے عشاء و طلوع فجر کے درمیان میں رکھا ہے۔“^(۶) یہ حدیث دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے، مثلاً معاذ بن جبل و عبد اللہ بن عمر و ابن عباس و عقبہ بن عامر جہنی و غیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

① پ ۲، البقرة: ۱۶۴. ② ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء... إلخ، الحدیث: ۱۹۱- (۷۶۳)، ص ۳۸۷.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللیل... إلخ، الحدیث: ۱۵۱، ۷۵۰- (۷۵۱)، ص ۳۷۸.

④ ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب من خاف أن لا یقوم من آخر اللیل... إلخ، الحدیث: ۷۵۵، ص ۳۸۰.

⑤ ”جامع الترمذی“، أبواب الوتر، باب ماجاء أن الوتر لیس بحتم، الحدیث: ۴۵۳، ج ۲، ص ۴.

⑥ ”سنن أبي داود“، کتاب الوتر، باب استحباب الوتر، الحدیث: ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۸۸.

حدیث ۱۲ — ترمذی زید بن اسلم سے مرسل راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو وتر سے سو جائے تو صبح کو پڑھے۔“ (1)

حدیث ۱۳ تا ۱۶ — امام احمد ابی بن کعب سے اور دارمی ابن عباس سے اور ابو داؤد و ترمذی ام المؤمنین صدیقہ سے اور نسائی عبدالرحمن بن ابزے رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی، ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الَّا عَلٰی** اور دوسری میں **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** اور تیسری میں **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** پڑھتے۔“ (2)

حدیث ۱۷ — احمد و ابو داؤد و حاکم باقائدہ تصحیح بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وتر حق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔“ (3)

حدیث ۱۸ — ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”جو وتر سے سو جائے یا بھول جائے، تو جب بیدار ہو یا یاد آئے پڑھے۔“ (4)

حدیث ۱۹ و ۲۰ — احمد و نسائی و دارقطنی بروایت عبدالرحمن بن ابزے عن ابیہ اور ابو داؤد و نسائی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی، کہ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وتر میں سلام پھیرتے، تین بار **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** کہتے اور تیسری بار بلند آواز سے کہتے۔“ (5)

مسائل فقہیہ

وتر واجب ہے اگر سہو یا قصداً نہ پڑھا تو قضا واجب ہے اور صاحب ترتیب کے لیے اگر یہ یاد ہے کہ نماز وتر نہیں پڑھی ہے اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو فجر کی نماز فاسد ہے، خواہ شروع سے پہلے یاد ہو یا درمیان میں یاد آ جائے۔ (6) (در مختار وغیرہ)

- 1..... ”جامع الترمذی“، أبواب الوتر، باب ماجاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساها، الحديث: ۴۶۵، ج ۲، ص ۱۳۱.
- 2..... ”سنن النسائي“، كتاب قيام الليل... إلخ، باب نوع آخر من القراءة في الوتر، الحديث: ۱۷۳۲، ص ۲۲۰۲.
- و ”جامع الترمذی“، أبواب الوتر، باب ماجاء في ما يقرأ به في الوتر، الحديث: ۴۶۲، ج ۲، ص ۱۰.
- 3..... ”سنن أبي داود“، كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر، الحديث: ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۸۹.
- 4..... ”جامع الترمذی“، أبواب الوتر، باب ماجاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساها، الحديث: ۴۶۴، ج ۲، ص ۱۲.
- 5..... ”سنن أبي داود“، كتاب الوتر، باب في الدعاء بعد الوتر، الحديث: ۱۴۳۰، ج ۲، ص ۹۳.
- و ”سنن النسائي“، كتاب قيام الليل... إلخ، باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه، الحديث: ۱۷۳۳، ص ۲۲۰۲.
- 6..... ”الدر المختار“ معہ ”ردالمحتار“، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۲۹ - ۵۳۲، وغیرہ.

مسئلہ ۱ وتر کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بغیر عذر نہیں ہو سکتی۔^(۱) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲ نماز وتر تین رکعت ہے اور اس میں قعدہ اولیٰ واجب ہے اور قعدہ اولیٰ میں صرف التحيات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، نہ درود پڑھے نہ سلام پھیرے جیسے مغرب میں کرتے ہیں اسی طرح کرے اور اگر قعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں بلکہ سجدہ سہو کرے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ وتر کی تینوں رکعتوں میں مطلقاً قراءت فرض ہے اور ہر ایک میں بعد فاتحہ سورت ملانا واجب اور بہتر یہ ہے کہ پہلی میں **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الَّا عَظِيًّا يَا اِنَّآ اَنْزَلْنَا** دوسری میں **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** تیسری میں **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** پڑھے۔ اور کبھی کبھی اور سورتیں بھی پڑھ لے، تیسری رکعت میں قراءت سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے جیسے تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں، بہتر وہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھے جب بھی حرج نہیں، سب میں زیادہ مشہور دعایہ ہے۔

اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ط اللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَالِيكَ نَسْعِي وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِ مُلْحِقٌ ط .^(۳)

اور بہتر یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم

فرمائی وہ یہ ہے۔

اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْ مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ مَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَدُلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

① "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۳۲، وغیرہ .

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في منكر الوتر... إلخ، ج ۲، ص ۵۳۲،

باب سجود السهو، ص ۶۶۲ .

③ ترجمہ: الہی! ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں اور ہر بھلائی کے

ساتھ تیری ثنا کرتے ہیں اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے اور ہم جدا ہوتے ہیں اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیرا گناہ کرے۔

اے اللہ (عزوجل)! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور

سعی کرتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ ۱۲

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ. (1)

اور ایک دُعا وہ ہے جو مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر وتر میں پڑھتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي

ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ. (2)

اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عَذَابَكَ الْجِدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقُكَ بَعْدِيہ پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ

ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَلِّبُونَ رُسُلَكَ

وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلَّزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَمْ يُرَدَّ عَنِ

الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. (3)

دُعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ (4) (غنیہ وردالمختار وغیرہما)

مسئلہ ۳ دعائے قنوت آہستہ پڑھے امام ہو یا منفرد یا مقتدی، ادا ہو یا قضا، رمضان میں ہو یا اور دنوں میں۔ (5)

(ردالمختار)

1 ترجمہ: الہی! تو مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں جن کو تُو نے ہدایت دی اور عافیت دے ان کے زمرہ میں جن میں تو نے عافیت دی اور میرا

ولی ہو۔ اُن میں جن کا تُو ولی ہو اور جو کچھ تُو نے دیا اُس میں برکت دے اور جو کچھ تُو نے فیصلہ کر دیا اوکے شر سے مجھے بچا پیشک تو

حکم کرتا ہے اور تجھ پر حکم نہیں کیا جاتا، پیشک تیرا دوست ذلیل نہیں ہوتا اور تیرا دشمن عزت نہیں پاتا تُو برکت والا ہے تو پاک ہے، اے

بیت (کعبہ) کے مالک اور اللہ (عزوجل) درود بھیجے نبی پر اور ان کی آل پر۔ ۱۲

2 ترجمہ: اے اللہ (عزوجل) میں تیری خوشنودی کی پناہ مانگتا ہوں تیری ناخوشی سے اور تیری عافیت کی تیرے عذاب سے اور تیری ہی پناہ

مانگتا ہوں تجھ سے (تیرے عذاب سے) میں تیری پوری شنا نہیں کر سکتا ہوں جیسی تُو نے اپنی شنا کی۔ ۱۲

3 ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو مجھے بخش دے اور مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کو اور ان کے دلوں میں اُلفت پیدا کر دے اور ان کے

آپس کی حالت درست کر دے اور اُن کو تُو اپنے دشمن اور خود ان کے دشمن پر مدد کر دے۔ اے اللہ (عزوجل)! تو کفار اہل کتاب پر لعنت کر جو

تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں، الہی تُو ان کی بات میں مخالفت ڈال دے اور ان کے قدموں کو ہٹا

دے اور ان پر اپنا وہ عذاب نازل کر جو قوم مجرمن سے واپس نہیں ہوتا۔ ۱۲

4 "غنیة المتملی"، صلاة الوتر، ص ۴۱۴ - ۴۱۸.

و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی منکر الوتر... إلخ، ج ۲، ص ۵۳۴.

5 "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی منکر الوتر... إلخ، ج ۲، ص ۵۳۶.

مسئلہ ۵ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے یہ پڑھے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو نہ قیام کی طرف لوٹے نہ رکوع میں پڑھے اور اگر

قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھا اور رکوع نہ کیا، تو نماز فاسد نہ ہوگی، مگر گنہگار ہوگا اور اگر صرف الحمد پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تھا تو لوٹے اور سورت و قنوت پڑھے پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یوہیں اگر الحمد بھول گیا اور سورت پڑھ لی تھی تو لوٹے اور فاتحہ و سورت و قنوت پڑھ کر پھر رکوع کرے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ امام کو رکوع میں یاد آیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی تو قیام کی طرف عود نہ کرے⁽³⁾، پھر بھی اگر کھڑا ہو گیا اور

دُعا پڑھی تو رکوع کا اعادہ نہ چاہیے⁽⁴⁾ اور اگر اعادہ کر لیا اور مقتدیوں نے پہلے رکوع میں امام کا ساتھ نہ دیا اور دوسرا امام کے ساتھ کیا، یا پہلا رکوع امام کے ساتھ کیا دوسرا نہ کیا، دونوں حال میں ان کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ قنوت وتر میں مقتدی امام کی متابعت⁽⁶⁾ کرے، اگر مقتدی قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رکوع میں

چلا گیا تو مقتدی بھی امام کا ساتھ دے اور اگر امام نے بے قنوت پڑھے رکوع کر دیا اور مقتدی نے ابھی کچھ نہ پڑھا، تو مقتدی کو اگر رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو جب تو رکوع کر دے، ورنہ قنوت پڑھ کر رکوع میں جائے اور اس خاص دعا کی حاجت نہیں جو دعائے قنوت کے نام سے مشہور ہے، بلکہ مطلقاً کوئی دُعا جسے قنوت کہہ سکیں پڑھ لے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ اگر شک ہو کہ یہ رکعت پہلی ہے یا دوسری یا تیسری تو اس میں بھی قنوت پڑھے اور قعدہ کرے، پھر اور دو

رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں قنوت بھی پڑھے اور قعدہ کرے۔ یوہیں دوسری اور تیسری ہونے میں شک واقع ہو تو دونوں میں

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثامن فی صلاة الوتر، ج ۱، ص ۱۱۱۔

اے ہمارے پروردگار! تو ہم کو دنیا میں بھلائی دے (اور ہم کو آخرت میں بھلائی دے) اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ۱۲

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثامن فی صلاة الوتر، ج ۱، ص ۱۱۱۔

③ یعنی واپس نہ لوٹے۔

④ یعنی رکوع نہ لوٹائے۔

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثامن فی صلاة الوتر، ج ۱، ص ۱۱۱۔

⑥ پیروی۔

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثامن فی صلاة الوتر، ج ۱، ص ۱۱۱۔

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب: الاقتداء بالشافعی، ج ۲، ص ۵۴۰۔

قنوت پڑھے۔ (1) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ بھول کر پہلی یا دوسری میں دعائے قنوت پڑھ لی تو تیسری میں پھر پڑھے یہی راجح ہے۔ (2) (غنیہ، حلیہ، بحر)

مسئلہ ۱۱ مسبوق امام کے ساتھ قنوت پڑھے بعد کونہ پڑھے اور اگر امام کے ساتھ تیسری رکعت کے رکوع میں ملا ہے

تو بعد کو جو پڑھے گا اس میں قنوت نہ پڑھے۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ وتر کی نماز شافعی المذہب کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، بشرطیکہ دوسری رکعت کے بعد سلام نہ پھیرے ورنہ صحیح

نہیں اور اس صورت میں قنوت امام کے ساتھ پڑھے یعنی تیسری رکعت کے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب وہ شافعی امام

پڑھے۔ (4) (عامہ کتب)

مسئلہ ۱۳ فجر میں اگر شافعی المذہب کی اقتدا کی اور اس نے اپنے مذہب کے موافق قنوت پڑھا تو یہ نہ پڑھے، بلکہ

ہاتھ لٹکائے ہوئے اتنی دیر چپ کھڑا رہے۔ (5) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۴ وتر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہ پڑھے۔ ہاں اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر میں بھی پڑھ سکتا ہے اور

ظاہر یہ ہے کہ رکوع کے قبل قنوت پڑھے۔ (6) (درمختار و جموی (7))

مسئلہ ۱۵ وتر کی نماز قضا ہوگئی تو قضا پڑھنی واجب ہے اگرچہ کتنا ہی زمانہ ہو گیا ہو، قصداً قضا کی ہو یا بھولے سے قضا

1 "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۴۱.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثامن فی صلاة الوتر، ج ۱، ص ۱۱۱.

2 "غنیة المتملی"، صلاة الوتر، ص ۴۲۲. و "البحر الرائق"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۷۳.

3 "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثامن فی صلاة الوتر، ج ۱، ص ۱۱۱.

4 البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۷۸، ۷۰.

5 "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۳۸، وغیرہ.

6 "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۴۱، و "الفتاویٰ الرضویہ"، ج ۷، ص ۴۹۰.

7 بہار شریعت میں اس جگہ درمختار و شرنبلالی کا حوالہ لکھا ہے، لیکن ہم نے صدر الشریعہ کے فرمان کے مطابق "درمختار و جموی" کر دیا۔ چنانچہ

صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی "فتاویٰ امجدیہ"، ج ۱، ص ۲۰۷ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ:

فقیر نے بہار شریعت میں بصورت نازلہ نماز فجر میں قنوت کا قبل رکوع ہونا تحریر کیا مگر اس میں حوالہ شرنبلالی کا دیا۔ اس مسئلہ کی تحریر کے وقت

یہ معلوم ہوا کہ شرنبلالی بعد رکوع کے قائل ہیں۔ اصل مسودہ بہار شریعت کا نکلوا کر دیکھا گیا اس میں پہلے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ قنوت

نازلہ بعد رکوع ہے اور شرنبلالی کا حوالہ۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بعد رکوع قلم زد کر دیا اور بجائے اس کے قبل رکوع بنوایا مگر غلطی سے

شرنبلالی جو حوالہ تحریر تھا وہ قلم زد نہیں ہوا، "لہذا لوگوں کو چاہیے کہ بہار شریعت میں شرنبلالی کو قلم زد کر کے اس کی جگہ پر جموی لکھ لیں۔" ۱۳ منہ

ہوگئی اور جب قضا پڑھے، تو اس میں قنوت بھی پڑھے۔ البتہ قضا میں تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے جب کہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو کہ لوگ اس کی تقصیر پر مطلع ہوں گے۔⁽¹⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ - رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں وتر جماعت سے نہ پڑھے اور اگر تداعی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۷ - جسے آخر شب میں جاگنے پر اعتماد ہو تو بہتر یہ ہے کہ کچھلی رات میں وتر پڑھے، ورنہ بعد عشا پڑھ لے۔⁽³⁾ (حدیث)

مسئلہ ۱۸ - اول شب میں وتر پڑھ کر سو رہا، پھر کچھلے کو جاگا تو دوبارہ وتر پڑھنا جائز نہیں اور نوافل جتنے چاہے پڑھے۔⁽⁴⁾ (غنیہ)

مسئلہ ۱۹ - وتر کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے، اس کی پہلی رکعت میں **إِذَا زُلْزِلَتْ**، دوسری میں **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث میں ہے: کہ ”اگر رات میں نہ اٹھا تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔“⁽⁵⁾ یہ مضامین احادیث سے ثابت ہیں۔

سنن و نوافل کا بیان

حدیث ۱ - صحیح بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا اور میرا بندہ کسی شے سے اُس قدر تقرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعہ سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے، تو اسے دوں گا اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔“⁽⁶⁾ (الحدیث)

① ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الثامن فی صلاة الوتر، ج ۱، ص ۱۱۱۔

و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی منکر الوتر... إلخ، ج ۲، ص ۵۳۳۔

② ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۶۰۴۔

③ انظر: ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب من خاف ان لا یقوم... إلخ، الحدیث: ۷۵۵، ص ۳۸۰۔

④ ”غنیة المتملی“، صلاة الوتر، ص ۴۲۴۔

⑤ المرجع السابق۔

⑥ ”صحیح البخاری“، کتاب الرقاق، باب التواضع، الحدیث: ۶۵۰۲، ج ۴، ص ۲۴۸۔

سنن مؤکدہ کا ذکر

حدیث ۲ و ۳ — مسلم و ابوداؤد و ترمذی و نسائی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو مسلمان بندہ اللہ (عزوجل) کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ تطوع (نفل) کی بارہ رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا، چار ظہر سے پہلے اور دو ظہر کے بعد اور دو بعد مغرب اور دو بعد عشا اور دو قبل نماز فجر۔“ (1)

اور رکعات کی تفصیل صرف ترمذی میں ہے۔ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ کی روایت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ ہے کہ ”جو ان پر محافظت کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔“ (2)

حدیث ۳ — ترمذی میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ادبار نجوم فجر کے پہلے کی دو رکعتیں ہیں اور ادبار نجوم مغرب کے بعد کی دو۔“ (3)

سنن فجر کے فضائل

حدیث ۵ — مسلم و ترمذی ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”فجر کی دو رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔“ (4)

حدیث ۶ — بخاری و مسلم و ابوداؤد و نسائی انھیں سے راوی، کہتی ہیں: ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ان کی جتنی محافظت فرماتے کسی اور نفل نماز کی نہیں کرتے۔“ (5)

حدیث ۷ — طبرانی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اُس سے نفع دے؟ فرمایا: ”فجر کی دونوں رکعتوں کو لازم کر لو، ان میں بڑی فضیلت ہے۔“ (6)

① ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن... إلخ، الحدیث: ۱۰۳- (۷۲۸)، ص ۳۶۷.

و ”جامع الترمذی“، أبواب الصلاة، باب ماجاء فیمن صلی فی یوم و لیلۃ... إلخ، الحدیث: ۴۱۵، ج ۱، ص ۴۲۴.

② ”سنن النسائي“، کتاب قیام اللیل... إلخ، باب ثواب من صلی فی الیوم و اللیلۃ... إلخ، الحدیث: ۱۷۹۱، ص ۳۰۷.

③ ”جامع الترمذی“، أبواب التفسیر، باب و من سورة الطور، الحدیث: ۳۲۸۶، ج ۵، ص ۱۸۲.

④ ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب رکعتی سنة الفجر... إلخ، الحدیث: ۷۲۵، ص ۳۶۵.

⑤ ”صحیح البخاری“، کتاب التہجد، باب تعاهد رکعتی الفجر... إلخ، الحدیث: ۱۱۶۹، ج ۱، ص ۳۹۵.

⑥ ”الترغیب و الترہیب“، کتاب النوافل، الحدیث: ۳، ج ۱، ص ۲۲۳.

حدیث ۸ ابو یعلیٰ باسناد حسن انھیں سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**“ تہائی قرآن کی برابر ہے اور **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** جو تہائی قرآن کی برابر اور ان دونوں کو فجر کی سنتوں میں پڑھتے اور یہ فرماتے کہ ان میں زمانہ کی رغبتیں ہیں۔“ (1)

حدیث ۹ ابو داؤد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آپڑیں۔“ (2)

سنتِ ظہر کے فضائل

حدیث ۱۰ احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو شخص ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار رکعتوں پر محافظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام فرمادے گا۔“ (3) ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہا۔

حدیث ۱۱ ابو داؤد و ابن ماجہ ابو یوسف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ”ظہر سے پہلے چار رکعتیں جن کے درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔“ (4)

حدیث ۱۲ احمد و ترمذی عبد اللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آفتاب ڈھلنے کے بعد نماز ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے اور فرماتے: ”یہ ایسی ساعت ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لہذا میں محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل صالح بلند کیا جائے۔“ (5)

حدیث ۱۳ بزار نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ دو پہر کے بعد چار رکعت پڑھنے کو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) محبوب رکھتے، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نماز محبوب رکھتے ہیں، فرمایا: ”اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ

1..... ”الترغیب و الترہیب“، کتاب النوافل، الحدیث: ۵، ج ۱، ص ۲۲۴.

و ”المعجم الأوسط“، الحدیث: ۱۸۶، ج ۱، ص ۶۸.

2..... ”سنن أبي داود“، کتاب التطوع، باب في تحفيهما، الحدیث: ۱۲۵۸، ج ۲، ص ۳۱.

3..... ”سنن النسائي“، کتاب قیام اللیل... إلخ، باب الاختلاف علی اسماعیل بن أبي خالد، الحدیث: ۱۸۱۳، ص ۳۱۰.

4..... ”سنن أبي داود“، کتاب التطوع، باب الأربع قبل الظهر و بعدها، الحدیث: ۱۲۷۰، ج ۲، ص ۳۵.

5..... ”جامع الترمذی“، أبواب الوتر، باب ماجاء في الصلاة عند الزوال، الحدیث: ۴۷۷، ج ۲، ص ۲۰.

مخلوق کی طرف نظرِ رحمت فرماتا ہے اور اس نماز پر آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام محافظت کرتے۔“ (1)

حدیث ۱۳ و ۱۵ — طبرانی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جس نے ظہر کے پہلے چار رکعتیں پڑھیں، گویا اس نے تہجد کی چار رکعتیں پڑھیں اور جس نے عشا کے بعد چار پڑھیں، تو یہ شبِ قدر میں چار کے مثل ہیں۔“ (2) عمر فاروق اعظم و بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی اسی کی مثل مروی۔

سنتِ عصر کے فضائل

حدیث ۱۶ — احمد و ابوداؤد و ترمذی باقادہ تحسین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، جس نے عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں۔“ (3)

حدیث ۱۷ — ترمذی مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے۔“ (4) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ دو پڑھتے تھے۔ (5)

حدیث ۱۸ و ۱۹ — طبرانی کبیر میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرمادے گا۔“ (6) دوسری روایت طبرانی کی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے مجمع صحابہ میں جس میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فرمایا: ”جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے، اُسے آگ نہ چھوئے گی۔“ (7)

سنتِ مغرب کے فضائل

حدیث ۲۰ و ۲۱ — رزین نے مکحول سے مُرسلاً روایت کی کہ فرماتے ہیں: ”جو شخص بعد مغرب کلام کرنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے، اُس کی نمازِ علیین میں اٹھائی جاتی ہے۔“ اور ایک روایت میں ”چار رکعت ہے۔“ نیز انھیں کی روایت

① ”مسند البزار“، مسند ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحدیث: ۴۱۶۶، ج ۱۰، ص ۱۰۲.

② ”المعجم الأوسط“ للطبرانی، باب العیم، الحدیث: ۶۳۳۲، ج ۴، ص ۳۸۶.

③ ”سنن أبي داود“، كتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، الحدیث: ۱۲۷۱، ج ۲، ص ۳۵.

④ ”جامع الترمذی“، أبواب الصلاة، باب ماجاء في الأربع قبل العصر، الحدیث: ۴۲۹، ج ۱، ص ۴۳۷.

⑤ ”سنن أبي داود“، كتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، الحدیث: ۱۲۷۲، ج ۲، ص ۳۵.

⑥ ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۶۱۱، ج ۲۳، ص ۲۸۱.

⑦ ”المعجم الأوسط“، باب الألف، الحدیث: ۲۵۸۰، ج ۲، ص ۷۷.

حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ”اس میں اتنی بات زیادہ ہے کہ فرماتے تھے مغرب کے بعد کی دونوں رکعتیں جلد پڑھو کہ وہ فرض کے ساتھ پیش ہوتی ہیں۔“ (1)

حدیث ۲۲ — ترمذی وابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں: ”جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان میں کوئی بُری بات نہ کہے، تو بارہ برس کی عبادت کی برابر کی جائیں گی۔“ (2)

حدیث ۲۳ — طبرانی کی روایت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ فرماتے ہیں: ”جو مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں۔“ (3)

حدیث ۲۴ — ترمذی کی روایت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، ”جو مغرب کے بعد بیس رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔“ (4)

حدیث ۲۵ — ابوداؤد کی روایت انھیں سے ہے، کہ فرماتی ہیں: عشا کی نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مکان میں جب تشریف لاتے تو ”چار یا چھ رکعتیں پڑھتے۔“ (5)

مسائل فقہیہ

سنتیں بعض مؤکدہ ہیں کہ شریعت میں اس پر تاکید آئی۔ بلاعذر ایک بار بھی ترک کرے تو مستحق ملامت ہے اور ترک کی عادت کرے تو فاسق، مردود الشہادۃ، مستحق نار ہے۔ (6) اور بعض ائمہ نے فرمایا: کہ ”وہ گمراہ ٹھہرایا جائے گا اور گنہگار ہے، اگرچہ اس کا گناہ واجب کے ترک سے کم ہے۔“ تلوح میں ہے، کہ اس کا ترک قریب حرام کے ہے۔ اس کا تارک مستحق ہے کہ معاذ اللہ! شفاعت سے محروم ہو جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو میری سنت کو ترک کرے گا، اسے میری شفاعت نہ ملے گی۔“ سنت مؤکدہ کو سنن الہدی بھی کہتے ہیں۔

دوسری قسم غیر مؤکدہ ہے جس کو سنن الزوائد بھی کہتے ہیں۔ اس پر شریعت میں تاکید نہیں آئی، کبھی اس کو مستحب اور

① ”مشکاۃ المصابیح“، کتاب الصلاة، باب السنن و فضائلها، الحدیث: ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ج ۱، ص ۳۴۵.

② ”جامع الترمذی“، أبواب الصلاة، باب ماجاء فی فضل التطوع... إلخ، الحدیث: ۴۳۵، ج ۱، ص ۴۳۹.

③ ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۷۲۴۵، ج ۵، ص ۲۵۵.

④ ”جامع الترمذی“، أبواب الصلاة، باب ماجاء فی فضل التطوع... إلخ، الحدیث ۴۳۵، ج ۱، ص ۴۳۹.

⑤ ”سنن أبي داود“، کتاب التطوع، باب الصلاة بعد العشاء، الحدیث: ۱۳۰۳، ج ۲، ص ۴۷.

⑥ یعنی اس کی گواہی قابل قبول نہیں اور جہنم کا حقدار ہے۔

مندوب بھی کہتے ہیں اور نفل عام ہے کہ سنت پر بھی اس کا اطلاق آیا ہے اور اس کے غیر کو بھی نفل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام باب النوافل میں سنن کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ نفل ان کو بھی شامل ہے۔^(۱) (ردالمحتار) لہذا نفل کے جتنے احکام بیان ہوں گے وہ سنتوں کو بھی شامل ہوں گے، البتہ اگر سنتوں کے لیے کوئی خاص بات ہوگی تو اس مطلق حکم سے اس کو الگ کیا جائے گا جہاں استثنانہ ہو، اسی مطلق حکم نفل میں شامل سمجھیں۔

مسئلہ ۱ - سنت مؤکدہ یہ ہیں۔

(۱) دو رکعت نماز فجر سے پہلے

(۲) چار ظہر کے پہلے، دو بعد

(۳) دو مغرب کے بعد

(۴) دو عشا کے بعد اور

(۵) چار جمعہ سے پہلے، چار بعد یعنی جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے پر چودہ رکعتیں ہیں اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں

میں ہر روز بارہ رکعتیں۔^(۲) (عامہ کتب)

مسئلہ ۲ - افضل یہ ہے کہ جمعہ کے بعد چار پڑھے، پھر دو کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔^(۳) (غنیہ)

مسئلہ ۳ - جو سنتیں چار رکعتی ہیں مثلاً جمعہ و ظہر کی تو چاروں ایک سلام سے پڑھی جائیں گی یعنی چاروں پڑھ کر چوتھی

کے بعد سلام پھیریں، یہ نہیں کہ دو دو رکعت پر سلام پھیریں اور اگر کسی نے ایسا کیا تو سنتیں ادا نہ ہوں گی۔ یوہیں اگر چار رکعت کی

منت مانی اور دو دو رکعت کر کے چار پڑھیں تو منت پوری نہ ہوئی، بلکہ ضرور ہے کہ ایک سلام کے ساتھ چاروں پڑھے۔^(۴)

(درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۴ - سب سنتوں میں قوی تر سنت فجر ہے، یہاں تک کہ بعض اس کو واجب کہتے ہیں اور اس کی مشروعیت کا اگر

کوئی انکار کرے تو اگر شبہ یا براہ جہل ہو تو خوف کفر ہے اور اگر دانستہ بلاشبہ ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی و لہذا یہ سنتیں بلا عذر نہ

بیٹھ کر ہو سکتی ہیں نہ سواری پر نہ چلتی گاڑی پر، ان کا حکم ان باتوں میں بالکل مثل وتر ہے۔ ان کے بعد پھر مغرب کی سنتیں پھر ظہر

① "ردالمحتار"، کتاب الطہارۃ، مطلب فی السنۃ و تعاریفیہا، ج ۱، ص ۲۳۰، وغیرہ .

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۴۵ .

③ "غنیۃ المتملی"، فصل فی النوافل، ص ۳۸۹ .

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۴۵، وغیرہ .

کے بعد کی پھر عشا کے بعد کی پھر ظہر سے پہلے کی سنتیں اور صبح یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی سنتوں کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں خاص ان کے بارے میں فرمایا: کہ ”جو انھیں ترک کرے گا، اُسے میری شفاعت نہ پہنچے گی۔“ (1) (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۵ - اگر کوئی عالم مرجع فتویٰ ہو کہ فتویٰ دینے میں اسے سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو فجر کے علاوہ باقی سنتیں ترک کر سکتا ہے کہ اس وقت اگر موقع نہیں ہے تو موقوف رکھے، اگر وقت کے اندر موقع ملے پڑھ لے ورنہ معاف ہیں اور فجر کی سنتیں اس حالت میں بھی ترک نہیں کر سکتا۔ (2) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ - فجر کی نماز قضا ہوگئی اور زوال سے پہلے پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑھے ورنہ نہیں علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں۔ (3) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ - دو رکعت نفل پڑھے اور یہ گمان تھا کہ فجر طلوع نہ ہوئی بعد کو معلوم ہوا کہ طلوع ہو چکی تھی تو یہ رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گی اور چار رکعت کی نیت باندھی اور ان میں دو پچھلی طلوع فجر کے بعد واقع ہوئیں تو یہ سنت فجر کے قائم مقام نہ ہوں گی۔ (4) (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - طلوع فجر سے پہلے سنت فجر جائز نہیں اور طلوع میں شک ہو جب بھی ناجائز اور طلوع کے ساتھ ساتھ شروع کی تو جائز ہے۔ (5) (عالگیری)

مسئلہ ۹ - ظہر یا جمعہ کے پہلے کی سنت فوت ہوگئی اور فرض پڑھ لیے تو اگر وقت باقی ہے بعد فرض کے پڑھے اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھ کر ان کو پڑھے۔ (6) (فتح القدیر)

مسئلہ ۱۰ - فجر کی سنت قضا ہوگئی اور فرض پڑھ لیے تو اب سنتوں کی قضا نہیں البتہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔ (7) (غنیہ) اور طلوع سے پیشتر (8) بالاتفاق ممنوع ہے۔ (9) (ردالمحتار) آج کل

1 ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في السنن و النوافل، ج ۲، ص ۵۴۸ - ۵۵۰.

2 ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في السنن و النوافل، ج ۲، ص ۵۴۹.

3 ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في السنن و النوافل، ج ۲، ص ۵۵۰.

4 المرجع السابق.

5 ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج ۱، ص ۱۱۲.

6 ”فتح القدیر“، کتاب الصلاة، باب ادراك الفريضة، ج ۱، ص ۴۱۶، و باب النوافل، ص ۳۸۶.

7 ”غنیة المتملی“، فصل في النوافل، ص ۳۹۷.

8 یعنی سورج نکلنے سے پہلے۔

9 ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في السنن و النوافل، ج ۲، ص ۵۵۰.

اکثر عوام بعد فرض فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں یہ ناجائز ہے، پڑھنا ہو تو آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پڑھیں۔

مسئلہ ۱۱ قبل طلوع آفتاب سنت فجر قضا پڑھنے کے لیے یہ حیلہ کرنا کہ شروع کر کے توڑ دے پھر ادا کرے یہ ناجائز

ہے۔ سنت فجر پڑھ لی اور فرض قضا ہو گئے تو قضا پڑھنے میں سنت کا اعادہ نہ کرے۔^(۱) (غنیہ)

مسئلہ ۱۲ فرض تنہا پڑھے جب بھی سنتوں کا ترک جائز نہیں ہے۔^(۲) (عالمگیری) سنت فجر کی پہلی رکعت میں الحمد

کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں **قُلْ هُوَ اللَّهُ** پڑھنا سنت ہے۔^(۳) (غنیہ وغیرہ)

مسئلہ ۱۳ جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں سوا سنت فجر کے کہ اگر یہ جانے کہ سنت پڑھنے

کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قعدہ ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اپنے گھر

پڑھے یا بیرون مسجد کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصہ میں جماعت ہوتی ہو تو باہر کے حصہ میں

پڑھے، باہر کے حصہ میں ہو تو اندر اور اگر اس مسجد میں اندر باہر دو درجے نہ ہوں تو ستون یا پیڑ کی آڑ میں پڑھے کہ اس میں اور

صف میں حائل ہو جائے اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے اگرچہ صف میں پڑھنا زیادہ بُرا ہے۔

آج کل اکثر عوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اسی صف میں گھس کر شروع کر دیتے ہیں یہ ناجائز ہے اور اگر ہنوز

جماعت شروع نہ ہوئی تو جہاں چاہے سنتیں شروع کرے خواہ کوئی سنت ہو۔^(۴) (غنیہ)

مگر جانتا ہو کہ جماعت جلد قائم ہونے والی ہے اور یہ اُس وقت تک سنتوں سے فارغ نہ ہوگا تو ایسی جگہ نہ پڑھے کہ اس

کے سبب صف قطع ہو۔

مسئلہ ۱۴ امام کو رکوع میں پایا اور یہ نہیں معلوم کہ پہلی رکعت کا رکوع ہے یا دوسری کا تو سنت ترک کرے اور مل

جائے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ اگر وقت میں گنجائش ہو اور اس وقت نوافل مکروہ نہ ہوں تو جتنے نوافل چاہے پڑھے اور اگر نماز فرض یا

جماعت جاتی رہے گی تو نوافل میں مشغول ہونا ناجائز ہے۔

①..... "غنیة المتملی"، فصل فی النوافل، ۳۹۸.

②..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، ج ۱، ص ۱۱۲.

③..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، ج ۱، ص ۱۱۲.

و "غنیة المتملی"، فصل فی النوافل فروع لو ترک، ص ۳۹۹.

④..... "غنیة المتملی"، فصل فی النوافل، ۳۹۶.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب العاشر فی ادراک الفریضة، ج ۱، ص ۱۲۰.

مسئلہ ۱۶ سنت و فرض کے درمیان کلام کرنے سے اسح یہ ہے کہ سنت باطل نہیں ہوتی البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یہی حکم ہر اس کام کا ہے جو منافی تحریمہ ہے۔ (1) (تنویر) اگر بیع و شرا (2) یا کھانے میں مشغول ہو تو اعادہ کرے، ہاں سنت بعد یہ میں اگر کھانا لایا گیا اور بد مزہ ہو جانے کا اندیشہ ہے تو کھانا کھالے پھر سنت پڑھے مگر وقت جانے کا اندیشہ ہو تو پڑھنے کے بعد کھائے اور بلا عذر سنت بعد یہ کی بھی تاخیر مکروہ ہے اگرچہ ادا ہو جائے گی۔ (3) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ عشا و عصر کے پہلے نیز عشا کے بعد چار چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے اور یہ بھی اختیار ہے کہ عشا کے بعد دو ہی پڑھے مستحب ادا ہو جائے گا۔ یوہیں ظہر کے بعد چار رکعت پڑھنا مستحب ہے کہ حدیث میں فرمایا: ”جس نے ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار پر محافظت کی، اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرمادے گا۔“ (4)

علامہ سید طحاوی فرماتے ہیں کہ سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جو اس پر مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریق کو راضی کر دے گا یا یہ مطلب ہے کہ اسے ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو۔ (5) اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بشارت ہے: کہ ”سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا۔“ (6)

مسئلہ ۱۸ سنت کی منت مانی اور پڑھی سنت ادا ہوگئی۔ یوہیں اگر شروع کر کے توڑ دی پھر پڑھی جب بھی سنت ادا ہوگئی۔ (7) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ نفل نماز منت مان کر پڑھنا بغیر منت کے پڑھنے سے بہتر ہے جب کہ منت کسی شرط کے ساتھ نہ ہو، مثلاً فلاں بیمار صحیح ہو جائے گا تو اتنی نماز پڑھوں گا اور سنتوں میں منت نہ ماننا افضل ہے۔ (8) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ بعد مغرب چھ رکعتیں مستحب ہیں ان کو صلاۃ الاوائین کہتے ہیں، خواہ ایک سلام سے سب پڑھے یا دو سے یا

① ”تنویر الأبصار“ و ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۵۸.

② یعنی خرید و فروخت۔

③ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في تحية المسجد، ج ۲، ص ۵۵۹.

④ ”جامع الترمذي“، أبواب الصلاة، الحديث: ۴۲۷، ج ۱، ص ۴۳۵.

⑤ ”حاشية الطحاوي على الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۱، ص ۲۸۴.

⑥ ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في السنن و النوافل، ج ۲، ص ۵۴۷.

⑦ ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث مهم: في الكلام على الضجعة بعد سنة الفجر، ج ۲،

ص ۵۶۱.

⑧ ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر، ج ۲، ص ۵۶۲.

تین سے اور تین سلام سے یعنی ہر دو رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱ ظہر و مغرب و عشا کے بعد جو مستحب ہے اس میں سنت مؤکدہ داخل ہے، مثلاً ظہر کے بعد چار پڑھیں تو مؤکدہ و مستحب دونوں ادا ہو گئیں اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مؤکدہ و مستحب دونوں کو ایک سلام کے ساتھ ادا کرے یعنی چار رکعت پر سلام پھیرے۔⁽²⁾ (فتح القدیر)

مسئلہ ۲۲ عشا کے قبل کی سنتیں جاتی رہیں تو ان کی قضا نہیں پھر بھی اگر بعد میں پڑھے گا تو نفل مستحب ہے، وہ سنت مستحبہ جو فوت ہوئی ادا نہ ہوئی۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳ دن کے نفل میں ایک سلام کے ساتھ چار رکعت سے زیادہ اور رات میں آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے اور افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو چار چار رکعت پر سلام پھیرے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۴ جو سنت مؤکدہ چار رکعتی ہے اس کے قعدہ اولیٰ میں صرف التیات پڑھے اگر بھول کر دو دشریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرے اور ان سنتوں میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو سُبْحٰنَكَ اور اَعُوْذُ بھی نہ پڑھے اور ان کے علاوہ اور چار رکعت والے نوافل کے قعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھے اور تیسری رکعت میں سُبْحٰنَكَ اور اَعُوْذُ بھی پڑھے، بشرطیکہ دو رکعت کے بعد قعدہ کیا ہو ورنہ پہلا سُبْحٰنَكَ اور اَعُوْذُ کافی ہے، منت کی نماز کے بھی قعدہ اولیٰ میں درود پڑھے اور تیسری میں ثنا و تعوذ۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۵ چار رکعت نفل پڑھے اور قعدہ اولیٰ فوت ہو گیا بلکہ قصداً بھی ترک کر دیا تو نماز باطل نہ ہوئی اور بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو عود نہ کرے اور سجدہ سہو کر لے نماز کامل ادا ہوگی، اگر تین رکعتیں پڑھیں اور دوسری پر نہ بیٹھا تو نماز فاسد ہوگی اور اگر دو رکعت کی نیت باندھی تھی اور بغیر قعدہ کیے تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو عود کرے ورنہ فاسد ہو جائے گی۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ نماز میں قیام طویل ہونا کثرتِ رکعات سے افضل ہے یعنی جب کہ کسی وقت معین تک نماز پڑھنا چاہے

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في السنن و النوافل، ج ۲، ص ۵۴۷.

② "فتح القدیر"، کتاب الصلاة، باب النوافل، ج ۱، ص ۳۸۶.

③ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، مطلب: هل الإساءة دون الكراهة... إلخ، ج ۲، ص ۶۲۱.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۵۰.

⑤ المرجع السابق، ص ۵۵۲.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج ۱، ص ۱۱۳.

مثلاً دو رکعت میں اتنا وقت صرف کر دینا چار رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مگر

(۱) تراویح و

(۲) تحیۃ المسجد اور

(۳) واپسی سفر کے دو نفل کہ ان کو مسجد میں پڑھنا بہتر ہے اور

(۴) احرام کی دو رکعتیں کہ میقات کے نزدیک کوئی مسجد ہو تو اس میں پڑھنا بہتر ہے اور

(۵) طواف کی دو رکعتیں کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں اور

(۶) معتکف کے نوافل اور

(۷) سورج گہن کی نماز کہ مسجد میں پڑھے اور

(۸) اگر یہ خیال ہو کہ گھر جا کر کاموں کی مشغولی کے سبب نوافل فوت ہو جائیں گے یا گھر میں جی نہ لگے گا اور خشوع

کم ہو جائے گا تو مسجد ہی میں پڑھے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ نفل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر قراءت فرض ہے اور اگر مقتدی ہو اگرچہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے

اقتدا کی ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے بھی کافی ہے اس پر خود پڑھنا نہیں۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ نفل نماز قصد شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے کہ اگر توڑ دے گا قضا پڑھنی ہوگی اور اگر قصد شروع

نہ کی تھی مثلاً یہ گمان تھا کہ فرض پڑھنا ہے اور فرض کی نیت سے شروع کیا پھر یاد آیا کہ پڑھ چکا تھا تو اب یہ نفل ہے اور توڑ دینے

سے قضا واجب نہیں بشرطیکہ یاد آتے ہی توڑ دے اور یاد آنے پر اس نماز کو پڑھنا اختیار کیا تو توڑ دینے سے قضا واجب ہوگی۔^(۴)

(درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ اگر بلا قصد نماز فاسد ہو گئی جب بھی قضا واجب ہے مثلاً تیمم سے پڑھ رہا تھا اور اثنائے نماز^(۵) میں پانی پر

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب: قولہم کل شفع من النفل الصلاة لیس مطردا،

ج ۲، ص ۵۵۴.

② "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب: قولہم کل شفع من النفل الصلاة لیس مطردا، ج ۲، ص ۵۶۲.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی صلاة الحاجة، ج ۲، ص ۵۷۳.

④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی صلاة الحاجة، ج ۲، ص ۵۷۴-۵۷۶.

⑤ یعنی نماز کے دوران۔

قادر ہوا۔ یوہیں نفل پڑھتے میں عورت کو حیض آگیا تو قضا واجب ہوگئی بعد طہارت قضا پڑھے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ شروع کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ تحریمہ باندھے دوسری یہ کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا بشرطیکہ شروع صحیح ہو اور اگر شروع صحیح نہ ہو مثلاً اُنی یا عورت کے پیچھے اقتدا کی یا بے وضو ناپاک کپڑوں میں شروع کر دی تو قضا واجب نہ ہوگی۔⁽²⁾ (ردالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل کی نیت سے شروع کی پھر یاد آیا کہ یہ فرض مجھے پڑھنا ہے اور توڑ کر اسی فرض کی نیت سے اقتدا کی جو وہ پڑھ رہا تھا یا توڑ کر دوسرے نفل کی نیت کر کے شامل ہوا تو اُس نفل کی قضا واجب نہیں۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۳ طلوع وغروب و نصف النہار کے وقت نماز نفل شروع کی تو واجب ہے کہ توڑ دے اور وقت غیر مکروہ میں قضا پڑھے اور دوسرے وقت مکروہ میں قضا پڑھی جب بھی ہوگئی مگر گناہ ہو اور پوری کر لی تو ہوگئی مگر وقت مکروہ میں پڑھنے کا گناہ ہوا، بلا وجہ شرعی نفل شروع کر کے توڑ دینا حرام ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۳۴ نفل نماز شروع کی اگرچہ چار کی نیت باندھی جب بھی دو ہی رکعت شروع کرنے والا قرار دیا جائے گا کہ نفل کا ہر شفع (یعنی دو رکعت) علیحدہ علیحدہ نماز ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ چار رکعت نفل کی نیت باندھی اور شفعِ اول یا ثانی میں توڑ دی تو دو رکعت قضا واجب ہوگی مگر شفعِ ثانی توڑنے سے دو رکعت قضا واجب ہونے کی یہ شرط ہے کہ دوسری رکعت پر قعدہ کر چکا ہو ورنہ چار قضا کرنی ہوں گی۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۶ سنت مؤکدہ اور منت کی نماز اگر چار رکعتی ہو تو توڑنے سے چار کی قضا دے۔ یوہیں اگر چار رکعتی فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل کی نیت باندھی اور توڑ دی تو چار کی قضا واجب ہے۔ پہلے شفع میں توڑی یا دوسرے میں۔⁽⁷⁾ (درمختار وغیرہ)

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة الحاجة، ج ۲، ص ۵۷۷.

② المرجع السابق، ص ۵۷۴، و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج ۱، ص ۱۱۴.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة الحاجة، ج ۲، ص ۵۷۴.

④ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة الحاجة، ج ۲، ص ۵۷۶، وغیرہ.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج ۱، ص ۱۱۳.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۷۷.

⑦ المرجع السابق، ص ۵۷۸، وغیرہ.

مسئلہ ۳۷ چار رکعت کی نیت باندھی اور چاروں میں قراءت نہ کی یا پہلی دو میں یا چھٹی دو میں نہ کی یا پہلی دو میں سے ایک رکعت میں نہ کی یا چھٹی دو میں سے ایک رکعت میں نہ کی یا چھٹی دو میں سے ایک رکعت میں نہ کی قراءت چھوڑ دی تو ان چھ صورتوں میں دو رکعت قضا واجب ہے۔ اور اگر پہلی دو میں سے ایک اور چھٹی دو میں سے ایک یا پہلی دو میں سے ایک میں اور چھٹی کی دونوں میں قراءت چھوڑ دی تو ان صورتوں میں چار رکعت قضا واجب ہے۔^(۱) (عامہ کتب)

مسئلہ ۳۸ اگر دو رکعت پر بقدر تشہد بیٹھا پھر توڑ دی تو اس صورت میں بالکل قضا نہیں بشرطیکہ تیسری کے لیے کھڑا نہ ہو اور پہلی دونوں میں قراءت کر چکا ہو۔^(۲) (درمختار) مگر بوجہ ترک واجب اس کے اعادہ کا حکم دیا جائے گا۔

مسئلہ ۳۹ نفل پڑھنے والے نے نفل پڑھنے والے کی اقتدا کی اگرچہ تشہد میں تو جو حال امام کا ہے وہی مقتدی کا ہے یعنی جتنی کی قضا امام پر واجب ہوگی مقتدی پر بھی واجب۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۴۰ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں^(۴) مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے کہ حدیث میں فرمایا: ”بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے۔“^(۵) اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے۔ وتر کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھا افضل ہے اور اس میں اُس حدیث سے دلیل لانا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بیٹھ کر نفل پڑھے۔^(۶) صحیح نہیں کہ یہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے مخصوصات میں سے ہے۔

چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، فرماتے ہیں: مجھے خبر پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز سے آدھی ہے۔ اس کے بعد میں حاضر خدمت اقدس ہوا تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا، سر اقدس پر میں نے ہاتھ رکھا (کہ بیمار تو نہیں) ارشاد فرمایا: کیا ہے اے عبد اللہ؟ عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے تو ایسا

①..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۷۹-۵۸۱.

②..... ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۸۲، ۵۸۳.

③..... ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۸۳.

④..... ”تنویر الألبصار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۸۴.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب جواز النافلة قائما و قاعدا... إلخ، الحدیث: ۷۳۵، ص ۳۷۰.

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب صلاة اللیل... إلخ، الحدیث: ۱۲۶- (۷۳۸)، ص ۳۷۲.

فرمایا ہے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، فرمایا: ”ہاں لیکن میں تم جیسا نہیں۔“ (1) امام ابراہیم حلبی و صاحب درمختار و صاحب ردالمحتار نے فرمایا: کہ یہ حکم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے خصائص سے ہے اور اسی حدیث سے استناد کیا۔ (2)

مسئلہ ۳۱ اگر رکوع کی حد تک جھک کر نفل کا تحریمہ باندھا تو نماز نہ ہوگی۔ (3) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ لیٹ کر نفل نماز جائز نہیں جب کہ عذر نہ ہو اور عذر کی وجہ سے ہو تو جائز ہے۔ (4) (درمختار)

مسئلہ ۳۳ کھڑے ہو کر شروع کی تھی پھر بیٹھ گیا یا بیٹھ کر شروع کی تھی پھر کھڑا ہو گیا دونوں صورتیں جائز ہیں،

خواہ ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھی ایک بیٹھ کر یا ایک ہی رکعت کے ایک حصہ کو کھڑے ہو کر پڑھا اور کچھ حصہ بیٹھ کر۔ (5)
(درمختار، ردالمحتار) مگر دوسری صورت یعنی کھڑے ہو کر شروع کی پھر بیٹھ گیا اس میں اختلاف ہے، لہذا پختا اولیٰ۔

مسئلہ ۳۴ کھڑے ہو کر نفل پڑھتا تھا اور تھک گیا تھا تو عصا یا دیوار پر ٹیک لگا کر پڑھنے میں حرج نہیں۔ (6)

(عالمگیری) اور بغیر تھکے بھی اگر ایسا کرے تو کراہت ہے نماز ہو جائے گی۔

مسئلہ ۳۵ نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس طرح بیٹھے جیسے تشهد میں بیٹھا کرتے ہیں مگر قراءت کی حالت میں ناف کے نیچے

ہاتھ باندھے رہے جیسے قیام میں باندھتے ہیں۔ (7) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ بیرون شہر (8) سواری پر بھی نفل پڑھ سکتا ہے اور اس صورت میں استقبال قبلہ شرط نہیں بلکہ سواری جس

رخ کو جا رہی ہو ادھر ہی مونہ ہو اور اگر ادھر مونہ نہ ہو تو نماز جائز نہیں اور شروع کرتے وقت بھی قبلہ کی طرف مونہ ہونا شرط نہیں

بلکہ سواری جدھر جا رہی ہے اُس طرف ہو اور رکوع و سجود اشارہ سے کرے اور سجدہ کا اشارہ بہ نسبت رکوع کے پست ہو۔ (9)

(درمختار، ردالمحتار)

1 ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب جواز النافلة قائما و قاعدا... إلخ، الحدیث: ۷۳۵، ص ۳۷۰.

2 ”الدرالمختار“ و ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث المسائل ستة عشرية، ج ۲، ص ۵۸۵.

3 ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث المسائل الستة عشرية، ج ۲، ص ۵۸۴.

4 ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۸۴.

5 ”الدرالمختار“ و ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث المسائل الستة عشرية، ج ۲، ص ۵۸۴.

6 ”الفتاویٰ الهندیة“، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، ج ۱، ص ۱۱۴.

7 ”الدرالمختار“ و ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث المسائل ستة عشرية، ج ۲، ص ۵۸۷.

8 بیرون شہر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے مسافر پر قصر واجب ہوتا ہے۔ (عالمگیری) ۱۴ منہ حفظ رہے۔

9 ”الدرالمختار“ و ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی الصلاة علی الدابة، ج ۲، ص ۵۸۸.

مسئلہ ۴۷ سواری پر نفل پڑھنے میں اگر ہانکنے کی ضرورت ہو اور عملِ قلیل سے ہانکا مثلاً ایک پاؤں سے ایڑ لگائی یا ہاتھ میں چابک ہے اُس سے ڈرایا تو حرج نہیں اور بلا ضرورت جائز نہیں۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴۸ سواری پر نماز شروع کی پھر عملِ قلیل کے ساتھ اتر آیا تو اسی پر بنا کر سکتا ہے خواہ کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر مگر قبلہ کو منہ کرنا ضروری ہے اور زمین پر شروع کی تھی پھر سوار ہوا تو بنا نہیں کر سکتا نماز جاتی رہی۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۴۹ گاؤں یا خیمہ کارہنے والا جب گاؤں یا خیمہ سے باہر ہوا تو سواری پر نفل پڑھ سکتا ہے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۰ بیرون شہر سواری پر شروع کی تھی پڑھتے پڑھتے شہر میں داخل ہو گیا تو جب تک گھر نہ پہنچا سواری پر پوری کر سکتا ہے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۵۱ محمل اور سواری پر نفل نماز مطلقاً جائز ہے جبکہ تہا پڑھے اور نفل نماز جماعت سے پڑھنا چاہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ امام و مقتدی الگ الگ سوار یوں پر نہ ہوں۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۵۲ محمل پر فرض نماز اُس وقت جائز ہے کہ اترنے پر قادر نہ ہو، ہاں اگر ٹھہرا ہوا ہو اور اس کے نیچے لکڑیاں لگادیں کہ زمین پر قائم ہو گیا تو جائز ہے۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۵۳ گاڑی کا جو (۷) جانور پر رکھا ہو گاڑی کھڑی ہو یا چلتی اُس کا حکم وہی ہے جو جانور پر نماز پڑھنے کا ہے یعنی فرض و واجب و سنت فجر بلا عذر جائز نہیں اور اگر جانور پر نہ ہو اور رُکی ہوئی ہو تو نماز جائز ہے۔^(۸) (درمختار، ردالمحتار) یہ حکم اس گاڑی کا ہے جس میں دو پیسے ہوں چار پیسے والی جب رُکی ہو تو صرف جو جانور پر ہوگا اور گاڑی زمین پر مستقر ہوگی، لہذا جب ٹھہری ہوئی ہو اس پر نماز جائز ہوگی جیسے تخت پر۔

مسئلہ ۵۴ گاڑی اور سواری پر نماز پڑھنے کے لیے یہ عذر ہیں۔ (۱) مینہ برس رہا ہے، (۲) اس قدر کچھڑ ہے کہ

- ① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الترتو و النوافل، مطلب في الصلاة على الدابة، ج ۲، ص ۵۸۹.
- ② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الترتو و النوافل، ج ۲، ص ۵۸۹.
- ③ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الترتو و النوافل، مطلب في الصلاة، على الدابة، ج ۲، ص ۵۸۸.
- ④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الترتو و النوافل، ج ۲، ص ۵۸۹.
- ⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الترتو و النوافل، ج ۲، ص ۵۹۵.
- ⑥ المرجع السابق، ص ۵۹۰.
- ⑦ یعنی وہ لکڑی جو گاڑی یا بیل کے بیلوں کے کندھے پر رکھی جاتی ہے۔
- ⑧ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الترتو و النوافل، ج ۲، ص ۵۹۱.

اُتر کر پڑھے گا تو مونہہ دھنس جائے گا یا کچھڑ میں سن جائے گا یا جو کچھ اچھا جائے گا وہ بالکل لتھڑ جائے گا اور اس صورت میں سواری نہ ہو تو کھڑے کھڑے اشارے سے پڑھے (۳) ساتھی چلے جائیں گے، (۴) یا سواری کا جانور شریر ہے کہ سوار ہونے میں دشواری ہوگی مددگار کی ضرورت ہوگی اور مددگار موجود نہیں، (۵) یا وہ بوڑھا ہے کہ بغیر مددگار کے اُتر چڑھ نہ سکے گا اور مددگار موجود نہیں اور یہی حکم عورت کا ہے، (۶) یا مرض میں زیادتی ہوگی، (۷) جان (۸) یا مال، (۹) یا عورت کو آبرو کا اندیشہ ہو۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

چلتی ریل گاڑی پر بھی فرض و واجب و سنت فخر نہیں ہو سکتی اور اس کو جہاز اور کشتی کے حکم میں تصور کرنا غلطی ہے کہ کشتی اگر ٹھہرائی بھی جائے جب بھی زمین پر نہ ٹھہرے گی اور ریل گاڑی ایسی نہیں اور کشتی پر بھی اسی وقت نماز جائز ہے جب وہ بیچ دریا میں ہو کنارہ پر ہو اور خشکی پر آ سکتا ہو تو اس پر بھی جائز نہیں ہے لہذا جب اسٹیشن پر گاڑی ٹھہرے اُس وقت یہ نمازیں پڑھے اور اگر دیکھے کہ وقت جاتا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے پھر جب موقع ملے اعادہ کرے کہ جہاں من جہتہ العباد^(۲) کوئی شرط یا رکن مفقود ہو^(۳) اُس کا یہی حکم ہے۔

مسئلہ ۵۵ - محمل کی ایک طرف خود سوار ہے دوسری طرف اس کی ماں یا زوجہ یا اور کوئی محارم میں ہے جو خود سوار نہیں ہو سکتی اور یہ خود اُتر چڑھ سکتا ہے مگر اس کے اُترنے میں محمل گر جانے کا اندیشہ ہے، اسے بھی اُسی پر پڑھنے کا حکم ہے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۵۶ - جانور اور چلتی گاڑی پر اور اس گاڑی پر جس کا جو جانور پر ہو بلا عذر شرعی فرض و سنت فخر و تمام واجبات جیسے وتر و نذر اور نفل جس کو توڑ دیا ہو اور سجدہ تلاوت جب کہ آیت سجدہ زمین پر تلاوت کی ہو ادا نہیں کر سکتا اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو اُن سب میں شرط یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ رُو کھڑا کر کے ادا کرے ورنہ جیسے بھی ممکن ہو۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۵۷ - کسی نے منت مانی کہ دو رکعتیں بغیر طہارت پڑھے گا یا ان میں قراءت نہ کرے گا یا ننگا پڑھے گا یا ایک یا آدھی رکعت کی منت مانی تو ان سب صورتوں میں اُس پر دو رکعت طہارت و قراءت و ستر کے ساتھ واجب ہوگی اور تین کی مانی تو چار واجب ہوئیں۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في القادر بقدره غيره، ج ۲، ص ۵۹۲.

② یعنی بندوں کی طرف سے۔

③ یعنی نہ پایا گیا ہو۔

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في القادر بقدره غيره، ج ۲، ص ۵۹۳.

⑤ المرجع السابق، ص ۵۹۴.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في القادر، بقدره غيره، ج ۲، ص ۵۹۵.

و "الفتاوى الهندية"، کتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ومم يتصل بذلك مسائل، ج ۱، ص ۱۱۵.

مسئلہ ۵۸ - منت مانی کہ فلاں مقام پر نماز پڑھے گا اور اس سے کم درجہ کے مقام پر ادا کی ہوگئی۔ مثلاً مسجد حرام میں پڑھنے کی منت مانی اور مسجد قدس یا گھر کی مسجد میں ادا کی۔ عورت نے منت مانی کہ کل نماز پڑھے گی یا روزہ رکھے گی دوسرے دن اسے حیض آ گیا تو قضا کرے اور اگر یہ منت مانی کہ حالت حیض میں دو رکعت پڑھے گی تو کچھ نہیں۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۵۹ - منت مانی کہ آج دو رکعت پڑھے گا اور آج نہ پڑھی تو اس کی قضا نہیں، بلکہ کفارہ دینا ہوگا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۰ - مہینہ بھر کی نماز کی منت مانی تو ایک مہینے کے فرض و وتر کی مثل اس پر واجب ہے سنت کی مثل نہیں مگر و تر و مغرب کی جگہ چار رکعت پڑھے یعنی ہر روز بائیس رکعتیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۱ - اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی منت مانی تو کھڑے ہو کر پڑھنا واجب ہے اور مطلق نماز کی منت ہے تو اختیار ہے۔^(۴) (عالمگیری)

تنبیہ: نوافل تو بہت کثیر ہیں، اوقات ممنوعہ کے سوا آدمی جتنے چاہے پڑھے مگر ان میں سے بعض جو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ائمہ دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔

تحیۃ المسجد جو شخص مسجد میں آئے اُسے دو رکعت نماز پڑھنا سنت ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ چار پڑھے۔^(۵) بخاری و مسلم ابوقتاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو شخص مسجد میں داخل ہو، بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھے۔“^(۶)

مسئلہ ۱ - ایسے وقت مسجد میں آیا جس میں نفل نماز مکروہ ہے مثلاً بعد طلوع فجر یا بعد نماز عصر و تحیۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ تسبیح و تہلیل و درود شریف میں مشغول ہو حق مسجد ادا ہو جائے گا۔^(۷) (ردالمحتار)

① ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی القادر، بقدرۃ غیرہ، ج ۲، ص ۵۹۶.

② ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، و مما يتصل بذلك مسائل، ج ۱، ص ۱۱۵.

اسکا کفارہ وہی ہے، جو قسم توڑنے کا ہے یعنی ایک غلام آزاد کرنا یا دس مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یا کپڑا دینا یا تین روزے رکھنا۔ ۱۲

③ ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، و مما يتصل بذلك مسائل، ج ۱، ص ۱۱۵.

④ المرجع السابق.

⑤ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی تحیۃ المسجد، ج ۲، ص ۵۵۵.

⑥ ”صحیح البخاری“، کتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین، الحدیث: ۴۴۴، ج ۱، ص ۱۷۰.

⑦ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی تحیۃ المسجد، ج ۲، ص ۵۵۵.

مسئلہ ۲ فرض یا سنت یا کوئی نماز مسجد میں پڑھ لی تھی مسجد ادا ہو گئی اگرچہ تھی مسجد کی نیت نہ کی ہو۔ اس نماز کا حکم اس کے لیے ہے جو بہ نیت نماز نہ گیا بلکہ درس و ذکر وغیرہ کے لیے گیا ہو۔ اگر فرض یا اقتدا کی نیت سے مسجد میں گیا تو یہی قائم مقام تھی مسجد ہے بشرطیکہ داخل ہونے کے بعد ہی پڑھے اور اگر عرصہ کے بعد پڑھے گا تو تھی مسجد پڑھے۔ (۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے تھی مسجد پڑھے اور بغیر پڑھے بیٹھ گیا تو ساقط نہ ہوئی اب پڑھے۔ (۲) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۴ ہر روز ایک بار تھی مسجد کافی ہے ہر بار ضرورت نہیں اور اگر کوئی شخص بے وضو مسجد میں گیا یا اور کوئی وجہ ہے کہ تھی مسجد نہیں پڑھ سکتا تو چار بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہے۔ (۳) (درمختار)

تھی الوضو کہ وضو کے بعد اعضا خشک ہونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ (۴)

صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر دو رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔“ (۵)

مسئلہ ۱ غسل کے بعد بھی دو رکعت نماز مستحب ہے۔ وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے تو قائم مقام تھی الوضو کے ہو جائیں گے۔ (۶) (ردالمحتار)

نماز اشراق ترمذی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا، یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا پھر دو رکعتیں پڑھیں ”تو اُسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔“ (۷)

نماز چاشت مستحب ہے، کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی بارہ رکعتیں ہیں (۸) اور افضل بارہ ہیں کہ حدیث میں ہے، جس نے چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھیں، ”اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل

① ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في تحية المسجد، ج ۲، ص ۵۵۵.

② ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۵۷.

③ المرجع السابق.

④ ”تنوير الأبصار“ و ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۶۳.

⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، الحدیث: ۲۳۴، ص ۱۴۴.

⑥ ”ردالمحتار“، کتاب الصلوة، باب الوتر و النوافل، مطلب: سنة الوضوء، ج ۲، ص ۵۶۳.

⑦ ”جامع الترمذی“، أبواب السفر، باب ما ذکر مما يستحب من الجلوس في المسجد... إلخ، الحدیث ۵۸۶، ج ۲، ص ۱۰۰.

⑧ ”الفتاویٰ الہندیة“، کتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج ۱، ص ۱۱۲.

بنائے گا۔“ (1) اس حدیث کو ترمذی وابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

صحیح مسلم شریف میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: آدمی پر اس کے ہر جوڑے کے بدلے صدقہ ہے (اور کل تین سو ساٹھ جوڑے ہیں) ہر تسبیح صدقہ ہے اور ہر حمد صدقہ ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا صدقہ ہے اور اللَّهُ أَكْبَرُ کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے اور ان سب کی طرف سے دو رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہیں۔ (2)

ترمذی ابو ذر داء و ابو ذر سے اور ابو داؤد و دارمی نعیم بن ہمار سے اور احمد ان سب سے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”اے ابن آدم! شروع دن میں میرے لیے چار رکعتیں پڑھ لے، آخر دن تک میں تیری کفایت فرماؤں گا۔“ (3)

طبرانی ابو ذر داء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جس نے دو رکعتیں چاشت کی پڑھیں، غافلین میں نہیں لکھا جائے گا اور جو چار پڑھے عابدین میں لکھا جائے گا اور جو چھ پڑھے اس دن اُس کی کفایت کی گئی اور جو آٹھ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں لکھے گا اور جو بارہ پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا اور کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان و صدقہ نہ کرے اور اس بندہ سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے اپنا ذکر الہام کیا۔“ (4)

احمد و ترمذی وابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو چاشت کی دو رکعتوں پر محافظت کرے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔“ (5)

مسئلہ ۱ اس کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے۔ (6) (عالمگیری، ردالمحتار)

نماز سفر کہ سفر میں جاتے وقت دو رکعتیں اپنے گھر پر پڑھ کر جائے۔ (7) طبرانی کی حدیث میں ہے: کہ ”کسی نے

1..... ”جامع الترمذی“، أبواب الوتر، باب ماجاء في صلاة الضحى، الحديث: ۴۷۲، ج ۲، ص ۱۷.

2..... ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى... إلخ، الحديث: ۷۲۰، ص ۳۶۳.

3..... ”جامع الترمذی“، أبواب الوتر، باب ماجاء في صلاة الضحى، الحديث: ۴۷۴، ج ۲، ص ۱۹.

4..... ”الترغيب والترهيب“، الترغيب في صلاة الضحى، الحديث: ۱۴، ج ۱، ص ۲۶۶.

5..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند و أبي هريرة، الحديث: ۱۰۴۸۵، ج ۳، ص ۵۶۴.

6..... ”الفتاوى الهندية“، کتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج ۱، ص ۱۱۲.

و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب: سنة الوضوء، ج ۲، ص ۵۶۳.

7..... ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في ركعتي السفر، ج ۲، ص ۵۶۵.

اپنے اہل کے پاس اُن دور کعتوں سے بہتر نہ چھوڑا، جو بوقت ارادہ سفر ان کے پاس پڑھیں۔“ (1)

نماز واپسی سفر کہ سفر سے واپس ہو کر دو رکعتیں مسجد میں ادا کرے۔ (2) صحیح مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مروی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے اور ابتداءً مسجد میں جاتے اور دو رکعتیں اُس میں نماز پڑھتے پھر وہیں مسجد میں تشریف رکھتے۔“ (3)

مسئلہ ۱ - مسافر کو چاہیے کہ منزل میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھے جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ (4) (ردالمحتار)

صلاة اللیل ایک رات میں بعد نماز عشا جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاة اللیل کہتے ہیں اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں کہ۔

حدیث ۱ - صحیح مسلم شریف میں مرفوعاً ہے فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ (5) اور

حدیث ۲ - طبرانی نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رات میں کچھ نماز ضروری ہے اگرچہ اتنی ہی دیر جتنی دیر میں بکری ڈوہ لیتے ہیں اور فرض عشا کے بعد جو نماز پڑھی وہ صلاة اللیل ہے۔ (6)

نماز تہجد

مسئلہ ۱ - اسی صلاة اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشا کے بعد رات میں سو کر اُنٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں۔ (7) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲ - تہجد نفل کا نام ہے اگر کوئی عشا کے بعد سو رہا پھر اٹھ کر قضا پڑھی تو اُس کو تہجد نہ کہیں گے۔ (8) (ردالمحتار)

① ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في ركعتي السفر، ج ۲، ص ۵۶۵.

② ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في ركعتي السفر، ج ۲، ص ۵۶۵.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين في المسجد... إلخ، الحديث: ۷۱۶، ص ۳۶۱.

④ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في ركعتي السفر، ج ۲، ص ۵۶۵.

⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، الحديث: ۱۱۶۳، ص ۵۹۱.

⑥ ”المعجم الكبير“، باب الألف، الحديث: ۷۸۷، ج ۱، ص ۲۷۱.

⑦ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة اللیل، ج ۲، ص ۵۶۶.

⑧ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة اللیل، ج ۲، ص ۵۶۷.

مسئلہ ۳ کم سے کم تہجد کی دو رکعتیں ہیں اور

حدیث ۳ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آٹھ تک ثابت۔

حدیث ۴ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں دو رکعت

پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔“ اس حدیث کو نسائی وابن ماجہ اپنی سنن میں اور ابن حبان اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور منذری نے کہا یہ حدیث بر شرط شیخین صحیح ہے۔^(۱) (رد المحتار)

مسئلہ ۴ جو شخص دو تہائی رات سونا چاہے اور ایک تہائی عبادت کرنا، اُسے افضل یہ ہے کہ پہلی اور پچھلی تہائی میں سوئے

اور بیچ کی تہائی میں عبادت کرے اور اگر نصف شب میں سونا چاہتا ہے اور نصف جاگنا تو پچھلی نصف میں عبادت افضل ہے کہ

حدیث ۵ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: کہ

رب عزوجل ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر تجلّی خاص فرماتا ہے اور فرماتا ہے: ”ہے کوئی دُعا کرنے والا کہ اس کی دُعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔“^(۲)

اور سب سے بڑھ کر تو نماز داود ہے۔ کہ

حدیث ۶ بخاری و مسلم عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما^(۳) سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: سب

نمازوں میں اللہ عزوجل کو زیادہ محبوب نماز داود ہے کہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے پھر چھٹے حصّہ میں سوتے۔^(۴)

مسئلہ ۵ جو شخص تہجد کا عادی ہو بلا عذر اُسے چھوڑنا مکروہ ہے۔ کہ

حدیث ۷ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

ارشاد فرمایا: ”اے عبد اللہ! تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔“^(۵) نیز

حدیث ۸ بخاری و مسلم وغیرہما میں ہے فرمایا: کہ ”اعمال میں زیادہ پسند اللہ عزوجل کو وہ ہے جو ہمیشہ ہو،

اگرچہ تھوڑا ہو۔“^(۶)

① ”المستدرک“ للحاکم، کتاب صلاة التطوع، باب تودیع المنزل برکعتین، الحدیث: ۱۲۳۰، ج ۱، ص ۶۲۴.

و”رد المحتار“، کتاب الصلاة باب الوتر والنوافل، مطلب فی صلاة اللیل، ج ۲، ص ۵۶۷.

② ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب الترغیب فی الدعاء... إلخ، الحدیث: ۷۵۸، ص ۳۸۱.

③ بہار شریعت کے بعض نسخوں میں اس مقام پر ”عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما“ لکھا ہوا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ”بخاری شریف“ اور دیگر کتب احادیث میں ”عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما“ مذکور ہے، اسی وجہ سے ہم نے متن میں تصحیح کر دی ہے۔... علمہ

④ ”صحیح البخاری“، کتاب احادیث الانبیاء، باب احب الصلاة إلى الله صلاة داود... إلخ، الحدیث: ۳۴۲۰، ج ۲، ص ۴۴۸.

⑤ ”صحیح البخاری“، کتاب التہجد، باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل لمن کان یقومہ، الحدیث: ۱۱۵۲، ج ۱، ص ۳۹۰.

⑥ ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب فضیلة العمل الدائم... إلخ، الحدیث: ۲۱۸- (۷۸۳)، ص ۳۹۴.

مسئلہ ۶ عیدین اور پندرہویں شعبان کی راتوں اور رمضان کی اخیر دس راتوں اور ذی الحجہ کی پہلی دس راتوں میں شب بیداری مستحب ہے اکثر حصہ میں جاگنا بھی شب بیداری ہے۔^(۱) (درمختار) عیدین کی راتوں میں شب بیداری یہ ہے کہ عشا و صبح دونوں جماعت اولیٰ سے ہوں۔ کہ

صحیح حدیث میں فرمایا: ”جس نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھی، اُس نے آدھی رات عبادت کی اور جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی، اس نے ساری رات عبادت کی۔“^(۲) اور ان راتوں میں اگر جاگے گا تو نماز عید و قربانی وغیرہ میں دقت ہوگی۔ لہذا اسی پر اکتفا کرے اور اگر ان کاموں میں فرق نہ آئے تو جاگنا بہت بہتر۔

مسئلہ ۷ ان راتوں میں تنہا نفل نماز پڑھنا اور تلاوت قرآن مجید اور حدیث پڑھنا اور سُننا اور درود شریف پڑھنا شب بیداری ہے نہ کہ خالی جاگنا۔^(۳) (ردالمحتار) صلاۃ اللیل کے متعلق آٹھ حدیثیں ضمناً بھی مذکور ہوئیں اس کے فضائل کی بعض حدیثیں اور سنیں۔

حدیث ۹ ترمذی و ابن ماجہ و حاکم بر شرط شیخین عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے۔“ تو کثرت سے لوگ حاضر خدمت ہوئے، میں بھی حاضر ہوا، جب میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے چہرہ کو غور سے دیکھا پہچان لیا کہ یہ مونہ جھوٹوں کا مونہ نہیں۔ کہتے ہیں پہلی بات جو میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے سنی یہ ہے فرمایا: ”اے لوگو! سلام شائع کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گے۔“^(۴)

حدیث ۱۰ حاکم نے بافادۃ تصحیح روایت کی، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کوئی ایسی چیز ارشاد ہو کہ اُس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہوں؟ اُس پر بھی وہی جواب ارشاد ہوا۔^(۵)

حدیث ۱۱ و ۱۲ طبرانی کبیر میں باسناد حسن و حاکم بافادۃ تصحیح بر شرط شیخین عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔“ ابو مالک

① ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۶۸.

② ”صحیح مسلم“، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب فضل الصلاة العشاء... إلخ، الحدیث: ۶۵۶، ص ۳۲۹.

③ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی إحياء لیلالی العیدین... إلخ، ج ۲، ص ۵۶۹.

④ ”المستدرک“ للحاکم، کتاب البر و الصلة، باب إرحموا أهل الارض... إلخ، الحدیث: ۷۳۵۹، ج ۵، ص ۲۲۱.

و ”الترغیب و الترہیب“، کتاب النوافل، الترغیب فی قیام اللیل، الحدیث: ۴، ج ۱، ص ۲۳۹.

⑤ ”المستدرک“ للحاکم، کتاب البر و الصلة، باب إرحموا أهل الارض... إلخ، الحدیث: ۷۳۶۰، ج ۵، ص ۲۲۱.

اشعری نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! وہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا: ”اُس کے لیے کہ اچھی بات کرے اور کھانا کھائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہوں۔“ (1) اور اسی کے مثل ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔

حدیث ۱۳ بیہقی کی ایک روایت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ فرماتے ہیں: قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ (2)

حدیث ۱۳ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ارشاد فرماتے ہیں: ”رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مرد مسلمان اُس ساعت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو بھلائی مانگے، وہ اسے دے گا اور یہ ہر رات میں ہے۔“ (3)

حدیث ۱۵ و ۱۶ ترمذی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں: ”قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب (عزوجل) کی طرف قربت کا ذریعہ اور سیئات کا مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا۔“ (4) اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے، کہ ”بدن سے بیماری دفع کرنے والا ہے۔“ (5)

حدیث ۱۷ صحیح بخاری میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جورات میں اٹھے اور یہ دعا پڑھے۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي . (6)

- 1..... "المستدرک" للحاکم، کتاب صلاة التطوع، باب صلاة الحاجة، الحدیث: ۱۲۴۰، ج ۱، ص ۶۳۱، عن عبد اللہ بن عمرو.
- 2..... "شعب الإيمان"، باب فی الصلوات، الحدیث: ۳۲۴۴، ج ۳، ص ۱۶۹.
- 3..... "صحیح مسلم"، کتاب صلاة المسافرين، باب فی اللیل ساعة مستجاب فیها الدعاء، الحدیث: ۷۵۷، ص ۳۸۰.
- 4..... "جامع الترمذی"، کتاب الدعوات، باب فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۳۵۶۰، ج ۵، ص ۳۲۲.
- 5..... "المعجم الكبير"، باب السین، الحدیث: ۶۱۵۴، ج ۶، ص ۲۵۸.
- 6..... ترجمہ: اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تمہا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے اور پاک ہے اللہ (عزوجل) اور حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے اور اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ (عزوجل) بڑا ہے اور نہیں ہے گناہ سے پھرنا اور نہ نیکی کی طاقت مگر اللہ (عزوجل) کے ساتھ اے میرے پروردگار! تو مجھے بخش دے۔ ۱۳

پھر جو دُعا کرے مقبول ہوگی اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہوگی۔“ (1)

حدیث ۱۸ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دُعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَائِمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَغَدَاكَ الْحَقُّ وَ لِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ . (2)

یہ ایک دُعا اور چند حدیثیں ذکر کر دی گئیں اور ان کے علاوہ اس نماز کے فضائل میں بکثرت احادیث وارد ہیں، جسے اللہ عزوجل توفیق عطا فرمائے اس کے لیے یہی بس ہیں۔

نماز استخارہ

حدیث صحیح جس کو مسلم کے سوا جماعت محدثین نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرماتے، جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے، فرماتے ہیں:

① "صحیح البخاری"، کتاب التہجد، باب فضل من تعار من اللیل فصلی، الحدیث: ۱۱۵۴، ج ۱، ص ۳۹۱.

و "مرقاۃ المفاتیح"، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یقول إذا قام من اللیل، تحت الحدیث: ۱۲۱۳، ج ۳، ص ۲۸۸.

② "صحیح البخاری"، کتاب التہجد، باب التہجد باللیل، الحدیث: ۱۱۲۰، ج ۱، ص ۳۸۱.

ترجمہ: الہی! تیرے ہی لیے حمد ہے، آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا تو قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے تو سب کا بادشاہ ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور تجھ سے ملنا (قیامت) حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور انبیاء حق ہیں اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) حق ہیں اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ (عزوجل) تیرے لیے میں اسلام لایا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کی اور تیری ہی مدد سے خصومت کی اور تیری ہی طرف فیصلہ لایا پس تُو بخش دے میرے لیے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیا اور پیچھے کیا اور چھپا کر کیا اور اعلانیہ کیا اور وہ گناہ جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تُو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ۱۲۔

”جب کوئی کسی امر کا قصد کرے تو دو رکعت نفل پڑھے پھر کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَاجِلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَاجِلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. (1)

اور اپنی حاجت کا ذکر کرے خواہ بجائے ہذا الامر کے حاجت کا نام لے یا اُس کے بعد۔ (2) (ردالمحتار)

أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي مِثْلِ أَوْ شَكِّ رَاوِي هُوَ، فَقَبْهَا فَرَمَاتِي هُنَّ كَمَا جَمَعَ لِي يَوْمَ كَبَّرَ.

وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وَاجِلِهِ. (3) (غنية)

مسئلہ ۱ حج اور جہاد اور دیگر نیک کاموں میں نفس فعل کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا، ہاں تعین وقت کے لیے کر سکتے ہیں۔ (4) (غنية)

مسئلہ ۲ مستحب یہ ہے کہ اس دعا کے اول آخر **الْحَمْدُ لِلَّهِ** اور درود شریف پڑھے اور پہلی رکعت میں **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** اور دوسری میں **قُلْ هُوَ اللَّهُ** پڑھے اور بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ پہلی میں **وَسَبَّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ** **يُعَلِّمُونَ** تک اور دوسری میں **وَمَا كَانَ لِنُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ** آخر آیت تک بھی پڑھے۔ (5) (ردالمحتار)

1 ترجمہ: اے اللہ (عزوجل) میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ اور تیری قدرت کے ساتھ طلب قدرت کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو غیوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ (عزوجل) اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین و معیشت اور انجام کار میں یا فرمایا اس وقت اور آئندہ میں تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر پھر میرے لیے اس میں برکت دے اور اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے یہ کام برا ہے میرے دین و معیشت اور انجام کار میں یا فرمایا اس وقت اور آئندہ میں تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے پھیر اور میرے لیے خیر کو مقرر فرما جہاں بھی ہو پھر مجھے اس سے راضی کر۔ ۱۲

2 ”صحیح البخاری“، کتاب التہجد، باب ماجاء فی التطوع... إلخ، الحدیث: ۱۱۶۲، ج ۱، ص ۳۹۳.

و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی رکعتی الاستخارة، ج ۲، ص ۵۶۹.

3 ”غنية المتملی“، رکعتا الاستخارة، ص ۴۳۱.

4 المرجع السابق.

5 ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی رکعتی الاستخارة، ج ۲، ص ۵۷۰.

مسئلہ ۳ بہتر یہ ہے کہ سات بار استخارہ کرے کہ ایک حدیث میں ہے: ”اے انس! جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اپنے رب (عزوجل) سے اس میں سات بار استخارہ کر پھر نظر کر تیرے دل میں کیا گذرا کہ بیشک اسی میں خیر ہے۔“ (1) اور بعض مشائخ سے منقول ہے کہ دُعائے مذکور پڑھ کر باطہارت قبلہ رُوسور ہے اگر خواب میں سپیدی یا سبزی دیکھے تو وہ کام بہتر ہے اور سیاہی یا سُرخی دیکھے تو بُرا ہے اس سے بچے۔ (2) (ردالمحتار) استخارہ کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری جم نہ چکی ہو۔

صلاة التسبیح

اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے بعض محققین فرماتے ہیں اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سُستی کرنے والا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ”اے چچا! کیا میں تم کو عطا نہ کروں، کیا میں تم کو بخشش نہ کروں، کیا میں تم کو نہ دوں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں، دس خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگلا پچھلا پُرانا نیا جو بھول کر کیا اور جو قصد کیا چھوٹا اور بڑا پوشیدہ اور ظاہر، اس کے بعد صلاة التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی پھر فرمایا: کہ اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز ایک بار پڑھو تو کرو اور اگر روز نہ کرو تو ہر جمعہ میں ایک بار اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینہ میں ایک بار اور یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار اور یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار۔“ اور اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے جو سنن ترمذی شریف میں بروایت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے، فرماتے ہیں: اللہ اکبر کہہ کر سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ پڑھے پھر یہ پڑھے سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پندرہ بار پھر اَعُوذُ اور بِسْمِ اللَّهِ اور الْحَمْدُ اور سورت پڑھ کر دس بار یہی تسبیح پڑھے پھر رکوع کرے اور رکوع میں دس بار پڑھے پھر رکوع سے سر اٹھائے اور بعد تسبیح و تحمید دس بار کہے پھر سجدہ کو جائے اور اس میں دس بار کہے پھر سجدہ سے سر اٹھا کر دس بار کہے پھر سجدہ کو جائے اور اس میں دس مرتبہ پڑھے۔ یو ہیں چار رکعت پڑھے ہر رکعت میں ۵۷ بار تسبیح اور چاروں میں تین سو ہوئیں اور رکوع و سجود میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہنے کے بعد تسبیحات پڑھے۔ (3) (غنیہ وغیرہا)

مسئلہ ۱ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے اس نماز میں کون سورت پڑھی جائے؟ فرمایا: سورۃ

① ”کنز العمال“، کتاب الصلاة، رقم: ۲۱۵۳۵، ج ۷، ص ۳۳۶.

② ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی رکعتی الاستخارۃ، ج ۲، ص ۵۷۰.

③ ”غنیۃ المتملی“، صلاة التسبیح، ص ۴۳۱.

کا ثرا و الحصر اور **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** اور **قُلْ هُوَ اللَّهُ** اور بعض نے کہا سورہ حدید اور حشر اور صف اور تغابن۔ (1) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲ اگر سجدہ سہو واجب ہو اور سجدے کرے تو ان دونوں میں تسبیحات نہ پڑھی جائیں اور اگر کسی جگہ بھول کر دس بار سے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح کا آئے وہیں پڑھ لے مثلاً قومہ کی سجدہ میں کہے اور رکوع میں بھولا تو اسے بھی سجدہ ہی میں کہے نہ قومہ میں کہے قومہ کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے اور پہلے سجدہ میں بھولا تو دوسرے میں کہے جلسہ میں نہیں۔ (2) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے ورنہ انگلیاں دبا کر۔ (3)

مسئلہ ۴ ہر وقت غیر مکروہ میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے اور بہتر یہ کہ ظہر سے پہلے پڑھے۔ (4) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ اس نماز میں سلام سے پہلے یہ دُعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَىٰ وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصِحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّىٰ أَخَافَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ حَتَّىٰ أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ وَحَتَّىٰ أَنْصَحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ وَحَتَّىٰ أُخْلِصَ لَكَ النَّصِيحَةَ خُبًا لَكَ وَحَتَّىٰ أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ حُسْنًا ظَنُّ بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ. (5) (ردالمحتار)

① "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة التيسبیح، ج ۲، ص ۵۷۱.

② المرجع السابق.

③ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة التيسبیح، ج ۲، ص ۵۷۲.

④ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة التيسبیح، ج ۲، ص ۵۷۱.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج ۱، ص ۱۱۳.

⑤ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة التيسبیح، ج ۲، ص ۵۷۲.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت والوں کی توفیق اور یقین والوں کے اعمال اور اہل توبہ کی خیر خواہی اور اہل صبر کا عزم اور خوف والوں کی کوشش اور رغبت والوں کی طلب اور پرہیزگاروں کی عبادت اور اہل علم کی معرفت تاکہ میں تجھ سے ڈروں۔ اے اللہ (عزوجل)! میں تجھ سے ایسا خوف مانگتا ہوں جو مجھے تیری نافرمانیوں سے روکے، تاکہ میں تیری طاعت کے ساتھ ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے تیری رضا کا مستحق ہو جاؤں، تاکہ تیرے خوف سے خالص توبہ کروں اور تاکہ تیری محبت کی وجہ سے خیر خواہی کو تیرے لیے خالص کروں اور تاکہ تمام امور میں تجھ پر توکل کروں، تجھ پر نیک گمان کرتے ہوئے، پاک ہے نور کا پیدا کرنے والا۔ ۱۲

نماز حاجت

ابوداؤد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں: ”جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی امر اہم پیش آتا تو نماز پڑھتے۔“ (1) اس کے لیے دو رکعت یا چار پڑھے۔ حدیث میں ہے: ”پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور تین بار آیۃ الکرسی پڑھے اور باقی تین رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور **قُلْ هُوَ اللَّهُ** اور **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ** اور **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** ایک ایک بار پڑھے، تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں چار رکعتیں پڑھیں۔“ مشائخ فرماتے ہیں: کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کو ترمذی وابن ماجہ نے عبد اللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس کی کوئی حاجت اللہ (عزوجل) کی طرف ہو یا کسی بنی آدم کی طرف تو اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ عزوجل کی ثنا کرے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر یہ پڑھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . (2)

ترمذی بافادہ تحسین و تصحیح وابن ماجہ وطبرانی وغیرہم عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ ایک صاحب نابینا حاضر خدمت اقدس ہوئے اور عرض کی، اللہ (عزوجل) سے دُعا کیجیے کہ مجھے عافیت دے، ارشاد فرمایا: ”اگر تو چاہے تو دُعا کروں اور چاہے صبر کر اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔“ انھوں نے عرض کی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) دُعا کریں، انھیں حکم فرمایا: کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دُعا پڑھو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَسَّلُ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ (3) إِنِّي

① ”سنن أبي داود“، كتاب التطوع، باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، الحديث: ١٣١٩، ج ٢، ص ٥٢.

② ”جامع الترمذی“، أبواب الوتر، باب ما جاء في صلاة الحاجة، الحديث: ٤٧٨، ج ٢، ص ٢١.

ترجمہ: اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظیم و کریم ہے، پاک ہے اللہ (عزوجل)، مالک ہے عرش عظیم کا، حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جو رب ہے تمام جہاں کا، میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتا ہوں اور طلب کرتا ہوں تیری بخشش کے ذرائع اور ہر نیکی سے نفیست اور ہر گناہ سے سلامتی کو میرے لیے کوئی گناہ بغیر مغفرت نہ چھوڑ اور ہر غم کو دور کر دے اور جو حاجت تیری رضا کے موافق ہے اسے پورا کر دے، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ ۱۳

③ حدیث میں اس جگہ یا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہے۔ مگر محمد و اعظم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کہنے کے بجائے، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کہنے کی تعلیم دی ہے۔

تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي أَلْتَقَى لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ. (1)

عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”خدا کی قسم! ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔“ (2) نیز قضائے حاجت کے لیے ایک مجرب نماز جو علما ہمیشہ پڑھتے آئے یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر جا کر دو رکعت نماز پڑھے اور امام کے وسیلہ سے اللہ عزوجل سے سوال کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ میں ایسا کرتا ہوں تو بہت جلد میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ (3) (خیرات الحسان)

صلاة الأسرار

نیز اس کے لیے ایک مجرب نماز صلاة الاسرار ہے جو امام ابوالحسن نورالدین علی بن جریر نخعی شطونی ہیچہ الاسرار میں اور مولانا علی قاری و شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر دو رکعت نماز نفل پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں گیارہ گیارہ بار قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھے سلام کے بعد اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کرے پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گیارہ بار دُرُود و سلام عرض کرے اور گیارہ بار یہ کہے:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اغْنِنِي وَامْدُدْنِي فِي قَضَائِ حَاجَتِي يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ. (4)

پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے، ہر قدم پر یہ کہے:

يَا غَوْثَ الثَّقَلَيْنِ وَيَا كَرِيمَ الطَّرْفَيْنِ اغْنِنِي وَامْدُدْنِي فِي قَضَائِ حَاجَتِي يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ. (5)

- 1 ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو سل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو نبی رحمت ہیں یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ذریعہ سے اپنے رب (عزوجل) کی طرف اس حاجت کے بارہ میں متوجہ ہوتا ہوں، تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ ”الہی! اون کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔“ ۱۲
- 2 ”سنن ابن ماجہ“، کتاب إقامة الصلوات و السنة فیہا، باب ماجاء فی صلاة الحاجة، الحدیث: ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۱۵۶۔
و ”جامع الترمذی“، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۵۸۹، ج ۵، ص ۳۳۶۔
و ”المعجم الکبیر“، الحدیث: ۸۳۱۱، ج ۹، ص ۳۰۔ دون قولہ (واتوسل)۔
- 3 ”الخیرات الحسان“، الفصل الخامس و الثلاثون... إلخ، ص ۲۳۰۔
و ”تاریخ بغداد“، باب ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء و الزهاد، ج ۱، ص ۱۳۵۔
- 4 ترجمہ: اے اللہ (عزوجل) کے رسول! اے اللہ (عزوجل) کے نبی! میری فریاد کو پہنچے اور میری مدد کیجیے، میری حاجت پوری ہونے میں، اے تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے۔ ۱۲
- 5 ترجمہ: اے جن و انس کے فریادرس اور اے دونوں طرف (ماں باپ) سے بزرگ! میری فریاد کو پہنچے اور میری مدد کیجیے، میری حاجت پوری ہونے میں، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے۔ ۱۲

پھر حضور کے توسل سے اللہ عزوجل سے دُعا کرے۔⁽¹⁾

نماز توبہ

ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ اور ابن حبان اپنی صحیح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔“ پھر یہ آیت پڑھی۔

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَعَسَىٰ
إِلَّا اللَّهُ ۗ وَلَمْ يُبَصِّرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾⁽²⁾

جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا پھر اللہ (عزوجل) کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگی اور کون گناہ بخشے اللہ (عزوجل) کے سوا اور اپنے کیے پر دانستہ ہٹ نہ کی حالانکہ وہ جانتے ہیں۔

مسئلہ ۱ - صلوة الرغائب کہ رجب کی پہلی شبِ مجتہ اور شعبان کی پندرہویں شب اور شبِ قدر میں جماعت کے ساتھ نفل نماز بعض جگہ لوگ ادا کرتے ہیں، فقہاء سے ناجائز و مکروہ و بدعت کہتے ہیں اور لوگ اس بارے میں جو حدیث بیان کرتے ہیں محدثین اسے موضوع بتاتے ہیں۔⁽³⁾ لیکن اجلہ اکابر اولیا سے باسانید صحیحہ مروی ہے، تو اس کے منع میں غلو نہ چاہیے⁽⁴⁾ اور اگر جماعت میں تین سے زائد مقتدی نہ ہوں جب تو اصلاً کوئی حرج نہیں۔

① ”بہجة الأسرار“، ذکر فضل أصحابہ و بشرامہم، ص ۱۹۷. بتصرف.

② ”جامع الترمذی“، أبواب الصلاة، باب ماجاء في الصلاة عند التوبة، الحدیث: ۴۰۶، ج ۱، ص ۴۱۴.

پ ۴، ال عمران: ۱۳۵.

③ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة الرغائب، ج ۲، ص ۵۶۹، وغیره.

④ مجدد اعظم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ”فتاویٰ رضویہ“، جلد ۷، صفحہ 465 پر فرماتے ہیں: ”نفل غیر تراویح میں امام کے سوا تین آدمیوں تک تو اجازت ہی ہے۔ چار کی نسبت کتب حنفیہ میں کراہت لکھتے ہیں یعنی کراہت تنزیہ جس کا حاصل خلاف اولیٰ ہے نہ کہ گناہ و حرام کما بیناہ فی فتاویٰ (جیسا کہ ہم نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ ت) مگر مسئلہ مختلف فیہ ہے اور بہت اکابر دین سے جماعت نوافل بالتداعی (تداعی کالغوی معنی ہے ”ایک دوسرے کو بلانا“۔ اور تداعی کے ساتھ جماعت کا مطلب ہے کہ کم از کم چار آدمی ایک امام کی اقتدا کریں۔ ”الفتاویٰ الرضویہ“، ج ۷، ص ۴۳۰) ثابت ہے اور عوام فعل خیر سے منع نہ کیے جائیں گے۔ علمائے امت و حکمائے ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا ہے۔“ (”الفتاویٰ الرضویہ“، ج ۷، ص ۴۶۵).

تراویح کا بیان

مسئلہ ۱ تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے اس کا ترک جائز نہیں۔^(۱) (درمختار وغیرہ)

اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مداومت فرمائی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ ”میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔“^(۲) اور خود حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے بھی تراویح پڑھی اور اسے بہت پسند فرمایا۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ارشاد فرماتے ہیں: ”جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے“^(۳) یعنی صغائر۔ پھر اس اندیشہ سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے ترک فرمائی پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک رات مسجد کو تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے پایا کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، فرمایا: میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہو، سب کو ایک امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا پھر دوسرے دن تشریف لے گئے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں فرمایا نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ یہ اچھی بدعت ہے۔^(۴) رواہ اصحاب السنن۔

مسئلہ ۲ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی بیس رکعتیں ہیں^(۵) اور یہی احادیث سے ثابت، بیہقی نے بسند صحیح

سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔^(۶) اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں بھی یو ہیں تھا۔^(۷) اور موطا میں یزید بن رومان سے روایت ہے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں تیس رکعتیں پڑھتے۔^(۸) بیہقی نے کہا اس میں تین رکعتیں وتر کی ہیں۔^(۹) اور مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

① ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۵۹۶، وغیرہ .

② ”جامع الترمذی“، أبواب العلم، باب ماجاء في الأخذ بالسنة... إلخ، الحدیث: ۲۶۸۵، ج ۴، ص ۳۰۸.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب الترغیب في قیام رمضان وهو التراویح، الحدیث: ۷۵۹، ص ۳۸۲.

④ ”صحیح البخاری“، کتاب صلاة التراویح، باب فضل من قام رمضان، الحدیث: ۲۰۱۰، ج ۱، ص ۶۵۸.

و ”الموطأ“ لإمام مالك، کتاب الصلاة في رمضان، باب ماجاء في قیام رمضان، رقم ۲۵۵، ج ۱، ص ۱۲۰.

⑤ ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراویح، ج ۲، ص ۵۹۹.

⑥ ”معرفة السنن و الآثار“ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب قیام رمضان، رقم ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۳۰۵.

⑦ ”فتح باب العناية شرح النقایة“، کتاب الصلاة، فصل في صلاة التراویح، ج ۱، ص ۳۴۲.

⑧ ”الموطأ“ لإمام مالك، کتاب الصلاة في رمضان، باب ماجاء في قیام رمضان، رقم ۲۵۷، ج ۱، ص ۱۲۰.

⑨ ”السنن الكبرى“، کتاب الصلاة، باب ما روى في عدد ركعات القیام في شهر رمضان، الحدیث: ۴۶۱۸، ج ۲، ص ۶۹۹.

نے ایک شخص کو حکم فرمایا: کہ رمضان میں لوگوں کو بیس رکعتیں پڑھائے۔⁽¹⁾ نیز اس کے بیس رکعت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ فرائض و واجبات کی اس سے تکمیل ہوتی ہے اور کل فرائض و واجبات کی ہر روز بیس رکعتیں ہیں، لہذا مناسب کہ یہ بھی بیس ہوں کہ مکمل و مکمل برابر ہوں۔

مسئلہ ۳ - اس کا وقت فرض عشا کے بعد سے طلوع فجر تک ہے وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی تو اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے پھر باقی ادا کر لے جب کہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں اور یہ افضل ہے اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشا بغیر طہارت پڑھی تھی اور تراویح و وتر طہارت کے ساتھ تو عشا و تراویح پھر پڑھے وتر ہو گیا۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ ۴ - مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵ - اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا نہیں اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہیں، جیسے مغرب و عشا کی سنتیں۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ - تراویح کی بیس رکعتیں دس سلام سے پڑھے یعنی ہر دو رکعت پر سلام پھیرے اور اگر کسی نے بیسوں پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر دو رکعت پر قعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ اور اگر قعدہ نہ کیا تھا تو دو رکعت کے قائم مقام ہوئیں۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۷ - احتیاط یہ ہے کہ جب دو دو رکعت پر سلام پھیرے تو ہر دو رکعت پر الگ الگ نیت کرے اور اگر ایک ساتھ بیسوں رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے اور دو مرتبہ فضیلت اور تین مرتبہ افضل۔ لوگوں کی

① "السنن الكبرى"، كتاب الصلاة، باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، الحديث: ٤٦٢١، ج ٢، ص ٦٩٩.

② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ج ٢، ص ٥٩٧.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ج ١، ص ١١٥.

③ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ٢، ص ٥٩٨.

④ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ج ٢، ص ٥٩٨.

⑤ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ج ٢، ص ٥٩٩.

⑥ "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ج ٢، ص ٥٩٧.

ستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کرے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۹ - امام و مقتدی ہر دو رکعت پر شاپڑھیں اور بعد تشهد دعا بھی، ہاں اگر مقتدیوں پر گرانی ہو تو تشهد کے بعد اللہم

صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ پراکتفا کرے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ - اگر ایک ختم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ ستائیسویں شب میں ختم ہو پھر اگر اس رات میں یا اس کے پہلے ختم ہو تو

تراویح آخر رمضان تک برابر پڑھتے رہیں کہ سنت مؤکدہ ہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ - افضل یہ ہے کہ تمام شفعوں میں قراءت برابر ہو اور اگر ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں۔ یوہیں ہر شفع کی پہلی

رکعت اور دوسری کی قراءت مساوی ہو دوسری کی قراءت پہلی سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ - قراءت اور ارکان کی ادا میں جلدی کرنا مکروہ ہے اور جتنی ترتیل زیادہ ہو⁽⁵⁾ بہتر ہے۔ یوہیں تعوذ و تسمیہ و

طمانینت و تسبیح کا چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۳ - ہر چار رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھیں، پانچویں ترویجہ اور وتر کے

درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گراں ہو تو نہ بیٹھے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۴ - اس بیٹھنے میں اسے اختیار ہے کہ چپکا بیٹھا رہے یا کلمہ پڑھے یا تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے یا چار

رکعتیں تنہا نفل پڑھے جماعت سے مکروہ ہے یا یہ تسبیح پڑھے:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ. سُبْحَانَ

الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبُوْحُ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ

① "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۶۰۱.

و "الفتاوى الرضوية"، ج ۷، ص ۴۵۸.

② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ج ۲، ص ۶۰۲.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ج ۱، ص ۱۱۸.

④ المرجع السابق، ص ۱۱۷.

⑤ یعنی جس قدر حروف کو اچھی طرح ادا کرے۔

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ج ۱، ص ۱۱۷.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۶۰۳.

⑦ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ج ۱، ص ۱۱۵، وغیره.

اللَّهُ نَسْتَلِكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ - (غنیہ، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۱۵ - ہر دو رکعت کے بعد دو رکعت پڑھنا مکروہ ہے۔ یوہیں دس رکعت کے بعد بیٹھنا بھی مکروہ۔ (2)
(درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ - تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گنہگار ہوں گے اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گنہگار نہیں مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ - تراویح مسجد میں باجماعت پڑھنا افضل ہے اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہو اگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ - اگر عالم حافظ بھی ہو تو افضل یہ ہے کہ خود پڑھے دوسرے کی اقتدا نہ کرے اور اگر امام غلط پڑھتا ہو تو مسجد محلہ چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانے میں حرج نہیں۔ یوہیں اگر دوسری جگہ کا امام خوش آواز ہو یا ہلکی قراءت پڑھتا ہو یا مسجد محلہ میں ختم نہ ہوگا تو دوسری مسجد میں جانا جائز ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ - خوش خوان کو امام بنانا نہ چاہیے بلکہ درست خوان کو بنائیں۔ (6) (عالمگیری) افسوس صد افسوس کہ اس زمانہ میں حفاظ کی حالت نہایت ناگفتہ بہ ہے، اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انھیں دیکھیے تو حروف صحیح نہیں ادا کرتے ہمزہ، الف، عین اور ذ، ز، ظ اور

1 "غنیة المتملی"، تراویح، ص ۴۰۴.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراویح، ج ۲، ص ۶۰۰، وغیرہما.

ترجمہ: پاک ہے ملک و ملکوت والا، پاک ہے عزت و بزرگی اور بڑائی اور جبروت والا، پاک ہے بادشاہ جو زندہ ہے، جو نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے، پاک مقدس ہے فرشتوں اور روح کا مالک، اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ (عزوجل) سے ہم مغفرت چاہتے ہیں، تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ۱۳

2 "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ج ۱، ص ۱۱۵.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۶۰۱.

3 "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ج ۱، ص ۱۱۶.

4 المرجع السابق.

5 المرجع السابق.

6 المرجع السابق.

ث، س، ص، ت، ط وغیرہا حروف میں تفرقہ (1) نہیں کرتے جس سے قطعاً نماز ہی نہیں ہوتی فقیر کو انھیں مصیبتوں کی وجہ سے تین سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا۔ مولا عزوجل مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ پڑھنے کی کوشش کریں۔

مسئلہ ۲۰ آج کل اکثر رواج ہو گیا ہے کہ حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھواتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہیں، اجرت صرف یہی نہیں کہ پیشتر مقرر کر لیں کہ یہ لیں گے یہ دیں گے، بلکہ اگر معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے، اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو یہ بھی ناجائز ہے کہ الْمَعْرُوف كَالْمَشْرُوطِ ہاں اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا نہیں لوں گا پھر پڑھے اور حافظ کی خدمت کریں تو اس میں حرج نہیں کہ الصَّرِيحُ يُفَوِّقُ الدَّلَالََةَ (2)۔

مسئلہ ۲۱ ایک امام دو مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے اگر دونوں میں پوری پوری پڑھائے تو ناجائز ہے اور مقتدی نے دو مسجدوں میں پوری پوری پڑھی تو حرج نہیں مگر دوسری میں وتر پڑھنا جائز نہیں جب کہ پہلی میں پڑھ چکا اور اگر گھر میں تراویح پڑھ کر مسجد میں آیا اور امامت کی تو مکروہ ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ لوگوں نے تراویح پڑھ لی اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا تنہا پڑھ سکتے ہیں جماعت کی اجازت نہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ افضل یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھیں اور دو کے پیچھے پڑھنا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ پورے ترویج پر امام بدلیں، مثلاً آٹھ ایک کے پیچھے اور بارہ دوسرے کے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ نابالغ کے پیچھے بالغین کی تراویح نہ ہوگی یہی صحیح ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ رمضان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے خواہ اسی امام کے پیچھے جس کے پیچھے عشا و تراویح پڑھی یا دوسرے کے پیچھے۔ (7) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۶ یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشا و وتر پڑھائے دوسرا تراویح۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشا و وتر کی

① یعنی فرق۔

② یعنی صراحت کو دلالت پر فوقیت ہے۔

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ج ۱، ص ۱۱۶۔

④ المرجع السابق۔

⑤ المرجع السابق۔

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۸۵۔

⑦ المرجع السابق، ص ۱۱۶، و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب فی کراہة

الاعتداء فی النفل علی سبیل التداعی... إلخ، ج ۲، ص ۶۰۶۔

امامت کرتے تھے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ اگر سب لوگوں نے عشا کی جماعت ترک کر دی تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھیں، ہاں عشا جماعت

سے ہوئی اور بعض کو جماعت نہ ملی۔ تو یہ جماعت تراویح میں شریک ہوں۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۸ اگر عشا جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا تو تراویح میں شریک ہو سکتا ہے اور اگر عشا تنہا پڑھی

اگرچہ تراویح باجماعت پڑھی تو تراویح پڑھے۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ عشا کی سنتوں کا سلام نہ پھیرا اسی میں تراویح ملا کر شروع کی تو تراویح نہیں ہوئی۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ تراویح بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۱ مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے جب امام رکوع کرنے کو ہو تو کھڑا ہو جائے کہ یہ منافقین سے

مشابہت ہے۔

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

﴿ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالٍ ﴾

منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے جی سے۔⁽⁶⁾ (غنیہ وغیرہا)

مسئلہ ۳۲ امام سے غلطی ہوئی کوئی سورت یا آیت چھوٹ گئی تو مستحب یہ ہے کہ اسے پہلے پڑھ کر پھر آگے

بڑھے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ دو رکعت پر بیٹھنا بھول گیا کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے اور سجدہ کر لیا ہو تو چار

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ج ۱، ص ۱۱۶.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۶۰۳.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراویح، ج ۲، ص ۶۰۳.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ج ۱، ص ۱۱۷.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج ۲، ص ۶۰۳.

⑥ "غنیة المتملی شرح منیة المصلی"، تراویح، فروع، ص ۴۱۰.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراویح، ج ۲، ص ۶۰۳.

پ ۵، النساء: ۱۴۲.

⑦ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ج ۱، ص ۱۱۸.

پوری کر لے مگر یہ دو شمار کی جائیں گی اور جو دو پر بیٹھ چکا ہے تو چار ہوئیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ تین رکعت پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہ تھا تو نہ ہوئیں ان کے بدلے کی دو رکعت پھر پڑھے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ قعدہ میں مقتدی سو گیا امام سلام پھیر کر اور دو رکعت پڑھ کر قعدہ میں آیا اب یہ بیدار ہوا تو اگر معلوم ہو گیا تو سلام پھیر کر شامل ہو جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جلد پوری کر کے امام کے ساتھ ہو جائے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ وتر پڑھنے کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ دو رکعتیں رہ گئیں تو جماعت سے پڑھ لیں اور آج یاد آیا کہ کل دو رکعتیں رہ گئی تھیں تو جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے دو ہوئیں کوئی کہتا ہے تین تو امام کے علم میں جو ہو اُس کا اعتبار ہے اور امام کو کسی بات کا یقین نہ ہو تو جس کو سچا جانتا ہو اُس کا قول اعتبار کرے۔ اگر اس میں لوگوں کو شک ہو کہ بیس ہوئیں یا اٹھارہ تو دو رکعت تنہا تنہا پڑھیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ اگر کسی وجہ سے نماز تراویح فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن مجید ان رکعتوں میں پڑھا ہے اعادہ کریں تاکہ ختم میں نقصان نہ رہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ اگر کسی وجہ سے ختم نہ ہو تو سورتوں کی تراویح پڑھیں اور اس کے لیے بعضوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ **اَلَمْ تَرَ كَيْفَ** سے آخر تک دو بار پڑھنے میں بیس رکعتیں ہو جائیں گی۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴۰ ایک بار بسم اللہ شریف جبر⁽⁸⁾ سے پڑھنا سنت ہے اور ہر سورت کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا مستحب اور یہ جو آج کل بعض جہال نے نکالا ہے کہ ایک سو چودہ بار بسم اللہ جبر سے پڑھی جائے ورنہ ختم نہ ہوگا، مذہب حنفی میں بے اصل ہے۔

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ج ۱، ص ۱۱۸.

② المرجع السابق.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ج ۱، ص ۱۱۹.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ج ۱، ص ۱۱۷.

⑤ المرجع السابق.

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح، ج ۱، ص ۱۱۸.

⑦ المرجع السابق.

⑧ یعنی اُوْحٰی آواز۔

مسئلہ ۳۱ — متاخرین نے ختم تراویح میں تین بار **قُلْ هُوَ اللَّهُ** پڑھنا مستحب کہا اور بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن پچھلی رکعت میں **اللَّهُ** سے **الْمُفْلِحُونَ** تک پڑھے۔

مسئلہ ۳۲ — شبینہ کہ ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح آج کل رواج ہے کہ کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ لیٹے ہیں، کچھ لوگ چائے پینے میں مشغول ہیں، کچھ لوگ مسجد کے باہر حقہ نوشی کر رہے ہیں اور جب جی میں آیا ایک آدھ رکعت میں شامل بھی ہو گئے یہ ناجائز ہے۔

فائدہ: ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں اکٹھ ختم کیا کرتے تھے۔ تیس دن میں اور تیس رات میں اور ایک تراویح میں اور پینتالیس برس عشا کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے۔

منفرد کا فرضوں کی جماعت پانا

حدیث ۲۰۱ — امام مالک و نسائی روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی معجن نامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں حاضر تھے اذان ہوئی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی وہ بیٹھے رہ گئے، ارشاد فرمایا: ”جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانع ہوئی کیا تم مسلمان نہیں ہو۔“ عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! ہوں تو مگر میں نے گھر پڑھ لی تھی، ارشاد فرمایا: ”جب نماز پڑھ کر مسجد میں آؤ اور نماز قائم کی جائے تو لوگوں کے ساتھ پڑھ لو اگر چہ پڑھ چکے ہو۔“ (۱) اسی کے مثل یزید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو ابوداؤد میں مروی۔

حدیث ۳ — امام مالک نے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”جو مغرب یا صبح کی پڑھ چکا ہے پھر جب امام کے ساتھ پائے اعادہ نہ کرے۔“ (۲)

مسئلہ ۱ — تنہا فرض نماز شروع ہی کی تھی یعنی ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا تھا کہ جماعت قائم ہوئی تو توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ (۳) (درمختار)

مسئلہ ۲ — فجر یا مغرب کی نماز ایک رکعت پڑھ چکا تھا کہ جماعت قائم ہوئی تو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے اگرچہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہو، البتہ دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب ان دو نمازوں میں توڑنے کی اجازت نہیں اور نماز

① ”الموطأ“ لإمام مالك، كتاب صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، الحديث: ۳۰۲، ج ۱، ص ۱۳۵.

و ”مشكاة المصابيح“، كتاب الصلاة، باب من صلى صلاة مرتين، الحديث: ۱۱۵۳، ج ۱، ص ۳۳۸.

② ”الموطأ“ لإمام مالك، كتاب صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، الحديث: ۳۰۶، ج ۱، ص ۱۳۶.

③ ”تنوير الأبصار“ و ”الدرالمختار“، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج ۲، ص ۶۰۶ - ۶۱۰.

پوری کرنے کے بعد بہ نیت نفل بھی ان میں شریک نہیں ہو سکتا کہ فجر کے بعد نفل جائز نہیں اور مغرب میں اس وجہ سے کہ تین رکعتیں نفل کی نہیں اور مغرب میں اگر شامل ہو گیا تو برا کیا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور ملا کر چار کر لے اور اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی چار رکعت قضا کرے۔⁽¹⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۳ - مغرب پڑھنے والے کے پیچھے نفل کی نیت سے شامل ہو گیا۔ امام نے چوتھی رکعت کو تیسری گمان کیا اور کھڑا ہو گیا اس مقتدی نے اس کا اتباع کیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، تیسری پر امام نے قعدہ کیا ہو یا نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - چار رکعت والی نماز شروع کر کے ایک رکعت پڑھ لی یعنی پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو واجب ہے کہ ایک اور پڑھ کر توڑ دے کہ یہ دو رکعتیں نفل ہو جائیں اور دو پڑھ لی ہیں تو ابھی توڑ دے یعنی تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے اور تین پڑھ لی ہیں تو واجب ہے کہ نہ توڑے، توڑے گا تو گنہگار ہوگا بلکہ حکم یہ ہے کہ پوری کر کے نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو جماعت کا ثواب پالے گا، مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا کہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - جماعت قائم ہونے سے مؤذن کا تکبیر کہنا مراد نہیں بلکہ جماعت شروع ہو جانا مراد ہے، مؤذن کے تکبیر کہنے سے قطع نہ کرے گا اگرچہ پہلی رکعت کا ہنوز⁽⁴⁾ سجدہ نہ کیا ہو۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ - جماعت قائم ہونے سے نماز قطع کرنا اس وقت ہے کہ جس مقام پر یہ نماز پڑھتا ہو وہیں جماعت قائم ہو، اگر یہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں جماعت قائم ہوئی یا ایک مسجد میں یہ پڑھتا ہے دوسری مسجد میں جماعت قائم ہوئی تو توڑنے کا حکم نہیں اگرچہ پہلی کا سجدہ نہ کیا ہو۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ - نفل شروع کیے تھے اور جماعت قائم ہوئی تو قطع نہ کرے بلکہ دو رکعت پوری کر لے، اگرچہ پہلی کا سجدہ بھی نہ کیا ہو اور تیسری پڑھتا ہو تو چار پوری کر لے۔⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - مجتہد اور ظہر کی سنتیں پڑھنے میں خطبہ یا جماعت شروع ہوئی تو چار پوری کر لے۔⁽⁸⁾ (درمختار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب العاشر فی إدراک الفریضۃ، ج ۱، ص ۱۱۹، وغیرہ.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب العاشر فی إدراک الفریضۃ، ج ۱، ص ۱۱۹.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب إدراک الفریضۃ، مطلب: صلاة رکعة واحدة باطله... إلخ، ج ۲، ص ۶۱۰.

④ ابھی تک۔

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب إدراک الفریضۃ، ج ۲، ص ۶۰۸.

⑥ المرجع السابق.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب إدراک الفریضۃ، مطلب: صلاة رکعة واحدة... إلخ، ج ۲، ص ۶۱۱.

⑧ "تنویر الأبصار" و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب إدراک الفریضۃ، ج ۲، ص ۶۱۱.

مسئلہ ۹ سنت یا قضا نماز شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو پوری کر کے شامل ہو ہاں جو قضا شروع کی اگر بعینہ اسی قضا کے لیے جماعت قائم ہوئی تو توڑ کر شامل ہو جائے۔ (۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ نماز توڑنا بغیر عذر ہو تو حرام ہے اور مال کے تلف (۲) کا اندیشہ ہو تو مباح اور کامل کرنے کے لیے ہو تو مستحب اور جان بچانے کے لیے ہو تو واجب۔ (۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی حاجت نہیں کھڑا کھڑا ایک طرف سلام پھیر کر توڑ دے۔ (۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ جس شخص نے نماز نہ پڑھی ہو اسے مسجد سے اذان کے بعد نکلنا مکروہ تحریمی ہے۔ ابن ماجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اذان کے بعد جو مسجد سے چلا گیا اور کسی حاجت کے لیے نہیں گیا اور نہ واپس ہونے کا ارادہ ہے وہ منافق ہے۔“ (۵) امام بخاری کے علاوہ جماعت محدثین نے روایت کی کہ ابوالشعثا کہتے ہیں: ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تھے جب مؤذن نے عصر کی اذان کہی، اُس وقت ایک شخص چلا گیا اس پر فرمایا: کہ ”اس نے ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔“ (۶) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ اذان سے مراد وقت نماز ہو جانا ہے، خواہ ابھی اذان ہوئی ہو یا نہیں۔ (۷) (درمختار)

مسئلہ ۱۴ جو شخص کسی دوسری مسجد کی جماعت کا منتظم ہو، مثلاً امام یا مؤذن ہو کہ اُس کے ہونے سے لوگ ہوتے ہیں ورنہ متفرق ہو جاتے ہیں ایسے شخص کو اجازت ہے کہ یہاں سے اپنی مسجد کو چلا جائے اگرچہ یہاں اقامت بھی شروع ہو گئی ہو مگر جس مسجد کا منتظم ہے اگر وہاں جماعت ہو چکی تو اب یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ (۸) (درمختار، ردالمحتار)

① ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج ۲، ص ۶۰۶.

② یعنی ضائع ہونے۔

③ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، مطلب: قطع الصلاة يكون حراما و مباحا... إلخ، ج ۲، ص ۶۱۰.

④ ”الفتاوى الهندية“، کتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة، ج ۱، ص ۱۱۹.

⑤ ”سنن ابن ماجه“، أبواب الأذان... إلخ، باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج، الحديث: ۷۳۴، ج ۱، ص ۴۰۴.

⑥ ”سنن ابن ماجه“، أبواب الأذان... إلخ، باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج، الحديث: ۷۳۳، ج ۱، ص ۴۰۴.

”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان، ج ۲، ص ۶۱۲.

⑦ ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج ۲، ص ۶۱۳.

⑧ ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان، ج ۲، ص ۶۱۳.

مسئلہ ۱۵ سبق کا وقت ہے تو یہاں سے اپنے استاد کی مسجد کو جاسکتا ہے یا کوئی ضرورت ہو اور واپس ہونے کا ارادہ ہو تو بھی جانے کی اجازت ہے، جبکہ ظن غالب ہو کہ جماعت سے پہلے واپس آجائے گا۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۱۶ جس نے ظہر یا عشا کی نماز تہا پڑھ لی ہو، اسے مسجد سے چلے جانے کی ممانعت اُس وقت ہے کہ اقامت شروع ہوگئی اقامت سے پہلے جاسکتا ہے اور جب اقامت شروع ہوگئی تو حکم ہے کہ جماعت میں بہ نیت نفل شریک ہو جائے اور مغرب و فجر و عصر میں اُسے حکم ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے جب کہ پڑھ لی ہو۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۱۷ مقتدی نے دو سجدے کیے اور امام ابھی پہلے ہی میں تھا تو دوسرا سجدہ نہ ہوا۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۱۸ چار رکعت والی نماز جسے ایک رکعت امام کے ساتھ ملی تو اُس نے جماعت نہ پائی، ہاں جماعت کا ثواب ملے گا اگرچہ قعدہ اخیرہ میں شامل ہو ہو بلکہ جسے تین رکعتیں ملیں اس نے بھی جماعت نہ پائی جماعت کا ثواب ملے گا، مگر جس کی کوئی رکعت جاتی رہی اُسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا اول سے شریک ہونے والے کو ہے۔ اس مسئلہ کا محصل^(۴) یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی فلاں نماز جماعت سے پڑھے گا اور کوئی رکعت جاتی رہی تو قسم ٹوٹ گئی کفارہ دینا ہوگا تین اور دو رکعت والی نماز میں بھی ایک رکعت نہ ملی تو جماعت نہ ملی اور لاحق کا حکم پوری جماعت پانے والے کا ہے۔^(۵) (درمختار، رالمختار)

مسئلہ ۱۹ امام رکوع میں تھا کسی نے اُس کی اقتدا کی اور کھڑا رہا یہاں تک کہ امام نے سر اٹھالیا تو وہ رکعت نہیں ملی، لہذا امام کے فارغ ہونے کے بعد اس رکعت کو پڑھ لے اور اگر امام کو قیام میں پایا اور اس کے ساتھ رکوع میں شریک نہ ہو تو پہلے رکوع کر لے پھر اور افعال امام کے ساتھ کرے اور اگر پہلے رکوع نہ کیا بلکہ امام کے ساتھ ہو لیا پھر امام کے فارغ ہونے کے بعد رکوع کیا تو بھی ہو جائے گی مگر بوجہ ترک واجب گنہگار ہوا۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۲۰ اس کے رکوع کرنے سے پیشتر امام نے سر اٹھالیا کہ اسے رکعت نہ ملی تو اس صورت میں نماز توڑ دینا جائز نہیں جیسا بعض جاہل کرتے ہیں بلکہ اس پر واجب ہے کہ سجدہ میں امام کی متابعت کرے اگرچہ یہ سجدے رکعت میں شمار نہ ہوں

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج ۲، ص ۶۱۴.

② المرجع السابق.

③ المرجع السابق، ص ۶۲۵.

④ یعنی خلاصہ۔

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش،

ج ۲، ص ۶۲۱.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج ۲، ص ۶۲۳.

گے۔ یوہیں اگر سجدہ میں ملا جب بھی ساتھ دے پھر بھی اگر سجدے نہ کیے تو نماز فاسد نہ ہوگی یہاں تک کہ اگر امام کے سلام کے بعد اس نے اپنی رکعت پڑھ لی نماز ہوگئی مگر ترک واجب کا گناہ ہوا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۱ امام سے پہلے رکوع کیا مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام نے بھی رکوع کیا تو رکوع ہو گیا بشرطیکہ اس نے اُس وقت رکوع کیا ہو کہ امام بقدر فرض قراءت کر چکا ہو ورنہ رکوع نہ ہو اور اس صورت میں امام کے ساتھ یا بعد اگر دوبارہ رکوع کر لے گا ہو جائے گی ورنہ نماز جاتی رہی اور امام سے پہلے رکوع خواہ کوئی رکن ادا کرنے میں گنہگار بہر حال ہوگا۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۲ امام رکوع میں تھا اور یہ تکبیر کہہ کر جھکا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا تو اگر حد رکوع میں مشارکت⁽³⁾ ہوگئی اگرچہ قلیل تو رکعت مل گئی۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ مقتدی نے تمام رکعتوں میں رکوع و سجود امام سے پہلے کیا تو سلام کے بعد ضروری ہے کہ ایک رکعت بغیر قراءت پڑھے نہ پڑھی تو نماز نہ ہوئی اور اگر امام کے بعد رکوع و سجود کیا تو نماز ہوگئی اور اگر رکوع پہلے کیا اور سجدہ ساتھ تو چاروں رکعتیں بغیر قراءت پڑھے اور اگر رکوع ساتھ کیا اور سجدہ پہلے تو دو رکعت بعد میں پڑھے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

قضا نماز کا بیان

حدیث ۱ غزوہ خندق میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار نمازیں مشرکین کی وجہ سے جاتی رہیں یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ چلا گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا: انہوں نے اذان و اقامت کہی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی پڑھی، پھر اقامت کہی تو عشا کی پڑھی۔⁽⁶⁾

حدیث ۲ امام احمد نے ابی بجمہ حبیب بن سباع سے روایت کی، کہ غزوہ احزاب میں مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو فرمایا: کسی کو معلوم ہے میں نے عصر کی پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، نہیں پڑھی، مؤذن کو حکم فرمایا: اُس نے اقامت کہی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے عصر کی پڑھی پھر مغرب کا اعادہ کیا۔⁽⁷⁾

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش، ج ۲، ص ۶۲۴.

②..... المرجع السابق، ص ۶۲۵. ③..... یعنی باہم شرکت۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب العاشر فی إدراك الفريضة، ج ۱، ص ۱۲۰.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب العاشر فی إدراك الفريضة، ج ۱، ص ۱۲۰.

⑥..... "السنن الكبرى" للبيهقي، کتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة للفائتة، الحديث: ۱۸۹۲، ج ۱، ص ۵۹۲.

⑦..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي جمعه حبیب بن سباع، الحديث: ۱۶۹۷۲، ج ۶، ص ۴۲.

حدیث ۳ طبرانی و بیہقی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، فرمایا: ”جو شخص کسی نماز کو بھول جائے اور یاد اُس وقت آئے کہ امام کے ساتھ ہو تو پوری کر لے پھر بھولی ہوئی پڑھے پھر اُسے پڑھے جس کو امام کے ساتھ پڑھا۔“ (1)

حدیث ۴ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے کہ وہی اُس کا وقت ہے۔“ (2)

حدیث ۵ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سوتے میں (اگر نماز جاتی رہی) تو قصور نہیں، قصور تو بیداری میں ہے۔ (3)

مسئلہ ۱ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے، اُس پر فرض ہے کہ اُس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے، توبہ یا حج مقبول سے گناہ تاخیر معاف ہو جائے گا۔ (4) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲ توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے۔ اُس کو تو ادا نہ کرے، توبہ کیے جائے، یہ توبہ نہیں کہ وہ نماز جو اس کے ذمہ تھی اس کا نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے اور جب گناہ سے باز نہ آیا، توبہ کہاں ہوئی۔ (5) (ردالمحتار) حدیث میں فرمایا: ”گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس کے مثل ہے جو اپنے رب (عزوجل) سے ٹھٹھا (6) کرتا ہے۔“ (7)

مسئلہ ۳ دشمن کا خوف نماز قضا کرنے کے لیے عذر ہے، مثلاً مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے تو اس کی وجہ سے وقتی نماز قضا کر سکتا ہے بشرطیکہ کسی طرح نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو اور اگر سوار ہے اور سواری پر پڑھ سکتا ہے اگرچہ چلنے ہی کی حالت میں یا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو عذر نہ ہوا۔ یوہیں اگر قبلہ کو مونہہ کرتا ہے تو دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو جس رُخ بن پڑے پڑھ لے ہو جائے گی ورنہ نماز قضا کرنے کا گناہ ہوا۔ (8) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ جنائی (9) نماز پڑھے گی تو بچہ کے مرجانے کا اندیشہ ہے نماز قضا کرنے کے لیے یہ عذر ہے۔ بچہ کا سر باہر

① ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۵۱۳۲، ج ۴، ص ۳۸.

② ”صحیح مسلم“، کتاب المساجد... إلخ، باب قضاء الصلاة الفاتنة... إلخ، الحدیث: ۳۱۵- (۶۸۴)، ص ۳۴۶.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب المساجد... إلخ، باب قضاء الصلاة الفاتنة... إلخ، الحدیث: ۶۸۱، ص ۳۴۳.

④ ”الدر المختار“، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۲۶.

⑤ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۲۷.

⑥ یعنی مذاق۔

⑦ ”شعب الایمان“، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، الحدیث: ۷۱۷۸، ج ۵، ص ۴۳۶.

⑧ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۲۷.

⑨ یعنی دائی۔ بچہ جنانے والی۔

آگیا اور نفاس سے پیشتر وقت ختم ہو جائے گا تو اس حالت میں بھی اس کی ماں پر نماز پڑھنا فرض ہے نہ پڑھے گی گنہگار ہوگی، کسی برتن میں بچہ کا سر رکھ کر جس سے اس کو صدمہ نہ پہنچے نماز پڑھے مگر اس ترکیب سے پڑھنے میں بھی بچہ کے مرجانے کا اندیشہ ہو تو تاخیر معاف ہے بعد نفاس اس نماز کی قضا پڑھے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ جس چیز کا بندوں پر حکم ہے اسے وقت میں بجالانے کو ادا کہتے ہیں اور وقت کے بعد عمل میں لانا قضا ہے اور اگر اس حکم کے بجالانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو دوبارہ وہ خرابی دفعہ کرنے کے لیے کرنا عاادہ ہے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ وقت میں اگر تحریمہ باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے۔⁽³⁾ (درمختار) مگر نماز فجر و جمعہ و عیدین کہ ان میں سلام سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا نماز جاتی رہی۔

مسئلہ ۷ سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہوگئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے تاخیر مکروہ ہے، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا: ”جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔“⁽⁴⁾ (عالمگیری وغیرہ) مگر دخول وقت کے بعد سو گیا پھر وقت نکل گیا تو قطعاً گنہگار ہو جب کہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی جب کہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی۔

مسئلہ ۸ کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اُسے رات میں دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

① ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۲۷.

② ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۲۷-۶۳۲.

③ المرجع السابق، ص ۶۲۸.

④ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۱، وغیرہ.

⑤ ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، مطلب: یکرہ السہر اذا خاف فوت الصبح، ج ۳، ص ۴۲۰.

⑥ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، مطلب فی طلوع الشمس من مغربها، ج ۲، ص ۳۳.

امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ”نماز کے احکام“ صفحہ 329 پر فرماتے ہیں: بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! نعت خوانیوں، ذکر و فکر کی محفلوں نیز سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ میں رات دیر تک جاگنے کے بعد سونے کے سبب اگر نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ نیت اعتکاف مسجد میں قیام کریں یا وہاں سوئیں جہاں کوئی قابل اعتماد اسلامی

مسئلہ ۱۰ فرض کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا واجب اور سنت کی قضا سنت یعنی وہ سنتیں جن کی قضا ہے مثلاً فجر کی سنتیں جبکہ فرض بھی فوت ہو گیا ہو اور ظہر کی پہلی سنتیں جب کہ ظہر کا وقت باقی ہو۔^(۱) (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں عمر میں جب پڑھے گا بری الذمہ ہو جائے گا مگر طلوع و غروب اور زوال کے وقت کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ مجنون کی حالت جنون جو نمازیں فوت ہوئیں اچھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں جبکہ جنون نماز کے چھ وقت کامل تک برابر رہا ہو۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی تھیں ان کی قضا واجب ہے۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۴ دارالحرب میں کوئی شخص مسلمان ہو اور احکام شرعیہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہا کی اس کو اطلاع نہ ہوئی تو جب تک وہاں رہا ان دنوں کی قضا اس پر واجب نہیں اور جب دارالاسلام میں آ گیا تو اب جو نماز قضا ہوگی اسے پڑھنا فرض ہے کہ دارالاسلام میں احکام کا نہ جاننا عذر نہیں اور کسی ایک شخص نے بھی اسے نماز فرض ہونے کی اطلاع دے دی اگر چہ فاسق یا بچہ یا عورت یا غلام نے تو اب جتنی نہ پڑھے گا ان کی قضا واجب ہے، دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو جو نماز فوت ہوئی اس کی قضا واجب ہے اگر چہ کہے کہ مجھے اس کا علم نہ تھا۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۵ ایسا مریض کہ اشارہ سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر یہ حالت پورے چھ وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں۔^(۶) (عالمگیری)

= بھائی جگانے والا موجود ہو یا الارم والی گھڑی ہو جس سے آنکھ کھل جاتی ہو مگر ایک عدد گھڑی پر بھروسہ نہ کیا جائے کہ نیند میں ہاتھ لگ جانے سے یا یوں ہی خراب ہو کر بند ہو جانے کا امکان رہتا ہے، دو یا حسب ضرورت زائد گھڑیاں ہوں تو بہتر ہے۔ فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى فرماتے ہیں، ”جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شریعیہ اُسے رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔“

① ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في تعريف الإعادة، ج ۲، ص ۶۳۳.

② ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت وما يتصل بها، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۵۲.

طلوع و غروب و زوال سے کیا مراد ہے، اس کا بیان باب الاوقات میں گزرا۔ ۱۲ منہ

③ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر في قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۱.

④ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في بطلان بالختامات و التهايل، ج ۲، ص ۶۴۷.

⑤ المرجع السابق.

⑥ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر في قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۱.

مسئلہ ۱۶ جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی ہی پڑھی جائے گی، مثلاً سفر میں نماز قضا ہوئی تو چار رکعت والی دو ہی پڑھی جائے گی اگرچہ اقامت کی حالت میں پڑھے اور حالت اقامت میں فوت ہوئی تو چار رکعت والی کی قضا چار رکعت ہے اگرچہ سفر میں پڑھے۔ البتہ قضا پڑھنے کے وقت کوئی عذر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، مثلاً جس وقت فوت ہوئی تھی اس وقت کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تھا اور اب قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر پڑھے یا اس وقت اشارہ ہی سے پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے اور صحت کے بعد اس کا اعادہ نہیں۔^(۱) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۷ لڑکی نماز عشا پڑھ کر یا بے پڑھے سوئی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ پہلا حیض آیا تو اس پر وہ عشا فرض نہیں اور اگر احتلام سے بالغ ہوئی تو اس کا حکم وہ ہے جو لڑکے کا ہے، پو پھٹنے^(۲) سے پہلے آنکھ کھلی تو اس وقت کی نماز فرض ہے اگرچہ پڑھ کر سوئی اور پو پھٹنے کے بعد آنکھ کھلی تو عشا کا اعادہ کرے اور عمر سے بالغ ہوئی یعنی اس کی عمر پورے پندرہ سال کی ہوگئی تو جس وقت پورے پندرہ سال کی ہوئی اس وقت کی نماز اس پر فرض ہے اگرچہ پہلے پڑھ چکی ہو۔^(۳) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۸ پانچوں فرضوں میں باہم اور فرض و وتر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشا پھر وتر پڑھے، خواہ یہ سب قضا ہوں یا بعض ادا بعض قضا، مثلاً ظہر کی قضا ہوگئی تو فرض ہے کہ اسے پڑھ کر عصر پڑھے یا وتر قضا ہو گیا تو اسے پڑھ کر فجر پڑھے اگر یاد ہوتے ہوئے عصر یا وتر کی پڑھ لی تو ناجائز ہے۔^(۴) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۹ اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وقتی اور قضائیں سب پڑھ لے تو وقتی اور قضا نمازوں میں جس کی گنجائش ہو پڑھے باقی میں ترتیب ساقط ہے، مثلاً نماز عشا و وتر قضا ہو گئے اور فجر کے وقت میں پانچ رکعت کی گنجائش ہے تو وتر و فجر پڑھے اور چھ رکعت کی وسعت ہے تو عشا و فجر پڑھے۔^(۵) (شرح وقایہ)

مسئلہ ۲۰ ترتیب کے لیے مطلق وقت کا اعتبار ہے، مستحب وقت ہونے کی ضرورت نہیں تو جس کی ظہر کی نماز قضا ہوگئی اور آفتاب زرد ہونے سے پہلے ظہر سے فارغ نہیں ہو سکتا مگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے دونوں پڑھ سکتا ہے تو ظہر پڑھے پھر عصر۔^(۶) (ردالمحتار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۱.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۵۰.

② یعنی صحیح صادق ہونے۔

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۱، وغیرہ.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۱، وغیرہ.

⑤ "شرح الوقایہ"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۲۱۷.

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب فی تعریف الإعادة، ج ۲، ص ۶۳۴.

مسئلہ ۲۱ - اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ مختصر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے اور عمدہ طریقہ سے پڑھے تو دونوں نمازوں کی گنجائش نہیں تو اس صورت میں بھی ترتیب فرض ہے اور بقدر جواز جہاں تک اختصار کر سکتا ہے کرے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ - وقت کی تنگی سے ترتیب ساقط ہونا اس وقت ہے کہ شروع کرتے وقت تنگ ہو، اگر شروع کرتے وقت گنجائش تھی اور یہ یاد تھا کہ اس وقت سے پیشتر کی نماز قضا ہوگئی ہے اور نماز میں طول دیا کہ اب وقت تنگ ہو گیا تو یہ نماز نہ ہوگی ہاں اگر توڑ کر پھر سے پڑھے تو ہو جائے گی اور اگر قضا نماز یاد نہ تھی اور وقتی نماز میں طول دیا کہ وقت تنگ ہو گیا اب یاد آئی تو ہوگئی قطع نہ کرے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ - وقت تنگ ہونے نہ ہونے میں اس کے گمان کا اعتبار نہیں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حقیقتاً وقت تنگ تھا یا نہیں مثلاً جس کی نماز عشا قضا ہوگئی اور فجر کا وقت تنگ ہونا گمان کر کے فجر کی پڑھ لی پھر یہ معلوم ہوا کہ وقت تنگ نہ تھا تو نماز فجر نہ ہوئی اب اگر دونوں کی گنجائش ہو تو عشا پڑھ کر پھر فجر پڑھے، ورنہ فجر پڑھ لے اگر دوبارہ پھر غلطی معلوم ہوئی تو وہی حکم ہے یعنی دونوں پڑھ سکتا ہے تو دونوں پڑھے ورنہ صرف فجر پڑھے اور اگر فجر کا اعادہ نہ کیا، عشا پڑھنے لگا اور بقدر تشہد بیٹھنے نہ پایا تھا کہ آفتاب نکل آیا تو فجر کی نماز جو پڑھی تھی ہوگئی۔ یوں اگر فجر کی نماز قضا ہوگئی اور ظہر کے وقت میں دونوں نمازوں کی گنجائش اس کے گمان میں نہیں ہے اور ظہر پڑھ لی پھر معلوم ہوا کہ گنجائش ہے تو ظہر نہ ہوئی، فجر پڑھ کر ظہر پڑھے یہاں تک کہ اگر فجر پڑھ کر ظہر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہے تو فجر پڑھ کر ظہر شروع کرے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ - جمعہ کے دن فجر کی نماز قضا ہوگئی اگر فجر پڑھ کر جمعہ میں شریک ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ پہلے فجر پڑھے اگر چہ خطبہ ہوتا ہو اور اگر جمعہ نہ ملے گا مگر ظہر کا وقت باقی رہے گا جب بھی فجر پڑھ کر ظہر پڑھے اور اگر ایسا ہے کہ فجر پڑھنے میں جمعہ بھی جاتا رہے گا اور جمعہ کے ساتھ وقت بھی ختم ہو جائے گا تو جمعہ پڑھ لے پھر فجر پڑھے اس صورت میں ترتیب ساقط ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ - اگر وقت کی تنگی کے سبب ترتیب ساقط ہوگئی اور وقتی نماز پڑھ رہا تھا کہ اثنائے نماز میں وقت ختم ہو گیا تو ترتیب عود نہ کرے گی یعنی وقتی نماز ہوگئی۔^(۵) (عالمگیری) مگر فجر و جمعہ میں کہ وقت نکل جانے سے یہ خود ہی نہیں ہوئیں۔

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۲.

②..... المرجع السابق.

③..... المرجع السابق.

④..... المرجع السابق.

⑤..... المرجع السابق، ص ۱۲۳.

مسئلہ ۲۶ - قضا نماز یاد نہ رہی اور وقتیہ پڑھ لی پڑھنے کے بعد یاد آئی تو وقتیہ ہو گئی اور پڑھنے میں یاد آئی تو گئی۔^(۱) (عامہ کتب)

مسئلہ ۲۷ - اپنے کو با وضو گمان کر کے ظہر پڑھی پھر وضو کر کے عصر پڑھی پھر معلوم ہوا کہ ظہر میں وضو نہ تھا تو عصر کی ہو گئی صرف ظہر کا اعادہ کرے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ - فجر کی نماز قضا ہو گئی اور یاد ہوتے ہوئے ظہر کی پڑھ لی پھر فجر کی پڑھی تو ظہر کی نہ ہوئی، عصر پڑھتے وقت ظہر کی یاد تھی مگر اپنے گمان میں ظہر کو جائز سمجھا تھا تو عصر کی ہو گئی غرض یہ ہے کہ فرضیت ترتیب سے جو ناواقف ہے اس کا حکم بھولنے والے کی مثل ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔^(۳) (در مختار)

مسئلہ ۲۹ - چھ نمازیں جس کی قضا ہو گئیں کہ چھٹی کا وقت ختم ہو گیا اس پر ترتیب فرض نہیں، اب اگرچہ با وجود وقت کی گنجائش اور یاد کے وقتی پڑھے گا ہو جائے گی خواہ وہ سب ایک ساتھ قضا ہوئیں مثلاً ایک دم سے چھ وقتوں کی نہ پڑھیں یا متفرق طور پر قضا ہوئیں مثلاً چھ دن فجر کی نماز نہ پڑھی اور باقی نمازیں پڑھتا رہا مگر ان کے پڑھتے وقت وہ قضا نہیں بھولا ہوا تھا خواہ وہ سب پرانی ہوں یا بعض نئی بعض پرانی مثلاً ایک مہینہ کی نماز نہ پڑھی پھر پڑھنی شروع کی پھر ایک وقت کی قضا ہو گئی تو اس کے بعد کی نماز ہو جائے گی اگرچہ اس کا قضا ہونا یاد ہو۔^(۴) (در مختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ - جب چھ نمازیں قضا ہونے کے سبب ترتیب ساقط ہو گئی تو ان میں سے اگر بعض پڑھ لی کہ چھ سے کم رہ گئیں تو وہ ترتیب عود نہ کرے گی یعنی ان میں سے اگر دو باقی ہوں تو باوجود یاد کے وقتی نماز ہو جائے گی البتہ اگر سب قضا نہیں پڑھ لیں تو اب پھر صاحب ترتیب ہو گیا کہ اب اگر کوئی نماز قضا ہوگی تو بشرائط سابق اسے پڑھ کر وقتی پڑھے ورنہ نہ ہوگی۔^(۵) (در مختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ - یوہیں اگر بھولنے یا تنگی وقت کے سبب ترتیب ساقط ہو گئی تو وہ بھی عود نہ کرے گی مثلاً بھول کر نماز پڑھ لی اب یاد آیا تو نماز کا اعادہ نہیں اگرچہ وقت میں بہت کچھ گنجائش ہو۔^(۶) (در مختار)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۲.

② المرجع السابق.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۳۹.

④ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب فی تعریف الإعادة، ج ۲، ص ۶۳۷.

⑤ المرجع السابق، ص ۶۴۰.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۴۰.

مسئلہ ۳۲ باوجود یاد اور گنجائش وقت کے وقتی نماز کی نسبت جو کہا گیا کہ نہ ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز موقوف ہے اگر وقتی پڑھتا گیا اور قضا رہنے دی تو جب دونوں مل کر چھ ہو جائیں گی یعنی چھٹی کا وقت ختم ہو جائے گا تو سب صحیح ہو گئیں اور اگر اس درمیان میں قضا پڑھ لی تو سب گئیں یعنی نفل ہو گئیں سب کو پھر سے پڑھے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۳ بعض نماز پڑھتے وقت قضا یاد تھی اور بعض میں یاد نہ رہی تو جن میں قضا یاد ہے ان میں پانچویں کا وقت ختم ہو جائے یعنی قضا سمیت چھٹی کا وقت ہو جائے تو اب سب ہو گئیں اور جن کے ادا کرتے وقت قضا کی یاد نہ تھی ان کا اعتبار نہیں۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۴ عورت کی ایک نماز قضا ہوئی اس کے بعد حیض آ گیا تو حیض سے پاک ہو کر پہلے قضا پڑھ لے پھر وقتی پڑھے، اگر قضا یاد ہوتے ہوئے وقتی پڑھے گی نہ ہوگی جب کہ وقت میں گنجائش ہو۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اگرچہ ان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے مگر بال بچوں کی خورد و نوش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے تو کاروبار بھی کرے اور جو وقت فرصت کا ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۳۶ قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انھیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضائیں پڑھے کہ بری الذمہ ہو جائے البتہ تراویح اور بارہ رکعتیں سنت مؤکدہ کی نہ چھوڑے۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۷ منت کی نماز میں کسی خاص وقت یا دن کی قید لگائی تو اسی وقت یا دن میں پڑھنی واجب ہے ورنہ قضا ہو جائے گی اور اگر وقت یا دن معین نہیں تو گنجائش ہے۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۳۸ کسی شخص کی ایک نماز قضا ہو گئی اور یہ یاد نہیں کہ کونسی نماز تھی تو ایک دن کی نمازیں پڑھے۔ یوہیں اگر

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۴۱.

② "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب فی تعریف الإعادة، ج ۲، ص ۶۴۲.

③ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۴.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۴۶.

⑤ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب فی بطلان الوصیة بالختمات و التہلیل، ج ۲، ص ۶۴۶.

خلیل ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی علیہ رحمۃ الرحمن "سنی بہشتی زیور" صفحہ 240 پر فرماتے ہیں: "اور لو لگائے رکھے کہ مولا عزوجل اپنے کرم خاص سے قضا نمازوں کے ضمن میں ان نوافل کا ثواب بھی اپنے خزان غیب سے عطا فرمادے، جن کے اوقات میں یہ قضا نمازیں پڑھی گئیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔

"سنی بہشتی زیور" نفل نمازوں کا بیان، ص ۲۴۰)

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب فی بطلان الوصیة... الخ، ج ۲، ص ۶۴۶.

دو نمازیں دو دن میں قضا ہوئیں تو دونوں دنوں کی سب نمازیں پڑھے۔ یوں تین دن کی تین نمازیں اور پانچ دن کی پانچ نمازیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ ایک دن عصر کی اور ایک دن ظہر کی قضا ہوگئی اور یہ یاد نہیں کہ پہلے دن کی کون نماز ہے تو جدھر طبیعت جے سے پہلی قرار دے اور کسی طرف دل نہیں جمتا تو جو چاہے پہلے پڑھے مگر دوسری پڑھنے کے بعد جو پہلے پڑھی ہے پھیرے اور بہتر یہ ہے کہ پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پھر ظہر کا اعادہ اور اگر پہلے عصر پڑھی پھر ظہر پھر عصر کا اعادہ کیا تو بھی حرج نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴۰ عصر کی نماز پڑھنے میں یاد آیا کہ نماز کا ایک سجدہ رہ گیا مگر یہ یاد نہیں کہ اسی نماز کا رہ گیا یا ظہر کا تو جدھر دل جے اس پر عمل کرے اور کسی طرف نہ جے تو عصر پوری کر کے آخر میں ایک سجدہ کر لے پھر ظہر کا اعادہ کرے پھر عصر کا اور اعادہ نہ کیا تو بھی حرج نہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴۱ جس کی نمازیں قضا ہو گئیں اور انتقال ہو گیا تو اگر وصیت کر گیا اور مال بھی چھوڑا تو اس کی تہائی سے ہر فرض و وتر کے بدلے نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جو تصدق کریں اور مال نہ چھوڑا اور ورثا فدیہ دینا چاہیں تو کچھ مال اپنے پاس سے یا قرض لے کر مسکین پر تصدق کر کے اس کے قبضہ میں دیں اور مسکین اپنی طرف سے اسے ہبہ کر دے⁽⁴⁾ اور یہ قبضہ بھی کر لے پھر یہ مسکین کو دے، یوں لوٹ پھیر کرتے رہیں یہاں تک کہ سب کا فدیہ ادا ہو جائے۔ اور اگر مال چھوڑا مگر وہ ناکافی ہے جب بھی یہی کریں اور اگر وصیت نہ کی اور ولی اپنی طرف سے بطور احسان فدیہ دینا چاہے تو دے اور اگر مال کی تہائی بقدر کافی ہے اور وصیت یہی کی کہ اس میں سے تھوڑا لے کر لوٹ پھیر کر کے فدیہ پورا کر لیں اور باقی کو ورثا یا اور کوئی لے لے تو گنہگار ہوا۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴۲ میت نے ولی کو اپنے بدلے نماز پڑھنے کی وصیت کی اور ولی نے پڑھ بھی لی تو یہ ناکافی ہے۔ یوں اگر مرض کی حالت میں نماز کا فدیہ دیا تو ادا نہ ہوا۔⁽⁶⁾ (درمختار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۴.

② المرجع السابق.

③ المرجع السابق.

④ یعنی تحفہ میں دیدے۔

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب فی إسقاط الصلاة عن الميت، ج ۲،

ص ۶۴۳ - ۶۴۴.

⑥ "تنویر الأبصار"، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ۲، ص ۶۴۵.

مسئلہ ۳۳ بعض ناواقف یوں فدیہ دیتے ہیں کہ نمازوں کے فدیہ کی قیمت لگا کر سب کے بدلے میں قرآن مجید دیتے ہیں اس طرح کل فدیہ ادا نہیں ہوتا یہ محض بے اصل بات ہے بلکہ صرف اتنا ہی ادا ہوگا جس قیمت کا مصحف شریف ہے۔

مسئلہ ۳۴ شافعی المذہب کی نماز قضا ہوئی اس کے بعد حنفی ہو گیا تو حنفیوں کے طور پر قضا پڑھے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات ہے اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے اور کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رکعتیں بھری پڑھے اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قعدہ کرے پھر ایک اور ملائے کہ چار ہو جائیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ قضائے عمری کہ شب قدر یا اخیر جمعہ رمضان میں جماعت سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھری قضا میں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں، یہ باطل محض ہے۔

سجدہ سہو کا بیان

حدیث ۱ حدیث میں ہے: ”ایک بار حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔“^(۳) اس حدیث کو ترمذی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مسئلہ ۱ واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات کے بعد دہنی طرف سلام پھیر کر دو سجدے کرے پھر تشهد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔^(۴) (عامہ کتب)

مسئلہ ۲ اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے کافی ہیں مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔^(۵) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳ قصد واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان دفع نہ ہوگا بلکہ اعادہ واجب ہے۔ یو ہیں اگر سہو واجب ترک ہو اور سجدہ سہو نہ کیا جب بھی اعادہ واجب ہے۔^(۶) (درمختار وغیرہ)

① ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، ج ۱، ص ۱۲۴.

② المرجع السابق.

③ ”سنن الترمذی“، ابواب الصلاة، باب ماجاء فی الامام ینھض فی الرکعتین ناسیاء الحدیث ۳۶۵، ج ۱ ص ۳۸۰.

④ ”شرح الوقایة“، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۱، ص ۲۲۰.

و ”الدرالمختار“ و ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۱، ۶۵۵.

⑤ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۵.

و ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۳.

⑥ ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۵، وغیرہ.

مسئلہ ۴ کوئی ایسا واجب ترک ہو جو واجباتِ نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں مثلاً خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا ترک واجب ہے مگر موافق ترتیب پڑھنا واجباتِ تلاوت سے ہے واجباتِ نماز سے نہیں لہذا سجدہ سہو نہیں۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی لہذا پھر پڑھے اور سنن و مستحبات مثلاً تعوذ، تسمیہ، ثنا، آمین، تکبیراتِ انتقالات، تسبیحات کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی۔^(۲) (ردالمحتار، غنیہ) مگر اعادہ مستحب ہے سہو ترک کیا ہو یا قصداً۔

مسئلہ ۶ سجدہ سہو اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو اور اگر نہ ہو مثلاً نماز فجر میں سہو واقع ہو اور پہلا سلام پھیرا اور سجدہ ابھی نہ کیا کہ آفتاب طلوع کر آیا تو سجدہ سہو ساقط ہو گیا۔ یوں اگر قضا پڑھتا تھا اور سجدہ سے پہلے قرص آفتاب زرد ہو گیا سجدہ ساقط ہو گیا۔ جمعہ یا عید کا وقت جاتا رہے گا جب بھی یہی حکم ہے۔^(۳) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ جو چیز مانع بنا ہے، مثلاً کلام وغیرہ منافی نماز، اگر سلام کے بعد پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا۔^(۴) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ سجدہ سہو کا ساقط ہونا اگر اس کے فعل سے ہے تو اعادہ واجب ہے ورنہ نہیں۔^(۵) (ردالمحتار)

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۵۵.

② "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۵۵.

و "غنیة المتعملي"، فصل في سجود السهو، ص ۴۵۵.

③ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السهو، ج ۱، ص ۱۲۵.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۵۴.

④ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السهو، ج ۱، ص ۱۲۵.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۵۴.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۵۴.

یہ علامہ شامی کی بحث ہے اور اعلیٰ حضرت قبلہ مدظلہم الاقدس نے حاشیہ ردالمحتار میں یہ ثابت کیا کہ بہر حال اعادہ ہے۔ "وہذا نصہ و الذی ینظہر لی لزوم الاعادة مطلقاً لان الصلوة وقعت ناقصة وقد وجب علیہ اکمالها و كانت الیہ سیلان متصل بالسجود و متراخ بالاعادة فان عجز عن احدهما ولو بلا صنعه فلم یعجز عن الاخری و سیائر العلامة المحشی عن النہر ان المقتدی اذا سہاد ون امامہ فانه لا یسجد و مقتضی کلامہم ان یعید لتمکن الکراہة مع تعذر الجاہر اھ فان هذا التعذر ایضاً بغير صنعه وقد اقرہ المحشی وهو وان کان ثمہ سہوا من النہر و المحشی کما سیاتی هنا لکن لاشک انه مقتضی کلامہم هنا." ۱۲

مسئلہ ۹ فرض و نفل دونوں کا ایک حکم ہے یعنی نوافل میں بھی واجب ترک ہونے سے سجدہ سہو واجب ہے۔ (1)
(عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ نفل کی دو رکعتیں پڑھیں اور ان میں سہو ہوا پھر اسی پر بنا کر کے دو رکعتیں اور پڑھیں تو سجدہ سہو کرے اور فرض میں سہو ہوا تھا اور اس پر قصد نفل کی بنا کی تو سجدہ سہو نہیں بلکہ فرض کا اعادہ کرے اور اگر اس فرض کے ساتھ سہو نفل ملایا ہو مثلاً چار رکعت پر قعدہ کر کے کھڑا ہو گیا اور پانچویں کا سجدہ کر لیا تو ایک رکعت اور ملائے کہ یہ دو نفل ہو جائیں اور ان میں سجدہ سہو کرے۔ (2) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ سجدہ سہو کے بعد بھی التحیات پڑھنا واجب ہے التحیات پڑھ کر سلام پھیرے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں درود شریف بھی پڑھے۔ (3) (عالمگیری) اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدہ میں التحیات و درود پڑھے اور دوسرے میں صرف التحیات۔

مسئلہ ۱۲ سجدہ سہو سے وہ پہلا قعدہ باطل نہ ہوا مگر پھر قعدہ کرنا واجب ہے اور اگر نماز کا کوئی سجدہ باقی رہ گیا تھا قعدہ کے بعد اس کو کیا یا سجدہ تلاوت کیا تو وہ قعدہ جاتا رہا۔ اب پھر قعدہ فرض ہے کہ بغیر قعدہ نماز ختم کر دی تو نہ ہوئی اور پہلی صورت میں ہو جائے گی مگر واجب الاعادہ۔ (4) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۳ ایک نماز میں چند واجب ترک ہوئے تو وہی دو سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ (5) (ردالمختار وغیرہ)
واجبات نماز کا مفصل بیان پیشتر ہو چکا ہے، مگر تفصیل احکام کے لیے اعادہ بہتر، واجب کی تاخیر رکن کی تقدیم یا تاخیر یا اس کو مکرر کرنا یا واجب میں تغیر یہ سب بھی ترک واجب ہیں۔

مسئلہ ۱۴ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور نفل و وتر کی کسی رکعت میں سورہ الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی یا سورت سے پیشتر دوبار الحمد پڑھی یا سورت ملانا بھول گیا یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا یا الحمد کے بعد ایک یا دو چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا پھر یاد آیا اور لوٹا اور تین آیتیں پڑھ کر رکوع کیا تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ (6) (درمختار، عالمگیری)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۶.

② "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۴.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۵.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۳، وغیرہ.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۵، وغیرہ.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۶.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۶.

مسئلہ ۱۵ الحمد کے بعد سورت پڑھی اس کے بعد پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ یوں فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کی تکرار سے مطلقاً سجدہ سہو واجب نہیں اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا۔ پھر اعادہ کیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی اور بقدر ایک آیت کے پڑھ لی اب یاد آیا تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ واجب ہے۔ یوں اگر سورت کے پڑھنے کے بعد یا رکوع میں یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور رکوع کا اعادہ کرے اور سجدہ سہو کرے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملائی تو سجدہ سہو نہیں اور قصداً ملائی جب بھی حرج نہیں مگر امام کو نہ چاہیے یوں اگر پچھلی میں الحمد نہ پڑھی جب بھی سجدہ سہو نہیں اور رکوع وجود و قعدہ میں قرآن پڑھا تو سجدہ واجب ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کرنا بھول گیا تو سجدہ تلاوت ادا کرے اور سجدہ سہو کرے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ جو فعل نماز میں مکرر ہیں ان میں ترتیب واجب ہے لہذا خلاف ترتیب فعل واقع ہو تو سجدہ سہو کرے مثلاً قراءت سے پہلے رکوع کر دیا اور رکوع کے بعد قراءت نہ کی تو نماز فاسد ہو گئی کہ فرض ترک ہو گیا اور اگر رکوع کے بعد قراءت تو کی مگر پھر رکوع نہ کیا تو فاسد ہو گئی کہ قراءت کی وجہ سے رکوع جاتا رہا اور اگر بقدر فرض قراءت کر کے رکوع کیا مگر واجب قراءت ادا نہ ہو مثلاً الحمد نہ پڑھی یا سورت نہ ملائی تو حکم یہی ہے کہ لوٹے اور الحمد و سورت پڑھ کر رکوع کرے اور سجدہ سہو کرے اور اگر دوبارہ رکوع نہ کیا تو نماز جاتی رہی کہ پہلا رکوع جاتا رہا تھا۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ کسی رکعت کا کوئی سجدہ رہ گیا آخر میں یاد آیا تو سجدہ کر لے پھر التحیات پڑھ کر سجدہ سہو کرے اور سجدہ کے پہلے جو افعال نماز ادا کیے باطل نہ ہوں گے، ہاں اگر قعدہ کے بعد وہ نماز والا سجدہ کیا تو صرف وہ قعدہ جاتا رہا۔^(۶) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۱ تعدیل ارکان^(۷) بھول گیا سجدہ سہو واجب ہے۔^(۸) (عالمگیری)

۱ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۶۔

۲ المرجع السابق۔

۳ المرجع السابق۔

۴ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۵۔

۵ "الدرالمختار"، و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۷۔

۶ یعنی رکوع، سجود، قوم اور جلسہ میں کم از کم ایک بار "سُبْحَانَ اللَّهِ" کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔

۷ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۷۔

مسئلہ ۲۲ فرض میں قعدہ اولیٰ بھول گیا تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو، لوٹ آئے اور سجدہ سہو نہیں اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کرے اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر لوٹا تو سجدہ سہو کرے اور صحیح مذہب میں نماز ہو جائے گی مگر گنہگار ہو لہذا حکم ہے کہ اگر لوٹے تو فوراً کھڑا ہو جائے۔^(۱) (درمختار، غنیہ)

مسئلہ ۲۳ اگر مقتدی بھول کر کھڑا ہو گیا تو ضرور ہے کہ لوٹ کر آوے، تاکہ امام کی مخالفت نہ ہو۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۲۴ قعدہ اخیرہ بھول گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے اور اگر قعدہ اخیرہ میں بیٹھا تھا، مگر بقدر تشہد نہ ہوا تھا کہ کھڑا ہو گیا تو لوٹ آئے اور وہ جو پہلے کچھ دیر تک بیٹھا تھا محسوب ہوگا یعنی لوٹنے کے بعد جتنی دیر تک بیٹھا ہے اور پہلے کا قعدہ دونوں مل کر اگر بقدر تشہد ہو گئے فرض ادا ہو گیا مگر سجدہ سہو اس صورت میں بھی واجب ہے اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدہ سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا لہذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے اور نمازوں میں ایک رکعت اور ملائے کہ شفع پورا ہو جائے اور طاق رکعت نہ رہے اگر چہ وہ نماز فجر یا عصر ہو مغرب میں اور نہ ملائے کہ چار پوری ہو گئیں۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۵ نفل کا ہر قعدہ قعدہ اخیرہ ہے یعنی فرض ہے اگر قعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے اور واجب نماز مثلاً وتر فرض کے حکم میں ہے، لہذا وتر کا قعدہ اولیٰ بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قعدہ اولیٰ بھول جانے کا ہے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۲۶ اگر بقدر تشہد قعدہ اخیرہ کر چکا ہے اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے اور اگر قیام ہی کی حالت میں سلام پھیر دیا تو بھی نماز ہو جائے گی مگر سنت ترک ہوئی اور اس صورت میں اگر امام کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں اگر لوٹ آیا ساتھ ہو لیں اور نہ لوٹا اور سجدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر دیں اور امام ایک رکعت اور ملائے کہ یہ دو نفل ہو جائیں اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے اور یہ دو رکعتیں سنت ظہر یا عشا کے قائم مقام نہ ہوں گی اور اگر ان دو رکعتوں میں کسی نے امام کی اقتدا کی یعنی اب شامل ہوا تو یہ مقتدی بھی چھ پڑھے اور اگر اس نے توڑ دی تو دو رکعت کی قضا پڑھے اور اگر امام چوتھی پر نہ بیٹھا تھا تو یہ مقتدی چھ رکعت کی قضا پڑھے۔ اور اگر امام نے ان رکعتوں کو فاسد کر دیا تو اس پر مطلقاً قضا نہیں۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۶۱.

② "الدرالمختار"، المرجع السابق، ص ۶۶۳.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۶۴.

④ "الدرالمختار"، المرجع السابق، ص ۶۶۱.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۶۷، ۶۶۹.

مسئلہ ۲۷ چوتھی پر قعدہ کر کے کھڑا ہو گیا اور کسی فرض پڑھنے والے نے اس کی اقتدا کی تو اقتدا صحیح نہیں اگرچہ لوٹ آیا اور قعدہ نہ کیا تھا تو جب تک پانچویں کا سجدہ نہ کیا اقتدا کر سکتا ہے کہ ابھی تک فرض ہی میں ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ دو رکعت کی نیت تھی اور ان میں سہو ہوا اور دوسری کے قعدہ میں سجدہ سہو کر لیا تو اس پر نفل کی بنا مکروہ تحریمی ہے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۲۹ مسافر نے سجدہ سہو کے بعد اقامت کی نیت کی تو چار پڑھنا فرض ہے اور آخر میں سجدہ سہو کا اعادہ کرے۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۳۰ قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ تو سجدہ سہو واجب ہے اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری کے قیام میں تاخیر ہوئی تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے جیسے قعدہ و رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہے، حالانکہ وہ کلام الہی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ”درود پڑھنے والے پر تم نے کیوں سجدہ واجب بتایا؟“ عرض کی، اس لیے کہ اس نے بھول کر پڑھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے تحسین فرمائی۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۳۱ کسی قعدہ میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ گیا، سجدہ سہو واجب ہے، نماز نفل ہو یا فرض۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ پہلی دو رکعتوں کے قیام میں الحمد کے بعد تشہد پڑھا سجدہ سہو واجب ہے اور الحمد سے پہلے پڑھا تو نہیں۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ پچھلی رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو سجدہ واجب نہ ہو اور اگر قعدہ اولیٰ میں چند بار تشہد پڑھا سجدہ واجب ہو گیا۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ تشہد پڑھنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا پھر یاد آیا تو لوٹ آئے تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ یوہیں اگر

① ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۶۹.

② ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۷۰.

③ المرجع السابق.

④ ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۷، وغیرہما.

⑤ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۷.

⑥ المرجع السابق.

⑦ المرجع السابق.

تہجد کی جگہ الحمد پڑھی سجدہ واجب ہو گیا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ رکوع کی جگہ سجدہ کیا یا سجدہ کی جگہ رکوع یا کسی ایسے رکن کو دوبارہ کیا جو نماز میں مکرر مشروع نہ تھا یا کسی رکن

کو مقدم یا مؤخر کیا تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ قنوت یا تکبیر قنوت یعنی قراءت کے بعد قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے بھول گیا سجدہ سہو کرے۔⁽³⁾

(عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ عیدین کی سب تکبیریں یا بعض بھول گیا یا زائد کہیں یا غیر محل میں کہیں ان سب صورتوں میں سجدہ سہو

واجب ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ امام تکبیرات عیدین بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو لوٹ آئے اور مسبوق رکوع میں شامل ہوا تو رکوع

ہی میں تکبیریں کہہ لے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری) عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے اور پہلی رکعت

کی تکبیر رکوع بھولا تو نہیں۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ جمعہ و عیدین میں سہو واقع ہوا اور جماعت کثیر ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۴۰ امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز یعنی ایک آیت آہستہ پڑھی یا سری میں جہر سے تو سجدہ سہو واجب

ہے اور ایک کلمہ آہستہ یا جہر سے پڑھا تو معاف ہے۔⁽⁸⁾ (عالمگیری، ردالمحتار، غنیہ)

مسئلہ ۴۱ منفرد نے سری نماز میں جہر سے پڑھا تو سجدہ واجب ہے اور جہری میں آہستہ تو نہیں۔⁽⁹⁾ (ردالمحتار)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۷.

② المرجع السابق.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۸.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۸.

⑤ المرجع السابق.

⑥ المرجع السابق.

⑦ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۸.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۷۵.

⑧ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۸.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۷.

⑨ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۷.

مسئلہ ۳۲ - ثناؤ دعا و تشہد بلند آواز سے پڑھا تو خلاف سنت ہو اگر سجدہ سہو واجب نہیں۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۳ - قراءت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا کہ بقدر ایک رکن یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ ہو سجدہ سہو واجب ہے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۴ - امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ واجب ہے اگرچہ مقتدی سہو واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا اور اگر امام سے سجدہ ساقط ہو گیا تو مقتدی سے بھی ساقط پھر اگر امام سے ساقط ہونا اس کے کسی فعل کے سبب ہو تو مقتدی پر بھی نماز کا اعادہ واجب ورنہ معاف۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۵ - اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقع ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔^(۴) (عامہ کتب)

مسئلہ ۳۶ - مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے سہو ہوا اور اگر امام کے ساتھ سجدہ نہ کیا اور ماہی پڑھنے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے اور اگر اس مسبوق سے اپنی نماز میں بھی سہو ہوا تو آخر کے یہی سجدے اس سہو امام کے لیے بھی کافی ہیں۔^(۵) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۷ - مسبوق نے اپنی نماز بچانے کے لیے امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کیا یعنی جانتا ہے کہ اگر سجدہ کرے گا تو نماز جاتی رہے گی مثلاً نماز فجر میں آفتاب طلوع ہو جائے گا یا مجتہد میں وقت عصر آجائے گا یا معذور ہے اور وقت ختم ہو جائے گا یا موزہ پر مسح کی مدت گزر جائے گی تو ان صورتوں میں امام کے ساتھ سجدہ نہ کرنے میں کراہت نہیں۔ بلکہ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو جائے۔^(۶) (غنیہ)

مسئلہ ۳۸ - مسبوق نے امام کے سہو میں امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا پھر جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوا اور اس میں بھی سہو ہوا تو اس میں بھی سجدہ سہو کرے۔^(۷) (درمختار وغیرہ)

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۸.

② المرجع السابق، ص ۶۷۷.

③ المرجع السابق، ص ۶۵۸.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۸.

اور اعادہ بھی اس کے ذمہ نہیں کما حقناہ فی فتاونا ۱۲-۱۱

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۸.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۹.

⑥ "غنیۃ المتملی"، فصل فی سجود السہو، ص ۴۶۶.

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۵۹، وغیرہ.

مسئلہ ۴۹ مسبوق کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں اگر قصداً پھیرے گا نماز جاتی رہے گی اور اگر سہواً پھیرا اور سلام امام کے ساتھ معاً بلا وقفہ تھا تو اس پر سجدہ سہو نہیں اور اگر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے اپنی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔^(۱) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۵۰ امام کے ایک سجدہ کرنے کے بعد شریک ہو تو دوسرا سجدہ امام کے ساتھ کرے اور پہلے کی قضا نہیں اور اگر دونوں سجدوں کے بعد شریک ہو تو امام کے سہو کا اس کے ذمہ کوئی سجدہ نہیں۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۱ امام نے سلام پھیر دیا اور مسبوق اپنی پوری کرنے کھڑا ہوا اب امام نے سجدہ سہو کیا تو جب تک مسبوق نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور امام کے ساتھ سجدہ کرے جب امام سلام پھیرے تو اب اپنی پڑھے اور پہلے جو قیام و قراءت و رکوع کر چکا ہے اس کا شمار نہ ہوگا بلکہ اب پھر سے وہ افعال کرے اور اگر نہ لوٹا اور اپنی پڑھ لی تو آخر میں سجدہ سہو کرے اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو نہ لوٹے، لوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۲ امام کے سہو سے لاحق پر بھی سجدہ سہو واجب ہے مگر لاحق اپنی آخر نماز میں سجدہ سہو کرے گا اور امام کے ساتھ اگر سجدہ کیا تو آخر میں اعادہ کرے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۵۳ اگر تین رکعت میں مسبوق ہو اور ایک رکعت میں لاحق تو ایک رکعت بلا قراءت پڑھ کر بیٹھے اور تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کرے پھر ایک رکعت بھری پڑھ کر بیٹھے کہ یہ اس کی دوسری رکعت ہے پھر ایک بھری اور ایک خالی پڑھ کر سلام پھیر دے اور اگر ایک میں مسبوق ہے اور تین میں لاحق تو تین پڑھ کر سجدہ سہو کرے پھر ایک بھری پڑھ کر سلام پھیر دے۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۴ مقیم نے مسافر کی اقتدا کی اور امام سے سہو ہوا تو امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے پھر اپنی دو پڑھے اور ان میں بھی سہو ہوا تو آخر میں پھر سجدہ کرے۔^(۶) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۵ امام سے صلاة الخوف میں (جس کا بیان اور طریقہ ان شاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوگا) سہو ہوا تو امام کے ساتھ

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۵۹، وغیرہ .

و "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۷، ص ۲۳۸ .

② "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۵۹ .

③ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السهو، ج ۱، ص ۱۲۸ .

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۶۰ .

⑤ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۲، ص ۶۶۰ .

⑥ المرجع السابق .

دوسرا گروہ سجدہ سہو کرے اور پہلا گروہ اس وقت کرے جب اپنی نماز ختم کر چکے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۶ امام کو حدث ہوا اور پیشتر سہو بھی واقع ہو چکا ہے اور اس نے خلیفہ بنایا تو خلیفہ سجدہ سہو کرے اور اگر خلیفہ کو بھی حالتِ خلافت میں سہو ہوا تو وہی سجدے کافی ہیں اور اگر امام سے تو سہو نہ ہوا مگر خلیفہ سے اس حالت میں سہو ہوا تو امام پر بھی سجدہ سہو واجب ہے اور اگر خلیفہ کا سہو خلافت سے پہلے ہو تو سجدہ واجب نہیں نہ اس پر نہ امام پر۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۷ جس پر سجدہ سہو واجب ہے اگر سہو ہونا یاد نہ تھا اور بہ نیت قطع سلام پھیر دیا تو ابھی نماز سے باہر نہ ہوا بشرطیکہ سجدہ سہو کر لے، لہذا جب تک کلام یا حدث عمد، یا مسجد سے خروج یا اور کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو اسے حکم ہے کہ سجدہ کر لے اور اگر سلام کے بعد سجدہ سہو نہ کیا تو سلام پھیرنے کے وقت سے نماز سے باہر ہو گیا، لہذا سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی نے اقتدا کی اور امام نے سجدہ سہو کر لیا تو اقتدا صحیح ہے اور سجدہ نہ کیا تو صحیح نہیں اور اگر یاد تھا کہ سہو ہوا ہے اور بہ نیت قطع سلام پھیر دیا تو سلام پھیرتے ہی نماز سے باہر گیا اور سجدہ سہو نہیں کر سکتا، اعادہ کرے اور اگر اس نے غلطی سے سجدہ کیا اور اس میں کوئی شریک ہو تو اقتدا صحیح نہیں۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵۸ سجدہ تلاوت باقی تھا یا قعدہ اخیرہ میں تشہد نہ پڑھا تھا مگر بقدر تشہد بیٹھ چکا تھا اور یہ یاد ہے کہ سجدہ تلاوت یا تشہد باقی ہے مگر قصد سلام پھیر دیا تو سجدہ ساقط ہو گیا اور نماز سے باہر ہو گیا، نماز فاسد نہ ہوئی کہ تمام ارکان ادا کر چکا ہے مگر بوجہ ترک واجب مکروہ تحریمی ہوئی۔ یوں اگر اس کے ذمہ سجدہ سہو و سجدہ تلاوت ہیں اور دونوں یاد ہیں یا صرف سجدہ تلاوت یاد ہے اور قصد سلام پھیر دیا تو دونوں ساقط ہو گئے اگر سجدہ نماز و سجدہ سہو دونوں باقی تھے یا صرف سجدہ نماز رہ گیا تھا اور سجدہ نماز یاد ہوتے ہوئے سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی اور اگر سجدہ نماز و سجدہ تلاوت باقی تھے اور سلام پھیرتے وقت دونوں یاد تھے یا ایک جب بھی نماز فاسد ہو گئی۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۹ سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت باقی تھا یا سجدہ سہو کرنا تھا اور بھول کر سلام پھیرا تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا کر لے اور میدان میں ہو تو جب تک صفوں سے متجاوز نہ ہو یا آگے کو سجدہ کی جگہ سے نہ گزرا کر لے۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶۰ رکوع میں یاد آیا کہ نماز کا کوئی سجدہ رہ گیا ہے اور وہیں سے سجدہ کو چلا گیا یا سجدہ میں یاد آیا اور سر اٹھا کر وہ

۱..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۸.

۲..... المرجع السابق، ص ۱۳۰.

۳..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۷۳.

۴..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۷۳.

۵..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۷۴.

سجدہ کر لیا تو بہتر یہ ہے کہ اس رکوع و سجود کا اعادہ کرے اور سجدہ سہو کرے اور اگر اس وقت نہ کیا بلکہ آخر نماز میں کیا تو اس رکوع و سجود کا اعادہ نہیں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶۱ ظہر کی نماز پڑھتا تھا اور یہ خیال کر کے کہ چار پوری ہو گئیں دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو چار پوری کر لے اور سجدہ سہو کرے اور اگر یہ گمان کیا کہ مجھ پر دو ہی رکعتیں ہیں، مثلاً اپنے کو مسافر تصور کیا یا یہ گمان ہوا کہ نماز جمعہ ہے یا نیا مسلمان ہے سمجھا کہ ظہر کے فرض دو ہی ہیں یا نماز عشا کو تراویح تصور کیا تو نماز جاتی رہی۔ یوہیں اگر کوئی رکن فوت ہو گیا اور یاد ہوتے ہوئے سلام پھیر دیا، تو نماز گئی۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶۲ جس کو شمار رکعت میں شک ہو، مثلاً تین ہوئیں یا چار اور بلوغ کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے تو سلام پھیر کر یا کوئی عمل منافی نماز کر کے توڑ دے یا غالب گمان کے بموجب پڑھ لے مگر بہر صورت اس نماز کو سرے سے پڑھے محض توڑنے کی نیت کافی نہیں اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ پیشتر بھی ہو چکا ہے تو اگر غالب گمان کسی طرف ہو تو اس پر عمل کرے ورنہ کم کی جانب کو اختیار کرے یعنی تین اور چار میں شک ہو تو تین قرار دے، دو اور تین میں شک ہو تو دو، و علیٰ ہذا القیاس اور تیسری چوتھی دونوں میں قعدہ کرے کہ تیسری رکعت کا چوتھی ہونا محتمل ہے اور چوتھی میں قعدہ کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے اور گمان غالب کی صورت میں سجدہ سہو نہیں مگر جبکہ سوچنے میں بقدر ایک رکن کے وقفہ کیا ہو تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔⁽³⁾ (ہدایہ وغیرہا)

مسئلہ ۶۳ نماز پوری کرنے کے بعد شک ہوا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اور اگر نماز کے بعد یقین ہے کہ کوئی فرض رہ گیا مگر اس میں شک ہے کہ وہ کیا ہے تو پھر سے پڑھنا فرض ہے۔⁽⁴⁾ (فتح، رد المحتار)

مسئلہ ۶۴ ظہر پڑھنے کے بعد ایک عادل شخص نے خبر دی کہ تین رکعتیں پڑھیں تو اعادہ کرے اگر چہ اس کے خیال میں یہ خبر غلط ہو اور اگر کہنے والا عادل نہ ہو تو اس کی خبر کا اعتبار نہیں اور اگر مصلیٰ کو شک ہو اور دو عادل نے خبر دی تو ان کی خبر پر عمل کرنا ضروری ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۶۵ اگر تعداد رکعات میں شک نہ ہو مگر خود اس نماز کی نسبت شک ہے مثلاً ظہر کی دوسری رکعت میں شک ہوا

- ① "الدرالمختار و رد المختار"، کتاب الصلاة، المسائل الاثنا عشریة، ج ۲، ص ۴۴۴.
- ② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۷۴.
- ③ "الہدایة"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۱، ص ۷۶، وغیرہا.
- ④ "فتح القدير"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۱، ص ۴۵۲.
- و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۷۵.
- ⑤ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۳۱، وغیرہ.

کہ یہ عصر کی نماز پڑھتا ہوں اور تیسری میں نفل کا شبہ ہوا اور چوتھی میں ظہر کا تو ظہر ہی ہے۔ (1) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶۶ تشہد کے بعد یہ شک ہوا کہ تین ہوئیں یا چار اور ایک رکن کی قدر خاموش رہا اور سوچتا رہا، پھر یقین ہوا کہ

چار ہو گئیں تو سجدہ سہو واجب ہے اور اگر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ایسا ہوا تو کچھ نہیں اور اگر اسے حدیث ہو اور وضو کرنے

گیا تھا کہ شک واقع ہوا اور سوچنے میں وضو سے کچھ دیر تک رُک رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۷ یہ شک واقع ہوا کہ اس وقت کی نماز پڑھی یا نہیں، اگر وقت باقی ہے اعادہ کرے ورنہ نہیں۔ (3)

(عالمگیری)

مسئلہ ۶۸ شک کی سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے اور غلبہِ رُکن میں نہیں مگر جب کہ سوچنے میں ایک رُکن کا

وقفہ ہو گیا تو واجب ہو گیا۔ (4) (درمختار)

مسئلہ ۶۹ بے وضو ہونے یا مسح نہ کرنے کا یقین ہو اور اسی حالت میں ایک رُکن ادا کر لیا تو سرے سے نماز پڑھے

اگرچہ پھر یقین ہوا کہ وضو تھا اور مسح کیا تھا۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۷۰ نماز میں شک ہوا کہ مقیم ہے یا مسافر تو چار پڑھے اور دوسری کے بعد قعدہ ضروری ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۷۱ وتر میں شک ہوا کہ دوسری ہے یا تیسری تو اس میں قنوت پڑھ کر قعدہ کے بعد ایک رکعت اور پڑھے اور

اس میں بھی قنوت پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ (7) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۷۲ امام نماز پڑھا رہا ہے دوسری میں شک ہوا کہ پہلی ہے یا دوسری یا چوتھی اور تیسری میں شک ہوا اور

مقتدیوں کی طرف نظر کی کہ وہ کھڑے ہوں تو کھڑا ہو جاؤں بیٹھیں تو بیٹھ جاؤں تو اس میں حرج نہیں اور سجدہ سہو واجب نہ

ہوا۔ (8) (عالمگیری)

1 "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۷۶.

2 "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۲۸.

3 "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۳۰.

4 "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۲، ص ۶۷۸.

5 "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ج ۱، ص ۱۳۱.

6 المرجع السابق.

7 المرجع السابق، وغیرہ.

8 المرجع السابق.

نماز مریض کا بیان

حدیث ۱ - حدیث میں ہے، عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، فرمایا: ”کھڑے ہو کر پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی کہ اس کی وسعت ہو۔“ (1) اس حدیث کو مسلم کے سوا جماعت محدثین نے روایت کیا۔

حدیث ۲ - بزار مسند میں اور بیہقی معرفۃ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے، دیکھا کہ تکیہ پر نماز پڑھتا ہے یعنی سجدہ کرتا ہے اسے پھینک دیا، اس نے ایک لکڑی لی کہ اس پر نماز پڑھے، اسے بھی لے کر پھینک دیا اور فرمایا: زمین پر نماز پڑھے اگر استطاعت ہو، ورنہ اشارہ کرے اور سجدہ کو رکوع سے پست کرے۔ (2)

مسئلہ ۱ - جو شخص بوجہ بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا چکر آتا ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے قطرہ آئے گا یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ (3) (درمختار) اس کے متعلق بہت سے مسائل فرائض نماز میں مذکور ہوئے۔

مسئلہ ۲ - اگر اپنے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا مگر لڑکا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں ہے کہ ہٹھادے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے اور اگر بیٹھا نہیں رہ سکتا تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھے اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہو تو لیٹ کر نماز نہ ہوگی۔ (4) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - بیٹھ کر پڑھنے میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں بلکہ مریض پر جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھے۔ ہاں دوزانو بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو دوزانو بہتر ہے ورنہ جو آسان ہو اختیار کرے۔ (5) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۴ - نفل نماز میں تھک گیا تو دیوار یا عصا پر ٹیک لگانے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے اور بیٹھ کر پڑھنے میں

① "نصب الرایۃ" للزیلعی، کتاب الصلاة، باب صلاة المریض، ج ۲، ص ۱۷۷-۱۷۸.

② "معرفة السنن والآثار" للبیہقی، کتاب الصلاة، باب صلاة المریض، الحدیث: ۱۰۸۳، ج ۲، ص ۱۴۰.

③ "تنویر الأبصار" و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المریض، ج ۲، ص ۶۸۱.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الرابع عشر فی صلاة المریض، ج ۱، ص ۱۳۶.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المریض، ج ۲، ص ۶۸۲.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الرابع عشر فی صلاة المریض، ج ۱، ص ۱۳۶، وغیرہ.

کچھ حرج نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵ چار رکعت والی نماز بیٹھ کر پڑھی، قعدہ اخیرہ کے موقع پر تشہد پڑھنے سے پہلے قراءت شروع کر دی اور رکوع بھی کیا تو اس کا وہی حکم ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھنے والا چوتھی کے بعد کھڑا ہو جاتا، لہذا اس نے جب تک پانچویں کا سجدہ نہ کیا ہو تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے اور پانچویں کا سجدہ کر لیا تو نماز جاتی رہی۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ بیٹھ کر پڑھنے والا دوسری کے سجدہ سے اٹھا اور قیام کی نیت کی مگر قراءت سے پہلے یاد آ گیا تو تشہد پڑھے اور نماز ہو گئی اور سجدہ سہو بھی نہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ مریض نے بیٹھ کر نماز پڑھی چوتھی کے سجدہ سے اٹھا تو یہ گمان کر کے کہ تیسری ہے قراءت کی اور اشارہ سے رکوع و سجود کیا نماز جاتی رہی اور دوسری کے سجدہ کے بعد یہ گمان کر کے کہ دوسری ہے قراءت شروع کی پھر یاد آیا تو تشہد کی طرف عود نہ کرے بلکہ پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع و سجود نہیں کر سکتا یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا مثلاً حلق وغیرہ میں پھوڑا ہے کہ سجدہ کرنے سے بے گاتو بھی بیٹھ کر اشارہ سے پڑھ سکتا ہے بلکہ یہی بہتر ہے اور اس صورت میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع کے لیے اشارہ کرے یا رکوع پر قادر ہو تو رکوع کرے پھر بیٹھ کر سجدہ کے لیے اشارہ کرے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ اشارہ کی صورت میں سجدہ کا اشارہ رکوع سے پست ہونا ضروری ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ سر کو بالکل زمین سے قریب کر دے سجدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ خود اسی نے وہ چیز اٹھائی ہو یا دوسرے نے۔⁽⁶⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۰ اگر کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کیا اور سجدہ میں بہ نسبت رکوع کے زیادہ سر جھکا یا، جب بھی سجدہ ہو گیا مگر گنہگار ہوا اور سجدہ کے لیے زیادہ سر نہ جھکایا تو ہوا ہی نہیں۔⁽⁷⁾ (درمختار، عالمگیری)

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۹۰.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الرابع عشر فی صلاة المريض، ج ۱، ص ۱۳۷.

③ المرجع السابق.

④ المرجع السابق.

⑤ المرجع السابق، ص ۱۳۶، و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۸۴.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۸۵ وغیرہ.

⑦ المرجع السابق، و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الرابع عشر فی صلاة المريض، ج ۱، ص ۱۳۶.

مسئلہ ۱۱ اگر کوئی اونچی چیز زمین پر رکھی ہوئی ہے اُس پر سجدہ کیا اور رکوع کے لیے صرف اشارہ نہ ہوا بلکہ پیٹھ بھی جھکائی تو صحیح ہے بشرطیکہ سجدہ کے شرائط پائے جائیں مثلاً اس چیز کا سخت ہونا جس پر سجدہ کیا کہ اس قدر پیشانی دب گئی ہو کہ پھر دبانے سے نہ دبے اور اس کی اونچائی بارہ انگل سے زیادہ نہ ہو۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد حقیقتاً رکوع وجود پائے گئے، اشارہ سے پڑھنے والا اسے نہ کہیں گے اور کھڑا ہو کر پڑھنے والا اس کی اقتدا کر سکتا ہے اور یہ شخص جب اس طرح رکوع وجود کر سکتا ہے اور قیام پر قادر ہے تو اس پر قیام فرض ہے یا اثنائے نماز میں قیام پر قادر ہو گیا تو جو باقی ہے اسے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے لہذا جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا مگر شرائط مذکورہ کے ساتھ کوئی چیز زمین پر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے، اس پر فرض ہے کہ اسی طرح سجدہ کرے اشارہ جائز نہیں اور اگر وہ چیز جس پر سجدہ کیا ایسی نہیں تو حقیقتاً سجود نہ پایا گیا بلکہ سجدہ کے لیے اشارہ ہوا لہذا کھڑا ہونے والا اس کی اقتدا نہیں کر سکتا اور اگر یہ شخص اثنائے نماز میں قیام پر قادر ہو تو سرے سے پڑھے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ پیشانی میں زخم ہے کہ سجدہ کے لیے ماتھا نہیں لگا سکتا تو ناک پر سجدہ کرے اور ایسا نہ کیا بلکہ اشارہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ اگر مریض بیٹھنے پر بھی قادر نہیں تو لیٹ کر اشارہ سے پڑھے، خواہ داہنی یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کو منہ کرے خواہ چت لیٹ کر قبلہ کو پاؤں کرے مگر پاؤں نہ پھیلائے، کہ قبلہ کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلہ کو ہو جائے اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر پڑھنا افضل ہے۔^(۳) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۴ اگر سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز ساقط ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ آنکھ یا بھوں یا دل کے اشارہ سے پڑھے پھر اگر چھ وقت اسی حالت میں گزر گئے تو ان کی قضا بھی ساقط، فدیہ کی بھی حاجت نہیں ورنہ بعد صحت ان نمازوں کی قضا لازم ہے اگر چہ اتنی ہی صحت ہو کہ سر کے اشارہ سے پڑھ سکے۔^(۴) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۵ مریض اگر قبلہ کی طرف نہ اپنے آپ منہ کر سکتا ہے نہ دوسرے کے ذریعہ سے تو ویسے ہی پڑھ لے اور صحت کے بعد اس نماز کا اعادہ نہیں اور اگر کوئی شخص موجود ہے کہ اس کے کہنے سے قبلہ رُو کر دے گا مگر اس نے اس سے نہ کہا تو نہ ہوئی، اشارہ سے جو نمازیں پڑھی ہیں صحت کے بعد ان کا بھی اعادہ نہیں۔ یوں اگر زبان بند ہوگئی اور گونگے کی طرح نماز پڑھی

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۸۵، ۶۸۶.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الرابع عشر فی صلاة المريض، ج ۱، ص ۱۳۶.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۸۶، وغیرہ.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۸۷، وغیرہ.

پھر زبان کھل گئی تو ان نمازوں کا اعادہ نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ مریض اس حالت کو پہنچ گیا کہ رکوع و سجود کی تعداد یاد نہیں رکھ سکتا تو اس پر ادا ضروری نہیں۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۷ تندرست شخص نماز پڑھ رہا تھا، اثنائے نماز میں ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ ارکان کی ادا پر قدرت نہ رہی تو

جس طرح ممکن ہو بیٹھ کر لیٹ کر نماز پوری کر لے، سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔⁽³⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ بیٹھ کر رکوع و سجود سے نماز پڑھ رہا تھا، اثنائے نماز میں قیام پر قادر ہو گیا تو جو باقی ہے کھڑا ہو کر پڑھے اور

اشارہ سے پڑھتا تھا اور نماز ہی میں رکوع و سجود پر قادر ہو گیا تو سرے سے پڑھے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۹ رکوع و سجود پر قادر نہ تھا کھڑے یا بیٹھے نماز شروع کی رکوع و سجود کے اشارہ کی نوبت نہ آئی تھی کہ اچھا ہو گیا تو

اسی نماز کو پورا کرے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں اور اگر لیٹ کر نماز شروع کی تھی اور اشارہ سے پہلے کھڑے یا بیٹھ کر رکوع و

سجود پر قادر ہو گیا تو سرے سے پڑھے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ چلتی ہوئی کشتی یا جہاز میں بلا عذر بیٹھ کر نماز صحیح نہیں بشرطیکہ اتر کر خشکی میں پڑھ سکے اور زمین پر بیٹھ گئی ہو تو

اترنے کی حاجت نہیں اور کنارے پر بندھی ہو اور اتر سکتا ہو تو اتر کر خشکی میں پڑھے ورنہ کشتی ہی میں کھڑے ہو کر اور بیچ دریا میں

لنگر ڈالے ہوئے ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اگر ہوا کے تیز جھونکے لگتے ہوں کہ کھڑے ہونے میں چکر کا غالب گمان ہو اور اگر

ہوا سے زیادہ حرکت نہ ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اور کشتی پر نماز پڑھنے میں قبلہ رُو ہونا لازم ہے اور جب کشتی گھوم جائے تو نمازی

بھی گھوم کر قبلہ کو منہ کر لے اور اگر اتنی تیز گردش ہو کہ قبلہ کو منہ کرنے سے عاجز ہے تو اس وقت ملتوی رکھے ہاں اگر وقت جاتا

دیکھے تو پڑھ لے۔⁽⁶⁾ (غنیہ، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱ جنون یا بے ہوشی اگر پورے چھ وقت کو گھیر لے تو ان نمازوں کی قضا بھی نہیں، اگر چہ بے ہوشی آدمی یا

درندے کے خوف سے ہو اور اس سے کم ہو تو قضا واجب ہے۔⁽⁷⁾ (درمختار)

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۸۸.

② "تنویر الأبصار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۸۸.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الرابع عشر فی صلاة المريض، ج ۱، ص ۱۳۷.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۸۹.

④ المرجع السابق.

⑤ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۸۹.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، مطلب فی الصلاة فی السفینۃ، ج ۲، ص ۶۹۰.

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۹۲.

مسئلہ ۲۲ اگر کسی کسی وقت ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا وقت مقرر ہے یا نہیں اگر وقت مقرر ہے اور اس سے پہلے پورے چھ وقت نہ گزرے تو قضا واجب اور وقت مقرر نہ ہو بلکہ دفعۃً ہوش ہو جاتا ہے پھر وہی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو اس افاقہ کا اعتبار نہیں یعنی سب بے ہوشیاں متصل سمجھی جائیں گی۔^(۱) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۳ شراب یا بنگ پی اگر چہ دوا کی غرض سے اور عقل جاتی رہی تو قضا واجب ہے اگر چہ بے عقلی کتنے ہی زیادہ زمانہ تک ہو۔ یوں اگر دوسرے نے مجبور کر کے شراب پلا دی جب بھی قضا مطلقاً واجب ہے۔^(۲) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۴ سوتارہا جس کی وجہ سے نماز جاتی رہی تو قضا فرض ہے اگر چہ نیند پورے چھ وقت کو گھیر لے۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۲۵ اگر یہ حالت ہو کہ روزہ رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہ رکھے تو کھڑے ہو کر پڑھ سکے گا تو روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ مریض نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی اس خیال سے کہ وقت میں نہ پڑھ سکے گا تو نماز نہ ہوئی اور بغیر قراءت بھی نہ ہوگی مگر جبکہ قراءت سے عاجز ہو تو ہو جائے گی۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ عورت بیمار ہو تو شوہر پر فرض نہیں کہ اسے وضو کرادے اور غلام بیمار ہو تو وضو کرادینا مولیٰ کے ذمہ ہے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ چھوٹے سے خیمہ میں ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور باہر نکلتا ہے تو مینہ^(۷) اور کچھڑے تو بیٹھ کر پڑھے۔ یوں کھڑے ہونے میں دشمن کا خوف ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔^(۸) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۹ بیمار کی نمازیں قضا ہو گئیں اب اچھا ہو کر انھیں پڑھنا چاہتا ہے تو ویسے پڑھے جیسے تندرست پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھ سکتا جیسے بیماری میں پڑھتا مثلاً بیٹھ کر یا اشارہ سے اگر اسی طرح پڑھیں تو نہ ہوئیں اور صحت کی حالت میں

۱..... "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۹۲.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الرابع عشر فی صلاة المريض، ج ۱، ص ۱۳۷.

۲..... المرجع السابق.

۳..... "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲، ص ۶۹۲.

۴..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الرابع عشر فی صلاة المريض، ج ۱، ص ۱۳۸.

۵..... المرجع السابق.

۶..... المرجع السابق.

۷..... یعنی بارش۔

۸..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الرابع عشر فی صلاة المريض، ج ۱، ص ۱۳۸.

قضا ہوئیں بیماری میں انھیں پڑھنا چاہتا ہے تو جس طرح پڑھ سکتا ہے پڑھے ہو جائیں گی، صحت کی سی پڑھنا اس وقت واجب نہیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ پانی میں ڈوب رہا ہے اگر اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارے سے پڑھ سکتا ہے مثلاً تیراک ہے یا لکڑی وغیرہ کا سہارا پا جائے تو پڑھنا فرض ہے، ورنہ معذور ہے بچ جائے تو قضا پڑھے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ آنکھ بنوائی اور طبیب حاذق مسلمان مستور نے لیٹے رہنے کا حکم دیا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ مریض کے نیچے نجس بچھونا بچھا ہے اور حالت یہ ہو کہ بدلا بھی جائے تو نماز پڑھتے پڑھتے بقدر مانع ناپاک ہو جائے تو اسی پر نماز پڑھے۔ یوہیں اگر بدلا جائے تو اس قدر جلد نجس نہ ہوگا مگر بدلنے میں اسے شدید تکلیف ہوگی تو اسی نجس ہی پر پڑھے۔^(۴) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

تنبیہ ضروری: مسلمان اس باب کے مسائل کو دیکھیں تو انھیں بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ شرع مطہرہ نے کسی حالت میں بھی سوا بعض نادر صورتوں کے نماز معاف نہیں کی بلکہ یہ حکم دیا کہ جس طرح ممکن ہو پڑھے۔ آج کل جو بڑے نمازی کہلاتے ہیں ان کی یہ حالت دیکھی جا رہی ہے کہ بخار آیا ذرا شدت ہوئی نماز چھوڑ دی شدت کا درد ہوا نماز چھوڑ دی کوئی پھڑیا نکل آئی نماز چھوڑ دی، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ در دوسرے روز کام میں نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں حالانکہ جب تک اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہو اور نہ پڑھے تو انھیں وعیدوں کا مستحق ہے جو شروع کتاب میں تارک الصلوٰۃ کے لیے احادیث سے بیان ہوئیں، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ مُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَ شَرِيعَةِ حَبِيبِكَ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ آمِينَ.^(۵)

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض، ج ۱، ص ۱۳۸.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، مطلب في الصلاة في السفينة، ج ۲، ص ۶۹۳.

③ المرجع السابق.

④ المرجع السابق، و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر في صلاة المريض، ج ۱، ص ۱۳۷.

⑤ اے اللہ (عزوجل)! تو ہم کو نماز قائم کرنے والوں میں اور زندگی اور مرنے کے بعد اچھے نماز والوں میں کر اور اپنے حبیب کریم

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی شریعت کی پیروی اور روزی کر، ان پر بہتر درود و سلام، آمین۔

سجدہ تلاوت کا بیان

صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ”جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے بربادی میری! ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے اور مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔“ (1)

مسئلہ ۱ - سجدہ کی چودہ آیتیں ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) سورہ اعراف کی آخر آیت

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحُونََّهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (2)

(۲) سورہ رعد میں یہ آیت

﴿ وَ لَهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ ظَلَمْتُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴾ (3)

(۳) سورہ نحل میں یہ آیت

﴿ وَ لَهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَ الْبَالِكَةِ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (4)

(۴) سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا

إِنْ كَانُوا وَعَدَمًا رَبَّنَا لِمَقْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (5)

(۵) سورہ مریم میں یہ آیت

﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُكْيًا ﴾ (6)

(۶) سورہ حج میں پہلی جگہ جہاں سجدہ کا ذکر ہے یعنی یہ آیت

① ”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة، الحدیث: ۸۱، ص ۵۶.

② پ ۹، الاعراف: ۲۰۶.

③ پ ۱۳، الرعد: ۱۵.

④ پ ۱۴، النحل: ۴۹.

⑤ پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۰۷ - ۱۰۹.

⑥ پ ۱۶، مریم: ۵۸.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَسْبُ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۗ ﴾ (1)

(۷) سورۃ فرقان میں یہ آیت

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۗ ﴾ (2)

(۸) سورۃ نمل میں یہ آیت

﴿ أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغَبَّاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۗ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۗ ﴾ (3)

(۹) سورۃ الم تنزیل میں یہ آیت

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا آخَرُهَا سَجَدُوا لِسُبْحَانِهَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۗ ﴾ (4)

(۱۰) سورۃ ص میں یہ آیت

﴿ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَخَذَّرَ مَا كَفَاؤَانَابٍ ۗ فَعَقَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۗ وَإِن لَّهُ عِندَنَا لَكُفْرًا وَحُسْنَ مَا يَ ۗ ﴾ (5)

(۱۱) سورۃ حم السجدۃ میں آیت

﴿ وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۗ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ ۗ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۗ ﴾ (6)

(۱۲) سورۃ نجم میں

﴿ فَاسْجُدْ وَابْتَهِ وَأَعْبُدْ ۗ ﴾ (7)

① پ ۱۷، الحج: ۱۸.

② پ ۱۹، الفرقان: ۶۰.

③ پ ۱۹، النمل: ۲۵ - ۲۶.

④ پ ۲۱، السجدۃ: ۱۵.

⑤ پ ۲۳، ص: ۲۴ - ۲۵.

⑥ پ ۲۴، حم السجدۃ: ۳۷ - ۳۸.

⑦ پ ۲۷، النجم: ۶۲.

(۱۳) سورۃ الشقاق میں آیت

﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿۲﴾﴾ (۱)

(۱۴) سورۃ اقرآء میں آیت ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿۱﴾﴾ (۲)

مسئلہ ۲ - آیت سجده پڑھنے یا سننے سے سجده واجب ہو جاتا ہے پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، سننے والے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ بالقصد سنی ہو بلا قصد سننے سے بھی سجده واجب ہو جاتا ہے۔ (۳) (ہدایہ، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۳ - سجده واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں سجده کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ (۴) (ردالمختار)

مسئلہ ۴ - اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجده واجب ہو گیا اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ (۵) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۵ - قاری نے آیت پڑھی مگر دوسرے نے نہ سنی تو اگرچہ اسی مجلس میں ہو اس پر سجده واجب نہ ہوا، البتہ نماز میں امام نے آیت پڑھی تو مقتدیوں پر واجب ہو گیا، اگرچہ نہ سنی ہو بلکہ اگرچہ آیت پڑھتے وقت وہ موجود بھی نہ تھا، بعد پڑھنے کے سجده سے پیشتر شامل ہو اور اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجده کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہو تو امام کا سجده اس کے لیے بھی ہے اور دوسری رکعت میں شامل ہو تو نماز کے بعد سجده کرے۔ یوہیں اگر شامل ہی نہ ہو واجب بھی سجده کرے۔ (۶) (عالمگیری، درمختار، ردالمختار)

① پ ۳۰، الانشقاق: ۲۰ - ۲۱. ② پ ۳۰، العلق: ۱۹.

"الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۲.

③ "الہدایہ"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۱، ص ۷۸.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۶۹۴، وغیرہما.

④ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۶۹۴.

اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: سجده واجب ہونے کے لئے پوری آیت پڑھنا ضروری ہے لیکن بعض علمائے متاخرین کے نزدیک وہ لفظ جس میں سجده کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھا تو سجده تلاوت واجب ہو جاتا ہے لہذا احتیاط یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں سجده تلاوت کیا جائے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۸، ص ۲۲۳-۲۳۳ ملخصاً).

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۲.

⑥ المرجع السابق، ص ۱۳۳. و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۶۹۶.

مسئلہ ۶ - سورہ حج کی آخر آیت جس میں سجدہ کا ذکر ہے اس کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب نہیں کہ اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، البتہ اگر شافعی المذہب امام کی اقتدا کی اور اس نے اس موقع پر سجدہ کیا تو اس کی متابعت میں مقتدی پر بھی واجب ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ - امام نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو مقتدی بھی اس کی متابعت میں سجدہ نہ کرے گا، اگرچہ آیت سنی ہو۔^(۲) (غنیہ)

مسئلہ ۸ - مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی تو نہ خود اس پر سجدہ واجب ہے نہ امام پر نہ اور مقتدیوں پر نہ نماز میں نہ بعد میں، البتہ اگر دوسرے نمازی نے کہ اس کے ساتھ نماز میں شریک نہ تھا آیت سنی خواہ وہ منفرد ہو یا دوسرے امام کا مقتدی یا دوسرا امام ان پر بعد نماز سجدہ واجب ہے۔ یو ہیں اس پر واجب ہے جو نماز میں نہ ہو۔^(۳) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - جو شخص نماز میں نہیں اور آیت سجدہ پڑھی اور نمازی نے سنی تو بعد نماز سجدہ کرے نماز میں نہ کرے اور نماز ہی میں کر لیا تو کافی نہ ہوگا، بعد نماز پھر کرنا ہوگا مگر نماز فاسد نہ ہوگی ہاں اگر تلاوت کرنے والے کے ساتھ سجدہ کیا اور اتباع کا قصد بھی کیا تو نماز جاتی رہی۔^(۴) (غنیہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ - جو شخص نماز میں نہ تھا آیت سجدہ پڑھ کر نماز میں شامل ہو گیا تو سجدہ ساقط ہو گیا۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۱۱ - رکوع یا سجود میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ واجب ہو گیا اور اسی رکوع یا سجود سے ادابھی ہو گیا اور تشہد میں پڑھی تو سجدہ واجب ہو گیا لہذا سجدہ کرے۔^(۶) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ - آیت سجدہ پڑھنے والے پر اس وقت سجدہ واجب ہوتا ہے کہ وہ وجوب نماز کا اہل ہو یعنی ادایا قضا کا اسے حکم ہو، لہذا اگر کافر یا مجنون یا نابالغ یا حیض و نفاس والی عورت نے آیت پڑھی تو ان پر سجدہ واجب نہیں اور مسلمان عاقل بالغ

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۶۹۵-۶۹۷.

② "غنیة المتملی"، سجدة التلاوة، ص ۵۰۰.

③ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۳.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۶۹۷.

④ "غنیة المتملی"، سجدة التلاوة، ص ۵۰۰.

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۳.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۶۹۸.

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۶۹۸.

اہل نماز نے ان سے سنی تو اس پر واجب ہو گیا اور جنوں اگر ایک دن رات سے زیادہ نہ ہو تو مجنون پر پڑھنے یا سننے سے واجب ہے، بے وضو یا جنب نے آیت پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے، نشہ والے نے آیت پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے۔ یوہیں سوتے میں آیت پڑھی بعد بیداری اسے کسی نے خبر دی تو سجدہ کرے، نشہ والے یا سونے والے نے آیت پڑھی تو سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۳ عورت نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا یہاں تک کہ حیض آ گیا تو سجدہ ساقط ہو گیا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ نفل پڑھنے والے نے آیت پڑھی اور سجدہ بھی کر لیا پھر نماز فاسد ہو گئی تو اس کی قضا میں سجدہ کا اعادہ نہیں اور نہ کیا تھا تو بیرون نماز کرے۔⁽³⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۵ فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نامعلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ چند شخصوں نے ایک ایک حرف پڑھا کہ سب کا مجموعہ آیت سجدہ ہو گیا تو کسی پر سجدہ واجب نہ ہوا۔ یوہیں آیت کے چبھے کرنے یا چبھے سننے سے بھی واجب نہ ہوگا۔ یوہیں پرند سے آیت سجدہ سنی یا جنگل اور پہاڑ وغیرہ میں آواز گونجی اور بجنہ آیت کی آواز کان میں آئی تو سجدہ واجب نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۷ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہوا تو وہ سجدہ واجب نہ رہا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۲.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۰ - ۷۰۲.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۲.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۶.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۲.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۳.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۲، ۱۳۳.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۲.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۳.

آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری، غنیہ)

مسئلہ ۱۸

سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سوا تمام وہ شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں مثلاً طہارت، استقبال قبلہ،

مسئلہ ۱۹

نیت، وقت اس معنی پر کہ آگے آتا ہے ستر عورت، لہذا اگر پانی پر قادر ہے تیمم کر کے سجدہ کرنا جائز نہیں۔⁽²⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۰

اس کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا سجدہ ہے بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے۔⁽³⁾

(درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱

جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں ان سے سجدہ بھی فاسد ہو جائے گا مثلاً حدث عمد وکلام و تہتہ۔⁽⁴⁾

(درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۲

سجدہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہو سجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بار سُبْحَانَ

رَبِّي الْأَعْلَى کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہو کھڑا ہو جائے، پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدہ میں

جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب۔⁽⁵⁾ (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۲۳

مستحب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا آگے اور سننے والے اس کے پیچھے صف باندھ کر سجدہ کریں اور یہ

بھی مستحب ہے کہ سامعین اس سے پہلے سر نہ اٹھائیں اور اگر اس کے خلاف کیا مثلاً اپنی اپنی جگہ پر سجدہ کیا اگرچہ تلاوت کرنے

والے کے آگے یا اس سے پہلے سجدہ کیا یا سر اٹھالیا یا تلاوت کرنے والے نے اس وقت سجدہ نہ کیا اور سامعین نے کر لیا تو حرج

نہیں اور تلاوت کرنے والے کا سجدہ فاسد ہو جائے تو ان کے سجدوں پر اس کا کچھ اثر نہیں کہ یہ حقیقتاً اقتدا نہیں، لہذا عورت

نے اگر تلاوت کی تو مردوں کی امام یعنی سجدہ میں آگے ہو سکتی ہے اور عورت مرد کے محاذی ہو جائے تو فاسد نہ ہوگا۔⁽⁶⁾

(غنیہ، عالمگیری)

مسئلہ ۲۴

اگر سجدہ سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہو یا اللہ اکبر نہ کہا یا سُبْحَانَ نہ پڑھا تو ہو جائے گا مگر تکبیر چھوڑنا

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۳.

و "غنیة المتملی"، سجدة التلاوة، ص ۵۰۰.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۶۹۹. وغیرہ

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۶۹۹.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۶۹۹.

⑤ المرجع السابق، و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۵.

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۴.

و "غنیة المتملی"، سجدة التلاوة، ص ۵۰۱.

نہ چاہیے کہ سلف کے خلاف ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۵ اگر تہا سجدہ کرے تو سنت یہ ہے کہ تکبیر اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں تو مستحب یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ دوسرے بھی سنیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ یہ جو کہا گیا کہ سجدہ تلاوت میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پڑھے یہ فرض نماز میں ہے اور نفل نماز میں سجدہ کیا تو چاہے یہ پڑھے یا اور دعائیں جو احادیث میں وارد ہیں وہ پڑھے۔ مثلاً

سَجْدَةً وَجْهِي لِلدَّيِّ خَلْقِهِ وَصَوْرَةِ وَشَقِّ سَمْعِهِ وَبَصْرَةِ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. (3) یا

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ بِهَا أَجْرًا وَرِزًّا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ زُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. (4) یا یہ کہے۔

سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ط (5)

اور اگر بیرون نماز ہو تو چاہے یہ پڑھے یا صحابہ و تابعین سے جو آثار مروی ہیں وہ پڑھے، مثلاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے تھے:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجْدَةٌ سَوَادِي رَبِّكَ أَمِنْ فَوَادِي اللَّهِمَّ ارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي وَعَمَلًا يَرْفَعُنِي. (6)
(غنیہ، ردالمحتار)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۵.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۰.

② "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۰.

③ ترجمہ: میرے چہرے نے سجدہ کیا اوس کے لیے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اپنی طاقت و قوت سے کان اور آنکھ کی جگہ پھاڑی برکت والا ہے اللہ (عزوجل)! جو اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ ۱۲

④ ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! اس سجدہ کی وجہ سے تو میرے لیے اپنے نزدیک ثواب لکھ اور اس کی وجہ سے مجھ سے گناہ کو دور کر اور اسے تو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا اور اس کو تو مجھ سے قبول کر جیسا تو نے اپنے بندے داود علیہ السلام سے قبول کیا۔ ۱۲

⑤ ترجمہ: پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ ۱۲

⑥ "غنیۃ المتملی"، سجدة التلاوة، ص ۵۰۲، و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۰.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! میرے جسم نے تجھے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا۔ اے اللہ! تو مجھ کو علم نافع اور عمل رافع روزی کر۔ ۱۲

مسئلہ ۲۷ سجدہ تلاوت کے لیے اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد ہے نہ سلام۔ (1)

(تنویر الابصار)

مسئلہ ۲۸ آیت سجدہ بیرون نماز پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۲۹ اُس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے اور سامع کو یہ کہہ لینا مستحب ہے سَمِعْنَا وَاطْمَئِنَّا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِنَّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ (3) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ سجدہ تلاوت نماز میں فوراً کرنا واجب ہے تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا اور سجدہ کرنا بھول گیا تو جب تک حرمت نماز (4) میں ہے کر لے، اگرچہ سلام پھیر چکا ہو اور سجدہ سہو کرے۔ (5) (درمختار، ردالمحتار) تاخیر سے مراد تین آیت سے زیادہ پڑھ لینا ہے کم میں تاخیر نہیں مگر آخر سورت میں اگر سجدہ واقع ہے، مثلاً اِنشَقَّتْ تو سورت پوری کر کے سجدہ کرے گا جب بھی حرج نہیں۔ (6) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ نماز ہی میں واجب ہے بیرون نماز نہیں ہو سکتا۔ اور قصد اُنہ کیا تو گنہگار ہو تو بہ لازم ہے بشرطیکہ آیت سجدہ کے بعد فوراً رکوع و سجود نہ کیا ہو، نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا پھر وہ نماز فاسد ہوگئی یا قصد افساد کی تو بیرون نماز سجدہ کر لے اور سجدہ کر لیا تھا تو حاجت نہیں۔ (7) (درمختار)

مسئلہ ۳۲ اگر آیت پڑھنے کے بعد فوراً نماز کا سجدہ کر لیا یعنی آیت سجدہ کے بعد تین آیت سے زیادہ نہ پڑھا اور رکوع کر کے سجدہ کیا تو اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ ہو ادا ہو جائے گا۔ (8) (عالمگیری، درمختار)

① "تنویر الابصار"، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۰.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۳.

③ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۳.

ترجمہ: ہم نے سنا اور حکم مانا، تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اے پروردگار! اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ ۱۲۔

④ یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو منافی نماز ہے۔ ۱۲۔

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۴.

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۶-۷۰۷.

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۵.

⑧ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۸.

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۳، ۱۳۴.

مسئلہ ۳۳ نماز کا سجدہ تلاوت سجدہ سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور رکوع سے بھی، مگر رکوع سے جب ادا ہوگا کہ فوراً کرے فوراً نہ کیا تو سجدہ کرنا ضروری ہے اور جس رکوع سے سجدہ تلاوت ادا کیا خواہ وہ رکوع رکوع نماز ہو یا اس کے علاوہ۔ اگر رکوع نماز ہے تو اس میں ادائے سجدہ کی نیت کر لے اور اگر خاص سجدہ ہی کے لیے یہ رکوع کیا تو اس رکوع سے اٹھنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ دو تین آیتیں یا زیادہ پڑھ کر رکوع نماز کرے فوراً نہ کرے۔ اور اگر آیت سجدہ پر سورت ختم ہے اور سجدہ کے لیے رکوع کیا تو دوسری سورت کی آیتیں پڑھ کر رکوع کرے۔^(۱) (غنیہ، عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳۴ آیت سجدہ بیچ سورت میں ہے تو افضل یہ ہے کہ اسے پڑھ کر سجدہ کرے پھر کچھ اور آیتیں پڑھ کر رکوع کرے اور اگر سجدہ نہ کیا اور رکوع کر لیا اور اس رکوع میں ادائے سجدہ کی بھی نیت کر لی تو کافی ہے اور اگر نہ سجدہ کیا نہ رکوع کیا بلکہ سورت ختم کر کے رکوع کیا تو اگرچہ نیت کرے، ناکافی ہے اور جب تک نماز میں ہے سجدہ کی قضا کر سکتا ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ سجدہ پر سورت ختم ہے اور آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا تو سجدہ سے اٹھنے کے بعد دوسری سورت کی کچھ آیتیں پڑھ کر رکوع کرے اور بغیر پڑھے رکوع کر دیا تو بھی جائز ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ اگر آیت سجدہ کے بعد ختم سورت میں دو تین آیتیں باقی ہیں تو چاہے فوراً رکوع کر دے یا سورت ختم کرنے کے بعد یا فوراً سجدہ کر لے پھر باقی آیتیں پڑھ کر رکوع میں جائے یا سورت ختم کر کے سجدہ میں جائے سب طرح اختیار ہے مگر اس صورت اخیرہ میں سجدہ سے اٹھ کر کچھ آیتیں دوسری سورت کی پڑھ کر رکوع کرے۔^(۴) (غنیہ، عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ رکوع جاتے وقت سجدہ کی نیت نہیں کی بلکہ رکوع میں یا اٹھنے کے بعد کی تو یہ نیت کافی نہیں۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ تلاوت کے بعد امام رکوع میں گیا اور نیت سجدہ کر لی مگر مقتدیوں نے نہ کی تو ان کا سجدہ ادا نہ ہوا لہذا امام جب سلام پھیرے تو مقتدی سجدہ کر کے قعدہ کریں اور سلام پھیریں اور اس قعدہ میں تشهد واجب ہے اگر قعدہ نہ کیا تو نماز فاسد ہوگئی کہ قعدہ جاتا رہا یہ حکم جہری نماز کا ہے، سری میں چونکہ مقتدی کو علم نہیں لہذا معذور ہے اور اگر امام نے رکوع سے سجدہ تلاوت کی نیت نہ کی تو اسی سجدہ نماز سے مقتدیوں کا بھی سجدہ تلاوت ادا ہو گیا اگرچہ نیت نہ ہو، لہذا امام کو چاہیے کہ رکوع میں سجدہ کی نیت

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۶.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۳.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۳.

③ المرجع السابق.

④ المرجع السابق.

⑤ المرجع السابق.

نہ کرے کہ مقتدیوں نے اگر نیت نہ کی تو ان کا سجدہ ادا نہ ہوگا اور رکوع کے بعد جب امام سجدہ کرے گا تو اس سے سجدہ تلاوت بہر حال ادا ہو جائے گا نیت کرے یا نہ کرے پھر نیت کی کیا حاجت۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۹۔ جہری نماز میں امام نے آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ کرنا اولیٰ ہے اور سری میں رکوع کرنا کہ مقتدیوں کو دھوکا نہ لگے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۴۰۔ امام نے سجدہ تلاوت کیا مقتدیوں کو رکوع کا گمان ہوا اور رکوع میں گئے تو رکوع توڑ کر سجدہ کریں اور جس نے رکوع اور ایک سجدہ کیا جب بھی ہو گیا اور اگر رکوع کر کے دو سجدے کر لیے تو اس کی نماز گئی۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴۱۔ مصلیٰ سجدہ تلاوت بھول گیا رکوع یا سجدہ یا قعدہ میں یاد آیا تو اسی وقت سجدہ کر لے پھر جس رکن میں تھا اس کی طرف عود کرے یعنی رکوع میں تھا تو سجدہ کر کے رکوع میں واپس ہو و علیٰ ہذا القیاس اور اگر اس رکن کا اعادہ نہ کیا جب بھی نماز ہو گئی۔⁽⁴⁾ (عالمگیری) مگر قعدہ اخیرہ کا اعادہ فرض ہے کہ سجدہ سے قعدہ باطل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۴۲۔ ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو بار بار پڑھایا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اگرچہ چند شخصوں سے سنا ہو۔ یوں اگر آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے سنی بھی جب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴۳۔ پڑھنے والے نے کئی مجلسوں میں ایک آیت بار بار پڑھی اور سننے والے کی مجلس نہ بدلی تو پڑھنے والا جتنی مجلسوں میں پڑھے گا اس پر اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والے پر ایک اور اگر اس کا عکس ہے یعنی پڑھنے والا ایک مجلس میں بار بار پڑھتا رہا اور سننے والے کی مجلس بدلتی رہی تو پڑھنے والے پر ایک سجدہ واجب ہوگا اور سننے والے پر اتنے جتنی مجلسوں میں سنا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴۴۔ مجلس میں آیت پڑھی یا سنی اور سجدہ کر لیا پھر اسی مجلس میں وہی آیت پڑھی یا سنی تو وہی پہلا سجدہ کافی ہے۔⁽⁷⁾ (درمختار)

- ① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۳.
- ② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۷.
- ③ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۸.
- ④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۰۹.
- ⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۴.
- ⑥ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۲.
- ⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۴.
- ⑧ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۲.

مسئلہ ۳۵ ایک مجلس میں چند بار آیت پڑھی یا سنی اور آخر میں اتنی ہی بار سجدہ کرنا چاہے تو یہ بھی خلاف مستحب ہے بلکہ ایک ہی بار کرے، بخلاف دُرود شریف کے کہ نام اقدس لیا یا سنا تو ایک بار دُرود شریف واجب اور ہر بار مستحب۔ (۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ دو ایک لقمہ کھانے، دو ایک گھونٹ پینے، کھڑے ہو جانے، دو ایک قدم چلنے، سلام کا جواب دینے، دو ایک بات کرنے، مکان کے ایک گوشہ سے دوسرے کی طرف چلے جانے سے مجلس نہ بدلے گی، ہاں اگر مکان بڑا ہے جیسے شاہی محل تو ایسے مکان میں ایک گوشہ سے دوسرے میں جانے سے مجلس بدل جائے گی۔ کشتی میں ہے اور کشتی چل رہی ہے، مجلس نہ بدلے گی۔ ریل کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے، جانور پر سوار ہے اور وہ چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے ہاں اگر سواری پر نماز پڑھ رہا ہے تو نہ بدلے گی، تین لقمے کھانے، تین گھونٹ پینے، تین کلمے بولنے، تین قدم میدان میں چلنے، نکاح یا خرید و فروخت کرنے، لیٹ کر سو جانے سے مجلس بدل جائے گی۔ (۲) (عالمگیری، غنیہ، درمختار وغیرہا)

مسئلہ ۳۷ سواری پر نماز پڑھتا ہے اور کوئی شخص ساتھ چل رہا ہے یا وہ بھی سوار ہے مگر نماز میں نہیں، ایسی حالت میں اگر آیت بار بار پڑھی تو اس پر ایک سجدہ واجب ہے اور ساتھ والے پر اتنے جتنی بار سنا۔ (۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۸ تانائتا، نہریا حوض میں تیرنا، درخت کی ایک شاخ سے دوسری پر جانا، مل جوتنا، دائیں چلانا، چکی کے تیل کے پیچھے پھرنا، عورت کا بچہ کوڈودھ پلانا، ان سب صورتوں میں مجلس بدل جاتی ہے جتنی بار پڑھے گا یا سنے گا اتنے سجدے واجب ہوں گے۔ (۴) (غنیہ، درمختار وغیرہا) یہی حکم کولو کے تیل کے پیچھے چلنے کا ہونا چاہیے۔

مسئلہ ۳۹ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے تانائتا رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے اگر چہ فتح القدر میں اس کے خلاف لکھا، اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے۔ (۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۰ کسی مجلس میں دیر تک بیٹھنا قراءت، تسبیح، تہلیل، درس و وعظ میں مشغول ہونا مجلس کو نہیں بدلے گا اور اگر

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۲، ۷۱۷.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۴.

و "غنیة المتعملي"، سجدة التلاوة، ص ۵۰۳.

و "الدرالمختار" کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۲ - ۷۱۶.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۶.

④ المرجع السابق، ص ۷۱۴.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۶.

دونوں بار پڑھنے کے درمیان کوئی دنیا کا کام کیا مثلاً کپڑا سینا وغیرہ تو مجلس بدل گئی۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۱ — آیت سجدہ بیرون نماز تلاوت کی اور سجدہ کر کے پھر نماز شروع کی اور نماز میں پھر وہی آیت پڑھی تو اس کے لیے دوبارہ سجدہ کرے اور اگر پہلے نہ کیا تھا تو یہی اس کے بھی قائم مقام ہو گیا بشرطیکہ آیت پڑھنے اور نماز کے درمیان کوئی اجنبی فعل فاصل نہ ہو اور اگر نہ پہلے سجدہ کیا نہ نماز میں تو دونوں ساقط ہو گئے اور گنہگار ہوا تو بہ کرے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵۲ — ایک رکعت میں بار بار وہی آیت پڑھی تو ایک ہی سجدہ کافی ہے، خواہ چند بار پڑھ کر سجدہ کیا یا ایک بار پڑھ کر سجدہ کیا پھر دوبارہ سجدہ آیت پڑھی۔ یوں اگر ایک نماز کی سب رکعتوں میں یا دو تین میں وہی آیت پڑھی تو سب کے لیے ایک سجدہ کافی ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۳ — نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کر لیا پھر سلام کے بعد اسی مجلس میں وہی آیت پڑھی تو اگر کلام نہ کیا تھا تو وہی نماز والا سجدہ اس کے قائم مقام بھی ہے اور کلام کر لیا تھا تو دوبارہ سجدہ کرے اور اگر نماز میں سجدہ نہ کیا تھا پھر سلام پھیرنے کے بعد وہی آیت پڑھی تو ایک سجدہ کرے، نماز والا ساقط ہو گیا۔⁽⁴⁾ (خانہ، غنیہ، عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۵۴ — نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا پھر بے وضو ہوا اور وضو کر کے بنا کی پھر وہی آیت پڑھی تو دوسرا سجدہ واجب نہ ہوا اور اگر بنا کے بعد دوسرے سے وہی آیت سنی تو دوسرا واجب ہے اور یہ دوسرا سجدہ نماز کے بعد کرے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۵ — ایک مجلس میں سجدہ کی چند آیتیں پڑھیں تو اتنے ہی سجدے کرے ایک کافی نہیں۔⁽⁶⁾ (عامہ کتب)

مسئلہ ۵۶ — پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ دو ایک آیت پہلے یا بعد کی ملا لے۔⁽⁷⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۵۷ — سامعین نے سجدہ کا تہیہ کیا ہو اور سجدہ ان پر بار نہ ہو تو آیت بلند آواز سے پڑھنا اولیٰ ہے ورنہ آہستہ اور

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۶.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۱.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۵.

④ المرجع السابق، و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۲.

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۵.

⑥ "شرح الوقایہ"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۱، ص ۲۳۲.

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۷، وغیرہ.

سامعین کا حال معلوم نہ ہو کہ آمادہ ہیں یا نہیں جب بھی آہستہ پڑھنا بہتر ہونا چاہیے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۸ - آیت سجده پڑھی گئی مگر کام میں مشغولی کے سبب نہ سنی تو صبح یہ ہے کہ سجده واجب نہیں، مگر بہت سے علما کہتے ہیں کہ اگرچہ نہ سنی سجده واجب ہو گیا۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

فائدہ اہم: جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجده کی سب آیتیں پڑھ کر سجده کرے اللہ عزوجل اس کا مقصد پورا فرمادے گا۔ خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجده کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں چودہ سجده کر لے۔⁽³⁾ (غنیہ، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۵۹ - زمین پر آیت سجده پڑھی تو یہ سجده سواری پر نہیں کر سکتا مگر خوف کی حالت ہو تو ہو سکتا ہے اور سواری پر آیت پڑھی تو سفر کی حالت میں سواری پر سجده کر سکتا ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶۰ - مرض کی حالت میں اشارہ سے بھی سجده ادا ہو جائے گا۔ یوں سفر میں سواری پر اشارہ سے ہو جائے گا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۶۱ - جمعہ وعیدین اور سبّی نمازوں میں اور جس نماز میں جماعتِ عظیم ہو آیت سجده امام کو پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر آیت کے بعد فوراً رکوع و سجود کر دے اور رکوع میں نیت نہ کرے تو کراہت نہیں۔⁽⁶⁾ (غنیہ، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶۲ - منبر پر آیت سجده پڑھی تو خود اُس پر اور سننے والوں پر سجده واجب ہے اور جنہوں نے نہ سنی ان پر نہیں۔⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶۳ - سجده شکر مثلاً اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا گئی ہوئی چیز مل گئی یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا غرض کسی

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۸.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۸.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۲، ص ۷۱۹.

و "غنیة المتملی"، سجدة التلاوة، ص ۵۰۷. وغیرہما

④ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۵.

⑤ المرجع السابق.

⑥ "غنیة المتملی"، سجدة التلاوة، ص ۵۰۷.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، مطلب فی سجدة الشکر، ج ۲، ص ۷۲۰.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، مطلب فی سجدة الشکر، ج ۲، ص ۷۲۰.

نعمت پر سجدہ کرنا مستحب ہے اور اس کا طریقہ وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)
مسئلہ ۶۳ سجدہ بے سبب جیسا اکثر عوام کرتے ہیں نہ ثواب ہے، نہ مکروہ۔⁽²⁾ (عالمگیری)

نماز مسافر کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾⁽³⁾

جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس کا گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو اگر خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے۔

حدیث ۱ صحیح مسلم شریف میں ہے، یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کی، کہ اللہ عزوجل نے تو یہ فرمایا:

﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾⁽⁴⁾

اور اب تو لوگ امن میں ہیں (یعنی امن کی حالت میں قصر نہ ہونا چاہیے) فرمایا: اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا میں نے

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا ارشاد فرمایا: یہ ایک صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تصدق فرمایا اس کا صدقہ قبول کرو۔⁽⁵⁾

حدیث ۲ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مروی، کہ حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منیٰ میں دو رکعت نماز پڑھائی حالانکہ نہ ہماری اتنی زیادہ تعداد کبھی تھی نہ اس قدر امن۔“⁽⁶⁾

حدیث ۳ صحیحین میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں اور ذی الحلیفہ⁽⁷⁾ میں عصر کی دو رکعتیں۔“⁽⁸⁾

① ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۶.

و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، مطلب فی سجدة الشکر، ج ۲، ص ۷۲۰.

② ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ج ۱، ص ۱۳۶.

③ پ ۵، النساء: ۱۰۱. ④ پ ۵، النساء: ۱۰۱.

⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب صلاة المسافرين و قصرها، الحدیث: ۶۸۶، ص ۳۴۷.

⑥ ”صحیح البخاری“، کتاب الحج، باب الصلاة بونی، الحدیث: ۱۶۵۶، ج ۱، ص ۵۵۴.

⑦ مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام ہے، یہی اصح ہے۔ (مرقاۃ) ۱۲ منہ

⑧ ”صحیح البخاری“، کتاب الحج، باب من بات بذی الحلیفہ حتی أصبح، الحدیث: ۱۵۴۷، ج ۱، ص ۵۲۰.

حدیث ۴ — ترمذی شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں: میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضور و سفر دونوں میں نمازیں پڑھیں، حضر میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد دو رکعت اور سفر میں ظہر کی دو اور اس کے بعد دو رکعت اور عصر کی دو۔ اور اس کے بعد کچھ نہیں اور مغرب کی حضر و سفر میں برابر تین رکعتیں، سفر و حضر کسی کی نماز مغرب میں قصر نہ فرماتے اور اس کے بعد دو رکعت۔^(۱)

حدیث ۵ — صحیحین میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، فرماتی ہیں: ”نماز دو رکعت فرض کی گئی پھر جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ہجرت فرمائی تو چار فرض کر دی گئی اور سفر کی نماز اسی پہلے فرض پر چھوڑی گئی۔“^(۲)

حدیث ۶ — صحیح مسلم شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں: کہ ”اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی حضر میں چار رکعتیں فرض کیں اور سفر میں دو اور خوف میں ایک^(۳) یعنی امام کے ساتھ۔“^(۴)

حدیث ۷ — ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سفر کی دو رکعتیں مقرر فرمائیں اور یہ پوری ہے کم نہیں یعنی اگرچہ بظاہر دو رکعتیں کم ہو گئیں مگر ثواب میں یہ دو ہی چار کی برابر ہیں۔^(۵)

مسائل فقہیہ

شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو تین دن کی راہ تک جانے کے ارادہ سے بستی سے باہر ہوا۔^(۶) (متون)

مسئلہ ۱ — دن سے مراد سال کا سب میں چھوٹا دن اور تین دن کی راہ سے یہ مراد نہیں کہ صبح سے شام تک چلے کہ کھانے پینے، نماز اور دیگر ضروریات کے لیے ٹھہرنا تو ضرور ہی ہے، بلکہ مراد دن کا اکثر حصہ ہے مثلاً شروع صبح صادق سے دوپہر ڈھلنے تک چلا پھر ٹھہر گیا پھر دوسرے دن یوں کیا تو اتنی دور تک کی راہ کو مسافت سفر کہیں گے دوپہر کے بعد تک چلنے میں بھی برابر چلنا مراد نہیں بلکہ عادتاً جتنا آرام لینا چاہے اس قدر اس درمیان میں ٹھہرتا بھی جائے اور چلنے سے مراد معتدل چال ہے کہ نہ تیز ہونہ سست، خشکی میں آدمی اور اونٹ کی درمیانی چال کا اعتبار ہے اور پہاڑی راستہ میں اسی حساب سے جو اس کے لیے

① ”جامع الترمذی“، أبواب السفر، باب ماجاء فی التطوع فی السفر، الحدیث: ۵۵۲، ج ۲، ص ۷۶.

② ”صحیح البخاری“، کتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ... إلخ، الحدیث: ۳۹۳۵، ج ۲، ص ۶۰۴.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب صلاة المسافرين و قصرها، الحدیث: ۶۸۷، ص ۳۴۷.

④ یعنی امام کے ساتھ صرف ایک رکعت پڑھے گا اور ایک رکعت اکیلے۔

⑤ ”سنن ابن ماجہ“، أبواب إقامة الصلوات و السنة فیها، باب ماجاء فی الوتر فی السفر، الحدیث: ۱۱۹۴، ج ۲، ص ۵۴.

⑥ ”الفتاویٰ الرضویة“، ج ۸، ص ۲۴۳.

مناسب ہو اور دریا میں کشتی کی چال اس وقت کی کہ ہوانہ بالکل رُکی ہو نہ تیز۔⁽¹⁾ (درمختار، عالمگیری وغیرہما)

مسئلہ ۲ سال کا چھوٹا دن اس جگہ کا معتبر ہے جہاں دن رات معتدل ہوں یعنی چھوٹے دن کے اکثر حصہ میں منزل طے کر سکتے ہوں لہذا جن شہروں میں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے جیسے بلخار کہ وہاں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے، لہذا وہاں کے دن کا اعتبار نہیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ کوس کا اعتبار نہیں کہ کوس کہیں چھوٹے ہوتے ہیں کہیں بڑے بلکہ اعتبار تین منزلوں کا ہے اور خشکی میں میل کے حساب سے اس کی مقدار ۵۷ $\frac{3}{8}$ میل ہے۔⁽³⁾ (فتاویٰ رضویہ)

مسئلہ ۴ کسی جگہ جانے کے دو راستے ہیں ایک سے مسافت سفر ہے دوسرے سے نہیں تو جس راستہ سے یہ جائے گا اس کا اعتبار ہے، نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں اور دور والے سے گیا تو ہے، اگرچہ اس راستہ کے اختیار کرنے میں

1..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۸.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۴.

2..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۵.

3..... بہار شریعت کے مطبوعہ نسخوں میں فتاویٰ رضویہ کے حوالے سے ۵۷ $\frac{3}{8}$ میل مرقوم ہے، یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ "فتاویٰ رضویہ" (جدید)، ج ۸، ص ۲۷۰، اور "فتاویٰ رضویہ" (قدیم)، ج ۳، ص ۶۶۹، میں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ساڑھے ستاون (۱ $\frac{1}{4}$) میل لکھا ہے۔

فقیر اعظم ہند علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی "نزہۃ القاری"، جلد ۲، صفحہ 655 پر فرماتے ہیں: "مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ظاہر مذہب کو اختیار فرما کر تین منزل کی یہ مسافت (ساڑھے ستاون میل) بیان فرمائی ہے۔ "جدالممتاز" میں لکھتے ہیں:

والمعتاد المعهود فی بلادنا أن کل مرحلة ۱۲ کوس، وقد جربت مرارا کثیرة بمواضع شهيرة أن الميل الرابع فی بلادنا خمسة أثمان کوس المعتبر ههنا، فإذا ضربت الاکواس فی ۸، وقسم الحاصل علی ۵ کانت أمیال رحلة واحدة ۱۹-۱/۵، وأمیال مسيرة ثلاثة أيام ۵۷-۳/۵ أعنی ۵۷-۶.

(جدالممتاز، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۱، ص ۳۵۹.)

ہمارے بلاد میں معتاد و معهود یہ ہے کہ ہر منزل بارہ کوس کی ہوتی ہے میں نے بار بار بکثرت مشہور جگہوں میں آزما یا ہے کہ اس وقت ہمارے بلاد میں جو میل رائج ہے۔ وہ $\frac{5}{8}$ کوس جب کوسوں کو ۸ میں ضرب دیں اور حاصل ضرب کو ۵ پر تقسیم کریں تو حاصل قسمت میل ہوگا، اب ایک منزل ۱۹ $\frac{1}{5}$ میل کی ہوئی اور تین دن کی مسافت ۵۷ $\frac{3}{5}$ میل یعنی ۵۷-۶ میل۔

("نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری"، ابواب تقصیر الصلوٰۃ، ج ۲، ص ۶۶۵.)

اس کی کوئی غرض صحیح نہ ہو۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - کسی جگہ جانے کے دو راستے ہیں، ایک دریا کا دوسرا خشکی کا ان میں ایک دو دن کا ہے دوسرا تین دن کا، تین دن والے سے جائے تو مسافر ہے ورنہ نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ - تین دن کی راہ کو تیز سواری پر دو دن یا کم میں طے کرے تو مسافر ہی ہے اور تین دن سے کم کے راستہ کو زیادہ دنوں میں طے کیا تو مسافر نہیں۔⁽³⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۷ - تین دن کی راہ کو کسی ولی نے اپنی کرامت سے بہت تھوڑے زمانہ میں طے کیا تو ظاہر یہی ہے کہ مسافر کے احکام اس کے لیے ثابت ہوں مگر امام ابن ہمام نے اس کا مسافر ہونا مستبعد فرمایا۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی باہر ہو جائے۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - فنائے شہر سے جو گاؤں متصل ہے شہر والے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہو جانا ضرور نہیں۔ یو ہیں شہر کے متصل باغ ہوں اگرچہ ان کے نگہبان اور کام کرنے والے ان میں رہتے ہوں ان باغوں سے نکل جانا ضروری نہیں۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ - فنائے شہر یعنی شہر سے باہر جو جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہو مثلاً قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، کوڑا پھینکنے کی جگہ اگر یہ شہر سے متصل ہو تو اس سے باہر ہو جانا ضروری ہے۔ اور اگر شہر و فناء کے درمیان فاصلہ ہو تو نہیں۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

- 1..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۸.
- و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۶.
- 2..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۸.
- 3..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۹.
- و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۶.
- 4..... "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۶.
- 5..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۲.
- 6..... "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۲.
- 7..... المرجع السابق.

مسئلہ ۱۱ آبادی سے باہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جدھر جا رہا ہے اس طرف آبادی ختم ہو جائے اگرچہ اس کی محاذات میں دوسری طرف ختم نہ ہوئی ہو۔^(۱) (غنیہ)

مسئلہ ۱۲ کوئی محلہ پہلے شہر سے ملا ہوا تھا مگر اب جدا ہو گیا تو اس سے باہر ہونا بھی ضروری ہے اور جو محلہ ویران ہو گیا خواہ شہر سے پہلے متصل تھا یا اب بھی متصل ہے اس سے باہر ہونا شرط نہیں۔^(۲) (غنیہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ اسٹیشن جہاں آبادی سے باہر ہوں تو اسٹیشن پر پہنچنے سے مسافر ہو جائے گا جبکہ مسافت سفر تک جانے کا ارادہ ہو۔

مسئلہ ۱۴ سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے تین دن کی راہ کا ارادہ ہو اور اگر دو دن کی راہ کے ارادہ سے نکلا وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بھی تین دن سے کم کا راستہ ہے، یوں ساری دنیا گھوم آئے مسافر نہیں۔^(۳) (غنیہ، درمختار)

مسئلہ ۱۵ یہ بھی شرط ہے کہ تین دن کا ارادہ متصل سفر کا ہو، اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلاً دو دن کی راہ پر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے وہ کر کے پھر ایک دن کی راہ جاؤں گا تو یہ تین دن کی راہ کا متصل ارادہ نہ ہو مسافر نہ ہو۔^(۴) (فتاویٰ رضویہ)

مسئلہ ۱۶ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے یعنی چار رکعت والے فرض کو دو پڑھے اس کے حق میں دو ہی رکعتیں پوری نماز ہے اور قصد چار پڑھیں اور دو پر قعدہ کیا تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی دو رکعتیں نفل ہوئیں مگر گنہگار و مستحق نارہوا کہ واجب ترک کیا لہذا توبہ کرے اور دو رکعت پر قعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی ہاں اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پیشتر اقامت کی نیت کر لی تو فرض باطل نہ ہوں گے مگر قیام و رکوع کا اعادہ کرنا ہوگا اور اگر تیسری کے سجدہ میں نیت کی توبہ فرض جاتے رہے، یوں اگر پہلی دونوں یا ایک میں قراءت نہ کی نماز فاسد ہو گئی۔^(۵) (ہدایہ، عالمگیری، درمختار وغیرہا)

① "غنیة المتعملي"، فصل في صلاة المسافر، ص ۵۳۶.

② المرجع السابق، و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۳.

③ "غنیة المتعملي"، فصل في صلاة المسافر، ص ۵۳۷.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۳، ۷۲۴.

④ "الفتاوى الرضوية"، ج ۸، ص ۲۷۰.

⑤ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۹.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۳.

و "الهداية"، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۱، ص ۸۰.

مسئلہ ۱۷ - یہ رخصت کہ مسافر کے لیے ہے، مطلق ہے اس کا سفر جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کے لیے بہر حال مسافر کے احکام اس کے لیے ثابت ہوں گے۔^(۱) (عامہ کتب)

مسئلہ ۱۸ - کافر تین دن کی راہ کے ارادہ سے نکلا دو دن کے بعد مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے قصر ہے اور نابالغ تین دن کی راہ کے قصد سے نکلا اور راستہ میں بالغ ہو گیا، اب سے جہاں جانا ہے تین دن کی راہ نہ ہو تو پوری پڑھے حیض والی پاک ہوئی اور اب سے تین دن کی راہ نہ ہو تو پوری پڑھے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۱۹ - بادشاہ نے رعایا کی تفتیش حال کے لیے ملک میں سفر کیا تو قصر نہ کرے جبکہ پہلا ارادہ متصل تین منزل کا نہ ہو اور اگر کسی اور غرض کے لیے ہو اور مسافت سفر ہو تو قصر کرے۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ - سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں گی البتہ خوف اور رواروی^(۴) کی حالت میں معاف ہیں اور امن کی حالت میں پڑھی جائیں۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ - مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے یا آبادی میں پورے پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، یہ اس وقت ہے جب تین دن کی راہ چل چکا ہو اور اگر تین منزل پہنچنے سے پیشتر واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا اگرچہ جنگل میں ہو۔^(۶) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۲ - نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے چھ شرطیں ہیں:

- (۱) چلنا ترک کرے اگر چلنے کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں۔
- (۲) وہ جگہ اقامت کی صلاحیت رکھتی ہو جنگل یا دریا غیر آباد ٹائپ میں اقامت کی نیت کی مقیم نہ ہو۔
- (۳) پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت ہو اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے مقیم نہ ہوگا۔
- (۴) یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو اگر دو موضوعوں میں پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، مثلاً ایک میں دس دن دوسرے میں پانچ دن کا تو مقیم نہ ہوگا۔

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۹.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۴۶.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب فی الوطن الأصلي... إلخ، ج ۲، ص ۷۴۵.

④ یعنی جلدی۔

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۹.

⑥ المرجع السابق، و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۸.

(۵) اپنا ارادہ مستقل رکھتا یعنی کسی کا تابع نہ ہو۔

(۶) اس کی حالت اس کے ارادہ کے منافی نہ ہو۔^(۱) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳ مسافر جا رہا ہے اور ابھی شہر یا گاؤں میں پہنچا نہیں اور نیت اقامت کر لی تو مقیم نہ ہو اور پہنچنے کے بعد نیت کی تو ہو گیا اگرچہ ابھی مکان وغیرہ کی تلاش میں پھر رہا ہو۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ مسلمانوں کا لشکر کسی جنگل میں پڑاؤ ڈال دے اور ڈیرہ خیمہ نصب کر کے پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو مقیم نہ ہو اور جو لوگ جنگل میں خیموں میں رہتے ہیں وہ اگر جنگل میں خیمہ ڈال کر پندرہ دن کی نیت سے ٹھہریں مقیم ہو جائیں گے، بشرطیکہ وہاں پانی اور گھاس وغیرہ دستیاب ہوں کہ ان کے لیے جنگل ویسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے شہر اور گاؤں۔^(۳) (ردمختار)

مسئلہ ۲۵ دو جگہ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کی اور دونوں مستقل ہوں جیسے مکہ و منیٰ تو مقیم نہ ہو اور ایک دوسرے کی تابع ہو جیسے شہر اور اس کی فنا تو مقیم ہو گیا۔^(۴) (عالمگیری، ردمختار)

مسئلہ ۲۶ یہ نیت کی کہ ان دو بستیوں میں پندرہ روز ٹھہرے گا ایک جگہ دن میں رہے گا اور دوسری جگہ رات میں تو اگر پہلے وہاں گیا جہاں دن میں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو مقیم نہ ہو اور اگر پہلے وہاں گیا جہاں رات میں رہنے کا قصد ہے تو مقیم ہو گیا، پھر یہاں سے دوسری بستی میں گیا جب بھی مقیم ہے۔^(۵) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ مسافر اگر اپنے ارادہ میں مستقل نہ ہو تو پندرہ دن کی نیت سے مقیم نہ ہوگا، مثلاً عورت جس کا مہر مہر مہر شوہر کے ذمہ باقی نہ ہو کہ شوہر کی تابع ہے اس کی اپنی نیت بیکار ہے اور غلام غیر مکاتب کہ اپنے مالک کا تابع ہے اور لشکری جس کو بیت المال یا بادشاہ کی طرف سے خوراک ملتی ہے کہ یہ اپنے سردار کا تابع ہے اور نوکر کہ یہ اپنے آقا کا تابع ہے اور قیدی کہ یہ قید کرنے

- ① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۹۔
و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۳۔
- ② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۸۔
- ③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۹۔
و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۲۔
- ④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۰۔
و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۹۔
- ⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۰۔
و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۰۔

والے کا تابع ہے اور جس مالدار پر تاوان لازم آیا اور شاگرد جس کو استاذ کے یہاں سے کھانا ملتا ہے کہ یہ اپنے استاذ کا تابع ہے اور نیک بیٹا اپنے باپ کا تابع ہے ان سب کی اپنی نیت بے کار ہے بلکہ جن کے تابع ہیں ان کی نیتوں کا اعتبار ہے ان کی نیت اقامت کی ہے تو تابع بھی مقیم ہیں ان کی نیت اقامت کی نہیں تو یہ بھی مسافر ہیں۔⁽¹⁾ (ردالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ عورت کا مہر معجل باقی ہے تو اسے اختیار ہے کہ اپنے نفس کو روک لے لہذا اس وقت تابع نہیں۔ یو ہیں مکاتب غلام کو بغیر مالک کی اجازت کے سفر کا اختیار ہے لہذا تابع نہیں اور جو سپاہی پادشاہ یا بیت المال سے خوراک نہیں لیتا وہ تابع نہیں اور اجیر جو ماہانہ یا برسی پر نوکری نہیں بلکہ روزانہ اس کا مقرر ہے وہ دن بھر کام کرنے کے بعد اجارہ فتح کر سکتا ہے لہذا تابع نہیں اور جس مسلمان کو دشمن نے قید کیا اگر معلوم ہے کہ تین دن کی راہ کو لے جائے گا تو قصر کرے اور معلوم نہ ہو تو اس سے دریافت کرے، جو بتائے اس کے موافق عمل کرے اور نہ بتایا تو اگر معلوم ہے کہ وہ دشمن مقیم ہے تو پوری پڑھے اور مسافر ہے تو قصر کرے اور یہ بھی معلوم نہ ہو سکے تو جب تک تین دن کی راہ طے نہ کر لے، پوری پڑھے اور جس پر تاوان لازم آیا وہ سفر میں تھا اور پکڑا گیا اگر نادار ہے تو قصر کرے اور مالدار ہے اور پندرہ دن کے اندر دینے کا ارادہ ہے یا کچھ ارادہ نہیں جب بھی قصر کرے اور یہ ارادہ ہے کہ نہیں دے گا تو پوری پڑھے۔⁽²⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۲۹ تابع کو چاہیے کہ متبوع⁽³⁾ سے سوال کرے وہ جو کہے اس کے بموجب عمل کرے اور اگر اس نے کچھ نہ بتایا تو دیکھے کہ مقیم ہے یا مسافر اگر مقیم ہے تو اپنے کو مقیم سمجھے اور مسافر ہے تو مسافر اور یہ بھی نہ معلوم، تو تین دن کی راہ طے کرنے کے بعد قصر کرے اس سے پہلے پوری پڑھے۔ اور اگر سوال نہ کرے تو وہی حکم ہے کہ سوال کیا اور کچھ جواب نہ ملا۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ اندھے کے ساتھ کوئی پکڑ کر لے جانے والا ہے اگر یہ اس کا نوکر ہے تو ناپینا کی اپنی نیت کا اعتبار ہے اور اگر محض احسان کے طور پر اس کے ساتھ ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ جو سپاہی سردار کا تابع تھا اور لشکر کو شکست ہوئی اور سب متفرق ہو گئے تو اب تابع نہیں بلکہ اقامت و سفر

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۱.

و "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب فی الوطن الاصلی... إلخ، ج ۲، ص ۷۴۱-۷۴۴.

② "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب فی الوطن الاصلی... إلخ، ج ۲، ص ۷۴۲، وغیرہ.

③ یعنی جس کے تابع ہے۔

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب فی الوطن الاصلی... إلخ، ج ۲، ص ۷۴۳.

⑤ المرجع السابق.

میں خود اس کی اپنی نیت کا لحاظ ہے۔ (۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ - غلام اپنے مالک کے ساتھ سفر میں تھا۔ مالک نے کسی مقیم کے ہاتھ سے بیچ ڈالا اگر نماز میں اسے اس کا علم تھا اور دو پڑھیں تو پھر پڑھے۔ یوں اگر غلام نماز میں تھا اور مالک نے اقامت کی نیت کر لی، اگر جان کر دو پڑھیں تو پھر پڑھے۔ (۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۳ - غلام دو شخصوں میں مشترک ہے اور وہ دونوں سفر میں ہیں ایک نے اقامت کی نیت کی دوسرے نے نہیں تو اگر اس غلام سے خدمت لینے میں باری مقرر ہے تو مقیم کی باری کے دن چار پڑھے اور مسافر کی باری کے دن دو۔ اور باری مقرر نہ ہو تو ہر روز چار پڑھے اور دو رکعت پر قعدہ فرض ہے۔ (۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ - جس نے اقامت کی نیت کی مگر اس کی حالت بتاتی ہے کہ پندرہ دن نہ ٹھہرے گا تو نیت صحیح نہیں، مثلاً حج کرنے گیا اور شروع ذی الحجہ میں پندرہ دن مکہ معظمہ میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو یہ نیت بیکار ہے کہ جب حج کا ارادہ ہے تو عرفات و منیٰ کو ضرور جائے گا پھر اتنے دنوں مکہ معظمہ میں کیونکر ٹھہر سکتا ہے اور منیٰ سے واپس ہو کر نیت کرے تو صحیح ہے۔ (۴) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳۵ - جو شخص کہیں گیا اور وہاں پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں مگر قافلہ کیساتھ جانے کا ارادہ ہے اور یہ معلوم ہے کہ قافلہ پندرہ دن کے بعد جائے گا تو وہ مقیم ہے اگرچہ اقامت کی نیت نہیں۔ (۵) (درمختار)

مسئلہ ۳۶ - مسافر کسی کام کے لیے یا ساتھیوں کے انتظار میں دو چار روز یا تیرہ چودہ دن کی نیت سے ٹھہرایا یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جائے گا اور دونوں صورتوں میں اگر آجکل آجکل کرتے برسیں گزر جائیں جب مسافر ہی ہے، نماز قصر پڑھے۔ (۶) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۳۷ - مسلمانوں کا لشکر دار الحرب کو گیا یا دار الحرب میں کسی قلعہ کا محاصرہ کیا تو مسافر ہی ہے اگرچہ پندرہ دن کی

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب في الوطن الأصلي... إلخ، ج ۲، ص ۷۴۴.

② المرجع السابق.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۱.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۰.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۹.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۹.

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۳۹، وغیرہ.

نیت کر لی ہو اگر چہ ظاہر غلبہ ہو۔ یوہیں اگر دارالاسلام میں باغیوں کا محاصرہ کیا ہو تو مقیم نہیں اور جو شخص دارالحرب میں امان لے کر گیا اور پندرہ دن کی اقامت کی نیت کی تو چار پڑھے۔⁽¹⁾ (غنیہ، درمختار)

مسئلہ ۳۸ دارالحرب کا رہنے والا وہیں مسلمان ہو گیا اور کفار اس کے مار ڈالنے کی فکر میں ہوئے وہ وہاں سے تین دن کی راہ کا ارادہ کر کے بھاگا تو نماز قصر کرے اور اگر کہیں دو ایک ماہ کے ارادہ سے چھپ گیا جب بھی قصر پڑھے اور اگر اسی شہر میں چھپا تو پوری پڑھے اور اگر مسلمان دارالحرب میں قید تھا وہاں سے بھاگ کر کسی غار میں چھپا تو قصر پڑھے اگر چہ پندرہ دن کا ارادہ ہو اور اگر دارالحرب کے کسی شہر کے تمام رہنے والے مسلمان ہو جائیں اور حربیوں نے ان سے لڑنا چاہا تو وہ سب مقیم ہی ہیں۔ یوہیں اگر کفار ان کے شہر پر غالب آئے اور یہ لوگ شہر چھوڑ کر ایک دن کی راہ کے ارادہ سے چلے گئے جب بھی مقیم ہیں اور تین دن کی راہ کا ارادہ ہو تو مسافر پھر اگر واپس آئے اور کفار نے ان کے شہر پر قبضہ نہ کیا ہو تو مقیم ہو گئے اور اگر مشرکوں کا شہر پر تسلط ہو گیا اور وہاں رہے بھی مگر مسلمانوں کے واپس آنے پر چھوڑ دیا تو اگر یہ لوگ وہاں رہنا چاہیں تو دارالاسلام ہو گیا، نمازیں پوری کریں اور اگر وہاں رہنے کا ارادہ نہیں بلکہ صرف ایک آدھ مہینہ رہ کر دارالاسلام کو چلے جائیں گے تو قصر کریں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ مسلمانوں کا لشکر دارالحرب میں گیا اور غالب آیا اور اس شہر کو دارالاسلام بنایا تو قصر نہ کریں اور اگر محض دو ایک ماہ رہنے کا ارادہ ہے تو قصر کریں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴۰ مسافر نے نماز کے اندر اقامت کی نیت کی تو یہ نماز بھی پوری پڑھے اور اگر یہ صورت ہوئی کہ ایک رکعت پڑھی تھی کہ وقت ختم ہو گیا اور دوسری میں اقامت کی نیت کی تو یہ نماز دو ہی رکعت پڑھے اس کے بعد کی چار پڑھے۔ یوہیں اگر مسافر لاحق تھا اور امام بھی مسافر تھا امام کے سلام کے بعد نیت اقامت کی تو دو ہی پڑھے اور امام کے سلام سے پیشتر نیت کی تو چار پڑھے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴۱ ادا و قضا دونوں میں مقیم مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے اور امام کے سلام کے بعد اپنی باقی دور کعتیں پڑھ لے اور ان رکعتوں میں قراءت بالکل نہ کرے بلکہ بقدر فاتحہ چپ کھڑا رہے۔⁽⁵⁾ (درمختار وغیرہ)

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۱.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۰.

③ المرجع السابق.

④ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۲۸.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۵، وغیرہ.

مسئلہ ۳۲ امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم، امام کے سلام سے پہلے مقتدی کھڑا ہو گیا اور سلام سے پہلے امام نے اقامت کی نیت کر لی تو اگر مقتدی نے تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو تو امام کے ساتھ ہو لے، ورنہ نماز جاتی رہی اور تیسری کے سجدہ کے بعد امام نے اقامت کی نیت کی تو متابعت نہ کرے، متابعت کرے گا تو نماز جاتی رہے گی۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۳ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حکم صحت اقتدا کے لیے شرط ہے کہ امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو خواہ نماز شروع کرتے وقت معلوم ہو یا بعد میں، لہذا امام کو چاہیے کہ شروع کرتے وقت اپنا مسافر ہونا ظاہر کر دے اور شروع میں نہ کہا تو بعد نماز کہہ دے کہ اپنی نمازیں پوری کر لو میں مسافر ہوں۔^(۲) (درمختار) اور شروع میں کہہ دیا ہے جب بھی بعد میں کہہ دے کہ جو لوگ اس وقت موجود نہ تھے انہیں بھی معلوم ہو جائے۔

مسئلہ ۳۴ وقت ختم ہونے کے بعد مسافر مقیم کی اقتدا نہیں کر سکتا وقت میں کر سکتا ہے اور اس صورت میں مسافر کے فرض بھی چار ہو گئے یہ حکم چار رکعتی نماز کا ہے اور جن نمازوں میں قصر نہیں ان میں وقت و بعد وقت دونوں صورتوں میں اقتدا کر سکتا ہے وقت میں اقتدا کی تھی نماز پوری کرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا جب بھی اقتدا صحیح ہے۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۵ مسافر نے مقیم کی اقتدا کی اور امام کے مذہب کے موافق وہ نماز قضا ہے اور مقتدی کے مذہب پر ادا، مثلاً امام شافعی المذہب ہے مقتدی حنفی اور ایک مثل کے بعد ظہر کی نماز اس نے اس کے پیچھے پڑھی تو اقتدا صحیح ہے۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ مسافر نے مقیم کے پیچھے شروع کر کے فاسد کر دی تو اب دو ہی پڑھے گا یعنی جبکہ تنہا پڑھے یا کسی مسافر کی اقتدا کرے اور اگر پھر مقیم کی اقتدا کی تو چار پڑھے۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۷ مسافر نے مقیم کی اقتدا کی تو مقتدی پر بھی قعدہ اولیٰ واجب ہو گیا فرض نہ رہا تو اگر امام نے قعدہ نہ کیا نماز فاسد نہ ہوئی اور مقیم نے مسافر کی اقتدا کی تو مقتدی پر بھی قعدہ اولیٰ فرض ہو گیا۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۸ قصر اور پوری پڑھنے میں آخر وقت کا اعتبار ہے جبکہ پڑھ نہ چکا ہو، فرض کرو کسی نے نماز نہ پڑھی تھی اور

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۵.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۵ - ۷۳۶.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۶.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۶.

⑤ المرجع السابق.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۶.

وقت اتنا باقی رہ گیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے اب مسافر ہو گیا تو قصر کرے اور مسافر تھا اس وقت اقامت کی نیت کی تو چار پڑھے۔ (1)
(درمختار)

مسئلہ ۴۹ ظہر کی نماز وقت میں پڑھنے کے بعد سفر کیا اور عصر کی دو پڑھیں پھر کسی ضرورت سے مکان پر واپس آیا اور ابھی عصر کا وقت باقی ہے، اب معلوم ہوا کہ دونوں نمازیں بے وضو ہوئیں تو ظہر کی دو پڑھے اور عصر کی چار اور اگر ظہر و عصر کی پڑھ کر آفتاب ڈوبنے سے پہلے سفر کیا اور معلوم ہوا کہ دونوں نمازیں بے وضو پڑھی تھیں تو ظہر کی چار پڑھے اور عصر کی دو۔ (2)
(عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۵۰ مسافر کو سہو ہوا اور دو رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد نیت اقامت کی اس نماز کے حق میں مقیم نہ ہوا اور سجدہ سہو ساقط ہو گیا اور سجدہ کرنے کے بعد نیت کی تو صحیح ہے اور چار رکعت پڑھنا فرض، اگرچہ ایک ہی سجدہ کے بعد نیت کی۔ (3)
(عالمگیری)

مسئلہ ۵۱ مسافر نے مسافروں کی امامت کی، اثنائے نماز (4) میں امام بے وضو ہوا اور کسی مسافر کو خلیفہ کیا، خلیفہ نے اقامت کی نیت کی تو اس کے پیچھے جو مسافر ہیں ان کی نمازیں دو ہی رکعت رہیں گی۔ یو ہیں اگر مقیم کو خلیفہ کیا جب بھی مقتدی مسافر دو ہی پڑھیں اور اگر امام نے حدث کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو چار پڑھیں۔ (5)
(عالمگیری)

مسئلہ ۵۲ وطن دو قسم ہے۔

(۱) وطن اصلی۔

(۲) وطن اقامت۔

وطن اصلی: وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں سکونت کر لی اور یہ

ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۸.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۱-۱۴۲.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲، ص ۷۳۸.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۱-۱۴۲.

④ یعنی نماز کے دوران۔

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۲.

وطن اقامت: وہ جگہ ہے کہ مسافر نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۳ مسافر نے کہیں شادی کر لی اگرچہ وہاں پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، مقیم ہو گیا اور دو شہروں میں اس کی دو عورتیں رہتی ہوں تو دونوں جگہ پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۴ ایک جگہ آدمی کا وطن اصلی ہے، اب اس نے دوسری جگہ وطن اصلی بنایا اگر پہلی جگہ بال بچے موجود ہوں تو دونوں اصلی ہیں ورنہ پہلا اصلی نہ رہا، خواہ ان دونوں جگہوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو۔⁽³⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۵۵ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے یعنی ایک جگہ پندرہ دن کے ارادہ سے ٹھہرا پھر دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادہ سے ٹھہرا تو پہلی جگہ اب وطن نہ رہی، دونوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو۔ یو ہیں وطن اقامت وطن اصلی و سفر سے باطل ہو جاتا ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۵۶ اگر اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر دوسری جگہ چلا گیا اور پہلی جگہ مکان و اسباب وغیرہ باقی ہیں تو وہ بھی وطن اصلی ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۷ وطن اقامت کے لیے یہ ضرور نہیں کہ تین دن کے سفر کے بعد وہاں اقامت کی ہو بلکہ اگر مدت سفر طے کرنے سے پیشتر اقامت کر لی وطن اقامت ہو گیا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۵۸ بالغ کے والدین کسی شہر میں رہتے ہیں اور وہ شہر اس کی جائے ولادت نہیں نہ اس کے اہل وہاں ہوں تو وہ جگہ اس کے لیے وطن نہیں۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۹ مسافر جب وطن اصلی میں پہنچ گیا، سفر ختم ہو گیا اگرچہ اقامت کی نیت نہ کی ہو۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶۰ عورت بیاہ کر سُسرال گئی اور یہیں رہنے سہنے لگے تو میکا اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا یعنی اگر سُسرال

۱..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۲.

۲..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب فی الوطن الأصلي... إلخ، ج ۲، ص ۷۳۹.

۳..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب فی الوطن الأصلي و وطن الاقامة، ج ۲، ص ۷۳۹.

۴..... المرجع السابق.

۵..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۲.

۶..... المرجع السابق.

۷..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، مطلب فی الوطن الأصلي... إلخ، ج ۲، ص ۷۳۹.

۸..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ج ۱، ص ۱۴۲.

تین منزل پر ہے وہاں سے میکے آئی اور پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو قصر پڑھے اور اگر میکے رہنا نہیں چھوڑا بلکہ سسرال عارضی طور پر گئی تو میکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا نماز پوری پڑھے۔

مسئلہ ۶۱ عورت کو بغیر محرم کے تین دن یا زیادہ کی راہ جانا ناجائز ہے بلکہ ایک دن کی راہ جانا بھی۔ نابالغ بچہ یا معذور کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی، ہمراہی میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔^(۱) (عالمگیری وغیرہ) محرم کے لیے ضرور ہے کہ سخت فاسق بے باک غیر مامون نہ ہو۔

جمعہ کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲﴾

اے ایمان والو! جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے، تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

فضائل روز جمعہ

حدیث ۲۰۱ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”ہم پچھلے ہیں یعنی دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور قیامت کے دن پہلے سوا اس کے کہ انھیں ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہمیں ان کے بعد یہی جمعہ وہ دن ہے کہ ان پر فرض کیا گیا یعنی یہ کہ اس کی تعظیم کریں وہ اس سے خلاف ہو گئے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دوسرے لوگ ہمارے تابع ہیں، یہود نے دوسرے دن کو وہ دن مقرر کیا یعنی ہفتہ کو اور نصاریٰ نے تیسرے دن کو یعنی اتوار کو۔“^(۳) اور مسلم کی دوسری روایت انھیں سے اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے، فرماتے ہیں: ”ہم اہل دنیا سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن پہلے کہ

① ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الصلاۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، ج ۱، ص ۱۴۲.

و ”الفتاویٰ الرضویۃ“، ج ۱۰، ص ۶۵۷.

② پ ۲۸، الجمعة: ۹.

③ ”صحیح البخاری“، کتاب الجمعة، باب فرض الجمعة... إلخ، الحدیث: ۸۷۶، ج ۱، ص ۳۰۳.

تمام مخلوق سے پہلے ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔“ (1)

حدیث ۳ مسلم و ابوداؤد و ترمذی و نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا، جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پیدا کیے گئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں جنت سے اترنے کا انھیں حکم ہوا۔ اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔“ (2)

حدیث ۵ و ۳ ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ و بیہقی اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انتقال کیا اور اسی میں نوحہ ہے (دوسری بار صور پھونکا جانا) اور اسی میں صعدہ ہے (پہلی بار صور پھونکا جانا)، اس دن میں مجھ پر دُرود کی کثرت کرو کہ تمہارا دُرود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔“ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! اس وقت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر ہمارا دُرود کیونکر پیش کیا جائے گا، جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) انتقال فرما چکے ہوں گے؟ فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔“ (3) اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، کہ فرماتے ہیں: ”جمعہ کے دن مجھ پر دُرود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو دُرود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: میں نے عرض کی اور موت کے بعد؟ فرمایا: بے شک! اللہ (عزوجل) نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔“ (4)

حدیث ۷ و ۶ ابن ماجہ ابولبابہ بن عبدالمزہر اور احمد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک عید اضحیٰ و عید الفطر سے بڑا ہے، اس میں پانچ خصلتیں ہیں۔“

(۱) اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔

(۲) اور اسی میں زمین پر انھیں اتارا۔

(۳) اور اسی میں انھیں وفات دی۔

① ”صحیح مسلم“، کتاب الجمعة، باب ہدایۃ هذه الأمة لیوم الجمعة، الحدیث: ۸۵۶، ص ۴۲۶.

② ”صحیح مسلم“، کتاب الجمعة، باب فضل یوم الجمعة، الحدیث: ۱۸- (۸۵۴)، ص ۴۲۵.

③ ”سنن النسائی“، کتاب الجمعة، باب اکتثار الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة، الحدیث: ۱۳۷۱،

ص ۲۳۷.

④ ”سنن ابن ماجہ“، أبواب ماجاء فی الجنائز، باب ذکر وفاته و دفنه صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث: ۱۶۳۷، ج ۲، ص ۲۹۱.

(۴) اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا، جب تک حرام کا

سوال نہ کرے۔

(۵) اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی فرشتہ مقرب و آسمان وزمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ

کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔“ (۱)

جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے

خلاصہ ۱۰۲۸ بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے گا۔“ اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ”وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔“ (۲) رہا یہ کہ وہ کون سا وقت ہے اس میں روایتیں بہت ہیں ان میں دو قوی ہیں ایک یہ کہ امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک ہے۔ (۳) اس حدیث کو مسلم ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے وہ اپنے والد سے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ ”وہ جمعہ کی کچھلی ساعت ہے۔“ امام مالک و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، وہ کہتے ہیں: میں کوہ طور کی طرف گیا اور کعب احبار سے ملا ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھے تورات کی روایتیں سنائیں اور میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کیں، ان میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انھیں اترنے کا حکم ہوا اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا اور اسی میں قیامت قائم ہوگی اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو۔“ اور جن کے اور اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پالے تو اللہ تعالیٰ سے جس شے کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ کعب نے کہا سال میں ایسا ایک دن ہے؟ میں نے کہا بلکہ ہر جمعہ میں ہے، کعب نے تورات پڑھ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کعب احبار کی مجلس

① ”سنن ابن ماجہ“، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب في فضل الجمعة، الحديث: ۱۰۸۴، ج ۲، ص ۸.

② ”صحیح مسلم“، کتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث: ۱۵- (۸۵۲)، ص ۴۲۴.

و ”مرقاۃ المفاتیح“، کتاب الصلاة، باب الجمعة، تحت الحديث: ۱۳۵۷، ج ۳، ص ۴۴۵.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث: ۸۵۳، ص ۴۲۴.

اور جمعہ کے بارے میں جو حدیث بیان کی تھی اس کا ذکر کیا اور یہ کہ کعب نے کہا تھا، یہ ہر سال میں ایک دن ہے، عبد اللہ بن سلام نے کہا کعب نے غلط کہا، میں نے کہا پھر کعب نے تورات پڑھ کر کہا بلکہ وہ ساعت ہر جمعہ میں ہے، کہا کعب نے سچ کہا، پھر عبد اللہ بن سلام نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی ساعت ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ اور نخل نہ کرو، کہا جمعہ کے دن کی چھلی ساعت ہے، میں نے کہا چھلی ساعت کیسے ہو سکتی ہے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے تو فرمایا ہے مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہیں اسے پائے اور وہ نماز کا وقت نہیں، عبد اللہ بن سلام نے کہا، کیا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو کسی مجلس میں انتظار نماز میں بیٹھے وہ نماز میں ہے میں نے کہا ہاں، فرمایا تو ہے کہا تو وہ یہی ہے یعنی نماز پڑھنے سے نماز کا انتظار مراد ہے۔ (1)

حدیث ۱۱ — ترمذی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے، اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔“ (2)

حدیث ۱۲ — طبرانی اوسط میں بسند حسن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بے مغفرت کیسے نہ چھوڑے گا۔“ (3)

حدیث ۱۳ — ابو یعلیٰ انہیں سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹا ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے چھلا کھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔“ (4)

جمعہ کے دن یا رات میں مرنے کے فضائل

حدیث ۱۴ — احمد و ترمذی عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچالے گا۔“ (5)

حدیث ۱۵ — ابو نعیم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، عذاب قبر سے بچالیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔“ (6)

- ① ”الموطأ“ لإمام مالك، كتاب الجمعة، باب ماجاء في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث: ۲۴۶، ج ۱، ص ۱۱۵.
- ② ”جامع الترمذی“، أبواب الجمعة، باب ماجاء في الساعة... إلخ، الحديث: ۴۸۹، ج ۲، ص ۳۰.
- ③ ”المعجم الأوسط“، باب العين، الحديث: ۴۸۱۷، ج ۳، ص ۳۵۱.
- ④ ”مسند أبي يعلى“، مسند انس بن مالك، الحديث: ۳۴۲۱، ۳۴۷۱، ج ۳، ص ۲۱۹، ۲۳۵.
- ⑤ ”جامع الترمذی“، أبواب الجنائز، باب ماجاء فيمن يموت يوم الجمعة، الحديث: ۱۰۷۶، ج ۲، ص ۳۳۹.
- ⑥ ”حلیة الأولیاء“، رقم: ۳۶۲۹، ج ۳، ص ۱۸۱.

حدیث ۱۶ — حمید نے ترغیب میں ایسا بن بکیر سے روایت کی، کہ فرماتے ہیں: ”جو مُجْتَمَعِ کے دن مرے گا، اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور قنۃ قبر سے بچا لیا جائے گا۔“ (1)

حدیث ۱۷ — عطا سے مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت مُجْتَمَعِ کے دن یا مُجْتَمَعِ کی رات میں مرے، عذابِ قبر اور قنۃ قبر سے بچا لیا جائے گا اور خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی۔“ (2)

حدیث ۱۸ — بیہقی کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”مُجْتَمَعِ کی رات روشن رات ہے اور مُجْتَمَعِ کا دن چمکدار دن۔“ (3)

حدیث ۱۹ — ترمذی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (4)

آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔

ان کی خدمت میں ایک یہودی حاضر تھا، اس نے کہا یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: یہ آیت دو عیدوں کے دن اُتری مُجْتَمَعِ اور عرفہ کے دن یعنی ہمیں اس دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ عزوجل نے جس دن یہ آیت اتاری اس دن دوہری عید تھی کہ مُجْتَمَعِ و عرفہ یہ دونوں دن مسلمانوں کے عید کے ہیں اور اس دن یہ دونوں جمع تھے کہ مُجْتَمَعِ کا دن تھا اور نویں ذی الحجہ۔ (5)

فضائل نماز جمعہ

حدیث ۲۰ — مسلم و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مُجْتَمَعِ کو آیا اور (خطبہ) سنا اور چپ رہا اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی ان گناہوں کی جو اس مُجْتَمَعِ اور دوسرے مُجْتَمَعِ کے درمیان ہیں اور تین دن اور۔ اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا

① ”شرح الصدور“، للسیوطی، باب من لا یستل فی القبر، ص ۱۵۱.

② ”شرح الصدور“، للسیوطی، باب من لا یستل فی القبر، ص ۱۵۱.

③ ”مشکاۃ المصابیح“، کتاب الصلاة، باب الجمعة، الحدیث: ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۳۹۳.

④ پ ۶، المائدة: ۳.

⑤ ”جامع الترمذی“، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة المائدة، الحدیث: ۳۰۵۵، ج ۵، ص ۳۳.

کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو اسے ہٹا دے۔“ (1)

حدیث ۲۱ طبرانی کی روایت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”مُحْتَجُّ کَفَّارہ ہے ان گناہوں کے لیے جو اس مُحْتَجُّ اور اس کے بعد والے مُحْتَجُّ کے درمیان ہیں اور تین دن زیادہ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”جو ایک نیکی کرے، اس کے لیے دس مثل ہے۔“ (2)

حدیث ۲۲ ابن حبان اپنی صحیح میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”پانچ چیزیں جو ایک دن میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔

(۱) جو مریض کو پوچھنے جائے اور

(۲) جنازے میں حاضر ہو اور

(۳) روزہ رکھے اور

(۴) مُحْتَجُّ کو جائے اور

(۵) غلام آزاد کرے۔“ (3)

حدیث ۲۳ ترمذی بافادۃ تصحیح و تحسین راوی، کہ یزید بن ابی مریم کہتے ہیں: میں مُحْتَجُّ کو جاتا تھا، عبایہ بن رفاعہ بن رافع ملے، انہوں نے کہا: تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ کی راہ میں ہیں، میں نے ابو عبس کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کے قدم اللہ (عزوجل) کی راہ میں گرد آلود ہوں وہ آگ پر حرام ہیں۔“ (4) اور بخاری کی روایت میں یوں ہے، کہ عبایہ کہتے ہیں: میں مُحْتَجُّ کو جا رہا تھا، ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا ارشاد سنایا۔ (5)

جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں

حدیث ۲۶۴۲۳ مسلم ابو ہریرہ و ابن عمر سے اور نسائی و ابن ماجہ ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”لوگ مُحْتَجُّ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ انکے دلوں پر مہر کر دے گا پھر

① ”صحیح مسلم“، کتاب الجمعة، باب فضل من استمع و أنصت في الخطبة، الحديث: ۲۷- (۸۵۷)، ص ۴۲۷.

② ”المعجم الكبير“، الحديث: ۳۴۵۹، ج ۳، ص ۲۹۸.

③ ”الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان“، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، الحديث: ۲۷۶۰، ج ۴، ص ۱۹۱.

④ ”جامع الترمذي“، أبواب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل من اغبرت قدماء... إلخ، الحديث: ۱۶۳۸، ج ۳، ص ۲۳۵.

⑤ ”صحیح البخاری“، کتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، الحديث: ۹۰۷، ج ۱، ص ۳۱۳.

عافلین میں ہو جائیں گے۔“ (1)

حدیث ۳۱۲۷ فرماتے ہیں: ”جو تین جمعے سُستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔“ (2) اس کو ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی و ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم ابو الجعد ضمری سے اور امام مالک نے صفوان بن سلیم سے اور امام احمد نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے اور حاکم نے کہا صحیح بر شرط مسلم ہے اور ابن خزیمہ و حبان کی ایک روایت میں ہے، ”جو تین جمعے بلا عذر چھوڑے، وہ منافق ہے۔“ (3) اور زرین کی روایت میں ہے، ”وہ اللہ (عزوجل) سے بے علاقہ ہے۔“ (4) اور طبرانی کی روایت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ”وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔“ (5) اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، وہ منافق لکھ دیا گیا اس کتاب میں جو نہ محو ہونہ بدلی جائے، (6) اور ایک روایت میں ہے، ”جو تین جمعے پے در پے چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔“ (7) اس کو ابو یعلیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند صحیح روایت کیا۔

حدیث ۳۲ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جو بغیر عذر مجتہد چھوڑے، ایک دینار صدقہ دے اور اگر نہ پائے تو آدھا دینار اور یہ دینار تصدق کرنا شاید اس لیے ہو کہ قبول توبہ کے لیے معین ہو ورنہ حقیقہً توبہ کرنا فرض ہے۔“ (8)

حدیث ۳۳ صحیح مسلم شریف میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”میں نے قصد کیا کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور جو لوگ مجتہد سے پیچھے رہ گئے، ان کے گھروں کو جلا دوں۔“ (9)

حدیث ۳۳ ابن ماجہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا اور فرمایا: ”اے لوگو! مرنے سے پہلے اللہ (عزوجل) کی طرف توبہ کرو اور مشغول ہونے سے پہلے نیک کاموں کی طرف سبقت کرو

- 1..... ”صحیح مسلم“، کتاب الجمعة، باب التغلیظ فی ترک الجمعة، الحدیث: ۸۶۵، ص ۴۳۰.
- 2..... ”جامع الترمذی“، أبواب الجمعة، باب ماجاء فی ترک الجمعة... إلخ، الحدیث: ۵۰۰، ج ۲، ص ۳۸.
- 3..... ”الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان“، کتاب الإیمان، باب ماجاء فی الشرك والنفاق، الحدیث: ۲۵۸، ج ۱، ص ۲۳۷.
- 4..... ”الترغیب و الترہیب“، کتاب الجمعة، الترہیب من ترک الجمعة بغیر عذر، الحدیث: ۳، ج ۱، ص ۲۹۵.
- 5..... ”المعجم الکبیر“، باب الألف، الحدیث: ۴۲۲، ج ۱، ص ۱۷۰.
- 6..... ”المسند“ لإمام الشافعی، ومن کتاب إيجاب الجمعة، ص ۷۰.
- 7..... ”مسند أبي يعلى“، مسند ابن عباس، الحدیث: ۲۷۰۴، ج ۲، ص ۵۵۳.
- 8..... ”سنن أبي داود“، کتاب الصلاة، باب كفارة من تركها، الحدیث: ۱۰۵۳، ج ۱، ص ۳۹۳.
- 9..... ”صحیح مسلم“، کتاب المساجد... إلخ، باب فضل صلاة الجمعة... إلخ، الحدیث: ۶۵۲، ص ۳۲۷.

اور یادِ خدا کی کثرت اور ظاہر و پوشیدہ صدقہ کی کثرت سے جو تعلقات تمہارے اور تمہارے رب (عزوجل) کے درمیان ہیں ملاؤ۔ ایسا کرو گے تو تمہیں روزی دی جائے گی اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری شکستگی دور فرمائی جائے گی اور جان لو کہ اس جگہ اس دن اس سال میں قیامت تک کے لیے اللہ (عزوجل) نے تم پر مجتہ فرض کیا، جو شخص میری حیات میں یا میرے بعد ہلکا جان کر اور بطور انکار مجتہ چھوڑے اور اس کے لیے کوئی امام یعنی حاکم اسلام ہو عادل یا ظالم تو اللہ تعالیٰ نہ اس کی پراگندگی کو جمع فرمائے گا، نہ اس کے کام میں برکت دے گا، آگاہ اس کے لیے نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزہ، نہ نیکی جب تک توبہ نہ کرے اور جو توبہ کرے اللہ (عزوجل) اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔“ (1)

حدیث ۳۵ دارقطنی انھیں سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو اللہ (عزوجل) اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اس پر مجتہ کے دن (نماز) مجتہ فرض ہے مگر مریض یا مسافر یا عورت یا بچہ یا غلام پر اور جو شخص کھیل یا تجارت میں مشغول رہا تو اللہ (عزوجل) اس سے بے پرواہ ہے اور اللہ (عزوجل) غنی حمید ہے۔“ (2)

جمعہ کے دن نہانے اور خوشبو لگانے کا بیان

حدیث ۳۸۴۳۶ صحیح بخاری میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو شخص مجتہ کے دن نہائے اور جس طہارت کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انھیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس مجتہ اور دوسرے مجتہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔“ (3) اور اسی کے قریب قریب ابوسعید خدری و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی متعدد طرق سے روایتیں آئیں۔

حدیث ۳۰۰۳۹ احمد ابوداؤد و ترمذی باقادہ تحسین و نسائی و ابن ماجہ و ابن خزمیہ و ابن حبان و حاکم باقادہ تصحیح اوس بن اوس اور طبرانی اوسط میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو نہلائے اور نہائے اور اول وقت آئے اور شروع خطبہ میں شریک ہو اور چل کر آئے سواری پر نہ آئے اور امام سے قریب ہو اور کان لگا کر خطبہ سنے اور لغو کام نہ کرے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کا عمل ہے، ایک سال کے دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام کا اس

① ”سنن ابن ماجہ“، أبواب إقامة الصلوات و السنة فیہا، باب فی فرض الجمعة، الحدیث: ۱۰۸۱، ج ۲، ص ۵.

② ”سنن الدار قطنی“، کتاب الجمعة، باب من تحب علیہ الجمعة، الحدیث: ۱۵۶۰، ج ۲، ص ۳.

③ ”صحیح البخاری“، کتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، الحدیث: ۸۸۳، ج ۱، ص ۳۰۶.

کے لیے اجر ہے۔“ (1) اور اسی کے مثل دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایتیں ہیں۔

حدیث ۳۱ بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”ہر مسلمان پر سات دن

میں ایک دن غسل ہے کہ اس دن میں سردھوئے اور بدن۔“ (2)

حدیث ۳۲ احمد و ابوداؤد و ترمذی و نسائی و دارمی و سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں: ”جس نے

مُحْتَجِّہ کے دن وضو کیا، فیہا اور اچھا ہے اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔“ (3)

حدیث ۳۳ ابوداؤد و عکرمہ سے راوی، کہ عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا

کہ مُحْتَجِّہ کے دن آپ غسل واجب جانتے ہیں؟ فرمایا نہ، ہاں یہ زیادہ طہارت ہے اور جو نہائے اس کے لیے بہتر ہے اور جو غسل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں۔“ (4)

حدیث ۳۴ ابن ماجہ بسند حسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”اس

دن کو اللہ (عزوجل) نے مسلمانوں کے لیے عید کیا تو جو مُحْتَجِّہ کو آئے وہ نہائے اور اگر خوشبو ہو تو لگائے۔“ (5)

حدیث ۳۵ احمد و ترمذی بسند حسن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں:

”مسلمان پر حق ہے کہ مُحْتَجِّہ کے دن نہائے اور گھر میں جو خوشبو ہو لگائے اور خوشبو نہ پائے تو پانی (6) یعنی نہانا بجائے خوشبو ہے۔“

حدیث ۳۶ و ۳۷ طبرانی کبیر و اوسط میں صدیق اکبر و عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی، کہ فرماتے ہیں:

”جو مُحْتَجِّہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹادی جاتی ہیں اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر بیس نیکیاں لکھی جاتی

ہیں۔“ (7) اور دوسری روایت میں ہے، ”ہر قدم پر بیس سال کا عمل لکھا جاتا ہے اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے دو سو برس

کے عمل کا اجر ملتا ہے۔“ (8)

① ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث اوس بن ابی اوس الثقفی، الحدیث: ۱۶۱۷۳، ج ۵، ص ۴۶۵.

② ”صحیح البخاری“، کتاب الجمعة، باب هل علی من لم یشہد الجمعة غسل... إلخ، الحدیث: ۸۹۷، ج ۱، ص ۳۱۰.

③ ”جامع الترمذی“، أبواب الجمعة، باب ماجاء فی الوضوء یوم الجمعة، الحدیث: ۴۹۷، ج ۲، ص ۳۶.

④ ”سنن ابی داؤد“، کتاب الطہارة، باب الرخصة فی ترک الغسل یوم الجمعة، الحدیث: ۳۵۳، ج ۱، ص ۱۶۰.

⑤ ”سنن ابن ماجہ“، أبواب اقامة الصلوات... إلخ، باب ماجاء فی الرینة یوم الجمعة، الحدیث: ۱۰۹۸، ج ۲، ص ۱۶.

⑥ ”جامع الترمذی“، أبواب الجمعة، باب ماجاء فی السواک... إلخ، الحدیث: ۵۲۸، ج ۲، ص ۵۸.

⑦ ”المعجم الکبیر“، الحدیث: ۲۹۲، ج ۱۸، ص ۱۳۹.

⑧ ”المعجم الأوسط“، باب الحیم، الحدیث: ۳۳۹۷، ج ۲، ص ۳۱۴.

حدیث ۳۸ طبرانی کبیر میں بروایت ثقاف ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں: ”مجموعہ کا غسل بال کی جڑوں سے خطائیں کھینچ لیتا ہے۔“ (1)

جمعہ کے لیے اول جانے کا ثواب اور گردن پھلانگنے کی ممانعت

حدیث ۳۹ بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی و مالک و نسائی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جیسے جنابت کا غسل ہے پھر پہلی ساعت میں جائے تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی اور جو دوسری ساعت میں گیا اس نے گائے کی قربانی کی اور جو تیسری ساعت میں گیا اس نے سینگ والے مینڈھے کی قربانی کی اور جو چوتھی ساعت میں گیا گویا اس نے مرغی نیک کام میں خرچ کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا گویا انڈا خرچ کیا، پھر جب امام خطبہ کو نکلا ملنگہ ذکر سننے حاضر ہو جاتے ہیں۔“ (2)

حدیث ۵۲۳۵۰ بخاری و مسلم و ابن ماجہ کی دوسری روایت انھیں سے ہے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور حاضر ہونے والے کو لکھتے ہیں سب میں پہلا پھر اس کے بعد والا، (اس کے بعد وہی ثواب جو اوپر کی روایت میں مذکور ہوئے ذکر کیے) پھر امام جب خطبہ کو نکلا فرشتے اپنے دفتر پلٹ لیتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں۔“ (3) اسی کے مثل سرہ بن جنبد و ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے۔

حدیث ۵۳ امام احمد و طبرانی کی روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ”جب امام خطبہ کو نکلتا ہے تو فرشتے دفتر طے کر لیتے ہیں، کسی نے ان سے کہا، تو جو شخص امام کے نکلنے کے بعد آئے اس کا جمعہ نہ ہوا؟ کہا، ہاں ہوا تو لیکن وہ دفتر میں نہیں لکھا گیا۔“ (4)

حدیث ۵۴ ”جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلائیں اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔“ (5) اس حدیث

1 ”المعجم الکبیر“، الحدیث: ۷۹۹۶، ج ۸، ص ۲۵۶.

2 ”صحیح البخاری“، کتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، الحدیث: ۸۸۱، ج ۱، ص ۳۰۵.

و ”الموطأ“ لإمام مالک، کتاب الجمعة، باب العمل فی غسل یوم الجمعة، الحدیث: ۲۳۰، ج ۱، ص ۱۰۹.

3 ”صحیح البخاری“، کتاب الجمعة، باب الاستماع إلی الخطبة یوم الجمعة، الحدیث: ۹۲۹، ج ۱، ص ۳۱۹.

4 ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث أبی امامة الباهلی، الحدیث: ۲۲۳۳۱، ج ۸، ص ۲۹۷.

5 ”جامع الترمذی“، أبواب الجمعة، باب ماجاء فی کراهیة التخطی یوم الجمعة، الحدیث: ۵۱۳، ج ۲، ص ۴۸.

حدیث میں لفظ اتَّخَذَ جِسْرًا واقع ہوا ہے اس کو معروف و مجهول دونوں طرح پڑھتے ہیں اور یہ ترجمہ معروف کا ہے اور مجهول پڑھیں تو =

کو ترمذی وابن ماجہ معاذ بن انس جہنی سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے اور تمام اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔

حدیث ۵۵ احمد و ابو داؤد و نسائی عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آئے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) خطبہ فرما رہے تھے ارشاد فرمایا: ”بیٹھ جا! تو نے ایذا پہنچائی۔“ (1)

حدیث ۵۶ ابو داؤد و عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں: ”مجموعہ میں تین قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ لغو کے ساتھ حاضر ہوا (یعنی کوئی ایسا کام کیا جس سے ثواب جاتا رہے مثلاً خطبہ کے وقت کلام کیا یا کنکریاں مٹھوئیں) تو اس کا حصہ مجموعہ سے وہی لغو ہے اور ایک وہ شخص کہ اللہ سے دُعا کی تو اگر چاہے دے اور چاہے نہ دے اور ایک وہ کہ سکوت و انصات کے ساتھ حاضر ہوا اور کسی مسلمان کی نہ گردن پھلانگی نہ کسی کو ایذا دی تو مجموعہ اس کے لیے کفارہ ہے، آئندہ مجموعہ اور تین دن زیادہ تک۔“ (2)

مسائل فقہیہ

مجموعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ (3) (در مختار وغیرہ)

مسئلہ ۱ مجموعہ پڑھنے کے لیے چھ شرطیں ہیں کہ ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو تو ہوگا ہی نہیں۔

(۱) مصر یا فنائے مصر

مصر وہ جگہ ہے جس میں متعدد گھوڑے اور بازار ہوں اور وہ ضلع یا پرگنہ (4) ہو کہ اس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں اور وہاں کوئی حاکم ہو کہ اپنے دبدبہ و سطوت کے سبب مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے یعنی انصاف پر قدرت کافی ہے، اگر چہ نا انصافی کرتا اور بدلہ نہ لیتا ہو اور مصر کے آس پاس کی جگہ جو مصر کی مصلحتوں کے لیے ہو اسے ”فنائے مصر“ کہتے ہیں۔ جیسے قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، فوج کے رہنے کی جگہ، کچھریاں، اسٹیشن کہ یہ چیزیں شہر سے باہر ہوں تو فنائے مصر میں

= مطلب یہ ہوگا کہ خود پل بنا دیا جائے گا یعنی جس طرح لوگوں کی گردنیں اس نے پھلانگی ہیں، اس کو قیامت کے دن جہنم میں جانے کا پل بنایا جائے گا کہ اس کے اوپر چڑھ کر لوگ جائیں گے۔ ۱۳

① ”سنن أبي داود“، كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، الحديث: ۱۱۱۸، ج ۱، ص ۴۱۳۔

② ”سنن أبي داود“، كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب، الحديث: ۱۱۱۳، ج ۱، ص ۴۱۱۔

③ ”الدر المختار“، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۵۔ ④ یعنی ضلع کا حصہ۔

ان کا شمار ہے اور وہاں مُجْتَمَعِ جَانِز۔⁽¹⁾ (غنیہ وغیرہا) لہذا مُجْتَمَعِ یا شہر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یا ان کی فنا میں اور گاؤں میں جائِز نہیں۔⁽²⁾ (غنیہ)

مَسْئَلَةُ ۲ - جس شہر پر کفار کا تسلط ہو گیا وہاں بھی مُجْتَمَعِ جَانِز ہے، جب تک دارالاسلام رہے۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مَسْئَلَةُ ۳ - مصر کے لیے حاکم کا وہاں رہنا ضرور ہے، اگر بطور دورہ وہاں آ گیا تو وہ جگہ مصر نہ ہوگی، نہ وہاں مُجْتَمَعِ قائم کیا جائے گا۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مَسْئَلَةُ ۴ - جو جگہ شہر سے قریب ہے مگر شہر کی ضرورتوں کے لیے نہ ہو اور اس کے اور شہر کے درمیان کھیت وغیرہ فاصلہ ہو تو وہاں مُجْتَمَعِ جَانِز نہیں اگرچہ اذان مُجْتَمَعِ کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو۔⁽⁵⁾ (عالمگیری) مگر اکثر آئمہ کہتے ہیں کہ اگر اذان کی آواز پہنچتی ہو تو ان لوگوں پر مُجْتَمَعِ پڑھنا فرض ہے بلکہ بعض نے تو یہ فرمایا کہ اگر شہر سے دور جگہ ہو مگر بلا تکلیف واپس باہر جاسکتا ہو تو مُجْتَمَعِ پڑھنا فرض ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار) لہذا جو لوگ شہر کے قریب گاؤں میں رہتے ہیں انھیں چاہیے کہ شہر میں آ کر مُجْتَمَعِ پڑھ جائیں۔

مَسْئَلَةُ ۵ - گاؤں کا رہنے والے شہر میں آیا اور مُجْتَمَعِ کے دن یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو مُجْتَمَعِ فرض ہے اور اسی دن واپسی کا ارادہ ہو، زوال سے پہلے یا بعد تو فرض نہیں، مگر پڑھے تو مستحق ثواب ہے۔ یوہیں مسافر شہر میں آیا اور نیت اقامت نہ کی تو مُجْتَمَعِ فرض نہیں، گاؤں والا مُجْتَمَعِ کے لیے شہر کو آیا اور کوئی دوسرا کام بھی مقصود ہے تو اس سعی (یعنی مُجْتَمَعِ کے لیے آنے) کا بھی ثواب پائے گا اور مُجْتَمَعِ پڑھا تو مُجْتَمَعِ کا بھی۔⁽⁷⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مَسْئَلَةُ ۶ - حج کے دنوں میں منیٰ میں مُجْتَمَعِ پڑھا جائے گا جبکہ خلیفہ یا امیر حجاز یعنی شریف مکہ وہاں موجود ہو اور امیر موسم یعنی وہ کہ حاجیوں کے لیے حاکم بنایا گیا ہے مُجْتَمَعِ نہیں قائم کر سکتا۔ حج کے علاوہ اور دنوں میں منیٰ میں مُجْتَمَعِ نہیں ہو سکتا اور عرفات

① "غنیة المتملی"، فصل فی صلاة الجمعة، ص ۵۴۹ - ۵۵۱، وغیرہا.

② "غنیة المتملی"، فصل فی صلاة الجمعة، ص ۵۴۹.

③ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی جواز استنابة الخطیب، ج ۳، ص ۱۶.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۷.

⑤ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۵.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۰.

⑦ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۵.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی حکم المرقی بین یدی الخطیب، ج ۳، ص ۴۴.

میں مطلقاً نہیں ہو سکتا، نہ حج کے زمانہ میں، نہ اور دنوں میں۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ شہر میں متعدد جگہ مجمع ہو سکتا ہے، خواہ وہ شہر چھوٹا ہو یا بڑا اور مجمع دو مسجدوں میں ہو یا زیادہ۔ (2)

(درمختار وغیرہ) مگر بلا ضرورت بہت سی جگہ مجمع قائم نہ کیا جائے کہ مجمع شعائر اسلام سے ہے اور جامع جماعات ہے اور بہت سی مسجدوں میں ہونے سے وہ شوکت اسلامی باقی نہیں رہتی جو اجتماع میں ہوتی، نیز دفع حرج کے لیے تعدد جائز رکھا گیا ہے تو خواہ خواہ جماعت پر اگندہ کرنا اور محلہ محلہ مجمع قائم کرنا نہ چاہیے۔ نیز ایک بہت ضروری امر جس کی طرف عوام کو بالکل توجہ نہیں، یہ ہے کہ مجمع کو اور نمازوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ جس نے چاہا نیا مجمع قائم کر لیا اور جس نے چاہا پڑھا دیا یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ مجمع قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے، اس کا بیان آگے آتا ہے اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں جو سب سے بڑا فقیہ سنی صحیح العقیدہ ہو، احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہے، لہذا وہی مجمع قائم کرے بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں، عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو چار شخص کسی کو امام مقرر کر لیں ایسا مجمع کہیں سے ثابت نہیں۔

مسئلہ ۸ ظہر احتیاطی (کہ مجمع کے بعد چار رکعت نماز اس نیت سے کہ سب میں پچھلی ظہر جس کا وقت پایا اور نہ پڑھی) خاص لوگوں کے لیے ہے جن کو فرض مجمع ادا ہونے میں شک نہ ہو اور عوام کہ اگر ظہر احتیاطی پڑھیں تو مجمع کے ادا ہونے میں انھیں شک ہو گا وہ نہ پڑھیں اور اس کی چاروں رکعتیں بھری پڑھی جائیں اور بہتر یہ ہے کہ مجمع کی پچھلی چار سنتیں پڑھ کر ظہر احتیاطی پڑھیں پھر دو سنتیں اور ان چھ سنتوں میں سنت وقت کی نیت کریں۔ (3) (عالمگیری، صغیری، ردالمحتار وغیرہ)

(۲) سلطان اسلام یا اس کا نائب جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا (4)

مسئلہ ۹ سلطان عادل ہو یا ظالم مجمع قائم کر سکتا ہے۔ یوہیں اگر زبردستی بادشاہ بن بیٹھا یعنی شرعاً اس کو حق امامت نہ

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۵.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۱۸، و "الفتاویٰ الرضویہ"، ج ۸، ص ۳۱۲.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۵.

و "صغیری"، فصل فی صلاة الجمعة، ص ۲۷۸، و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی نية آخر ظہر بعد

صلاة الجمعة، ج ۳، ص ۲۱، و "الفتاویٰ الرضویہ"، ج ۸، ص ۲۹۳.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۵.

ہو، مثلاً قرشی نہ ہو یا اور کوئی شرط مفقود ہو تو یہ بھی مجمعہ قائم کر سکتا ہے۔ یوں اگر عورت بادشاہ بن بیٹھی تو اس کے حکم سے مجمعہ قائم ہوگا، یہ خود نہیں قائم کر سکتی۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۱۰ - بادشاہ نے جسے مجمعہ کا امام مقرر کر دیا وہ دوسرے سے بھی پڑھوا سکتا ہے اگرچہ اسے اس کا اختیار نہ دیا ہو کہ دوسرے سے پڑھوادے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۱ - امام مجمعہ کی بلا اجازت کسی نے مجمعہ پڑھایا اگر امام یا وہ شخص جس کے حکم سے مجمعہ قائم ہوتا ہے شریک ہو گیا تو ہو جائے گا ورنہ نہیں۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ - حاکم شہر کا انتقال ہو گیا یا فتنہ کے سبب کہیں چلا گیا اور اس کے خلیفہ (ولی عہد) یا قاضی مازون نے مجمعہ قائم کیا جائز ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۳ - کسی شہر میں بادشاہ اسلام وغیرہ جس کے حکم سے مجمعہ قائم ہوتا ہے نہ ہو تو عام لوگ جسے چاہیں امام بناویں۔ یوں اگر بادشاہ سے اجازت نہ لے سکتے ہوں جب بھی کسی کو مقرر کر سکتے ہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۴ - حاکم شہر نابالغ یا کافر ہے اور اب وہ نابالغ بالغ ہو یا کافر مسلمان ہو تو اب بھی مجمعہ قائم کرنے کا ان کو حق نہیں، البتہ اگر جدید حکم ان کے لیے آیا یا بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ بالغ ہونے یا اسلام لانے کے بعد مجمعہ قائم کرنا تو قائم کر سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ - خطبہ کی اجازت مجمعہ کی اجازت ہے اور مجمعہ کی اجازت خطبہ کی اجازت ہے اگرچہ کہہ دیا ہو کہ خطبہ پڑھنا اور مجمعہ نہ قائم کرنا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ - بادشاہ لوگوں کو مجمعہ قائم کرنے سے منع کر دے تو لوگ خود قائم کر لیں اور اگر اس نے کسی شہر کی شہریت باطل کر دی تو لوگوں کو اب مجمعہ پڑھنے کا اختیار نہیں۔⁽⁸⁾ (ردالمحتار) یہ اس وقت ہے کہ بادشاہ اسلام نے شہریت باطل کی ہو اور

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في صحة الجمعة... إلخ، ج ۳، ص ۹، وغیرہما.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۱۰.

③ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في جواز استنابة الخطيب، ج ۳، ص ۱۴.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۱۴.

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۶.

⑥ المرجع السابق. ⑦ المرجع السابق.

⑧ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في جواز استنابة الخطيب، ج ۳، ص ۱۶.

کافر نے باطل کی تو پڑھیں۔

مسئلہ ۱۷ امامِ جمعہ کو بادشاہ نے معزول کر دیا تو جب تک معزولی کا پروانہ نہ آئے یا خود بادشاہ نہ آئے معزول نہ ہوگا۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ بادشاہ سفر کر کے اپنے ملک کے کسی شہر میں پہنچا تو وہاں مجمعہ خود قائم کر سکتا ہے۔^(۲) (عالمگیری)

(۳) وقتِ ظہر

یعنی وقتِ ظہر میں نماز پوری ہو جائے تو اگر اثنائے نماز میں اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا مجمعہ باطل ہو گیا ظہر کی قضا پڑھیں۔^(۳) (عامہ کتب)

مسئلہ ۱۹ مقتدی نماز میں سو گیا تھا آنکھ اس وقت کھلی کہ امام سلام پھیر چکا ہے تو اگر وقت باقی ہے مجمعہ پورا کر لے ورنہ ظہر کی قضا پڑھے یعنی نئے تحریمہ سے۔^(۴) (عالمگیری وغیرہ) یوں اگر اتنی بھیڑ تھی کہ رکوع و سجود نہ کر سکا یہاں تک کہ امام نے سلام پھیر دیا تو اس میں بھی وہی صورتیں ہیں۔^(۵) (درمختار)

(۴) خطبہ

مسئلہ ۲۰ خطبہ مجمعہ میں شرط یہ ہے، کہ:

(۱) وقت میں ہو اور

(۲) نماز سے پہلے اور

(۳) ایسی جماعت کے سامنے ہو جو مجمعہ کے لیے شرط ہے یعنی کم سے کم خطیب کے سواتین مرد اور

(۴) اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سُن سکیں اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو اگر زوال سے پیشتر خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد

پڑھایا تنہا پڑھایا عورتوں بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں مجمعہ نہ ہو اور اگر بہروں یا سونے والوں کے سامنے پڑھا یا حاضرین دور ہیں کہ سنتے نہیں یا مسافر یا بیماروں کے سامنے پڑھا جو عاقل بالغ مرد ہیں تو ہو جائے گا۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۶.

② المرجع السابق.

③ المرجع السابق.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۶.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۲۱.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی نية آخر ظہر بعد صلاة الجمعة، ج ۳، ص ۲۱.

مسئلہ ۲۱ خطبہ ذکر الہی کا نام ہے اگرچہ صرف ایک بار اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ یا سُبْحٰنَ اللّٰہِ یا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہا اسی قدر سے فرض ادا ہو گیا مگر اتنے ہی پر اکتفا کرنا مکروہ ہے۔^(۱) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۲ چھینک آئی اور اس پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہُ کہا یا تعجب کے طور پر سُبْحٰنَ اللّٰہِ یا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہا تو فرض ادا نہ ہوا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ خطبہ و نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ خطبہ کافی نہیں۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۲۴ سنت یہ ہے کہ دو خطبے پڑھے جائیں اور بڑے بڑے نہ ہوں اگر دونوں مل کر طویل مفصل سے بڑھ جائیں تو مکروہ ہے خصوصاً جاڑوں^(۴) میں۔^(۵) (درمختار، غنیہ)

مسئلہ ۲۵ خطبہ میں یہ چیزیں سنت ہیں:

- (۱) خطیب کا پاک ہونا۔
- (۲) کھڑا ہونا۔
- (۳) خطبہ سے پہلے خطیب کا بیٹھنا۔
- (۴) خطیب کا منبر پر ہونا۔ اور
- (۵) سامعین کی طرف منہ۔ اور
- (۶) قبلہ کو پیٹھ کرنا اور بہتر یہ ہے کہ منبر محراب کی بائیں جانب ہو۔
- (۷) حاضرین کا متوجہ ہونا۔
- (۸) خطبہ سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰہِ آہستہ پڑھنا۔
- (۹) اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں۔
- (۱۰) الحمد سے شروع کرنا۔
- (۱۱) اللہ عزوجل کی ثنا کرنا۔

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۲۲، وغیرہ .

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۶ .

③ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۲۷ .

④ یعنی سردیوں۔

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۲۳ .

(۱۲) اللہ عزوجل کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا۔

(۱۳) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر درود بھیجنا۔

(۱۴) کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا۔

(۱۵) پہلے خطبہ میں وعظ و نصیحت ہونا۔

(۱۶) دوسرے میں حمد و ثنا و شہادت و درود کا اعادہ کرنا۔

(۱۷) دوسرے میں مسلمانوں کے لیے دُعا کرنا۔

(۱۸) دونوں خطبے ہلکے ہونا۔

(۱۹) دونوں کے درمیان بقدر تین آیت پڑھنے کے بیٹھنا۔ مستحب یہ ہے کہ دوسرے خطبہ میں آواز بہ نسبت پہلے کے

پست ہو اور خلفائے راشدین و عتیمین مکرّمین حضرت حمزہ و حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہو بہتر یہ ہے کہ دوسرا خطبہ اس سے شروع کریں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. (۱)

(۲۰) مرد اگر امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کرے اور دہنے بائیں ہو تو امام کی طرف مڑ جائے۔ اور

(۲۱) امام سے قریب ہونا افضل ہے مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے، البتہ

اگر امام ابھی خطبہ کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جاسکتا ہے اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے۔

(۲۲) خطبہ سننے کی حالت میں دوزانو بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ (۲) (عالمگیری، درمختار، غنیہ وغیرہا)

بادشاہ اسلام کی ایسی تعریف جو اس میں نہ ہو حرام ہے، مثلاً مالک رقاب الامم کہ یہ محض جھوٹ اور

۱..... حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں

اور اس پر توکل کرتے ہیں اور اللہ (عزوجل) کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی برائی سے اور اپنے اعمال کی بدی سے جسکو اللہ (عزوجل) ہدایت

کرے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو گمراہ کرے اسے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ ۱۳

۲..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۶، ۱۴۷۔

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۲۳ - ۲۶۔

حرام ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۲۷ خطبہ میں آیت نہ پڑھنا یا دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ نہ کرنا یا اثنائے خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر خطیب نے نیک بات کا حکم کیا یا بُری بات سے منع کیا تو اسے اس کی ممانعت نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان خطبہ میں خلط کرنا خلاف سنت متواتر ہے۔ یوہیں خطبہ میں اشعار پڑھنا بھی نہ چاہیے اگرچہ عربی ہی کے ہوں، ہاں دو ایک شعر پسند و نصائح کے اگر کبھی پڑھ لے تو حرج نہیں۔

(۵) جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم تین مرد

مسئلہ ۲۹ اگر تین غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگے یا آن پڑھ مقتدی ہوں تو مجتہد ہو جائے گا اور صرف عورتیں یا بچے ہوں تو نہیں۔^(۳) (عالمگیری، ردالمختار)

مسئلہ ۳۰ خطبہ کے وقت جو لوگ موجود تھے وہ بھاگ گئے اور دوسرے تین شخص آگئے تو ان کے ساتھ امام مجتہد پڑھے یعنی مجتہد کی جماعت کے لیے انھیں لوگوں کا ہونا ضروری نہیں جو خطبہ کے وقت حاضر تھے بلکہ ان کے غیر سے بھی ہو جائے گا۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۳۱ پہلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پیشتر سب مقتدی بھاگ گئے یا صرف دورہ گئے تو مجتہد باطل ہو گیا سرے سے ظہر کی نیت باندھے اور اگر سب بھاگ گئے مگر تین مرد باقی ہیں یا سجدہ کے بعد بھاگے یا تحریمہ کے بعد بھاگ گئے تھے مگر پہلے رکوع میں آکر شامل ہو گئے یا خطبہ کے بعد بھاگ گئے اور امام نے دوسرے تین مردوں کے ساتھ مجتہد پڑھا تو ان سب صورتوں میں مجتہد جائز ہے۔^(۵) (درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۳۲ امام نے جب اللہ اکبر کہا اس وقت مقتدی با وضو تھے مگر انہوں نے نیت نہ باندھی پھر یہ سب بے وضو ہو گئے اور دوسرے لوگ آگئے یہ چلے گئے تو ہو گیا اور اگر تحریمہ ہی کے وقت سب مقتدی بے وضو تھے پھر اور لوگ آگئے تو امام

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۲۴.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۶.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۸.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۲۷.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۲۷.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی قول الخطیب... إلخ، ج ۳، ص ۲۷.

سرے سے تحریمہ باندھے۔⁽¹⁾ (خانہ)

(۶) اذن عام

یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے کسی کی روک ٹوک نہ ہو، اگر جامع مسجد میں جب لوگ جمع ہو گئے دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھانہ ہوا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ بادشاہ نے اپنے مکان میں جمعہ پڑھا اور دروازہ کھول دیا لوگوں کو آنے کی عام اجازت ہے تو ہو گیا لوگ آئیں یا نہ آئیں اور دروازہ بند کر کے پڑھایا دربانوں کو بٹھا دیا کہ لوگوں کو آنے نہ دیں تو جمعہ نہ ہوا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ عورتوں کو اگر مسجد جامع سے روکا جائے تو اذن عام کے خلاف نہ ہوگا کہ ان کے آنے میں خوف قتل ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

جمعہ واجب ہونے کے لیے گیارہ شرطیں ہیں۔ ان میں سے ایک بھی معدوم ہو تو فرض نہیں پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے اور عورت کے لیے ظہر افضل، ہاں عورت کا مکان اگر مسجد سے بالکل متصل ہے کہ گھر میں امام مسجد کی اقتدا کر سکے تو اس کے لیے بھی جمعہ افضل ہے اور نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

(۱) شہر میں مقیم ہونا

(۲) صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جاسکتا ہو یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا۔⁽⁶⁾ (غنیہ) شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے۔⁽⁷⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۵ جو شخص مریض کا تیماردار ہو، جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا تو مریض دقتوں میں پڑ جائے گا اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو اس تیماردار پر جمعہ فرض نہیں۔⁽⁸⁾ (درمختار وغیرہ)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۸.

② المرجع السابق. ③ المرجع السابق.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی قول الخطیب... إلخ، ج ۳، ص ۲۹.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۰.

⑥ "غنیۃ المتملی"، فصل فی صلاة الجمعة، ص ۵۴۸.

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۱.

⑧ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۱، وغیرہ.

(۳) آزاد ہونا۔ غلام پر جمعہ فرض نہیں اور اس کا آقا منع کر سکتا ہے۔ (۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ مکاتب غلام پر جمعہ واجب ہے۔ یوہیں جس غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہو باقی کے لیے سعایت کرتا ہو

یعنی بقیہ آزاد ہونے کے لیے کما کر اپنے آقا کو دیتا ہو اس پر بھی جمعہ فرض ہے۔ (۲) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳۷ جس غلام کو اس کے مالک نے تجارت کرنے کی اجازت دی ہو یا اس کے ذمہ کوئی خاص مقدار کما کر لانا

مقرر کیا ہو اس پر جمعہ واجب ہے۔ (۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ مالک اپنے غلام کو ساتھ لے کر، مسجد جامع کو گیا اور غلام کو دروازہ پر چھوڑا کہ سواری کی حفاظت کرے تو

اگر جانور کی حفاظت میں خلل نہ آئے پڑھ لے۔ (۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ مالک نے غلام کو جمعہ پڑھنے کی اجازت دے دی جب بھی واجب نہ ہو اور بلا اجازت مالک اگر جمعہ یا

عید کو گیا اگر جانتا ہے کہ مالک ناراض نہ ہوگا تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ (۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴۰ نوکر اور مزدور کو جمعہ پڑھنے سے نہیں روک سکتا، البتہ اگر مسجد جامع دور ہے تو جتنا حرج ہو ہے اس کی

مزدوری میں کم کر سکتا ہے اور مزدور اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ (۶) (عالمگیری)

(۴) مرد ہونا

(۵) بالغ ہونا

(۶) عاقل ہونا۔ یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے وجوب میں عقل و بلوغ شرط ہے۔

(۷) انکھیا را ہونا۔ (۷)

مسئلہ ۴۱ یک چشم اور جس کی نگاہ کمزور ہو اس پر جمعہ فرض ہے۔ یوہیں جو اندھا مسجد میں اذان کے وقت با وضو ہو

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۴.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۴.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۱.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۴.

④ المرجع السابق.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۲.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۴.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۲.

اس پر مجمعہ فرض ہے اور وہ ناپینا جو خود مسجد مجمعہ تک بلا تکلف نہ جاسکتا ہو اگرچہ مسجد تک کوئی لے جانے والا ہو، اجرت مثل پر لے جائے یا بلا اجرت اس پر مجمعہ فرض نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ بعض ناپینا بلا تکلف بغیر کسی کی مدد کے بازاروں راستوں میں چلتے پھرتے ہیں اور جس مسجد میں چاہیں بلا پوچھے جاسکتے ہیں ان پر مجمعہ فرض ہے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

(۸) چلنے پر قادر ہونا۔

مسئلہ ۳۳ اپنا حج پر مجمعہ فرض نہیں، اگرچہ کوئی ایسا ہو کہ اسے اٹھا کر مسجد میں رکھ آئے گا۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۴ جس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو یا فالج سے بیکار ہو گیا ہو، اگر مسجد تک جاسکتا ہو تو اس پر مجمعہ فرض ہے ورنہ نہیں۔⁽⁴⁾ (درمختار وغیرہ)

(۹) قید میں نہ ہونا، مگر جب کہ کسی دین کی وجہ سے قید کیا گیا اور مالدار ہے یعنی ادا کرنے پر قادر ہے تو اس پر فرض ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

(۱۰) بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، مفلس قرضدار کو اگر قید کا اندیشہ ہو تو اس پر فرض نہیں۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

(۱۱) مینہ یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔⁽⁷⁾

مسئلہ ۳۵ مجمعہ کی امامت ہر مرد کر سکتا ہے جو اور نمازوں میں امام ہو سکتا ہو اگرچہ اس پر مجمعہ فرض نہ ہو جیسے مریض مسافر غلام۔⁽⁸⁾ (درمختار) یعنی جبکہ سلطان اسلام یا اس کا نائب یا جس کو اس نے اجازت دی بیمار ہو یا مسافر تو یہ سب نماز مجمعہ پڑھا سکتے ہیں یا انہوں نے کسی مریض یا مسافر یا غلام یا کسی لائق امامت کو اجازت دی ہو یا بضرورت عام لوگوں نے کسی ایسے کو امام مقرر کیا ہو جو امامت کر سکتا ہو، یہ نہیں کہ بطور خود جس کا جی چاہے مجمعہ پڑھاوے کہ یوں مجمعہ نہ ہوگا۔

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۲.

② "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۲.

③ المرجع السابق.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۲، وغیرہ.

⑤ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۳.

⑥ المرجع السابق.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۳.

⑧ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۳.

مسئلہ ۳۶ جس پر جمعہ فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہو جانے سے پہلے ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ امام ابن ہمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: حرام ہے اور پڑھ لیا جب بھی جمعہ کے لیے جانا فرض ہے اور جمعہ ہو جانے کے بعد ظہر پڑھنے میں کراہت نہیں، بلکہ اب تو ظہر ہی پڑھنا فرض ہے، اگر جمعہ دوسری جگہ نہ مل سکے مگر جمعہ ترک کرنے کا گناہ اس کے سر رہا۔⁽¹⁾
(درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۷ یہ شخص کہ جمعہ ہونے سے پہلے ظہر پڑھ چکا تھا نادوم ہو کر گھر سے جمعہ کی نیت سے نکلا اگر اس وقت امام نماز میں ہو تو نماز ظہر جاتی رہی، جمعہ مل جائے تو پڑھ لے ورنہ ظہر کی نماز پھر پڑھے اگرچہ مسجد دور ہونے کے سبب جمعہ نہ ملا ہو۔⁽²⁾
(درمختار)

مسئلہ ۳۸ مسجد جامع میں یہ شخص ہے جس نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور جس جگہ نماز پڑھی وہیں بیٹھا ہے تو جب تک جمعہ شروع نہ کرے ظہر باطل نہیں اور اگر بقصد جمعہ وہاں سے ہٹا تو باطل ہوگئی۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۹ یہ شخص اگر مکان سے نکلا ہی نہیں یا کسی اور ضرورت سے نکلا یا امام کے فارغ ہونے کے وقت یا فارغ ہونے کے بعد نکلا یا اس دن جمعہ پڑھا ہی نہ گیا یا لوگوں نے جمعہ پڑھنا تو شروع کیا تھا مگر کسی حادثہ کے سبب پورا نہ کیا تو ان سب صورتوں میں ظہر باطل نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۵۰ جن صورتوں میں ظہر باطل ہونا کہا گیا اس سے مراد فرض جاتا رہنا ہے کہ یہ نماز اب نفل ہوگئی۔⁽⁵⁾
(درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۵۱ جس پر جمعہ فرض تھا اس نے ظہر کی نماز میں امامت کی پھر جمعہ کو نکلا تو اس کی ظہر باطل ہے مگر مقتدیوں میں جو جمعہ کو نہ نکلا اس کے فرض باطل نہ ہوئے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۲ جس پر کسی عذر کے سبب جمعہ فرض نہ ہو وہ اگر ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے نکلا تو اس کی نماز بھی جاتی رہی، ان شرائط کے ساتھ جو اوپر مذکور ہوئیں۔⁽⁷⁾ (درمختار)

- ① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۳.
- ② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۴.
- ③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۴.
- ④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۹.
- ⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۵.
- ⑥ المرجع السابق.
- ⑦ المرجع السابق.

مسئلہ ۵۳ - مریض یا مسافر یا قیدی یا کوئی اور جس پر مُجْتَمَع فرض نہیں ان لوگوں کو بھی مُجْتَمَع کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ مُجْتَمَع ہونے سے پیشتر جماعت کریں یا بعد میں۔ یوہیں جنھیں مُجْتَمَع نہ ملا وہ بھی بغیر اذان و اقامت ظہر کی نماز تنہا تنہا پڑھیں، جماعت ان کے لیے بھی ممنوع ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۵۴ - علما فرماتے ہیں جن مسجدوں میں مُجْتَمَع نہیں ہوتا، انھیں مُجْتَمَع کے دن ظہر کے وقت بند رکھیں۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۵۵ - گاؤں میں مُجْتَمَع کے دن بھی ظہر کی نماز اذان و اقامت کے ساتھ باجماعت پڑھیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۶ - معذور اگر مُجْتَمَع کے دن ظہر پڑھے تو مستحب یہ ہے کہ نماز مُجْتَمَع ہو جانے کے بعد پڑھے اور تاخیر نہ کی تو مکروہ ہے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۵۷ - جس نے مُجْتَمَع کا قعدہ پالیا یا سجدہ سہو کے بعد شریک ہو اسے مُجْتَمَع مل گیا۔ لہذا اپنی دوہی رکعتیں پوری کرے۔^(۵) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۵۸ - نماز مُجْتَمَع کے لیے پیشتر سے جانا اور مسواک کرنا اور اچھے اور سفید کپڑے پہننا اور تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل سنت۔^(۶) (عالمگیری، غنیہ)

مسئلہ ۵۹ - جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے ختم نماز تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے۔ یوہیں جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے جلد جلد پوری کر لے۔^(۷) (درمختار)

مسئلہ ۶۰ - جو چیزیں نماز میں حرام ہیں مثلاً کھانا پینا، سلام و جواب سلام وغیرہ یہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں یہاں تک کہ امر بالمعروف، ہاں خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے، جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انھیں بھی چپ رہنا واجب ہے، اگر کسی کو بری بات کرتے

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۶.

② المرجع السابق.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۹.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۶.

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۹.

⑥ المرجع السابق. و "غنیة المتعملي"، فصل فی صلاة الجمعة، ص ۵۵۹.

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۸.

و "جدالممتار" علی "ردالمحتار" کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۱، ص ۳۷۸.

دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں زبان سے ناجائز ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶۱ خطبہ سننے کی حالت میں دیکھا کہ اندھا کونیں میں گرا چاہتا ہے یا کسی کو ہتھو وغیرہ کاٹنا چاہتا ہے، تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، اگر اشارہ یا دبانے سے بتا سکیں تو اس صورت میں بھی زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۶۲ خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی تو سامعین کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا منع ہے، کریں گے گنہگار ہوں گے۔ خطبہ میں دُرود شریف پڑھتے وقت خطیب کا داہنے بائیں مونہہ کرنا بدعت ہے۔⁽³⁾ (ردالمختار)

مسئلہ ۶۳ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں دُرود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔⁽⁴⁾ یوہیں صحابہ کرام کے ذکر پر اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۶۴ خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلاً خطبہ عیدین و نکاح وغیرہا۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶۵ پہلی اذان کے ہوتے ہی سعی واجب ہے اور بیع وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی کے منافی ہوں چھوڑ دینا واجب یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۶۶ خطیب جب منبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دوبارہ اذان دی جائے۔⁽⁷⁾ (متون) یہ ہم اوپر بیان کر آئے کہ سامنے سے یہ مراد نہیں کہ مسجد کے اندر منبر سے متصل ہو کہ مسجد کے اندر اذان کہنے کو فقہائے کرام مکروہ فرماتے ہیں۔

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۹.

② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۹.

③ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ج ۳، ص ۳۸، و مطلب في قول الخطيب... إلخ، ص ۲۴.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۴۰.

⑤ المرجع السابق.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۹.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۴۲.

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۴۲.

مسئلہ ۶۷ اکثر جگہ دیکھا گیا کہ اذان ثانی پست آواز سے کہتے ہیں، یہ نہ چاہیے بلکہ اسے بھی بلند آواز سے کہیں کہ اس سے بھی اعلان مقصود ہے اور جس نے پہلی نہ سنی اسے سن کر حاضر ہو۔^(۱) (بحر وغیرہ)

مسئلہ ۶۸ خطبہ ختم ہو جائے تو فوراً اقامت کہی جائے، خطبہ و اقامت کے درمیان دنیا کی بات کرنا مکروہ ہے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۶۹ جس نے خطبہ پڑھا وہی نماز پڑھائے، دوسرا نہ پڑھائے اور اگر دوسرے نے پڑھا دی جب بھی ہو جائے گی جبکہ وہ ماڈون^(۳) ہو۔ یوہیں اگر نابالغ نے بادشاہ کے حکم سے خطبہ پڑھا اور بالغ نے نماز پڑھائی جائز ہے۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷۰ نماز جمعہ میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون یا پہلی میں **سَبِّحْ اسْمَ اور دوسری میں** **هَلْ أَتَاكَ** پڑھے، مگر ہمیشہ انھیں کونہ پڑھے کبھی اور سورتیں بھی پڑھے۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷۱ جمعہ کے دن اگر سفر کیا اور زوال سے پہلے آبادی شہر سے باہر ہو گیا تو حرج نہیں ورنہ ممنوع ہے۔^(۶) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۷۲ حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا جمعہ کے بعد^(۷) افضل ہے۔^(۸) (درمختار)

مسئلہ ۷۳ سوال کرنے والا اگر نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہو یا گردنیں پھلانگتا ہو یا بلا ضرورت مانگتا ہو تو سوال بھی ناجائز ہے اور ایسے سائل کو دینا بھی ناجائز۔^(۹) (ردالمحتار) بلکہ مسجد میں اپنے لیے مطلقاً سوال کی اجازت نہیں۔

مسئلہ ۷۴ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت افضل ہے اور زیادہ بزرگی رات میں پڑھنے کی ہے نسائی بیہقی بسند صحیح ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں: ”جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے، اس کے لیے دونوں

① ”البحر الرائق“، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۲۷۳. وغیرہ

② ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۴۳.

③ یعنی جس کو اجازت دی گئی۔

④ ”الدرالمختار“ و ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی حکم المرقی... إلخ، ج ۳، ص ۴۳.

⑤ ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: أمر الخلیفہ... إلخ، ج ۳، ص ۶۴.

و ”البحر الرائق“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ج ۲، ص ۲۷۵.

⑥ ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۴۴.

⑦ جمعہ سے پہلے اور بعد میں ناخن وغیرہ ترشوانا جائز ہے البتہ حدیث میں جمعہ سے پہلے کا ذکر آیا ہے جیسا کہ صدر الشریعہ نے بہا شریعت

حصہ ۱۶ میں یہ حدیث رقم فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے

دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں کترواتے اور ناخن ترشواتے تھے۔ (شعب الایمان، باب العشرون من شعب الایمان... إلخ، فضل

الوضوء، ج ۳، ص ۲۴)۔... علمہ

⑧ ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۴۶.

⑨ ”ردالمختار“، کتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب فی الصدقة علی سؤال المسجد، ج ۳، ص ۴۷.

مُجموع کے درمیان نور روشن ہوگا۔“ (1)

اور دارمی کی روایت میں ہے، ”جو شبِ مُجموعہ میں سورہ کہف پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبہ تک نور روشن ہوگا۔“ (2)
اور ابو بکر ابن مردویہ کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ فرماتے ہیں: ”جو مُجموعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا اور دو مُجموعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔“ (3) اس حدیث کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔ حم الدخان پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔

طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”جو شخص مُجموعہ کے دن یارات میں حم الدخان پڑھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا۔“ (4) اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ ”اس کی مغفرت ہو جائے گی۔“ (5) اور ایک روایت میں ہے، ”جو کسی رات میں حم الدخان پڑھے، اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کریں گے۔“ (6) مُجموعہ کے دن یارات میں جو سورہ یٰس پڑھے، اس کی مغفرت ہو جائے۔“ (7)

فائدہ: مُجموعہ کے دن روحمیں جمع ہوتی ہیں، لہذا اس میں زیارتِ قبور کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ (8)

(در مختار)

عیدین کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَلْيَسْمِعُوا الْعِدَّةَ وَلْيَسْمِعُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ﴾ (9)

روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔

- 1..... "السنن الصغرى" للبيهقي، كتاب الصلاة، باب فضل الجمعة، الحديث: ٦٠٨، ج ١، ص ٢١٠.
- 2..... "سنن الدارمي"، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل سورة الكهف، الحديث: ٣٤٠٧، ج ٢، ص ٥٤٦.
- 3..... "الترغيب و الترهيب"، كتاب الجمعة، الترغيب في قراءة سورة الكهف... إلخ، الحديث: ٢، ج ١، ص ٢٩٨.
- 4..... "المعجم الكبير"، الحديث: ٨٠٢٦، ج ٨، ص ٢٦٤.
- 5..... "جامع الترمذي"، أبواب فضائل القرآن، باب ماجاء في فضل حمّ الدخان، الحديث: ٢٨٩٨، ج ٤، ص ٤٠٧.
- 6..... "جامع الترمذي"، أبواب فضائل القرآن، باب ماجاء في فضل حمّ الدخان، الحديث: ٢٨٩٧، ج ٤، ص ٤٠٦.
- 7..... "الترغيب و الترهيب"، كتاب الجمعة، الترغيب في قراءة سورة الكهف... إلخ، الحديث: ٤، ج ١، ص ٢٩٨.
- 8..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ٣، ص ٤٩.
- 9..... پ ٢، البقرة: ١٨٥.

اور فرماتا ہے:

﴿قَصَل لِرَبِّكَ وَاتَّحَذُ﴾⁽¹⁾

اپنے رب (عزوجل) کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔

حدیث ۱ ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو عیدین کی راتوں

میں قیام کرے، اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔“⁽²⁾

حدیث ۲ اصہبانی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں: ”جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے

اس کے لیے جنت واجب ہے، ذی الحجہ کی آٹھویں، نویں، دسویں راتیں اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی پندرہویں رات⁽³⁾ یعنی شب براءت۔“

حدیث ۳ ابو داؤد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے،

اس زمانہ میں اہل مدینہ سال میں دو دن خوشی کرتے تھے (مہرگان و نیروز)، فرمایا: یہ کیا دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے، فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن تمہیں دیے، عید اضحیٰ و عید الفطر کے دن۔“⁽⁴⁾

حدیث ۴ و ۵ ترمذی وابن ماجہ و دارمی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر کے

دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید اضحیٰ کو نہ کھاتے، جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔“⁽⁵⁾ اور بخاری کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ ”عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے، جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرمالیتے اور طاق ہوتیں۔“⁽⁶⁾

حدیث ۶ ترمذی و دارمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ”عید کو ایک راستہ سے تشریف لے جاتے

اور دوسرے سے واپس ہوتے۔“⁽⁷⁾

① پ ۳۰، الکوثر: ۲.

② ”سنن ابن ماجہ“، أبواب ماجاء في الصيام، باب فيمن قام ليلتي العيدين، الحديث: ۱۷۸۲، ج ۲، ص ۳۶۵.

③ ”الترغيب و الترهيب“، كتاب العيدين والأضحية، الترغيب في إحياء ليلتي العيدين، الحديث: ۲، ج ۲، ص ۹۸.

④ ”سنن أبي داود“، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، الحديث: ۱۱۳۴، ج ۱، ص ۴۱۸.

⑤ ”جامع الترمذي“، أبواب العيدين، باب ماجاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، الحديث: ۵۴۲، ج ۲، ص ۷۰.

⑥ ”صحيح البخاري“، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، الحديث: ۹۵۳، ج ۱، ص ۳۲۸.

⑦ ”جامع الترمذي“، أبواب العيدين، باب ماجاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد... إلخ، الحديث: ۵۴۱، ج ۲، ص ۶۹.

حدیث ۷ ابوداؤد وابن ماجہ کی روایت انھیں سے ہے، کہ ”ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو مسجد میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے عید کی نماز پڑھی۔“ (1)

حدیث ۸ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے عید کی نماز دو رکعت پڑھی، نہ اس کے قبل نماز پڑھی نہ بعد۔“ (2)

حدیث ۹ صحیح مسلم شریف میں ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ایک دو مرتبہ نہیں (بلکہ بارہا)، نہ اذان ہوئی نہ اقامت۔ (3)

مسائل فقہیہ

عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انھیں پر جن پر جُمُعہ واجب ہے اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جُمُعہ کے لیے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ جُمُعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت، اگر جُمُعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جُمُعہ نہ ہو اور اس میں نہ پڑھا تو نماز ہوگئی مگر بُرا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جُمُعہ کا خطبہ قبل نماز ہے اور عیدین کا بعد نماز، اگر پہلے پڑھا لیا تو بُرا کیا، مگر نماز ہوگئی لوٹائی نہیں جائے گی اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف دو بار اتنا کہنے کی اجازت ہے۔

الصلوة جامعة ط - (4) (عالمگیری، درمختار وغیرہما) بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے۔ (5) (جوہرہ نیرہ)

مسئلہ ۱ گاؤں میں عیدین کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (6) (درمختار)

روز عید کے مستحبات

مسئلہ ۲ عید کے دن یہ امور مستحب ہیں:

(۱) حجامت بنوانا۔

- ① ”سنن أبي داود“، كتاب الصلاة، باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، الحديث: ۱۱۶۰، ج ۱، ص ۴۲۵.
- ② ”صحيح البخاري“، كتاب العیدین، باب الخطبة بعد العید، الحديث: ۹۶۴، ج ۱، ص ۳۳۱.
- ③ ”صحيح مسلم“، كتاب صلاة العیدین، باب كتاب صلاة العیدین، الحديث: ۸۸۷، ص ۴۳۹.
- ④ ”الفتاوى الهندية“، كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في صلاة العیدین، ج ۱، ص ۱۵۰.
- و ”الدرالمختار“، كتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۵۱، وغیرہما.
- ⑤ ”الحوہرۃ النیرۃ“، كتاب الصلاة، باب العیدین، ص ۱۱۹.
- ⑥ ”الدرالمختار“، كتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۵۲.

(۲) ناخن ترشوانا۔

(۳) غسل کرنا۔

(۴) مسواک کرنا۔^(۱)

(۵) اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دُھلا۔

(۶) انگوٹھی پہننا۔^(۲)

(۷) خوشبو لگانا۔

(۸) صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا۔

(۹) عید گاہ جلد چلا جانا۔

(۱۰) نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔

(۱۱) عید گاہ کو پیدل جانا۔

(۱۲) دوسرے راستہ سے واپس آنا۔

(۱۳) نماز کو جانے سے پیشتر چند کھجوریں کھا لینا۔ تین، پانچ، سات یا کم و بیش مگر طاق ہوں، کھجوریں نہ ہوں تو کوئی

میٹھی چیز کھالے، نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہو مگر عشا تک نہ کھایا تو عتاب^(۳) کیا جائے گا۔^(۴) (کتب کثیرہ)**مسئلہ ۳** سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے اور

..... ۱ یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے کہ وضو میں سنت مؤکدہ ہے اور عید کی اس میں خصوصیت نہیں، بلکہ وہ تو ہر وضو کے لئے ہے۔

(ردالمحتار) ۱۲ منہ حفظ رہے

..... ۲ اس کی تفصیلی معلومات کیلئے بہار شریعت حصہ ۱۶ میں ”انگوٹھی اور زیور کا بیان“ ملاحظہ فرمائیں۔

امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ”نماز کے احکام“ میں

فرماتے ہیں: جب کبھی انگوٹھی پہننے تو اس بات کا خاص خیال رکھئے کہ صرف ساڑھے چار ماشہ سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی

پہنئے۔ ایک سے زیادہ نہ پہنئے اور اس ایک انگوٹھی میں بھی گمینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ گمینے نہ ہوں، بغیر گمینے کی بھی مت پہنئے۔ گمینے

کے وزن کی کوئی قید نہیں، چاندی کا جھلمہ یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا جھلمہ مرد نہیں پہن سکتا۔

(”نماز کے احکام“، ص ۳۳۳-۳۳۵)

..... ۳ یعنی سرزنش۔

..... ۴ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب السابع عشر فی صلاة العیدین، ج ۱، ص ۱۴۹۔

و ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۵۴، وغیرہما۔

واپسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں۔⁽¹⁾ (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۳ - عید گاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو اور عید گاہ میں منبر بنانے یا منبر لے جانے میں حرج نہیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۵ - (۱۳) خوشی ظاہر کرنا

(۱۵) کثرت سے صدقہ دینا

(۱۶) عید گاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا

(۱۷) آپس میں مبارک دینا مستحب ہے اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ - نماز عید سے قبل نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے، عید گاہ میں ہو یا گھر میں اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں، یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے اور نماز عید کے بعد عید گاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے بلکہ مستحب ہے کہ چار رکعتیں پڑھے۔ یہ احکام خواص کے ہیں، عوام اگر نفل پڑھیں اگرچہ نماز عید سے پہلے اگرچہ عید گاہ میں انھیں منع نہ کیا جائے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ - نماز کا وقت بقدر ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے ضخوۃ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید اضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے اور سلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا ہو تو نماز جاتی رہی۔⁽⁵⁾ (درمختار وغیرہ) زوال سے مراد نصف النہار شرعی ہے، جس کا بیان باب الاوقات میں گزرا۔

نماز عید کا طریقہ

نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت واجب عید الفطر یا عید اضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے پھر ثنا پڑھے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ

1..... "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ص ۱۱۹.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب السابع عشر فی صلاة العیدین، ج ۱، ص ۱۴۹.

2..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۵۵. وغیرہ

3..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۵۶.

4..... المرجع السابق، ص ۵۷ - ۶۰.

5..... "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۶۰، وغیرہ.

چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد دو تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، پھر امام اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور سورت پڑھے پھر رکوع وسجدہ کرے، دوسری رکعت میں پہلے الحمد وسورت پڑھے پھر تین بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہو اور رکوع میں جائے، اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں چھ ہوں، تین پہلی میں قراءت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد اور تین دوسری میں قراءت کے بعد، اور تکبیر رکوع سے پہلے اور ان چھوٹوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر دو تکبیروں کے درمیان تین تسبیح کی قدر سکتہ کرے اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی میں سورہ مجتہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے یا پہلی میں **سَبِّحْ اسْمَ اور دوسری میں هَلْ اَشْكُ** - (1) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۸ - امام نے چھ تکبیروں سے زیادہ کہیں تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے مگر تیرہ سے زیادہ میں امام کی پیروی نہیں۔ (2) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تین تکبیریں کہہ لے اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو اور تین ہی کہے، اگرچہ امام نے تین سے زیادہ کہی ہوں اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیر کہہ لے اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پالے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھالیا تو باقی ساقط ہو گئیں اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ جب اپنی پڑھے اس وقت کہے اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا، اس میں ہاتھ نہ اٹھائے اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے اور دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے، فبہا ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارہ میں مذکور ہوئی۔ (3) (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

1 "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۶۱، وغیرہ .

2 "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: أمر الخلیفة... إلخ، ج ۳، ص ۶۳ .

3 "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السابع عشر فی صلاة العیدین، ج ۱، ص ۱۵۱ .

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۶۴ - ۶۶، وغیرہما .

مسئلہ ۱۰ جو شخص امام کے ساتھ شامل ہوا پھر سو گیا یا اس کا وضو جاتا رہا، اب جو پڑھے تو تکبیریں اتنی کہے جتنی امام نے کہیں، اگرچہ اس کے مذہب میں اتنی نہ تھیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ امام تکبیر کہنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو قیام کی طرف نہ لوٹے نہ رکوع میں تکبیر کہے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ پہلی رکعت میں امام تکبیریں بھول گیا اور قراءت شروع کر دی تو قراءت کے بعد کہہ لے یا رکوع میں اور قراءت کا اعادہ نہ کرے۔^(۳) (غنیہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ امام نے تکبیرات زوائد میں ہاتھ نہ اٹھائے تو مقتدی اس کی پیروی نہ کرے بلکہ ہاتھ اٹھائے۔^(۴) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۴ نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھے اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں اور جو وہاں مکروہ یہاں بھی مکروہ صرف دو باتوں میں فرق ہے ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے پیشتر نو بار اور دوسرے کے پہلے سات بار اور منبر سے اترنے کے پہلے چودہ بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں۔^(۵) (عالمگیری درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۱۵ عید الفطر کے خطبہ میں صدقہ فطر کے احکام کی تعلیم کرے، وہ پانچ باتیں ہیں:

(۱) کس پر واجب ہے؟ (۲) اور کس کے لیے؟ (۳) اور کب؟ (۴) اور کتنا؟ (۵) اور کس چیز سے؟

بلکہ مناسب یہ ہے کہ عید سے پہلے جو جمعہ پڑھے اس میں بھی یہ احکام بتا دیے جائیں کہ پیشتر سے لوگ واقف ہو

جائیں اور عید اضحیٰ کے خطبہ میں قربانی کے احکام اور تکبیرات تشریح کی تعلیم کی جائے۔^(۶) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی

تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے ورنہ نہیں پڑھ سکتا، ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص چار رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔^(۷) (درمختار)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السابع عشر فی صلاة العیدین، ج ۱، ص ۱۵۱.

② "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: أمر الخلیفہ... إلخ، ج ۳، ص ۶۵.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السابع عشر فی صلاة العیدین، ج ۱، ص ۱۵۱.

④ المرجع السابق.

⑤ المرجع السابق، ص ۱۵۰، و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۶۷، وغیرہما.

⑥ المرجع السابق.

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۶۷.

مسئلہ ۱۷ کسی عذر کے سبب عید کے دن نماز نہ ہو سکی (مثلاً سخت بارش ہوئی یا ابر کے سبب چاند نہیں دیکھا گیا اور گواہی ایسے وقت گزری کہ نماز نہ ہو سکی یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا) تو دوسرے دن پڑھی جائے اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا یعنی ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے نصف النہار شرعی تک اور بلا عذر عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی تو دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے۔^(۱) (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۱۸ عید اضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے صرف بعض باتوں میں فرق ہے، اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے اگرچہ قربانی نہ کرے اور کھالیا تو کراہت نہیں اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کہتا جائے اور عید اضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے بارہویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں، بارہویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی اور بلا عذر دسویں کے بعد مکروہ ہے۔^(۲) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۹ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے دسویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے، نہ ناخن ترشوائے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ عرفہ کے دن یعنی نویں ذی الحجہ کو لوگوں کا کسی جگہ جمع ہو کر حاجیوں کی طرح وقوف کرنا اور ذکر و دعا میں مشغول رہنا صحیح یہ ہے کہ کچھ مضائقہ نہیں جبکہ لازم و واجب نہ جانے اور اگر کسی دوسری غرض سے جمع ہوئے، مثلاً نماز استسقا پڑھنی ہے، جب تو بلا اختلاف جائز ہے اصلاً حرج نہیں۔^(۴) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۱ بعد نماز عید مصافحہ^(۵) و معانقہ کرنا^(۶) جیسا عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے کہ اس میں اظہارِ مسرت ہے۔^(۷) (وشاح الجید)

مسئلہ ۲۲ نویں ذی الحجہ کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السابع عشر فی صلاة العیدین، ج ۱، ص ۱۵۱، ۱۵۲.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۶۸، وغیرہما.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب السابع عشر فی صلاة العیدین، ج ۱، ص ۱۵۲، وغیرہ.

③ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب العیدین مطلب فی إزالة الشعر... إلخ، ج ۳، ص ۷۷.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۷۰، وغیرہ.

⑤ یعنی ہاتھ ملانا۔

⑥ یعنی گلے ملانا۔

⑦ انظر: "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۸، ص ۶۰۱.

گئی ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور تین بار افضل اسے تکبیر تشریح کہتے ہیں، وہ یہ ہے:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ط (1) (تنویر الابصار وغیرہ)

مسئلہ ۲۳ تکبیر تشریح سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے، اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصد وضو توڑ دیا یا کلام کیا اگرچہ سہواً تو تکبیر ساقط ہوگئی اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے۔ (2) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۴ تکبیر تشریح اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس کی اقتدا کی اگرچہ عورت یا مسافر یا گاؤں کا رہنے والا اور اگر اس کی اقتدا نہ کریں تو ان پر واجب نہیں۔ (3) (درمختار)

مسئلہ ۲۵ نفل پڑھنے والے نے فرض والے کی اقتدا کی تو امام کی پیروی میں اس مقتدی پر بھی واجب ہے اگرچہ امام کے ساتھ اس نے فرض نہ پڑھے اور مقیم نے مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے اگرچہ امام پر واجب نہیں۔ (4) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ غلام پر تکبیر تشریح واجب ہے اور عورتوں پر واجب نہیں اگرچہ جماعت سے نماز پڑھی، ہاں اگر مرد کے پیچھے عورت نے پڑھی اور امام نے اس کے امام ہونے کی نیت کی تو عورت پر بھی واجب ہے مگر آہستہ کہے۔ یو ہیں جن لوگوں نے برہنہ نماز پڑھی ان پر بھی واجب نہیں، اگرچہ جماعت کریں کہ ان کی جماعت مستحبہ نہیں۔ (5) (درمختار، جوہرہ وغیرہما)

مسئلہ ۲۷ نفل و سنت و وتر کے بعد تکبیر واجب نہیں اور جمعہ کے بعد واجب ہے اور نماز عید کے بعد بھی کہہ لے۔ (6) (درمختار)

مسئلہ ۲۸ مسبوق و لاحق پر تکبیر واجب ہے، مگر جب خود سلام پھیریں اس وقت کہیں اور امام کے ساتھ کہہ لی تو نماز فاسد نہ ہوئی اور نماز ختم کرنے کے بعد تکبیر کا اعادہ بھی نہیں۔ (7) (ردالمحتار)

1 "تنویر الابصار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۷۱، ۷۴، وغیرہ.

2 "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: المختار أن الذبیح إسماعیل، ج ۳، ص ۷۳.

3 "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۷۴.

4 "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: المختار أن الذبیح إسماعیل، ج ۳، ص ۷۴.

5 "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۷۴.

و "الجوهرة النيرة"، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ص ۱۲۲، وغیرہما.

6 "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: المختار أن الذبیح إسماعیل، ج ۳، ص ۷۳.

7 "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب، ج ۳، ص ۷۶.

مسئلہ ۲۹ اور دنوں میں نماز قضا ہوگئی تھی ایام تشریق میں اس کی قضا پڑھی تو تکبیر واجب نہیں۔ یوہیں ان دنوں کی نمازیں اور دنوں میں پڑھیں جب بھی واجب نہیں۔ یوہیں سال گذشتہ کے ایام تشریق کی قضا نمازیں اس سال کے ایام تشریق میں پڑھے جب بھی واجب نہیں، ہاں اگر اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نمازیں اسی سال کے انھیں دنوں میں جماعت سے پڑھے تو واجب ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ منفرد^(۲) پر تکبیر واجب نہیں۔^(۳) (جوہرہ نیرہ) مگر منفرد بھی کہہ لے کہ صاحبین^(۴) کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے۔

مسئلہ ۳۱ امام نے تکبیر نہ کہی جب بھی مقتدی پر کہنا واجب ہے اگرچہ مقتدی مسافر یا دیہاتی یا عورت ہو۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ ان تاریخوں میں اگر عام لوگ بازاروں میں باعلان تکبیریں کہیں تو انہیں منع نہ کیا جائے۔^(۶) (درمختار)

گھن کی نماز کا بیان

حدیث ۱ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گھن لگا، مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا اور یہ فرمایا: کہ ”اللہ عزوجل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔“^(۷)

حدیث ۲ نیز انھیں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ! ہم نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو دیکھا کہ کسی چیز کے لینے کا قصد فرماتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے دیکھا، فرمایا: ”میں نے جنت کو دیکھا اور اس سے ایک خوشہ لینا چاہا اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے اور دوزخ کو دیکھا اور آج کے مثل کوئی خوفناک منظر

۱..... ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: المختار أن الذبیح إسماعیل، ج ۳، ص ۷۴.

۲..... یعنی تنہا نماز پڑھنے والے۔

۳..... ”الجوہرۃ النیرۃ“، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ص ۱۲۲.

۴..... فقہ حنفی میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کو صاحبین کہتے ہیں۔

۵..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: کلمۃ لا بأس قد تستعمل فی المندوب، ج ۳، ص ۷۶.

۶..... ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۷۵.

۷..... ”صحیح البخاری“، کتاب الکسوف، باب الذکر فی الکسوف، الحدیث: ۱۰۵۹، ج ۱، ص ۳۶۳.

کبھی نہ دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں، عرض کی، کیوں یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)؟ فرمایا: کہ کفر کرتی ہیں، عرض کی گئی، اللہ (عزوجل) کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا: ”شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا کفران کرتی ہیں، اگر تو اس کے ساتھ عمر بھر احسان کرے پھر کوئی بات بھی (خلاف مزاج) دیکھے، کہے گی، میں نے کبھی کوئی بھلائی تم سے دیکھی ہی نہیں۔“ (1)

حدیث ۳ صحیح بخاری شریف میں حضرت اسما بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، فرماتی ہیں: ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے آفتاب گہنے میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔“ (2)

حدیث ۴ سنن اربعہ میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں: ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے گہن کی نماز پڑھائی اور ہم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی آواز نہیں سنتے تھے۔“ (3) یعنی قراءت آہستہ کی۔

مسائل فقہیہ

سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں، وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں، گھر میں یا مسجد میں۔ (4) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱ گہن کی نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گہنا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں اور گہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ (5) (جوہرہ نیرہ)

مسئلہ ۲ ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں، بلکہ دُعا میں مشغول رہیں اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دُعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ (6) (جوہرہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ یہ نماز اور نوافل کی طرح دو رکعت پڑھیں یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کریں نہ اس میں اذان

1..... ”صحیح البخاری“، کتاب الکسوف، باب صلاة الكسوف جماعة، الحدیث: ۱۰۵۲، ج ۱، ص ۳۶۰.

2..... ”صحیح البخاری“، کتاب الکسوف، باب من أحب العنافة في كسوف الشمس، الحدیث: ۱۰۵۴، ج ۱، ص ۳۶۲.

3..... ”سنن ابن ماجہ“، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ماجاء في صلاة الكسوف، الحدیث: ۱۲۶۴، ج ۲، ص ۹۳.

4..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الكسوف، ج ۳، ص ۷۷ - ۸۰.

5..... ”الجوهرة النيرة“، کتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، ص ۱۲۴.

6..... المرجع السابق، و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب الكسوف، ج ۳، ص ۷۸.

ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قراءت اور نماز کے بعد دُعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے اور دو رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ دو دو رکعت پر سلام پھیریں یا چار پر۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - اگر لوگ جمع نہ ہوئے تو ان لفظوں سے پکاریں، الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵ - افضل یہ ہے کہ عید گاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے اور اگر دوسری جگہ قائم کریں جب بھی حرج نہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ - اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ اور آل عمران کی مثل بڑی بڑی سورتیں پڑھیں اور رکوع و سجود میں بھی طول دیں اور بعد نماز دُعا میں مشغول رہیں یہاں تک کہ پورا آفتاب کھل جائے اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز میں تخفیف کریں اور دُعا میں طول، خواہ امام قبلہ رُودعا کرے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور یہ بہتر ہے اور سب مقتدی آمین کہیں، اگر دُعا کے وقت عصا یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو یہ بھی اچھا ہے، دُعا کے لیے منبر پر نہ جائے۔⁽⁴⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۷ - سورج گہن اور جنازہ کا اجتماع ہو تو پہلے جنازہ پڑھے۔⁽⁵⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۸ - چاند گہن کی نماز میں جماعت نہیں، امام موجود ہو یا نہ ہو بہر حال تنہا تنہا پڑھیں۔⁽⁶⁾ (درمختار وغیرہ)

امام کے علاوہ دو تین آدمی جماعت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۹ - تیز آندھی آئے یا دن میں سخت تاریکی چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگا تار کثرت سے مینہ برسے یا بکثرت اولے پڑیں یا آسمان سُرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا بکثرت تارے ٹوٹیں یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا اور کوئی دہشت ناک امر پایا جائے ان سب کے لیے دو رکعت نماز مستحب ہے۔⁽⁷⁾

(عالمگیری، درمختار وغیرہما)

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الكسوف، ج ۳، ص ۷۸.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الكسوف، ج ۳، ص ۷۹.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثامن عشر فی صلاة الكسوف، ج ۱، ص ۱۵۳.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الكسوف، ج ۳، ص ۷۹. وغیرہ

⑤ "الجوہرۃ الثیرۃ"، کتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، ص ۱۲۴.

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثامن عشر فی صلاة الكسوف، ج ۱، ص ۱۵۳.

و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الكسوف، ج ۳، ص ۸۰، وغیرہ.

⑦ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الثامن عشر فی صلاة الكسوف، ج ۱، ص ۱۵۳.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الكسوف، ج ۳، ص ۸۰، وغیرہما.

چند حدیثیں جن میں آندھی وغیرہ کا ذکر ہے، اس موقع پر بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ان پر عمل کریں (و باللہ التوفیق)۔

حدیث ۱ — ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہما میں مروی، فرماتی ہیں: جب تیز ہوا چلتی تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یہ دُعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. (1)

حدیث ۲ — امام شافعی و ابو داؤد و ابن ماجہ و بیہقی نے دعوات کبیر میں روایت کی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، رحمت و عذاب لاتی ہے، اسے بُرا نہ کہو اور اللہ (عزوجل) سے اس کے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو۔“ (2)

حدیث ۳ — ترمذی میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ ایک شخص نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے سامنے ہوا پر لعنت بھیجی۔ فرمایا: ”ہوا پر لعنت نہ بھیجو کہ وہ مامور ہے اور جو شخص کسی شے پر لعنت بھیجے اور وہ لعنت کی مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اسی بھیجنے والے پر لوٹ آتی ہے۔“ (3)

حدیث ۴ — ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ و امام شافعی نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں: جب آسمان پر ابر آتا تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کلام ترک فرمادیتے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر یہ دُعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ. (4)

اگر کھل جاتا حمد کرتے اور برستا تو یہ دُعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ سَقِيَا نَافِعًا ط (5)

1..... ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح... إلخ، الحديث: ۱۵- (۸۹۹)، ص ۴۴۶.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے خیر کا جو اس میں ہے اور اس کے خیر کا جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے اور اس کے شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی۔ ۱۲

2..... ”مسند“ الإمام الشافعي، کتاب العیدین، ص ۸۱.

3..... ”جامع الترمذی“، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في اللعنة، الحديث: ۱۹۸۵، ج ۳، ص ۳۹۴.

4..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے۔ ۱۲

5..... ”مسند“ الإمام الشافعي، کتاب العیدین، ص ۸۱.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! ایسا پانی برسا جو نفع پہنچائے۔ ۱۲

حدیث ۵ امام احمد و ترمذی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جب بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ کہتے:

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ. (1)

حدیث ۶ امام مالک نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جب بادل کی آواز سنتے تو کلام ترک فرمادیتے اور کہتے:

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ (2) إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط (3)

حدیث ۷ فرماتے ہیں: ”جب بادل کی گرج سُنو تو اللہ (عزوجل) کی تسبیح کرو، تکبیر نہ کہو۔“ (4)

نماز استسقا کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (5)

تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت سے ہے اور بہت سی معاف فرمادیتا ہے۔ یہ قحط بھی ہمارے ہی معاصی کے سبب ہے، لہذا ایسی حالت میں کثرتِ استغفار کی بہت ضرورت ہے اور یہ بھی اس کا فضل ہے کہ بہت سے معاف فرمادیتا ہے، ورنہ اگر سب باتوں پر مواخذہ کرے تو کہاں ٹھکانہ۔ فرماتا ہے:

﴿ لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ دَابَّةً ﴾ (6)

اگر لوگوں کو ان کے فعلوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا۔

- 1 ”جامع الترمذی“، کتاب الدعوات، باب ما يقول إذا سمع الرعد، الحدیث: ۳۶۶۱، ج ۵، ص ۲۸۰.
- 2 ”الموطأ“ لإمام مالك، كتاب الكلام، باب القول إذا سمعت الرعد، الحدیث: ۱۹۲۰، ج ۲، ص ۴۷۰.
- 3 ترجمہ: پاک ہے وہ کہ حمد کے ساتھ رعد اس کی تسبیح کرتا ہے اور فرشتے اس کے خوف سے، بے شک اللہ (عزوجل) ہر چیز پر قادر ہے۔ ۱۲.
- 4 ”مراسیل أبي داود“ مع ”سنن أبي داود“، باب ماجاء في المطر، ص ۲۰.
- 5 پ ۲۵، الشوری: ۳۰.
- 6 پ ۲۲، فاطر: ۴۵.

اور فرماتا ہے:

﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۖ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الْبُرِّ ۖ وَالسَّمَاءُ مَطَّيَّرَةٌ لَّكُمْ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حِطَّةً ذُرِّيَّةً وَرِيحًا كَافِرًا ۖ وَالسَّمَاءُ مَطَّيَّرَةٌ لَّكُمْ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حِطَّةً ذُرِّيَّةً وَرِيحًا كَافِرًا ۖ وَالسَّمَاءُ مَطَّيَّرَةٌ لَّكُمْ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حِطَّةً ذُرِّيَّةً وَرِيحًا كَافِرًا ۖ﴾ (1)

اپنے رب (عزوجل) سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، مونسلا دھار پانی تم پر بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغ دے گا اور تمہیں نہریں دے گا۔

حدیث ۱ ابن ماجہ کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، وہ قحط اور شدت موت میں اور ظلم بادشاہ میں گرفتار ہوتے ہیں، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی۔“ (2)

حدیث ۲ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”قحط اسی کا نام نہیں کہ بارش نہ ہو، بڑا قحط تو یہ ہے کہ بارش ہو اور زمین کچھ نہ اگائے۔“ (3)

حدیث ۳ صحیحین میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی دُعا میں اس قدر ہاتھ نہ اٹھاتے جتنا استسقا میں اٹھاتے، یہاں تک بلند فرماتے کہ بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی۔“ (4)

حدیث ۴ صحیح مسلم شریف میں انہیں سے مروی، کہ ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے بارش کے لیے دُعا کی اور پشت دست سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔“ (5) (یعنی اور دعاؤں میں تو قاعدہ یہ ہے کہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہو، اور اس میں ہاتھ لوٹ دیں کہ حال بدلنے کی قال ہو)۔

حدیث ۵ سنن اربعہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہن کر استسقا کے لیے تشریف لے گئے تو اضع و خشوع و تضرع کے ساتھ۔“ (6)

① پ ۲۹، نوح: ۱۰ - ۱۲.

② ”سنن ابن ماجہ“، أبواب الفتن، باب العقوبات، الحدیث: ۴۰۱۹، ج ۴، ص ۳۶۷.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب فی سکنی المدینة... إلخ، الحدیث: ۲۹۰۴، ص ۱۵۵۳.

④ ”صحیح البخاری“، کتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام یدہ فی الاستسقاء، الحدیث: ۱۰۳۱، ج ۱، ص ۳۵۲.

⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع الیدین بالدعاء فی الاستسقاء، الحدیث: ۸۹۶، ص ۴۴۴.

⑥ ”جامع الترمذی“، أبواب السفر، باب ماجاء فی صلاة الاستسقاء، الحدیث: ۵۵۸، ج ۲، ص ۸۰.

و ”سنن ابن ماجہ“، أبواب إقامة الصلاة... إلخ، باب ماجاء فی صلاة الاستسقاء، الحدیث: ۱۲۶۶، ج ۲، ص ۹۴.

حدیث ۶ → ابو داؤد نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں: لوگوں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں قحط باراں کی شکایت پیش کی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے منبر کے لیے حکم فرمایا، عید گاہ میں رکھا گیا اور لوگوں سے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ اس روز سب لوگ چلیں، جب آفتاب کا کنارہ چمکا، اس وقت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھے، تکبیر کہی اور حمد الہی، بجالائے، پھر فرمایا: ”تم لوگوں نے اپنے ملک کے قحط کی شکایت کی اور یہ کہ میںہ اپنے وقت سے مؤخر ہو گیا اور اللہ عزوجل نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس سے دُعا کرو اور اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری دُعا قبول فرمائے گا۔“ اس کے بعد فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ ۝ (1)

پھر ہاتھ بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل کی سپیدی ظاہر ہوئی پھر لوگوں کی طرف پشت کی اور دوائے مبارک لوٹ دی پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور منبر سے اتر کر دو رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ابر پیدا کیا، وہ گرجا اور چمکا اور برس۔ اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ابھی مسجد کو تشریف بھی نہ لائے تھے کہ نالے بہہ گئے۔ (2)

حدیث ۷ → امام مالک و ابو داؤد بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) استسقا کی دُعا میں یہ کہتے:

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ . (3)

حدیث ۸ → سنن ابو داؤد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھا کر یہ دُعا کی:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ . (4)

① ترجمہ: حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا رحمن و رحیم ہے قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یا اللہ (عزوجل)! تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں ہم پر میںہ اوتار اور جو کچھ تو اوتارے، او سے ہمارے لیے قوت اور ایک وقت تک پہنچنے کا سبب کر دے۔ ۱۲

② ”سنن ابی داؤد“، کتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع الیدین فی الاستسقاء، الحدیث: ۱۱۷۳، ج ۱، ص ۴۳۱.

③ ”سنن ابی داؤد“، کتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع الیدین فی الاستسقاء، الحدیث: ۱۱۷۶، ج ۱، ص ۴۳۲.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو اپنے بندوں اور چوپایوں کو سیراب کر اور اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے شہر مردہ کو زندہ کر۔ ۱۳

④ ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! ہم کو سیراب کر پوری بارش سے، جو خوشگوار تازگی لانے والی ہو، نافع ہو، ضرر نہ کرے، جلد ہو، دیر میں نہ ہو۔ ۱۴

حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے یہ دُعا پڑھی تھی کہ آسمان گھبرا آئے۔⁽¹⁾

حدیث ۹ صحیح بخاری شریف میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں: لوگ جب قحط میں مبتلا ہوتے تو امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے طلبِ باراں کرتے، عرض کرتے، اے اللہ (عزوجل)! تیری طرف ہم اپنے نبی کا وسیلہ کیا کرتے تھے اور تو برساتا تھا، اب ہم تیری طرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عم مکرم کو وسیلہ کرتے ہیں تو بارش بھیج۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: جب یوں کرتے تو بارش ہوتی⁽²⁾ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آگے ہوتے اور ہم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پیچھے صفیں باندھ کر دُعا کرتے۔ اب کہ یہ میسر نہیں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے چچا کو آگے کر کے دُعا کرتے ہیں یہ بھی توسل حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے ہے صورتاً میسر نہیں تو معنی۔

مسائل فقہیہ

استسقا دُعا و استغفار کا نام ہے۔ استسقا کی نماز جماعت سے جائز ہے، مگر جماعت اس کے لیے سنت نہیں، چاہیں جماعت سے پڑھیں یا تنہا تہادونوں طرح اختیار ہے۔⁽³⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱ استسقا کے لیے پرانے یا پیوند لگے کپڑے پہن کر تدلل و خشوع و خضوع و تواضع کے ساتھ سر برہنہ پیدل جائیں اور پابرہنہ ہوں تو بہتر اور جانے سے پیشتر خیرات کریں۔ کفار کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں کہ جاتے ہیں رحمت کے لیے اور کافر پر لعنت اترتی ہے۔ تین دن پیشتر سے روزے رکھیں اور توبہ و استغفار کریں پھر میدان میں جائیں اور وہاں توبہ کریں اور زبانی توبہ کافی نہیں بلکہ دل سے کریں اور جن کے حقوق اس کے ذمہ ہیں سب ادا کرے یا معاف کرائے، کمزوروں، بوڑھوں، بڑھیوں بچوں کے توسل سے دُعا کرے اور سب آمین کہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں روزی اور مدد کمزوروں کے ذریعہ سے ملتی ہے۔“⁽⁴⁾ اور ایک روایت میں ہے، ”اگر جوان خشوع کرنے والے اور چوپائے چرنے والے اور بوڑھے رکوع کرنے والے اور بچے دودھ پینے والے نہ ہوتے تو تم پر شدت سے عذاب کی بارش ہوتی۔“⁽⁵⁾ اس وقت بچے اپنی ماؤں سے جدا رکھے جائیں اور مویشی بھی ساتھ لے جائیں۔ غرض یہ کہ توجہ رحمت کے

① ”سنن أبي داود“، كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين في الاستسقاء، الحديث: ١١٦٩، ج ١، ص ٤٣٠.

② ”صحيح البخاري“، أبواب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، الحديث: ١٠١٠، ج ١، ص ٣٤٦.

③ ”الدر المختار“، كتاب الصلاة، باب الاستسقاء، ج ٣، ص ٨١ - ٨٣.

④ ”صحيح البخاري“، كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء... إلخ، الحديث: ٢٨٩٦، ج ٢، ص ٢٨٠.

⑤ ”السنن الكبرى“، كتاب صلاة الاستسقاء، باب استحباب الخروج بالضعفاء... إلخ، الحديث: ٦٣٩٠، ج ٣، ص ٤٨١.

تمام اسباب مہیا کریں اور تین دن متواتر جنگل کو جائیں اور دُعا کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام دو رکعت جہر کے ساتھ نماز پڑھائے اور بہتر یہ ہے کہ پہلی میں **سَبِّحِ اسْمَ اور دوسری میں هَلْ اَشْكُ** پڑھے اور نماز کے بعد زمین پر کھڑا ہو کر خطبہ پڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خطبہ پڑھے اور خطبہ میں دُعا تسبیح و استغفار کرے اور اثنائے خطبہ میں چادر لوٹ دے یعنی اوپر کا کنارہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دے کہ حال بدلنے کی قال ہو، خطبہ سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف پیٹھ اور قبلہ کو منھ کر کے دُعا کرے۔ بہتر وہ دُعا میں ہیں جو احادیث میں وارد ہیں اور دُعا میں ہاتھوں کو خوب بلند کرے اور پشت دست جانب آسمان (1) رکھے۔ (2) (عالمگیری، غنیہ، درمختار، جوہرہ وغیرہا)

مسئلہ ۲ - اگر جانے سے پیشتر بارش ہوگئی، جب بھی جائیں اور شکر الہی بجالائیں اور مینھ کے وقت حدیث میں جو دُعا ارشاد ہوئی پڑھے اور بادل گرجے تو اس کی دُعا پڑھے اور بارش میں کچھ دیر ٹھہرے کہ بدن پر پانی پہنچے۔ (3) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - کثرت سے بارش ہو کہ نقصان کرنے والی معلوم ہو تو اس کے روکنے کی دُعا کر سکتے ہیں اور اس کی دُعا حدیث میں یہ ہے:

اللَّهُمَّ حَوِّأَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ . (4)

اس حدیث کو بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

1..... یعنی اور دُعاؤں میں تو قاعدہ یہ ہے کہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہو، اور اس میں ہاتھ لوٹ دیں کہ حال بدلنے کی قال ہو۔

2..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب التاسع عشر فی الاستسقاء، ج ۱، ص ۱۵۳ - ۱۵۴.

و "غنیة المتملی"، صلاة الاستسقاء، ۴۲۷ - ۴۳۰.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الاستسقاء، ج ۳، ص ۸۳ - ۸۵.

و "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب صلاة الاستسقاء، ص ۱۲۴ - ۱۲۵.

3..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الاستسقاء، ج ۳، ص ۸۵.

4..... "صحیح البخاری"، کتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء فی المساجد الجامع، الحدیث: ۱۰۱۳، ج ۱، ص ۳۴۷.

و "صحیح مسلم"، کتاب صلاة الاستسقاء، الحدیث: ۸۰-۸۱، (۸۹۷)، ص ۴۴۴، ۴۴۵.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! ہمارے آس پاس برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ اے اللہ (عزوجل)! بارش کر ٹیلوں اور پہاڑیوں پر اور نالوں

میں اور جہاں درخت اوگنے ہیں۔ ۱۳

نماز خوف کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١﴾﴾

اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سواری پر نماز پڑھو پھر جب خوف جاتا رہے تو اللہ (عزوجل) کو اس طرح یاد کرو جیسا اُس نے سکھایا وہ کہ تم نہیں جانتے تھے۔

اور فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسِلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَٰلِكُمْ كَفْرٌ وَلَوْلَا تَعْقُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٢﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿٣﴾﴾

اور جب تم ان میں ہو اور نماز قائم کرو تو ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور انہیں چاہیے کہ اپنے ہتھیار لیے ہوں پھر جب ایک رکعت کا سجدہ کر لیں تو وہ تمہارے پیچھے ہوں اور اب دوسرا گروہ آئے، جس نے تمہارے ساتھ نہ پڑھی تھی، وہ تمہارے ساتھ پڑھے اور اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں، کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، تو ایک ساتھ تم پر جھک پڑیں اور تم پر کچھ گناہ نہیں، اگر تمہیں مینہ سے تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار رکھ دو، مگر پناہ کی چیز لیے رہو، بیشک اللہ (عزوجل) نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب طیار کر رکھا ہے، پھر جب نماز پوری کر چکو تو اللہ (عزوجل) کو یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے، پھر جب اطمینان سے ہو جاؤ تو نماز حسب دستور قائم کرو، بیشک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔

حدیث ۱ ترمذی و نسائی میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عسفان و ضحیمان

① پ ۲، البقرة: ۲۳۹.

② پ ۵، النساء: ۱۰۲ - ۱۰۳.

کے درمیان اترے، مشرکین نے کہا ان کے لیے ایک نماز ہے جو باپ اور بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے اور وہ نماز عصر ہے، لہذا سب کام ٹھیک رکھو، جب نماز کو کھڑے ہوں ایک دم حملہ کرو، جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اپنے اصحاب کے دو حصے کریں ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھیں اور دوسرا گروہ ان کے پیچھے سپر اور اسلحہ لیے کھڑا رہے تو ان کی ایک ایک رکعت ہوگی (یعنی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ) اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو رکعتیں۔⁽¹⁾

حدیث ۲ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گئے جب ذات الرقاع میں پہنچے، ایک سایہ دار درخت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے لیے چھوڑ دیا، اس پر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اپنی تلوار لٹکا دی تھی، ایک مشرک آیا اور تلوار لے لی اور کھینچ کر کہنے لگا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں فرمایا: ”نہ“، اس نے کہا تو آپ کو کون مجھ سے بچائے گا، فرمایا: ”اللہ (عزوجل)“، صحابہ کرام نے جب دیکھا تو اسے ڈرایا، اس نے میان میں تلوار رکھ کر لٹکا دی، اس کے بعد اذان ہوئی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ایک گروہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی پھر یہ پیچھے ہٹا اور دوسرے گروہ کے ساتھ دو رکعت پڑھی تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی چار ہوئیں اور لوگوں کی دو دو یعنی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ۔⁽²⁾

مسائل فقہیہ

نماز خوف جائز ہے، جبکہ دشمنوں کا قریب میں ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہو اور اگر یہ گمان تھا کہ دشمن قریب میں ہیں اور نماز خوف پڑھی، بعد کو گمان کی غلطی ظاہر ہوئی تو مقتدی نماز کا اعادہ کریں۔ یو ہیں اگر دشمن دور ہوں تو یہ نماز جائز نہیں یعنی مقتدی کی نہ ہوگی اور امام کی ہو جائے گی۔

نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن سامنے ہوں اور یہ اندیشہ ہو کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو حملہ کر دیں گے، ایسے وقت امام جماعت کے دو حصے کرے، اگر کوئی اس پر راضی ہو کہ ہم بعد کو پڑھ لیں گے تو اسے دشمن کے مقابل کرے اور دوسرے گروہ کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے، پھر جس گروہ نے نماز نہیں پڑھی اس میں کوئی امام ہو جائے اور یہ لوگ اس کے ساتھ باجماعت پڑھ لیں اور اگر دونوں میں سے بعد کو پڑھنے پر کوئی راضی نہ ہو تو امام ایک گروہ کو دشمن کے مقابل کرے اور دوسرا امام کے پیچھے نماز پڑھے، جب امام اس گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے یعنی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو یہ

① "جامع الترمذی"، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة النساء، الحدیث: ۳۰۴۶، ج ۵، ص ۲۷.

② "صحیح مسلم"، کتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب صلاة الخوف، الحدیث: ۸۴۳، ص ۴۲۰.

لوگ دشمن کے مقابل چلے جائیں اور جو لوگ وہاں تھے وہ چلے آئیں اب ان کے ساتھ امام ایک رکعت پڑھے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے، مگر مقتدی سلام نہ پھیریں بلکہ یہ لوگ دشمن کے مقابل چلے جائیں یا یہیں اپنی نماز پوری کر کے جائیں اور وہ لوگ آئیں اور ایک رکعت بغیر قراءت پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گروہ یہاں نہ آئے بلکہ وہیں اپنی نماز پوری کر لے اور دوسرا گروہ اگر نماز پوری کر چکا ہے، فبہا، ورنہ اب پوری کرے، خواہ وہیں یا یہاں آ کر اور یہ لوگ قراءت کے ساتھ اپنی ایک رکعت پڑھیں اور تشہد کے بعد سلام پھیریں۔ یہ طریقہ دو رکعت والی نماز کا ہے خواہ نماز ہی دو رکعت کی ہو، جیسے فجر وعید و جمعہ یا سفر کی وجہ سے چار کی دو ہو گئیں اور چار رکعت والی نماز ہو تو ہر گروہ کے ساتھ امام دو دو رکعت پڑھے اور مغرب میں پہلے گروہ کے ساتھ دو اور دوسرے گروہ کے ساتھ ایک پڑھے، اگر پہلے کے ساتھ ایک پڑھی اور دوسرے کے ساتھ دو تو نماز جاتی رہی۔⁽¹⁾ (درمختار، عالمگیری وغیرہما)

مسئلہ ۱ یہ سب احکام اس صورت میں ہیں جب امام و مقتدی سب مقیم ہوں یا سب مسافر یا امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر اور اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم تو امام ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور دوسرے کے ساتھ ایک پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر پہلا گروہ آئے اور تین رکعتیں بغیر قراءت کے پڑھے پھر دوسرا گروہ آئے اور تین پڑھے، پہلی میں فاتحہ و سورت پڑھے اور اگر امام مسافر ہے اور مقتدی بعض مقیم ہیں بعض مسافر تو مقیم مقیم کے طریقہ پر عمل کریں اور مسافر مسافر کے۔⁽²⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲ ایک رکعت کے بعد دشمن کے مقابل جانے سے مراد پیدل جانا ہے، سواری پر جائیں گے تو نماز جاتی رہے گی۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ اگر خوف بہت زیادہ ہو کہ سواری سے اتر نہ سکیں تو سواری پر تنہا تنہا اشارہ سے، جس طرف بھی منہ کر سکیں اسی طرف نماز پڑھیں، سواری پر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، ہاں اگر ایک گھوڑے پر دو سوار ہوں تو پچھلا اگلے کی اقتدا کر سکتا ہے اور سواری پر فرض نماز اسی وقت جائز ہوگی کہ دشمن ان کا تعاقب کر رہے ہوں اور اگر یہ دشمن کے تعاقب میں ہوں تو سواری پر نماز نہیں ہوگی۔⁽⁴⁾ (جوہرہ، درمختار)

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج ۳، ص ۸۶ - ۸۸.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب العشرون فی صلاة الخوف، ج ۱، ص ۱۵۴ - ۱۵۵، وغیرہما.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب العشرون فی صلاة الخوف، ج ۱، ص ۱۵۵، وغیرہ.

③ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج ۳، ص ۸۷.

④ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ص ۱۳۰.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج ۳، ص ۸۸.

مسئلہ ۳ نماز خوف میں صرف دشمن کے مقابل جانا اور وہاں سے امام کے پاس صف میں آنا یا وضو جاتا رہا تو وضو کے لیے چلنا معاف ہے، اس کے علاوہ چلنا نماز کو فاسد کر دے گا، اگر دشمن نے اسے دوڑایا یا اس نے دشمن کو بھگایا تو نماز جاتی رہی، البتہ پہلی صورت میں اگر سواری پر ہو تو معاف ہے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ سواری پر نہیں تھا اثنائے نماز میں سوار ہو گیا نماز جاتی رہی، خواہ کسی غرض سے سوار ہوا ہو اور لڑنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، مگر ایک تیر پھینکنے کی اجازت ہے۔⁽²⁾ (درمختار) یوہیں آج کل بندوق کا ایک فیر کرنے کی اجازت ہے۔

مسئلہ ۶ دریا میں تیرنے والا اگر کچھ دیر بغیر اعضا کو حرکت دیے رہ سکے تو اشارہ سے نماز پڑھے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۷ جنگ میں مشغول ہے، مثلاً تلوار چلا رہا ہے اور وقت نماز ختم ہونا چاہتا ہے تو نماز کو مؤخر کرے، لڑائی سے فارغ ہو کر نماز پڑھے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ باغیوں اور اس شخص کے لیے جس کا سفر کسی معصیت کے لیے ہو صلاۃ الخوف جائز نہیں۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۹ نماز خوف ہو رہی تھی، اثنائے نماز میں خوف جاتا رہا یعنی دشمن چلے گئے تو جو باقی ہے وہ امن کی سی پڑھیں، اب خوف کی پڑھنا جائز نہیں۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ دشمنوں کے چلے جانے کے بعد کسی نے قبلہ سے سینہ پھیرا، نماز جاتی رہی۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ نماز خوف میں ہتھیار لیے رہنا مستحب ہے اور خوف کا اثر صرف اتنا ہے کہ ضرورت کے لیے چلنا جائز ہے، باقی محض خوف سے نماز میں قصر نہ ہوگا۔⁽⁸⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۲ نماز خوف جس طرح دشمن سے ڈر کے وقت جائز ہے۔ یوہیں درندہ اور بڑے سانپ وغیرہ سے خوف ہو جب بھی جائز ہے۔⁽⁹⁾ (درمختار)

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج ۳، ص ۸۸.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج ۳، ص ۸۸.

③ المرجع السابق، ص ۸۹. ④ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج ۳، ص ۸۹.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج ۳، ص ۸۹.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب العشرون فی صلاة الخوف، ج ۱، ص ۱۵۶.

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب العشرون فی صلاة الخوف، ج ۱، ص ۱۵۶.

⑧ المرجع السابق، و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج ۳، ص ۸۸.

⑨ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ج ۳، ص ۸۶.

کتاب الجنائز

بیماری کا بیان

بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے منافع بے شمار ہیں، اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے حقیقی بیماری امراض روحانیہ ہیں کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض مہلک سمجھنا چاہیے۔ بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو مگر جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا اور توبہ و استغفار کرتا ہے اور یہ توبہ و رتبہ والوں کی شان ہے کہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا۔

ع انچه از دوست میرسد نیکوست (1)

مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ صبر و استقلال سے کام لیں اور جزع و فزع کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ دیں اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی پھر اس بڑے ثواب سے محرومی و دوہری مصیبت ہے۔ بہت سے نادان بیماری میں نہایت بے جا کلمے بول اٹھتے ہیں بلکہ بعض کفر تک پہنچ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ عزوجل کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں، یہ تو بالکل ہی **حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ** کے مصداق (2) بن جاتے ہیں، اب ہم اس کے بعض فوائد جو احادیث میں وارد ہیں بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے پیارے اور برگزیدہ رسول کے ارشادات بگوش دل سنیں اور ان پر عمل کریں، اللہ عزوجل توفیق عطا فرمائے۔

حدیث ۲۰۱ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”مسلمان کو جو تکلیف و ہم و حزن و اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ کاشا جو اس کے چُٹھے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔“ (3)

حدیث ۳ صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”مسلمان کو جو اذیت پہنچتی ہے مرض ہو یا اس کے سوا کچھ اور، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو گرا دیتا ہے، جیسے درخت سے پتے

① یعنی وہ چیز جو دوست کی طرف سے پہنچتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔

② یعنی دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والوں کی طرح۔

③ ”صحیح البخاری“، کتاب المرضی، باب ماجاء فی کفارة المرض... إلخ، الحدیث ۵۶۴۱، ج ۴، ص ۳.

جھڑتے ہیں۔“ (1)

حدیث ۵۰۳ صحیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام السائب کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا: ”تجھے کیا ہوا ہے جو کانپ رہی ہے؟ عرض کی، بخار ہے، خدا اس میں برکت نہ کرے، فرمایا: ”بخار کو برانہ کہہ کہ وہ آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔“ (2) اسی کے مثل سنن ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی۔

حدیث ۶ صحیح بخاری شریف میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”جب اپنے بندہ کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے، تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا۔“ (3)

حدیث ۷ ترمذی شریف میں ہے، امیہ نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان دو آیتوں کا مطلب دریافت کیا:

﴿إِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا كَأَنْ حَسِبْتُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ (4)

جو تمہارے نفس میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اور

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَئِهِ﴾ (5)

جو کسی قسم کی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

(کہ جب ہر برائی کی جزا ہے اور جو خطرہ دل میں گزرے اس کا بھی حساب ہے تو بڑی مشکل ہے کہ اس سے کون بچے گا۔)

صدیقہ نے فرمایا: جب سے میں نے اس کا سوال حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے کیا کسی نے بھی مجھ سے نہ پوچھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”اس سے مراد عتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر کرتا ہے کہ اسے بخار اور تکلیف پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ مال جو گرتے کی آستین میں ہو اور گم جائے اور اس کی وجہ سے گھبرا جائے، ان امور کی وجہ سے گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے بھٹی سے سرخ سونا نکلتا ہے۔“ (6) (یعنی گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا بھٹی سے سونا میل

① ”صحیح البخاری“، کتاب المرضی، باب وضع الید علی المریض، الحدیث: ۵۶۶۰، ج ۴، ص ۹.

② ”صحیح مسلم“، کتاب البر... إلخ، باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض... إلخ، الحدیث: ۲۵۷۵، ص ۱۳۹۲.

③ ”صحیح البخاری“، کتاب المرضی، باب فضل من ذهب بصره، الحدیث: ۵۶۵۳، ج ۴، ص ۶.

④ پ ۳، البقرة: ۲۸۴.

⑤ پ ۵، النساء: ۱۲۳.

⑥ ”جامع الترمذی“، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ البقرة، الحدیث: ۳۰۰۲، ج ۴، ص ۴۶۵.

سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔)

حدیث ۸ ترمذی میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”بندہ کو کوئی تکلیف

کم و بیش نہیں پہنچتی مگر گناہ کے سبب اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے“ اور یہ آیت پڑھی:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ وَتَعْتُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (1)

جو تمہیں مصیبت پہنچی، وہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا اور بہت سی معاف فرمادیتا ہے۔

حدیث ۹ و ۱۰ شرح سنت میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”بندہ جب

عبادت کے اچھے طریقہ پر ہو پھر بیمار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر موقوف ہے، اس سے فرمایا جاتا ہے: اس کے لیے ویسے ہی اعمال

لکھ جب مرض میں مبتلا نہ تھا، یہاں تک کہ میں اسے مرض سے رہا کروں یا اپنی طرف بلاوں (2) یعنی موت دوں۔“ اور انس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جب مسلمان کسی بلائے بدن میں مبتلا ہوتا ہے، فرشتہ کو

حکم ہوتا ہے، لکھ جو نیک کام پہلے کیا کرتا تھا، تو اگر شفا دیتا ہے تو دھو دیتا اور پاک کر دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور

رحم فرماتا ہے۔“ (3)

حدیث ۱۱ ترمذی بافادہ تصحیح و تحمین و ابن ماجہ و دارمی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے

سوال ہوا، کس پر بلا زیادہ سخت ہوتی ہے؟ فرمایا: ”انبیاء پر پھر جو بہتر ہیں پھر جو بہتر ہیں آدمی میں جتنا دین ہوتا ہے اسی کے اندازہ

سے بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر دین میں قوی ہے بلا بھی اس پر سخت ہوگی اور دین میں ضعیف ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے تو

ہمیشہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہا۔“ (4)

حدیث ۱۲ ترمذی و ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جتنی بلا زیادہ

اتنا ہی ثواب زیادہ اور اللہ عزوجل جب کسی قوم کو محبوب رکھتا ہے تو اسے بلا میں ڈالتا ہے، جو راضی ہو اس کے لیے رضا ہے اور جو

ناراض ہو اس کے لیے ناخوشی۔“ (5) اور دوسری روایت ترمذی کی انھیں سے یوں ہے، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جب

①..... ”جامع الترمذی“، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الشوری... إلخ، الحدیث: ۳۲۶۳، ج ۵، ص ۱۶۹.

پ ۲۵، الشوری: ۳۰.

②..... ”شرح السنة“، کتاب الجنائز، باب المریض یکتب له مثل عمله، الحدیث: ۱۴۲۳، ج ۳، ص ۱۸۶.

③..... ”شرح السنة“، کتاب الجنائز، باب المریض یکتب له مثل عمله، الحدیث: ۱۴۲۴، ج ۳، ص ۱۸۷.

④..... ”جامع الترمذی“، أبواب الزهد، باب ماجاء فی الصبر علی البلاء، الحدیث: ۲۴۰۶، ج ۴، ص ۱۷۹.

و ”سنن الدرामी“، کتاب الرقاق، باب فی أشد الناس بلاء، الحدیث: ۲۷۸۳، ج ۲، ص ۴۱۲.

⑤..... ”جامع الترمذی“، أبواب الزهد، باب ماجاء فی الصبر... إلخ، الحدیث: ۲۴۰۴، ج ۴، ص ۱۷۸.

اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو اُسے دنیا ہی میں سزا دیدیتا ہے اور جب شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے گناہ کا بدلہ نہیں دیتا اور قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا۔“ (1)

حدیث ۱۳ امام مالک و ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”مسلمان مرد و عورت کے جان و مال و اولاد میں ہمیشہ بلا رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر خطا کچھ نہیں۔“ (2)

حدیث ۱۴ احمد و ابو داؤد بروایت محمد بن خالد عن ابیہ عن جدہ راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”بندہ کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے اور وہ اعمال کے سبب اس رتبہ کو نہ پہنچا تو بدن یا مال یا اولاد میں اس کا ابتلا فرماتا ہے پھر اسے صبر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مرتبہ کو پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں ہے۔“ (3)

حدیث ۱۵ ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جب قیامت کے دن اہل بلا کو ثواب دیا جائے گا تو عافیت والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں قینچیوں سے ان کی کھالیں کاٹی جاتیں۔“ (4)

حدیث ۱۶ ابو داؤد و عامر الرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا: کہ ”مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت اور منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہوا، اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا تو نہ اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا، نہ یہ کہ کیوں کھولا؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! بیماری کیا چیز ہے، میں تو کبھی بیمار نہ ہوا؟ فرمایا: ہمارے پاس سے اٹھ جا کہ تو ہم میں سے نہیں۔“ (5)

حدیث ۱۷ امام احمد شہاد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں، اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”جب میں اپنے مومن بندہ کو بلا میں ڈالوں اور وہ اس ابتلا پر میری حمد کرے، تو وہ اپنی خواب گاہ سے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر اٹھے گا جیسے اس دن کہ اپنی ماں سے پیدا ہوا۔“ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”میں نے اپنے بندہ کو مقید اور مبتلا کیا، اس کے لیے عمل ویسا ہی جاری رکھو جیسا صحت میں تھا۔“ (6)

① ”جامع الترمذی“، أبواب الزهد، باب ماجاء في الصبر... إلخ، الحدیث: ۲۴۰۴، ج ۴، ص ۱۷۸.

② ”جامع الترمذی“، أبواب الزهد، باب ماجاء في الصبر... إلخ، الحدیث: ۲۴۰۷، ج ۴، ص ۱۷۹.

③ ”سنن أبي داود“، كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب، الحدیث: ۳۰۹۰، ج ۳، ص ۲۴۶.

و ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث رجل، الحدیث: ۲۲۴۰۱، ج ۸، ص ۳۱۴.

④ ”جامع الترمذی“، أبواب الزهد، ۵۹-باب، الحدیث: ۲۴۱۰، ج ۴، ص ۱۸۰.

⑤ ”سنن أبي داود“، كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب، الحدیث: ۳۰۸۹، ج ۳، ص ۲۴۵.

⑥ ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث شداد بن اوس، الحدیث: ۱۷۱۱۸، ج ۶، ص ۷۷.

مریض کی عیادت کو جانا سنت ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔

عیادت کے فضائل

حدیث ۱ بخاری و مسلم و ابوداؤد و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مسلمان پر مسلمان کے پانچ حق ہیں:

(۱) سلام کا جواب دینا

(۲) مریض کے پوچھنے کو جانا

(۳) جنازے کے ساتھ جانا

(۴) دعوت قبول کرنا

(۵) چھیننے والے کا جواب دینا۔^(۱) (جَبَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَيْفَ)

حدیث ۲ صحیحین میں ہے برآبن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں سات باتوں کا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے حکم فرمایا، (یہ پانچ باتیں ذکر کر کے فرمایا)، (۶) قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنا، (۷) مظلوم کی مدد کرنا۔^(۲)

حدیث ۳ بخاری و مسلم ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس ہونے تک ہمیشہ جنت کے پھل چننے میں رہا۔“^(۳)

حدیث ۴ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ عزوجل روز قیامت فرمائے گا: ”اے ابن آدم! میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی، عرض کرے گا، تیری عیادت کیسے کرتا تو رب العالمین ہے (یعنی خدا کیسے بیمار ہو سکتا ہے کہ اس کی عیادت کی جائے) فرمائے گا: کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور اس کی تو نے عیادت نہ کی، کیا تو نہیں جانتا کہ اگر اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اور فرمائے گا: اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے نہ دیا عرض کرے گا: تجھے کس طرح کھانا دیتا تو رب العالمین ہے فرمائے گا: کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے نہ دیا کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو نے دیا ہوتا تو اس کو (یعنی اس کے ثواب کو) میرے پاس پاتا، فرمائے گا: اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے نہ دیا،

① ”صحیح البخاری“، کتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، الحدیث: ۱۲۴۰، ج ۱، ص ۴۲۱.

② ”صحیح البخاری“، کتاب اللباس، باب نحو اتیم الذهب، الحدیث: ۵۸۶۳، ج ۴، ص ۶۷.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب البر... إلخ، باب فضل عیادة المریض، الحدیث: ۴۱- (۲۵۶۸)، ص ۱۳۸۹.

عرض کرے گا، تجھے کیسے پانی دیتا تو رب العالمین ہے فرمائے گا: ”میرے فلاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا تو نے اسے نہ پلایا، اگر پلایا ہوتا تو میرے یہاں پاتا۔“ (1)

حدیث ۵ صحیح بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے اور عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے:

لَا بَأْسَ طُهُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

”یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔“

اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا:

لَا بَأْسَ طُهُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . (2)

حدیث ۶ ابوداؤد و ترمذی امیر المؤمنین مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں اور شام کو جائے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔“ (3)

حدیث ۷ ابوداؤد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جو اچھی طرح وضو کر کے بغرض ثواب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جائے جہنم سے ساٹھ برس کی راہ دور کر دیا گیا۔“ (4)

حدیث ۸ ترمذی بافادہ تحسین و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جو شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، تُو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا اور جنت کی ایک منزل کو تُو نے ٹھکانا بنایا۔“ (5)

حدیث ۹ ابن ماجہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”جب تُو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دُعا کرے کہ اس کی دُعا دُعائے ملنگہ کی مانند ہے۔“ (6)

① ”صحیح مسلم“، کتاب البر... إلخ، باب فضل عیادة المریض، الحدیث: ۲۵۶۹، ص ۱۳۸۹.

② ”صحیح البخاری“، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام، الحدیث: ۳۶۱۶، ج ۲، ص ۵۰۵.

③ ”جامع الترمذی“، أبواب الجنائز، باب ماجاء فی عیادة المریض، الحدیث: ۹۷۱، ج ۲، ص ۲۹۰.

④ ”سنن أبي داود“، کتاب الجنائز، باب فی فضل العیادة علی وضوء، الحدیث: ۳۰۹۷، ج ۳، ص ۲۴۸.

⑤ ”سنن ابن ماجه“، أبواب ماجاء فی الجنائز، باب ماجاء فی ثواب من عاد مریضا، الحدیث: ۱۴۴۳، ج ۲، ص ۱۹۲.

⑥ ”سنن ابن ماجه“، أبواب ماجاء فی الجنائز، باب ماجاء فی عیادة المریض، الحدیث: ۱۴۴۱، ج ۲، ص ۱۹۱.

حدیث ۱۰ بیہوشی نے سعید بن المسیب سے مرسل روایت کی کہ فرماتے ہیں: ”افضل عیادت یہ ہے کہ جلد اٹھ آئے۔“ (۱) اور اسی کی مثل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی۔

حدیث ۱۱ ترمذی وابن ماجہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: جب مریض کے پاس جاؤ تو عمر کے بارے میں دل خوش کن بات کرو کہ یہ کسی چیز کو رد نہ کر دے گا اور اس کے جی کو اچھا معلوم ہوگا۔ (۲)

حدیث ۱۲ ابن حبان اپنی صحیح میں انھیں سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”پانچ چیزیں جو ایک دن میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں لکھ دیگا۔

(۱) مریض کی عیادت کرے

(۲) جنازہ میں حاضر ہو

(۳) روزہ رکھے

(۴) جمعہ کو جائے

(۵) غلام آزاد کرے۔“ (۳)

حدیث ۱۳ و ۱۴ احمد و طبرانی و ابویعلیٰ و ابن خزیمہ و ابن حبان معاذ بن جبل اور ابو داؤد ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”پانچ چیزیں ہیں کہ جو ان میں سے ایک بھی کرے، اللہ عزوجل کے ضمان میں آجائے گا۔

(۱) مریض کی عیادت کرے

(۲) یا جنازہ کے ساتھ جائے

(۳) یا غزوہ کو جائے

(۴) یا امام کے پاس اس کی تعظیم و توقیر کے ارادہ سے جائے

(۵) یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے کہ لوگ اس سے سلامت رہیں اور وہ لوگوں سے۔“ (۴)

حدیث ۱۵ ابن خزیمہ اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

①..... ”شعب الإيمان“، باب فی عیادة المریض، فصل فی آداب العیادة، الحدیث: ۹۲۲۱، ج ۶، ص ۵۴۲.

②..... ”جامع الترمذی“، أبواب الطب، ۳۵-باب، الحدیث: ۲۰۹۴، ج ۴، ص ۲۵.

③..... ”الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، الحدیث: ۲۷۶۰، ج ۴، ص ۱۹۱.

④..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، الحدیث: ۲۲۱۵۴، ج ۸، ص ۲۵۵.

”آج تم میں کون روزہ دار ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں، فرمایا: آج تم میں کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ عرض کی میں نے، فرمایا: کون آج جنازہ کے ساتھ گیا؟ عرض کی میں، فرمایا: کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ عرض کی میں نے، فرمایا: یہ خصلتیں کسی میں کبھی جمع نہ ہوں گی مگر جنت میں داخل ہوگا۔“ (1)

حدیث ۱۶ ابو داؤد و ترمذی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو سات باریہ دعا پڑھے:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ . (2)

اگر موت نہیں آئی ہے تو اُسے شفا ہو جائے گی۔“ (3)

موت آنے کا بیان

دنیا گزشتی و گزاشتی (4) ہے، آخر ایک دن موت آتی ہے جب یہاں سے کوچ کرنا ہی ہے تو وہاں کی طیاری چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور اس وقت کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ”دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔“ (5) تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہ گیر راستہ کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ راہ کھوٹی ہوگی اور منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی کے حاصل کرنے میں آڑے آئیں اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ اس کی یاد دنیوی تعلقات کی بیخ کنی کرتی ہے۔ (6)

حدیث میں ارشاد فرمایا:

① ”الترغیب و الترہیب“، کتاب الجنائز، الترغیب فی عیادۃ المرضی... إلخ، الحدیث: ۷، ج ۴، ص ۱۶۳.

② ترجمہ: اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں، جو عرض کریم کا مالک ہے اس کا کہ تجھے شفا دے۔ ۱۳

③ ”سنن أبی داؤد“، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمریض، الحدیث: ۳۱۰۶، ج ۳، ص ۲۵۱.

و ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عباس، الحدیث: ۲۱۸۲، ج ۱، ص ۵۲۴.

④ یعنی دنیا ختم ہونے والی اور چھوٹنے والی۔

⑤ ”صحیح البخاری“، کتاب الرقائق، باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((کن فی الدنیا کأنک غریب أو عابر سبیل))،

الحدیث: ۶۴۱۶، ج ۴، ص ۲۲۳.

⑥ یعنی جڑ کاٹی ہے۔

أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَٰذِهِمِ اللَّذَاتِ (1) الْمَوْتِ . (2)

مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کہ اس کی ممانعت آئی ہے اور ناچار کرنی ہی ہے تو یوں کہے، اُمّی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہو اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ (3) کما هو فی حدیث الصحیحین عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ (4) اور مسلمان کو چاہیے کہ اللہ عزوجل سے نیک گمان رکھے، اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ حدیث میں فرمایا: کوئی نہ مرے، مگر اس حال میں کہ اللہ عزوجل سے نیک گمان رکھتا ہو۔ (5) کہ ارشادِ اُمّی ہے:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي . (6)

”میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔“

ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے اور وہ قریب الموت تھے، فرمایا: تو اپنے کو کس حال میں پاتا ہے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! اللہ (عزوجل) سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر، فرمایا: ”یہ دونوں خوف ورجا، اس موقع پر جس بندہ کے دل میں ہوں گے، اللہ اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہے اور اس سے امن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہے۔“ (7) رُوح قبض ہونے کا وقت بہت سخت وقت ہے کہ اسی پر سارے عمل کا مدار ہے، بلکہ ایمان کے تمام نتائجِ اخروی اسی پر مرتب کہ اعتبارِ خاتمہ ہی کا ہے اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مکر سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے وہ مراد کو پہنچا۔ إِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْخَوَاتِيمِ . ”اعتبارِ خاتمہ ہی کا ہے۔“ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: جس کا آخر کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو یعنی کلمہ طیبہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ (8)

مسائل فقہیہ

جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ وہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں

- 1..... ”جامع الترمذی“، أبواب الزهد، باب ماجاء فی ذکر الموت، الحدیث: ۲۳۱۴، ج ۴، ص ۱۳۸.
- 2..... لذتوں کی توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ۱۲
- 3..... ”صحیح البخاری“، کتاب المرضی، باب تمنی المرضی الموت، الحدیث: ۵۶۷۱، ج ۴، ص ۱۳.
- 4..... یعنی اس حدیث کو بخاری و مسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔
- 5..... ”صحیح مسلم“، کتاب الحنة... إلخ، باب الأمر بحسن الظن باللہ تعالیٰ عند الموت، الحدیث: ۸۲- (۲۸۷۷)، ص ۱۵۳۸.
- 6..... ”صحیح البخاری“، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ، ﴿وَيَحْيِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَنَفْسِهِ﴾... إلخ، الحدیث: ۷۴۰۵، ج ۴، ص ۵۴۱.
- 7..... ”جامع الترمذی“، أبواب الجنائز، ۱۱- باب، الحدیث: ۹۸۵، ج ۲، ص ۲۹۶.
- 8..... ”سنن أبي داود“، کتاب الجنائز، باب فی التلقین، الحدیث: ۳۱۱۶، ج ۳، ص ۲۵۵.

اور یہ بھی جائز ہے کہ چپت لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلہ کو مونہہ ہو جائے گا مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں اور قبلہ کو مونہہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔⁽¹⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱ - جان کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی اسے تلقین کریں یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مگر اسے اس کے کہنے کا حکم نہ کریں۔⁽²⁾ (عامہ کتب)

مسئلہ ۲ - جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں، ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخر کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ہو۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے اور اس وقت وہاں سورۃ یس شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب، مثلاً لوبان یا اگر کی بتیاں سلگا دیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴ - موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری) مگر جس کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا اسے اور جنب کو آنا نہ چاہیے۔ اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا ٹکٹا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ ہوتی ہیں مسلکہ رحمت نہیں آتے، اس کی نزع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دُعا خیر کرتے رہیں، کوئی بُرا کلمہ زبان سے نہ نکالیں کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں، نزع میں سختی دیکھیں تو سورۃ یس و سورۃ رعد پڑھیں۔

مسئلہ ۵ - جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبرے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ دے دیں کہ مونہہ کھلانا رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو باپ یا بیٹا وہ کرے۔⁽⁶⁾ (جوہرہ نیرہ)

مسئلہ ۶ - آنکھیں بند کرتے وقت یہ دُعا پڑھے:

① "الدر المختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۹۱، وغیرہ .

② "الجوهرة النيرة"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۰ .

③ "الفتاویٰ الهندیة"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الأول، ج ۱، ص ۱۵۷ .

④ المرجع السابق .

⑤ المرجع السابق .

⑥ "الجوهرة النيرة"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۱ .

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيَّ اَمْرَهُ وَسَهِّلْ عَلَيَّ مَا بَعْدَهُ وَاسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ
وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ. (1) (درمختار)

مسئلہ ۷ - اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے۔ (2) (عالمگیری)

مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعثِ تکلیف ہے۔ (3) (درمختار)

مسئلہ ۸ - میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں اور اس کو چار پائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھیں کہ
زمین کی سیل نہ پہنچے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ - مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل
جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا۔ (5) (درمختار) اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بات پوری سمجھ میں نہ آئی کہ ایسی شدت کی
حالت میں آدمی پوری بات صاف طور پر ادا کر لے دشوار ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۰ - اس کے ذمہ قرض یا جس قسم کے دین ہوں جلد سے جلد ادا کر دیں۔ (6) کہ حدیث میں ہے، ”میت اپنے
دین میں مقید ہے۔“ (7) ایک روایت میں ہے، ”اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک دین نہ ادا کیا جائے۔“ (8)

مسئلہ ۱۱ - میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو اور تسبیح و دیگر اذکار میں
مطلقاً حرج نہیں۔ (9) (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۱۲ - غسل و کفن و دفن میں جلدی چاہیے کہ حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ (10) (جوہرہ)

1 ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۹۷.

ترجمہ: اللہ (عزوجل) کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت پر، اے اللہ (عزوجل) تو اس کے کام کو اس پر آسان کر اور اس کے مابعد کو اس
پر سہل کر اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت کر اور جس کی طرف نکلا (آخرت) اسے اس سے بہتر کر، جس سے نکلا (دنیا)۔ ۱۲

2 ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الأول، ج ۱، ص ۱۵۷.

3 ”سنن الدار قطنی“، کتاب البيوع، الحدیث ۲۹۶۵، ج ۳، ص ۵۸.

4 ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الأول، ج ۱، ص ۱۵۷.

5 ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۹۶.

6 ”الجوہرۃ الثیرۃ“، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۱.

7

8 ”جامع الترمذی“، أبواب الجنائز، باب ماجاء عن النبی انه قال ... الخ، الحدیث: ۱۰۸۱، ج ۲، ص ۳۴۱.

9 ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی القراءة عند المیت، ج ۳، ص ۹۸ - ۱۰۰، وغیرہ.

10 ”الجوہرۃ الثیرۃ“، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۱.

مسئلہ ۱۳ پروسیوں اور اس کے دوست احباب کو اطلاع کر دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی اور اس کے لیے دُعا کریں گے کہ ان پر حق ہے کہ اس کی نماز پڑھیں اور دُعا کریں۔^(۱) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۴ بازار و شارع عام پر اس کی موت کی خبر دینے کے لیے بلند آواز سے پکارنا بعض نے مکروہ بتایا، مگر صحیح یہ ہے کہ اس میں حرج نہیں مگر حسب عادت جاہلیت بڑے بڑے الفاظ سے نہ ہو۔^(۲) (جوہرہ نیرہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۵ ناگہانی موت سے مرا تو جب تک موت کا یقین نہ ہو، تجہیز و تکفین ملتوی رکھیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ عورت مرگئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور عورت کی جان پر بنی ہو تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے اور بچہ بھی زندہ ہو تو کیسی ہی تکلیف ہو، بچہ کاٹ کر نکالنا جائز نہیں۔^(۴) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۷ اگر اس نے قصد کسی کا مال نکل لیا اور مر گیا تو اگر اتنا مال چھوڑا ہے کہ تاوان دے دیا جائے تو ترکہ سے تاوان ادا کریں، ورنہ پیٹ چیر کر مال نکالا جائے گا اور بلا قصد ہے تو چیرا نہ جائے۔^(۵) (درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۱۸ حاملہ عورت مرگئی اور دفن کر دی گئی کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بچہ پیدا ہوا تو محض اس خواب کی بنا پر قبر کھودنی جائز نہیں۔^(۶) (عالمگیری)

میت کے نہلانے کا بیان

مسئلہ ۱ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چار پائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو تین یا پانچ یا سات بار دھونی دیں یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چار پائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الأول، ج ۱، ص ۱۵۷.

② "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۱.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی أطفال المشرکین، ج ۳، ص ۹۷.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الأول، ج ۱، ص ۱۵۷.

④ المرجع السابق، و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۷۱.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن المیت، ج ۳، ص ۱۷۲.

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السادس عشر فی زیارة القبور... إلخ، ج ۵، ص ۳۵۱.

⑦ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۸.

کپڑے سے چھپادیں، پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے پھر نماز کا سا وضو کرائے یعنی مونہ پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں پھر سر کا مسح کریں پھر پاؤں دھوئیں مگر میت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتھنوں پر پھیر دیں پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیر و سے دھوئیں یہ نہ ہو تو پاک صابون اسلامی کارخانہ کا بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیز سے ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے، پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوہیں کریں اور بیری کے پتے جوش دیا ہو پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں اگر کچھ نکلے دھو ڈالیں وضو و غسل کا اعادہ نہ کریں پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں پھر اُس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ دیں۔⁽¹⁾

مسئلہ ۳ ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ سنت جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے، نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے یا جو آسان ہو کریں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴ نہلانے والا باطہارت ہو، جنب یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو کراہت ہے مگر غسل ہو جائے گا اور بے وضو نے نہلایا تو کراہت بھی نہیں، بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار و پرہیزگار ہو۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ نہلانے والا معتمد شخص ہو کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے، مثلاً چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے اور کوئی بُری بات دیکھی، مثلاً چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بد بو آئی یا صورت یا اعضا میں تغیر آیا تو اسے کسی سے نہ کہے اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں، کہ حدیث میں ارشاد ہوا: ”اپنے مُردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور اُس کی برائیوں سے باز رہو۔“⁽⁴⁾ (جوہرہ نیرہ)

① ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۸، وغیرہ۔

② ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۸۔

③ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۹۔

④ ”الحوہرۃ النیرۃ“، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۱۔

”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی النهی عن سب الموتی، الحدیث: ۴۹۰۰، ج ۴، ص ۳۶۰۔

مسئلہ ۶ اگر کوئی بدنہب مر اور اُس کا رنگ سیاہ ہو گیا یا اور کوئی بُری بات ظاہر ہوئی تو اس کا بیان کرنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو عبرت و نصیحت ہوگی۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے کہ اگر میت کے بدن سے موائے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا، نیز اُسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے اُس کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ چھپاتا تھا۔^(۲) (جوہرہ)

مسئلہ ۸ اگر وہاں اس کے سوا اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے اور اگر کوئی دوسرا نہلانے والا نہ ہو تو اجرت لینا جائز نہیں۔^(۳) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۹ جنب یا حیض و نفاس والی عورت کا انتقال ہو تو ایک ہی غسل کافی ہے کہ غسل واجب ہونے کے کتنے ہی اسباب ہوں، سب ایک غسل سے ادا ہو جاتے ہیں۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۱۰ مرد کو مرد نہلانے اور عورت کو عورت، میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی، چھوٹے سے یہ مراد کہ حدِ شہوت کو نہ پہنچے ہوں۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ جس مرد کا عضو تناسل یا اٹھین کاٹ لیے گئے ہوں وہ مرد ہی ہے یعنی مرد ہی اُسے غسل دے سکتا ہے یا اُس کی عورت۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جب کہ موت سے پہلے یا بعد کوئی ایسا امر نہ واقع ہوا ہو جس سے اس کے نکاح سے نکل جائے، مثلاً شوہر کے لڑکے یا باپ کو شہوت سے چھوایا بوسہ لیا یا معاذ اللہ مرتد ہو گئی، اگرچہ غسل سے پہلے ہی پھر مسلمان ہو گئی کہ ان وجوہ سے نکاح جاتا رہا اور اجنبیہ ہو گئی لہذا غسل نہیں دے سکتی۔^(۷) (عالمگیری)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۹.

② "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۱.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۹-۱۶۰.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۰۷.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۰۲.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۶۰.

⑥ المرجع السابق.

⑦ المرجع السابق.

مسئلہ ۱۳ عورت کو طلاق رجعی دی ہنوز عدت میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو غسل دے سکتی ہے اور بائن طلاق دی ہے تو اگرچہ عدت میں ہے غسل نہیں دے سکتی۔ (۱) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۴ ام ولد (۲) یا مدبرہ (۳) یا مکاتبہ (۴) یا ویسی باندی اپنے آقائے مردہ کو غسل نہیں دے سکتی کہ یہ سب اب اس کی ملک سے خارج ہو گئیں۔ یو ہیں اگر یہ مرجائیں تو آقا نہیں نہلا سکتا۔ (۵) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۵ عورت مرجائے تو شوہر نہ اُسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے اور دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ (۶) (درمختار)

عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازہ کو نہ کندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے نہ مونہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے صرف نہلانے اور اسکے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔

مسئلہ ۱۶ عورت کا انتقال ہو اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے تو تیمم کرایا جائے پھر تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جنس زمین پر ہاتھ مارے اور تیمم کرائے اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں اور اس مسئلہ میں جو ان اور بڑھیا دونوں کا ایک حکم ہے۔ (۷) (درمختار، عالمگیری وغیرہما)

مسئلہ ۱۷ مرد کا انتقال ہو اور وہاں نہ کوئی مرد ہے نہ اُس کی بی بی، تو جو عورت وہاں ہے اُسے تیمم کرائے پھر اگر عورت محرم ہے یا اُس کی باندی تو تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی حاجت نہیں اور اجنبی ہو تو کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ (۸) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ مرد کا سفر میں انتقال ہو اور اس کے ساتھ عورتیں ہیں اور کافر مرد مگر مسلمان مرد کوئی نہیں تو عورتیں اس کافر

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۶۰۔

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۰۷۔

② یعنی وہ لونڈی جس کے بچہ پیدا ہوا اور مولیٰ نے اقرار کیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔

③ یعنی وہ لونڈی جس کی نسبت مولیٰ نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔

④ یعنی آقا اپنی لونڈی سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہہ دے کہ اتنا ادا کر دے تو آزاد ہے اور لونڈی اس کو قبول بھی کر لے۔

نوٹ: تفصیلی معلومات کے لئے بہارِ شریعت حصہ ۹ میں مدبر، مکاتب اور ام ولد کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۰۶۔ وغیرہ

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۰۵۔ ⑦ المرجع السابق، ص ۱۱۰۔

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۶۰، وغیرہما۔

⑧ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۶۰۔

کو نہلانے کا طریقہ بتادیں کہ وہ نہلا دے اور اگر مرد کوئی نہیں اور چھوٹی لڑکی ہمراہ ہے کہ نہلانے کی طاقت رکھتی ہے تو یہ عورتیں اُسے سکھادیں کہ وہ نہلائے۔ یوہیں اگر عورت کا انتقال ہوا اور کوئی مسلمان عورت نہیں اور کافرہ عورت موجود ہے تو مرد اُس کافرہ کو غسل کی تعلیم کرے اور اُس سے نہلاوے یا چھوٹا لڑکا اس قابل ہو کہ نہلا سکے تو اُسے بتائے اور وہ نہلائے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ — ایسی جگہ انتقال ہوا کہ پانی وہاں نہیں ملتا تو تیمم کرائیں اور نماز پڑھیں اور نماز کے بعد اگر قبل دفن پانی مل جائے تو نہلا کر نماز کا اعادہ کریں۔⁽²⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۰ — خنثی مشکل⁽³⁾ کا انتقال ہوا تو اسے نہ مرد نہلا سکتا ہے نہ عورت بلکہ تیمم کرایا جائے اور تیمم کرانے والا اجنبی ہو تو ہاتھ پر کپڑا پیٹ لے اور کلائیوں پر نظر نہ کرے۔ یوہیں خنثی مشکل کسی مرد یا عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری) خنثی مشکل چھوٹا بچہ ہو تو اُسے مرد بھی نہلا سکتے ہیں اور عورت بھی یوہیں عکس۔

مسئلہ ۲۱ — مسلمان کا انتقال ہوا اور اُس کا باپ کافر ہے تو اُسے مسلمان نہلائیں، اس کے باپ کے قابو میں نہ دیں، کافر مسلمان ہو اور اُس کی عورت کافرہ ہے تو اگر کتابیہ ہے نہلا سکتی ہے مگر بلا ضرورت اُس سے نہلا نا بہت بُرا ہے اور اگر مجوسیہ یا بت پرست ہے اور اُس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوگئی تو نہلا سکتی ہے بشرطیکہ نکاح میں باقی ہو ورنہ نہیں اور نکاح میں باقی رہنے کی صورت یہ ہے کہ اگر سلطنتِ اسلامی میں ہے تو حاکم اسلام شوہر کے مسلمان ہونے کے بعد عورت پر اسلام پیش کرے، اگر مان لیا فیہا ورنہ فوراً نکاح سے نکل جائے گی اور اگر سلطنتِ اسلامی میں نہیں تو اسلام شوہر کے بعد عورت کو تین حیض آنے کا انتظار کیا جائے گا اس مدت میں مسلمان ہوگئی فیہا ورنہ نکاح سے نکل جائے گی اور دونوں صورتوں میں پھر اگرچہ مسلمان ہو جائے غسل نہیں دے سکتی۔⁽⁵⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۲ — میت سے غسل اتر جانے اور اس پر نماز صحیح ہونے میں نیت اور فعل شرط نہیں، یہاں تک کہ مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر مینہ برسا کہ سارے بدن پر پانی بہہ گیا غسل ہو گیا، مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری الذمہ ہوں گے کہ نہلائیں، لہذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بہ نیت غسل اُسے تین بار پانی میں حرکت دے دیں کہ غسل مستون ادا ہو جائے اور ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ رہا اور بلا نیت نہلانے سے بری الذمہ ہو جائیں گے مگر

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۶۰.

② المرجع السابق، و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۱۱.

③ یعنی جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت۔

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۶۰.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۰۷، وغیرہ.

ثواب نہ ملے گا۔ مثلاً کسی کو سکھانے کی نیت سے میت کو غسل دیا و واجب ساقط ہو گیا، مگر غسل میت کا ثواب نہ ملے گا، نیز غسل ہو جانے کے لیے یہ بھی ضرور نہیں کہ نہلانے والا مکلف یا اہل نیت ہو، لہذا نابالغ یا کافر نے نہلا دیا غسل ادا ہو گیا۔ یوں اگر عورت اجنبیہ نے مرد کو یا مرد نے عورت کو غسل دیا غسل ادا ہو گیا اگرچہ ان کو نہلانا جائز نہ تھا۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳ کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا تو غسل و کفن دیں گے اور جنازہ کی نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد وہ باقی ٹکڑا بھی ملا تو اس پر دوبارہ نماز نہ پڑھیں گے اور آدھا دھڑ ملا تو اگر اس میں سر بھی ہے جب بھی یہی حکم ہے اور اگر سر نہ ہو یا طول میں سر سے پاؤں تک دہنایا یا ایک جانب کا حصہ ملا تو ان دونوں صورتوں میں نہ غسل ہے، نہ کفن، نہ نماز بلکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں۔⁽²⁾ (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۲۴ مُردہ ملا اور یہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہے یا کافر تو اگر اس کی وضع قطع مسلمانوں کی ہو یا کوئی علامت ایسی ہو، جس سے مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے یا مسلمانوں کے محلہ میں ملا تو غسل دیں اور نماز پڑھیں ورنہ نہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ مسلمان مُردے کا فرُردوں میں مل گئے تو اگر ختنہ وغیرہ کسی علامت سے شناخت کر سکیں تو مسلمانوں کو جُدا کر کے غسل و کفن دیں اور نماز پڑھیں اور امتیاز نہ ہوتا ہو تو غسل دیں اور نماز میں خاص مسلمانوں کے لیے دُعا کی نیت کریں اور ان میں اگر مسلمان کی تعداد زیادہ ہو تو مسلمانوں کے مقبرہ میں دفن کریں ورنہ علیحدہ۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ کافر مُردے کے لیے غسل و کفن و دفن نہیں بلکہ ایک چھیتھڑے میں لپیٹ کر تنگ گڑھے میں داب دیں، یہ بھی جب کریں کہ اُس کا کوئی ہم مذہب نہ ہو یا اُسے لے نہ جائے، ورنہ مسلمان ہاتھ نہ لگائے نہ اس کے جنازے میں شرکت کرے اور اگر بوجہ قرابت قریبہ شریک ہو تو دُور دُور رہے اور اگر مسلمان ہی اُس کا رشتہ دار ہے اور اس کا ہم مذہب کوئی نہ ہو یا لے نہیں اور بلحاظ قرابت غسل و کفن و دفن کرے تو جائز ہے، مگر کسی امر میں سنت کا طریقہ نہ برتے بلکہ نجاست دھونے کی طرح اُس پر پانی بہائے اور چھیتھڑے میں لپیٹ کر تنگ گڑھے میں دبا دے، یہ حکم کافر اصلی کا ہے اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ مطلقاً نہ اُسے غسل

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في حديث ((كل سبب و نسب منقطع إلابسي و نسبي))، ج ۳، ص ۱۰۸.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۰۷.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۹، وغیرہما.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۹.

④ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في حديث ((كل سبب و نسب منقطع إلابسي و نسبي))،

ج ۳، ص ۱۰۹.

دیں نہ کفن، بلکہ نکتے کی طرح کسی تنگ گڑھے میں ڈھکیل کر مٹی سے بغیر حائل کے پاٹ دیں۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ ذمیہ کو مسلمان کا حمل تھا وہ مرگئی اگر بچہ میں جان پڑ گئی تھی تو اُسے مسلمانوں کے قبرستان سے علیحدہ دفن کریں اور اس کی پیٹھ قبلہ کو کر دیں کہ بچہ کا مونہہ قبلہ کو ہو، اس لیے کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اُس کا مونہہ ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۲۸ میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال اُدھڑے گی، تو ہاتھ نہ لگائیں صرف پانی بہا دیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۹ نہلانے کے بعد اگر ناک کان مونہہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں۔^(۴) (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۳۰ میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا، ناجائز و مکروہ و تحریمی ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں، ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔^(۵) (درمختار، عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں سینہ پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔^(۶) (درمختار) بعض جگہ ناف کے نیچے اُس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں یہ بھی نہ کریں۔

مسئلہ ۳۲ بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے بدھنے^(۷) لاتے ہیں اس کی کچھ ضرورت نہیں، گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال ضائع کرنا ہے اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی فضول بات ہے کہ اولاً تو اُس پر چھینیں

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: مهم إذا قال ان شتمت، ج ۳، ص ۱۵۸.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۱۰.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۸.

④ المرجع السابق، و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۰۴ - ۱۰۵، وغیرہما.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی القراءة عند المیت، ج ۳، ص ۱۰۴.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۸.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۰۵.

⑦ یعنی مٹی کے نئے مکے، لوٹے۔

نہیں پڑتیں اور پڑیں بھی تو راجح یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دُور کرنے کے لیے ہے تو مستعمل پانی کی چھینٹیں پڑیں اور مستعمل پانی نجس نہیں، جس طرح زندوں کے وضو و غسل کا پانی اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھینٹیں پڑیں تو دھو ڈالیں، دھونے سے پاک ہو جائیں گے اور اکثر جگہ وہ گھڑے بدھنے مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں اگر نیت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور اُس کا مُردے کو ثواب تو یہ اچھی نیت ہے اور رکھنا بہتر اور اگر یہ خیال ہو کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ نری حماقت اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔

کفن کا بیان

مسئلہ ۱ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، کفن کے تین درجے ہیں۔

(۱) ضرورت (۲) کفایت (۳) سنت

مرد کے لیے سنت تین کپڑے ہیں۔

(۱) لفافہ (۲) اِزار (۳) قمیص

اور عورت کے لیے پانچ۔

تین یہ اور

(۳) اوڑھنی (۵) سینہ بند

کفن کفایت مرد کے لیے دو کپڑے ہیں۔

(۱) لفافہ (۲) اِزار

اور عورت کے لیے تین۔

(۱) لفافہ (۲) اِزار (۳) اوڑھنی یا

(۱) لفافہ (۲) قمیص (۳) اوڑھنی۔

کفن

ضرورت دونوں کے لیے یہ کہ جو منیر آئے اور کم از کم اتنا تو ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے۔^(۱) (درمختار، عالمگیری وغیرہما)

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۱۲-۱۱۶.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۱۶۰، وغیرہما.

مسئلہ ۲ لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں اور ازار یعنی تہہ بند چوٹی سے قدم تک یعنی لفافہ سے اتنی چھوٹی جو بندش کے لیے زیادہ تھا اور قیص جس کو کفنی کہتے ہیں گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہوں اور جاہلوں میں جو رواج ہے کہ پیچھے کم رکھتے ہیں یہ غلطی ہے، چاک اور آستینیں اس میں نہ ہوں۔ مرد اور عورت کی کفنی میں فرق ہے، مرد کی کفنی موٹڈھے پر چیریں اور عورت کے لیے سینہ کی طرف، اوڑھنی تین ہاتھ کی ہونی چاہیے یعنی ڈیڑھ گز، سینہ بند پستان سے ناف تک اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔⁽¹⁾
(عالمگیری، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۳ بلا ضرورت کفن کفایت سے کم کرنا ناجائز و مکروہ ہے۔⁽²⁾ (درمختار) بعض محتاج کفن ضرورت پر قادر ہوتے ہیں مگر کفن مسنون میسر نہیں، وہ کفن مسنون کے لیے لوگوں سے سوال کرتے ہیں یہ ناجائز ہے کہ سوال بلا ضرورت جائز نہیں اور یہاں ضرورت نہیں، البتہ اگر کفن ضرورت پر بھی قادر نہ ہوں تو بقدر ضرورت سوال کریں زیادہ نہیں، ہاں اگر بغیر مانگے مسلمان خود کفن مسنون پورا کر دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ پورا ثواب پائیں گے۔⁽³⁾ (فتاویٰ رضویہ)

مسئلہ ۴ ورثہ میں اختلاف ہوا، کوئی دو کپڑوں کے لیے کہتا ہے کوئی تین کے لیے تو تین کپڑے دیے جائیں کہ یہ سنت ہے یا یوں کیا جائے کہ اگر مال زیادہ ہے اور وارث کم تو کفن سنت دیں اور مال کم ہے وارث زیادہ تو کفن کفایت۔⁽⁴⁾
(جوہرہ وغیرہما)

مسئلہ ۵ کفن اچھا ہونا چاہیے یعنی مرد عیدین و مجتہد کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اُس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے، ”مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں، سفید کفن بہتر ہے۔ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔“⁽⁵⁾
(غنیہ، ردالمحتار)

- ① ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۱۶۰.
- و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی الكفن، ج ۳، ص ۱۱۲، وغیرہما.
- ② ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی الكفن، ج ۳، ص ۱۱۵.
- ③ ”الفتاویٰ الرضویہ“، ج ۹، ص ۱۰۰.
- ④ ”الحوہرۃ النیرۃ“، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۵.
- ⑤ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی الكفن، ج ۳، ص ۱۱۲.
- و ”غنیۃ المتملی“، فصل فی الجنائز، ص ۵۸۱ - ۵۸۲.
- ”جامع الترمذی“، أبواب الجنائز، باب ماجاء ما يستحب من الأكفان، الحدیث: ۹۹۶، ج ۲، ص ۳۰۱.

مسئلہ ۶ - کسم یا زعفران کارنگا ہو یا ریشم کا کفن مرد کو ممنوع ہے اور عورت کے لیے جائز یعنی جو کپڑا زندگی میں پہن سکتا ہے، اُس کا کفن دیا جاسکتا ہے اور جو زندگی میں ناجائز، اُس کا کفن بھی ناجائز۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ - خنثی مشکل کو عورت کی طرح پانچ کپڑے دیے جائیں مگر کسم یا زعفران کارنگا ہو اور ریشمی کفن اسے ناجائز ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ - کسی نے وصیت کی کہ کفن میں اُسے دو کپڑے دیے جائیں تو یہ وصیت جاری نہ کی جائے، تین کپڑے دیے جائیں اور اگر یہ وصیت کی کہ ہزار روپے کا کفن دیا جائے تو یہ بھی نافذ نہ ہوگی متوسط درجہ کا دیا جائے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - جو نابالغ حدِ شہوت^(۴) کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں اور اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو دو کپڑے دے سکتے ہیں اور لڑکے کو بھی دو کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ ایک دن کا بچہ ہو۔^(۵) (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۱۰ - پُرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے، مگر پُرانا ہو تو ڈھلا ہوا ہو کہ کفن ستھرا ہونا مرغوب ہے۔^(۶) (جوہرہ)

مسئلہ ۱۱ - میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے اور مدیون^(۷) ہے تو قرضخواہ^(۸) کفن کفایت سے زیادہ کو منع کر سکتا ہے اور منع نہ کیا تو اجازت سمجھی جائے گی۔^(۹) (ردالمحتار) مگر قرض خواہ کو ممانعت کا اس وقت حق ہے، جب وہ تمام مال دین میں مستغرق^(۱۰) ہو۔

مسئلہ ۱۲ - دین و وصیت و میراث، ان سب پر کفن مقدم ہے اور دین و وصیت پر اور وصیت میراث پر۔^(۱۱) (جوہرہ)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الحناظر، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۱۶۱.

② المرجع السابق.

③ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الحناظر، مطلب فی الكفن، ج ۳، ص ۱۱۲.

④ حد شہوت لڑکوں میں یہ کہ اس کا دل عورتوں کی طرف رغبت کرے اور لڑکی میں یہ کہ اسے دیکھ کر مرد کو اس کی طرف میلان پیدا ہو اور اس کا اندازہ لڑکوں میں بارہ سال اور لڑکیوں میں نو برس ہے۔ ۱۳ منہ

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الحناظر، مطلب فی الكفن، ج ۳، ص ۱۱۷، وغیرہ.

⑥ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الحناظر، الجزء الأول، ص ۱۳۵.

⑦ یعنی مقروض۔

⑧ یعنی قرض دینے والا۔

⑨ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، مطلب فی الكفن، ج ۳، ص ۱۱۴، وغیرہ.

⑩ یعنی قرض میں گھرا ہوا۔

⑪ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الحناظر، ص ۱۳۴.

مسئلہ ۱۳ میت نے مال نہ چھوڑا تو کفن اس کے ذمہ ہے جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا اور اگر کوئی ایسا نہیں جس پر نفقہ واجب ہوتا یا ہے مگر نادر ہے تو بیت المال سے دیا جائے اور بیت المال بھی وہاں نہ ہو، جیسے یہاں ہندوستان میں تو وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے، اگر معلوم تھا اور نہ دیا تو سب گنہگار ہوں گے اگر ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تو ایک کپڑے کی قدر اور لوگوں سے سوال کر لیں۔^(۱) (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ ۱۴ عورت نے اگر چہ مال چھوڑا اس کا کفن شوہر کے ذمہ ہے بشرطیکہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساقط ہو جاتا، اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے، جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں۔^(۲) (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۱۵ یہ جو کہا گیا کہ فلاں پر کفن واجب ہے اس سے مراد کفن شرعی ہے۔ یوہیں باقی سامانِ تجہیز مثلاً خوشبو اور غسل اور لے جانے والوں کی اجرت اور دفن کے مصارف، سب میں شرعی مقدار مراد ہے۔ باقی اور باتیں اگر میت کے مال سے کی گئیں اور ورثہ بالغ ہوں اور سب وارثوں نے اجازت بھی دے دی ہو تو جائز ہے، ورنہ خرچ کرنے والے کے ذمہ ہے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ کفن کے لیے سوال کر لائے اس میں سے کچھ بچ رہا تو اگر معلوم ہے کہ یہ فلاں نے دیا ہے تو اسے واپس کر دیں، ورنہ دوسرے محتاج کے کفن میں صرف کر دیں، یہ بھی نہ ہو تو تصدق کر دیں۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۱۷ میت ایسی جگہ ہے کہ وہاں صرف ایک شخص ہے اور اس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے تو اس پر یہ ضرور نہیں کہ اپنے کپڑے کا کفن کر دے۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۱۸ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ لیں کہ کفن تر نہ ہو اور کفن کو ایک یا تین یا پانچ یا سات بار دھونی دے لیں اس سے زیادہ نہیں، پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر پھر

① "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۴.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۱۸-۱۲۰.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۱۶۱.

و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في كفن الزوجة على الزوج، ج ۳، ص ۱۱۹.

③ "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في كفن الزوجة على الزوج، ج ۳، ص ۱۱۹.

④ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۰.

⑤ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۰.

تہبند پھر کفنی پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں اور مواضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں پہلے بائیں جانب سے پھر دہنی طرف سے پھر لفافہ لپیٹیں پہلے بائیں طرف سے پھر دہنی طرف سے تاکہ دہنا اوپر رہے اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے، عورت کو کفنی پہنا کر اُس کے بال کے دو حصے کر کے کفنی کے اوپر سینہ پر ڈال دیں اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر مونہ پر مثل نقاب ڈال دیں کہ سینہ پر رہے کہ اُس کا طول نصف پشت سے سینہ تک ہے اور عرض ایک کان کی لُو سے دوسرے کان کی لُو تک ہے اور یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑھاتے ہیں یہ محض بیجا و خلافِ سنت ہے پھر بدستور ازار و لفافہ لپیٹیں پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے ران تک لا کر باندھیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۱۹ مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زعفران کی آمیزش ہو عورت کے لیے جائز ہے، جس نے احرام باندھا ہے اُس کے بدن پر بھی خوشبو لگائیں اور اُس کا مونہ اور سر کفن سے چھپایا جائے۔⁽²⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۰ اگر مُردہ کا کفن چوری گیا اور لاش ابھی تازہ ہے تو پھر کفن دیا جائے اگر میت کا مال بدستور ہے تو اس سے اور تقسیم ہو گیا تو ورثہ کے ذمہ کفن دینا ہے، وصیت یا قرض میں دیا گیا تو ان لوگوں پر نہیں اور اگر گل ترکہ دین میں مستغرق ہے اور قرض خواہوں نے اب تک قبضہ نہ کیا ہو تو اسی مال سے دیں اور قبضہ کر لیا تو اُن سے واپس نہ لیں گے، بلکہ کفن اُس کے ذمہ ہے کہ مال نہ ہونے کی صورت میں جس کے ذمہ ہوتا ہے اور اگر صورت مذکورہ میں لاش پھٹ گئی تو کفن مسنون کی حاجت نہیں ایک کپڑا کافی ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۱ اگر مُردہ کو جانور کھا گیا اور کفن پڑا ملا تو اگر میت کے مال سے دیا گیا ہے ترکہ میں شمار ہوگا اور کسی اور نے دیا ہے اجنبی یا رشتہ دار نے تو دینے والا مالک ہے جو چاہے کرے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ضروریہ: ہندوستان میں عام رواج ہے کہ کفن مسنون کے علاوہ اوپر سے ایک چادر اڑھاتے ہیں وہ تکیہ دار یا کسی مسکین پر تصدق کرتے ہیں اور ایک چادر ہوتی ہے جس پر امام جنازہ کی نماز پڑھاتا ہے وہ بھی تصدق کر دیتے ہیں، اگر یہ چادر و جنازہ میت کے مال سے نہ ہوں بلکہ کسی نے اپنی طرف سے دیا ہے (اور عادت وہی دیتا ہے جس نے کفن دیا بلکہ کفن کے

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۱۶۱.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۱۶، وغیرہما.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۱۶۱.

③ المرجع السابق.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۱۶۲.

لیے جو کپڑا لایا جاتا ہے وہ اسی انداز سے لایا جاتا ہے جس میں یہ دونوں بھی ہو جائیں (جب تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر میت کے مال سے ہے تو دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ورثہ سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت سے ہو، جب بھی جائز ہے اور اگر اجازت نہ دی تو جس نے میت کے مال سے منگایا اور تصدق کیا اس کے ذمہ یہ دونوں چیزیں ہیں یعنی ان میں جو قیمت صرف ہوئی ترکہ میں شمار کی جائے گی اور وہ قیمت خرچ کرنے والا اپنے پاس سے دے گا، دوسری صورت یہ کہ ورثہ میں گل یا بعض نابالغ ہیں تو اب وہ دونوں چیزیں ترکہ سے ہرگز نہیں دی جاسکتیں، اگرچہ اس نابالغ نے اجازت بھی دیدی ہو کہ نابالغ کے مال کو صرف کر لینا حرام ہے۔ لوٹے گھڑے ہوتے ہوئے خاص میت کے نہلانے کے لیے خریدے تو اس میں یہی تفصیل ہے۔ تیج، دسواں، چالیسواں، ششماہی، برسی کے مصارف میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اپنے مال سے جو چاہے خرچ کرے اور میت کو ثواب پہنچائے اور میت کے مال سے یہ مصارف اسی وقت کیے جائیں کہ سب وارث بالغ ہوں اور سب کی اجازت ہو ورنہ نہیں مگر جو بالغ ہوا اپنے حصہ سے کر سکتا ہے۔ ایک صورت اور بھی ہے کہ میت نے وصیت کی ہو تو ذین ادا کرنے کے بعد جو بچے اس کی تہائی میں وصیت جاری ہوگی۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں یا ناواقف کہ اس قسم کے تمام مصارف کر لینے کے بعد اب جو باقی رہتا ہے اسے ترکہ سمجھتے ہیں۔ ان مصارف میں نہ وارث سے اجازت لیتے ہیں، نہ نابالغ وارث ہونا مضر جانتے ہیں اور یہ سخت غلطی ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تیج وغیرہ کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایصالِ ثواب ہے، اسے کون منع کرے گا۔ منع وہ کرے جو وہابی ہو بلکہ ناجائز طور پر جو ان میں صرف کیا جاتا ہے اس سے منع کیا جاتا ہے، کوئی اپنے مال سے کرے یا ورثہ بالغین ہی ہوں، ان سے اجازت لے کر کرے تو ممانعت نہیں۔

جنازہ لے چلنے کا بیان

- مسئلہ ۱** - جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔^(۱) (جوہرہ)
- مسئلہ ۲** - سنت یہ ہے کہ چار شخص جنازہ اٹھائیں، ایک ایک پایہ ایک شخص لے اور اگر صرف دو شخصوں نے جنازہ اٹھایا، ایک سرہانے اور ایک پائنتی تو بلا ضرورت مکروہ ہے اور ضرورت سے ہو مثلاً جگہ تنگ ہے تو حرج نہیں۔^(۲) (عالمگیری)
- مسئلہ ۳** - سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار دس دس قدم چلے اور پوری سنت یہ کہ پہلے دہنے سرہانے کندھا دے پھر دہنی پائنتی پھر بائیں سرہانے پھر بائیں پائنتی اور دس دس قدم چلے تو گل چالیس قدم ہوئے کہ

۱..... "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۹.

۲..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۱۶۲.

حدیث میں ہے، ”جو چالیس قدم جنازہ لے چلے اس کے چالیس کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔“ نیز حدیث میں ہے، ”جو جنازہ کے چاروں پاؤں کو کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرمادے گا۔“⁽¹⁾ (جوہرہ، عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳ - جنازہ لے چلنے میں چار پائی کو ہاتھ سے پکڑ کر موٹدھے پر رکھے، اسباب کی طرح گردن یا پیٹھ پر لادنا مکروہ ہے، چوپایہ پر جنازہ لادنا بھی مکروہ ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری، غنیہ، درمختار) ٹھیلے پر لادنے کا بھی یہی حکم ہے۔

مسئلہ ۵ - چھوٹا بچہ شیرخوار یا ابھی دودھ چھوڑا ہو یا اس سے کچھ بڑا، اس کو اگر ایک شخص ہاتھ پراٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں اور اگر کوئی شخص سواری پر ہو اور اتنے چھوٹے جنازہ کو ہاتھ پر لیے ہو، جب بھی حرج نہیں اور اس سے بڑا مردہ ہو تو چار پائی پر لے جائیں۔⁽³⁾ (غنیہ، عالمگیری وغیرہما)

مسئلہ ۶ - جنازہ معتدل تیزی سے لے جائیں مگر نہ اس طرح کہ میت کو جھٹکا لگے اور ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازہ سے پیچھے چلیں، دہنے بائیں نہ چلیں اور اگر کوئی آگے چلے تو اسے چاہیے کہ اتنی دور رہے کہ ساتھیوں میں نہ شمار کیا جائے اور سب کے سب آگے ہوں تو مکروہ ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۷ - جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ اور آگے ہو تو جنازہ سے دور ہو۔⁽⁵⁾ (عالمگیری، صغیری)

مسئلہ ۸ - عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانانا ناجائز و ممنوع ہے اور نوحہ کرنے والی ساتھ میں ہو تو اسے سختی سے منع کیا جائے، اگر نہ مانے تو اس کی وجہ سے جنازہ کے ساتھ جانانا چھوڑا جائے کہ اس کے ناجائز فعل سے یہ کیوں سنت ترک کرے، بلکہ دل سے اسے بُرا جانے اور شریک ہو۔⁽⁶⁾ (درمختار، صغیری)

- 1..... "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۹.
- و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۱۶۲.
- و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۵۸ - ۱۵۹.
- 2..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۱۶۲.
- و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۵۹.
- 3..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۱۶۲.
- و "غنیۃ المتملی، فصل فی الجنائز، ص ۵۹۲. وغیرہما
- 4..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۱۶۲، وغیرہ.
- 5..... المرجع السابق، و "صغیری"، فصل فی الجنائز، ص ۲۹۲.
- 6..... "صغیری"، فصل فی الجنائز، ص ۲۹۳.
- و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۶۲.

مسئلہ ۹ اگر عورتیں جنازے کے پیچھے ہوں اور مرد کو یہ اندیشہ ہو کہ پیچھے چلنے میں عورتوں سے اختلاط ہوگا یا ان میں کوئی نوحہ کرنے والی ہو تو ان صورتوں میں مرد کو آگے چلنا بہتر ہے۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ جنازہ لے چلنے میں سر ہانا آگے ہونا چاہیے اور جنازہ کے ساتھ آگ لے جانے کی ممانعت ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے۔ موت اور احوال و احوال قبر کو پیش نظر رکھیں، دنیا کی باتیں نہ کریں نہ ہنسیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازہ کے ساتھ ہنستے دیکھا، فرمایا: ”تُو جنازہ میں ہنستا ہے، تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا۔“ اور ذکر کرنا چاہیں تو دل میں کریں اور بلحاظ حال زمانہ اب علمائے ذکر جہر کی بھی اجازت دی ہے۔^(۳) (صغیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۱۲ جنازہ جب تک رکھنا جائے بیٹھنا مکروہ ہے اور رکھنے کے بعد بے ضرورت کھڑا نہ رہے اور اگر لوگ بیٹھے ہوں اور نماز کے لیے وہاں جنازہ لایا گیا تو جب تک رکھنا جائے کھڑے نہ ہوں۔ یوہیں اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرا تو کھڑا ہونا ضرور نہیں، ہاں جو شخص ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اٹھے اور جائے، جب جنازہ رکھا جائے تو یوں نہ رکھیں کہ قبلہ کو پاؤں ہوں یا سر بلکہ آڑ رکھیں کہ دہنی کروٹ قبلہ کو ہو۔^(۴) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۳ جنازہ اٹھانے پر اجرت لینا دینا جائز ہے، جب کہ اور اٹھانے والے بھی موجود ہوں۔^(۵) (عالمگیری) مگر جو ثواب جنازہ لے چلنے پر حدیث میں بیان ہوا، اسے نہ ملے گا کہ اس نے تو بدلہ لے لیا۔

مسئلہ ۱۴ میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی نیک شخص ہو تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔^(۶) (عالمگیری)

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، في حمل الميت، ج ۳، ص ۱۶۲.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۱۶۲.

③ "صغیری"، فصل في الجنائز، ص ۲۹۲.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۶۳.

و "الفتاویٰ الرضویہ"، ج ۹، ص ۱۴۰.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۱۶۲.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۶۰.

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۱۶۲.

⑥ المرجع السابق.

مسئلہ ۱۵ جو شخص جنازہ کے ساتھ ہوا سے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے اور نماز کے بعد اولیائے میت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے اور دفن کے بعد اولیا سے اجازت کی ضرورت نہیں۔^(۱) (عالمگیری)

نماز جنازہ کا بیان

مسئلہ ۱ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ جس جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گنہگار ہوا۔^(۲) (عامہ کتب) اسکی فرضیت کا جو انکار کرے کافر ہے۔

مسئلہ ۲ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے فرض ادا ہو گیا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں یعنی

(۱) قادر

(۲) بالغ

(۳) عاقل

(۴) مسلمان ہونا، ایک بات اس میں زیادہ ہے یعنی اس کی موت کی خبر ہونا۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ نماز جنازہ میں دو طرح کی شرطیں ہیں، ایک مصلیٰ کے متعلق دوسری میت کے متعلق، مصلیٰ کے لحاظ سے تو وہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز کی ہیں یعنی

(۱) مصلیٰ کا نجاست حکمیہ و حقیقیہ سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا

(۲) ستر عورت

(۳) قبلہ کو منہ ہونا

(۴) نیت، اس میں وقت شرط نہیں اور تکبیر تحریمہ رکن ہے شرط نہیں جیسا پہلے ذکر ہوا۔^(۵) (ردالمحتار وغیرہ)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۵.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۰.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۲.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۲.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۱.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۱، وغیرہ.

بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگر جوتا پہنے پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، بقدر مانع نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی اور جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا (1) ضروری ہے۔

مسئلہ ۵ جنازہ طیار ہے جانتا ہے کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز ہو جائے گی تیمم کر کے پڑھے۔ اس کی تفصیل باب تیمم میں مذکور ہوئی۔ (2)

مسئلہ ۶ امام طاہر نہ تھا تو نماز پھر پڑھیں، اگرچہ مقتدی طاہر ہوں کہ جب امام کی نہ ہوئی کسی کی نہ ہوئی اور اگر امام طاہر تھا اور مقتدی بلا طہارت تو اعادہ نہ کی جائے کہ اگرچہ مقتدیوں کی نہ ہوئی مگر امام کی تو ہوگی۔ یوں اگر عورت نے نماز پڑھائی اور مردوں نے اس کی اقتدا کی تو لوٹائی نہ جائے کہ اگرچہ مردوں کی اقتدا صحیح نہ ہوئی مگر عورت کی نماز تو ہوگی، وہی کافی ہے اور نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں۔ (3) (درمختار)

مسئلہ ۷ نماز جنازہ سواری پر پڑھی تو نہ ہوئی۔ امام کا بالغ ہونا شرط ہے خواہ امام مرد ہو یا عورت، نابالغ نے نماز پڑھائی تو نہ ہوئی۔ (4) (درمختار، عالمگیری)

نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی چند شرطیں ہیں۔

(1) میت کا مسلمان ہونا۔ (5)

مسئلہ ۸ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، تو اگر مردہ پیدا ہوا بلکہ اگر نصف سے کم باہر نکلا اس وقت زندہ تھا اور اکثر باہر نکلنے سے پوشتر مر گیا تو اس کی بھی نماز نہ پڑھی جائے اور تفصیل آتی ہے۔

مسئلہ ۹ چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک تو وہ مسلمان ہے، اس کی نماز پڑھی جائے اور دونوں کافر ہیں تو نہیں۔ (6) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۰ مسلمان کو دارالحرہ میں چھوٹا بچہ تنہا ملا اور اس نے اٹھالیا پھر مسلمان کے یہاں مرا، تو اس کی نماز پڑھی

1..... امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلاء اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۹ ص ۱۸۸)۔ علمہ

2..... جنازہ تیار ہے جانتا ہے کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز ہو جائے گی تیمم کر کے پڑھے۔ البتہ جس ولی کو حَقِّ تَقَدُّمِ حاصل ہو (مثلاً بادشاہ اسلام، پھر قاضی، پھر امام جمعہ، پھر امام محلہ یا ولی) اس کے لیے جائز نہیں۔ ایسا ہی ہدایہ، خانیہ اور کافی وغیرہ میں ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے بہار شریعت، ج ۱ ص ۳۵۱ و "جد الممختار"، کتاب الطہارۃ، باب تیمم، ج ۱ ص ۳۹۴)۔ علمہ

3..... "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۲۔

4..... المرجع السابق، و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۴۔

5..... "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۱۔

6.....

جائے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ ہر مسلمان کی نماز پڑھی جائے اگرچہ وہ کیسا ہی گنہگار و مرتکب کبائر ہو مگر چند قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی نماز نہیں۔

- (۱) باغی جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے۔
- (۲) ڈاکو کہ ڈاکہ میں مارا گیا نہ ان کو غسل دیا جائے نہ ان کی نماز پڑھی جائے، مگر جبکہ بادشاہ اسلام نے ان پر قابو پایا اور قتل کیا تو نماز و غسل ہے یا وہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی غسل و نماز ہے۔
- (۳) جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑیں بلکہ جو ان کا تماشہ دیکھ رہے تھے اور پتھر آ کر لگا اور مر گئے تو ان کی بھی نماز نہیں، ہاں اُنکے متفرق ہونے کے بعد مرے تو نماز ہے۔
- (۴) جس نے کئی شخص گلا گھونٹ کر مار ڈالے۔
- (۵) شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں وہ بھی ڈاکو ہیں، اس حالت میں مارے جائیں تو ان کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔

(۶) جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈالا، اُس کی بھی نماز نہیں۔

(۷) جو کسی کا مال چھین رہا تھا اور اس حالت میں مارا گیا، اُس کی بھی نماز نہیں۔^(۲) (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۱۲ جس نے خودکشی کی حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اُس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اگرچہ قصداً

خودکشی کی ہو، جو شخص رجم کیا گیا یا قصاص میں مارا گیا، اُسے غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے۔^(۳) (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

(۲) میت کے بدن و کفن کا پاک ہونا۔^(۴)

مسئلہ ۱۳ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اُسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو اور

کفن پہنانے سے پیشتر اُسکے بدن سے نجاست نکلی تو دھو ڈالی جائے اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں اور کفن پاک

ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہو تو حرج نہیں۔^(۵) (درمختار و المختار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۳.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: هل یسقط فرض... إلخ، ج ۳، ص ۱۲۵، ۱۲۸.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۳، وغیرہما.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، المرجع السابق، و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۷، وغیرہما.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۲.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۲.

مسئلہ ۱۳ — بغیر غسل نماز پڑھی گئی نہ ہوئی، اُسے غسل دے کر پھر پڑھیں اور اگر قبر میں رکھ چکے، مگر مٹی ابھی نہیں ڈالی گئی تو قبر سے نکالیں اور غسل دے کر نماز پڑھیں اور مٹی دے چکے تو اب نہیں نکال سکتے، لہذا اب اُس کی قبر پر نماز پڑھیں کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی کہ بغیر غسل ہوئی تھی اور اب چونکہ غسل ناممکن ہے لہذا اب ہو جائے گی۔^(۱) (ردالمحتار وغیرہ)

(۳) جنازہ کا وہاں موجود ہونا یعنی گل یا اکثر یا نصف مع سر کے موجود ہونا، لہذا غائب کی نماز نہیں ہو سکتی۔^(۲)

(۴) جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، اگر جانور وغیرہ پر لدا ہونا نماز نہ ہوگی۔^(۳)

(۵) جنازہ مصلیٰ کے آگے قبلہ کو ہونا، اگر مصلیٰ کے پیچھے ہوگا نماز صحیح نہ ہوگی۔^(۴)

مسئلہ ۱۵ — اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے دہنے میت کا قدم ہو تو نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کیا تو گنہگار ہوئے۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۱۶ — اگر قبلہ کے جانے میں غلطی ہوئی یعنی میت کو اپنے خیال سے قبلہ ہی کو رکھا تھا مگر حقیقتہً قبلہ کو نہیں، تو موضع تحری میں اگر تحری کی نماز ہو گئی ورنہ نہیں۔^(۶) (درمختار)

(۶) میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے چھپا ہونا۔^(۷)

(۷) میت امام کے محاذی ہو یعنی اگر ایک میت ہے تو اُس کا کوئی حصہ بدن امام کے محاذی ہو اور چند ہوں تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاذی ہونا کافی ہے۔^(۸) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ — نماز جنازہ میں دو رکن ہیں:

(۱) چار بار اللہ اکبر کہنا

(۲) قیام

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۱، وغیرہ.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي،

ج ۳، ص ۱۲۳.

③ المرجع السابق.

④ المرجع السابق.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۴.

⑥ المرجع السابق.

⑦ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۱.

⑧ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي، ج ۳، ص ۱۲۳.

بغیر عذر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی، نہ ہوئی اور اگر ولی یا امام بیمار تھا اس نے بیٹھ کر پڑھائی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کر پڑھی ہوگی۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۸ نماز جنازہ میں تین چیزیں سنت موكده ہیں:

(۱) اللہ عزوجل کی حمد و ثنا۔ (۲) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود۔ (۳) میت کے لیے دُعا۔

نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور ثنا پڑھے، یعنی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے بہتر وہ دُرود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور کوئی دوسرا پڑھا جب بھی حرج نہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دُعا کرے اور بہتر یہ کہ وہ دُعا پڑھے جو احادیث میں وارد ہیں اور ماثور دُعائیں اگر اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جو دُعا چاہے پڑھے، مگر وہ دُعا ایسی ہو کہ اُمورِ آخرت سے متعلق ہو۔^(۲) (جوہرہ نیرہ، عالمگیری، درمختار وغیرہا)

بعض ماثور دُعائیں یہ ہیں:

(۱) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْفَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنْنَا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْنَا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ (ها) ^(۳) وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (ها)۔ ^(۴)

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: هل يسقط فرض... إلخ، ج ۳، ص ۱۲۴۔

② "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۷۔

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۲۴، ۱۲۸۔

③ ان دعاؤں میں عورتوں کیلئے جہاں صیغے کا اختلاف ہے اسے ہلال کے اوپر لکھ دیا ہے۔ ۱۲ منہ ﴿﴾ جبکہ ہم نے اسے ہلال میں سامنے لکھ دیا ہے۔

④ رواه احمد و ابو داود و الترمذی و النسائی و ابن حبان و الحاكم عن ابی ہریرة و احمد و ابو یعلی و البیہقی و سعید بن منصور فی سننہ عن ابی قتادة رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ۱۲ منہ

"المستدرک" للحاکم، كتاب الجنائز، باب أدعية صلاة الجنائز، الحدیث: ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۶۸۴۔

و "عمل اليوم و الليلة" مع "السنن الكبرى" للنسائی، الحدیث: ۱۰۹۱۹، ج ۶، ص ۲۶۶۔

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو بخش دے ہمارے زندہ اور مردہ اور ہمارے حاضر و غائب کو اور ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے کو اور ہمارے مرد اور عورت کو، اے اللہ (عزوجل)! ہم میں سے جو جسے زندہ رکھے، اُسے اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جو جس کو وفات دے اُسے ایمان پر وفات دے۔ اے اللہ (عزوجل)! تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں فتنہ میں نہ ڈال۔ ۱۲

(۲) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا) وَارْحَمْهُ (هَا) وَعَافِهِ (هَا) وَاعْفُ عَنْهُ (هَا) وَاكْرِمْ نَزْلَهُ (هَا) وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ (هَا) وَاغْسِلْهُ (هَا) بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبُرْدِ وَنَقِّهِ (هَا) مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ (هَا) دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ (هَا) وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ (هَا) وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ (۱) وَأَدْخِلْهُ (هَا) الْجَنَّةَ وَأَعِدْهُ (هَا) مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ. (۲)

(۳) اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ (أَمْتُكَ) وَابْنُ (بِنْتُ) أَمْتِكَ يَشْهَدُ (تَشْهَدُ) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَيَشْهَدُ (تَشْهَدُ) أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَصْبَحَ فَقِيرًا (أَصْبَحْتَ فَقِيرَةً) إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهِ (هَا) تَخْلِي (تَخْلُتُ) مِنَ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا إِنْ كَانَ (كَانَتْ) زَاكِيًا (زَكِيَّةً) فَزِيغِهِ (هَا) وَإِنْ كَانَ (كَانَتْ) مُخْطِئًا (مُخْطِئَةً) فَاعْفِرْ لَهُ (هَا) اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ (هَا) وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (هَا). (۳)

(۴) اَللّٰهُمَّ هَذَا (هَذِهِ) عَبْدُكَ ابْنُ (أَمْتُكَ بِنْتُ) عَبْدِكَ ابْنُ (بِنْتُ) أَمْتِكَ مَاضٍ فِيهِ (هَا) حُكْمُكَ خَلَقْتَهُ (هَا) وَلَمْ يَكُ (تَكُ هِيَ) شَيْئًا مَذْكُورًا ۞ نَزَلَتْ (بِكَ) وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اَللّٰهُمَّ لَقِنَهُ (هَا) حُجَّتَهُ (هَا) وَالْحَقُّهُ (هَا) بِنَبِيِّهِ (هَا) مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَتَبَّتْهُ (هَا) بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

① یعنی یہ الفاظ عورت کے جنازہ پر نہ پڑھے جائیں۔ ۱۲ منہ

② رواہ مسلم والترمذی والنسائی و ابن ماجہ و ابو بکر بن ابی شیبہ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲ منہ "صحیح مسلم"، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت فی الصلاة، الحدیث: ۹۶۳، ص ۴۷۹.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! اُس کو بخش دے اور رحم کر اور عافیت دے اور معاف کر اور عزت کی مہمانی کر اور اس کی جگہ کو کشادہ کر اور اس کو پانی اور برف اور اولے سے دھو دے اور اس کو خطا سے پاک کر جیسا کہ تو نے سفید کپڑے کو میل سے کیا اور اس کو گھر کے بدلے میں بہتر گھر دے اور اہل کے بدلے میں بہتر اہل دے اور بی بی کے بدلے میں بہتر بی بی اور اس کو جنت میں داخل کر اور عذاب قبر و فتنہ قبر و عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ ۱۲

③ رواہ الحاکم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ۱۲ منہ

"المستدرک" للحاکم، کتاب الجنائز، باب أدعیة صلاة الجنائز، الحدیث: ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۶۸۵.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! یہ تیرا بندہ ہے اور تیری باندی کا بیٹا ہے گواہی دیتا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تمہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں گواہی دیتا ہے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تیرے بندے اور رسول ہیں یہ تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اسکے عذاب سے غنی ہے دنیا اور دنیا والوں سے جدا ہوا، اگر یہ پاک ہے تو تو اسے پاک و صاف کر اور اگر خطا کار ہے تو بخش دے۔ اے اللہ (عزوجل)! اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔ ۱۲

فَإِنَّهُ (هَآ) اِفْتَقَرَ (اِفْتَقَرْتُ) اِلَيْكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ (هَآ) كَانَ (كَانَتْ) يَشْهَدُ (تَشْهَدُ) اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
فَاغْفِرْ لَهُ (لَهَا) وَارْحَمْهُ (هَآ) وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ (هَآ) وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (هَآ) ط اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ (كَانَتْ) زَاكِيًا
(زَاكِيَةً) فَزَكِّهِ (هَآ) وَاِنْ كَانَ (كَانَتْ) خَاطِئًا (خَاطِئَةً) فَاغْفِرْ لَهُ (هَآ) . (1)

(5) اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ (اَمْتُكَ) وَاِبْنُ (بِنْتُ) اَمَّتِكَ اِحْتَاَجُ (جِئْتُ) اِلَى رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِيٌّ عَنِ
عَذَابِهِ (هَآ) اِنْ كَانَ (كَانَتْ) مُحْسِنًا (مُحْسِنَةً) فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهِ (هَآ) وَاِنْ كَانَ (كَانَتْ) مُسِيئًا (مُسِيئَةً)
فَتَجَاوَزْ عَنْهُ (هَآ) . (2)

(6) اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ (اَمْتُكَ) وَاِبْنُ (بِنْتُ) عَبْدِكَ كَانَ (كَانَتْ) يَشْهَدُ (تَشْهَدُ) اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ (هَآ) مِنْ اِنْ كَانَ (كَانَتْ)
مُحْسِنًا (مُحْسِنَةً) فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهِ (هَآ) وَاِنْ كَانَ (كَانَتْ) مُسِيئًا (مُسِيئَةً) فَاغْفِرْ لَهُ (هَآ) وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ
(هَآ) وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (هَآ) . (3)

① رواه عن امير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه ۱۲ منہ

”کنز العمال“، کتاب الموت، صلاة الجنائز، الحدیث: ۴۲۸۵۷، ج ۱۵، ص ۳۰۴.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ اور تیری باندی کا بیٹا ہے، اس کے متعلق تیرا حکم نافذ ہے تو نے اسے پیدا کیا
حالانکہ یہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ تیرے پاس آیا تو ان سب سے بہتر ہے جن کے پاس اوترا جائے۔ اے اللہ حجت کی تو اس کو تلقین کر اور اس
کو اس کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے اور قول ثابت پر اسے ثابت رکھ اس لیے کہ یہ تیری طرف محتاج ہے اور تو اس سے غنی
ہے یہ شہادت دیتا تھا کہ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسے بخش دے اور رحم کر اور اس کے اجر سے ہم کو محروم نہ کر اور اس کے
بعد ہمیں فتنہ میں نہ ڈال۔ اے اللہ (عزوجل)! اگر یہ پاک ہے تو پاک کر اور بدکار ہے تو بخش دے۔ ۱۲

② رواه الحاكم عن يزيد بن ركانة رضى الله تعالى عنهما ۱۲ منہ

”المستدرک“ للحاکم، کتاب الجنائز، باب ادعية صلاة الجنائز، الحدیث: ۱۳۶۸، ج ۱، ص ۶۸۵.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! یہ تیرا بندہ ہے اور تیری باندی کا بیٹا ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اسکے عذاب سے غنی ہے اگر نیکو کار ہے تو
اس کی خوبی میں زیادہ کر اور اگر گنہگار ہے تو درگزر فرما۔ ۱۲

③ رواه ابن حبان عن ابی هريرة رضى الله تعالى عنه ۱۲ منہ

”الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان“، کتاب الجنائز، فصل في الصلاة على الجنائز، الحدیث: ۳۰۶۲، ج ۵، ص ۳۰.
ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے، گواہی دیتا تھا کہ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں اور
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے بندہ اور تیرے رسول ہیں اور تو ہم سے زیادہ اسے جانتا ہے، اگر نیکو کار ہے تو نیکی میں زیادہ کر اور اگر گنہگار
ہے تو اسے بخش دے اور اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر اور اس کے بعد فتنہ میں نہ ڈال۔ ۱۲

(۷) أَصْبَحَ (أَصْبَحْتُ) عَبْدُكَ (أَمْتُكَ) هَذَا (هَذِهِ) قَدْ تَخَلَّى (تَخَلَّيْتُ) عَنِ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا (تَرَكَتُهَا) لِأَهْلِهَا وَافْتَقَرَ (افْتَقَرْتُ) إِلَيْكَ وَاسْتَعْنَيْتَ عَنْهُ (هَا) وَقَدْ كَانَ (كَانَتْ) يَشْهَدُ (تَشْهَدُ) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (هَا) وَتَجَاوَزْ عَنْهُ (هَا) وَالْحَقُّهُ (هَا) بِنَبِيِّهِ (هَا) صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1)

(۸) اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ ۝ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَا نَبِيِّتِهَا جِنًّا شَفَعَاءَ فَأَغْفِرْ لَهَا. (2)

(۹) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَخْوَانِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَأَلْفَ بَيْنِ قُلُوبِنَا اللَّهُمَّ هَذَا (هَذِهِ) عَبْدُكَ (أَمْتُكَ) فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ (بِهَا) مِنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ (لَهَا). (3)

(۱۰) اللَّهُمَّ إِنَّ فَلَانَ بْنَ فَلَانَ (فُلَانَهُ بِنْتَ فَلَانَ) فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ (هَا) مِنْ

1..... رواه ابو يعلى بسند صحيح عن سعيد بن المسيب عن امير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه من قوله الحقنا بما قبله من المرفوعات للمناسبة. ۱۲ منہ

"كنز العمال"، كتاب الموت، صلاة الجنائز، الحديث: ۴۲۸۱۷، ج ۱۵، ص ۲۹۹.

ترجمہ: آج تیرا یہ بندہ دنیا سے نکلا اور دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑا۔ تیری طرف محتاج ہے اور تو اس سے غنی گواہی دیتا تھا کہ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے بندہ اور رسول ہیں اے اللہ (عزوجل)! تو اس کو بخش دے اور اس سے درگزر فرما اور اس کو اس کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لاحق کر دے۔ ۱۲

2..... رواه ابو داود والنسائی والبيهقى عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه. ۱۲ منہ

"سنن أبي داود"، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، الحديث: ۳۲۰۰، ج ۳، ص ۲۸۳.

و "السنن الكبرى" للبيهقى، كتاب الجنائز، باب الدعاء في صلاة الجنائز، الحديث: ۶۹۷۶، ج ۴، ص ۶۸.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو اس کا رب ہے اور تو نے اس کو پیدا کیا اور تو نے اس کو اسلام کی طرف ہدایت کی اور تو نے اس کی روح کو قبض کیا تو اس کے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے ہم سفارش کے لیے حاضر ہوئے اسے بخش دے۔

3..... رواه ابو نعیم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابیه رضى الله تعالى عنه. ۱۲ منہ

"كنز العمال"، كتاب الموت، صلاة الجنائز، الحديث: ۴۲۸۳۷، ج ۱۵، ص ۳۰۱.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو تو بخش دے اور ہمارے آپس کی حالت درست کر اور ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے۔ اے اللہ (عزوجل)! یہ تیرا بندہ فلاں بن فلاں ہے ہم اس کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے اور تو اس کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو ہم کو اور اس کو بخش دے۔ ۱۲

فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الرَّفَاءِ وَالْحَمْدِ ط اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (هَا) وَارْحَمْهُ (هَا) إِنَّكَ أَنْتَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ط (1)

(11) اللَّهُمَّ اجْرِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ط اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِهَا وَصَعِدْ رُوحَهَا
وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا ط (2)

(12) اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَنَحْنُ عِبَادُكَ ط أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ مَعَادُنَا ط (3)

(13) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَوْلِنَا وَآخِرِنَا وَحِينًا وَمَيِّتَنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ (هَا) وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (هَا) ط (4)

(14) اللَّهُمَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيعَ

1..... رواه ابو داود و ابن ماجه عن وائله بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲ منہ

”سنن أبي داود“، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، الحديث: ۳۲۰۲، ج ۳، ص ۲۸۳.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! فلاں بن فلاں تیرے ذمہ اور تیری حفاظت میں ہے، اس کو فتنہ قبر اور عذاب جہنم سے بچا، تو وفا اور حمد کا اہل ہے اے اللہ (عزوجل)! اس کو بخش اور رحم کر بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ۱۲

2..... رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ۱۲ منہ

”سنن ابن ماجه“، كتاب الجنائز، باب ماجاء في إدخال الميت القبر، الحديث: ۱۵۵۳، ج ۲، ص ۲۴۳.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! اس کو شیطان سے اور عذاب قبر سے بچا اے اللہ زمین کو اس کی دونوں کروٹوں سے کشادہ کر دے اور اس کی رُوح کو بلند کر اور اپنی خوشنودی دے۔ ۱۲

3..... رواه البغوی و ابن مندہ و الدیلمی فی مسند الفردوس عن ابی حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲ منہ

”کنز العمال“، كتاب الموت، صلاة الجنائز، الحديث: ۴۲۸۴۲، ج ۱۵، ص ۳۰۲.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو نے ہم کو پیدا کیا اور ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ ۱۲

نوٹ: بہار شریعت کے مطبوعہ نسخوں میں عن ابی عامر جبکہ فتاویٰ رضویہ قدیم و جدید دونوں میں عن ابی حاضر ہے۔ ہم نے بہار شریعت میں اسے عن ابی حاضر لکھ دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں کتابت کی غلطیاں معلوم ہوتی ہیں۔

دیکھئے: ”مسند الفردوس“، الحديث: ۲۰۲۶، ج ۱، ص ۴۹۷. ”الاصابة في تمييز الصحابة“ للعسقلاني، رقم: ۹۷۴۱، ج ۷، ص ۷۰.

4..... رواه البغوی عن ابراهيم الاسهلی عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲ منہ

”کنز العمال“، كتاب الموت، في الصلاة على الميت، الحديث: ۴۲۲۹۲، ج ۱۵، ص ۲۴۸.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! بخش دے ہمارے اگلے اور پچھلے کو اور ہمارے زندہ و مردہ کو اور ہمارے مرد و عورت کو اور ہمارے چھوٹے اور بڑے کو اور ہمارے حاضر و غائب کو۔ اے اللہ (عزوجل)! اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں فتنہ میں نہ ڈال۔ ۱۲

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ط صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط اللَّهُمَّ إِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا أَمَرَ بِالسُّنُوفِ لَمْ يَرُدَّهُ أَبَدًا وَقَدْ أَمَرْتَنَا فَدَعَوْنَا وَأَذْنَتَ لَنَا فَشَفَعْنَا وَأَنْتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ ط فَشَفِّعْنَا فِيهِ (هَا) وَارْحَمَهُ (هَا) فِي وَحْدَتِهِ (هَا) وَارْحَمَهُ (هَا) فِي غُرْبَتِهِ (هَا) وَارْحَمَهُ (هَا) فِي كُرْبَتِهِ (هَا) وَاعْظُمْ لَهُ (لَهَا) أَجْرَهُ (هَا) وَنَوِّرْ لَهُ (هَا) قَبْرَهُ (هَا) وَبَيِّضْ لَهُ (لَهَا) وَجْهَهُ (هَا) وَبَرِّدْ لَهُ (هَا) مَضْجَعَهُ (هَا) وَعَطِّرْ لَهُ (هَا) مَنْزِلَهُ (هَا) وَأَكْرِمْ لَهُ (هَا) نُزْلَهُ (هَا) يَا خَيْرَ الْمُنْزِلِينَ ۝ وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ وَيَا خَيْرَ الرَّاحِمِينَ ۝ آمِينَ آمِينَ آمِينَ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الشَّافِعِينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ط وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (1)

فائدہ: نویں دسویں دعاؤں میں اگر میت کے باپ کا نام معلوم نہ ہو تو اُس کی جگہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کہے کہ وہ سب آدمیوں کے باپ ہیں اور اگر خود میت کا نام بھی معلوم نہ ہو تو نویں دعا میں ہَذَا عَبْدُكَ يَا هَذِهِ أُمَّتُكَ پر قناعت کرے فلاں بن فلاں یا بنت کو چھوڑ دے اور دسویں میں اُس کی جگہ عَبْدُكَ هَذَا یا عورت ہو تو أُمَّتُكَ ہذا کہے۔

فائدہ: میت کا فسق و فجور معلوم ہو تو نویں دعا میں لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا کی جگہ قَدْ عَلِمْنَا مِنْهُ خَيْرًا کہے کہ اسلام ہر خیر سے بہتر خیر ہے۔

① زادہ مجدد المائتہ الحاضرۃ، ۱۲ منہ

"الفتاویٰ الرضویۃ"، ج ۹، ص ۲۱۷.

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے زندہ، اے قیوم، اے آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے، اے عظمت و بزرگی والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو اللہ (عزوجل) کی تہا ہے، بے نیاز ہے، جو نہ دوسرے کو جتا، نہ دوسرے سے جتا اور اُس کا مقابل کوئی نہیں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ سے متوجہ ہوتا ہوں۔ اے اللہ کریم! جب سوال کا حکم دیتا ہے تو واپس کبھی نہیں کرتا اور تُو نے ہمیں حکم دیا ہم نے دُعا کی اور تُو نے ہمیں اجازت دی ہم نے سفارش کی اور تو سب کریموں سے زیادہ کریم ہے، ہماری سفارش اس کے بارہ میں قبول کر اور اس کی تنہائی میں تُو اس پر رحم کر اور اس کی وحشت میں تُو رحم کر اور اس کی غربت میں تُو رحم کر اس کی بے چینی میں تُو رحم کر اور اس کے اجر کو عظیم کر اور اس کی قبر کو منور کر اور اس کے چہرہ کو سپید کر اور اس کی خواب گاہ کو ٹھنڈا کر اور اُس کی منزل کو معطر کر اور اس کی مہمانی کا سامان اچھا کر۔ اے بہتر اوتارنے والے اور اے بہتر بخشنے والے اور اے بہتر رحم کرنے والے۔ آمین، آمین، آمین، دُرود و سلام بھیج اور برکت کر شفاعت کرنے والوں کے سردار محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور اُن کی آل و اصحاب سب پر۔ تمام تعریفیں اللہ (عزوجل) کے لیے، جو رب ہے تمام

فائدہ: ان دُعاؤں میں بعض مضامین مکرر ہیں اور دُعا میں تکرار مستحسن اگر سب دُعا میں یاد ہوں اور وقت میں گنجائش ہو تو سب کا پڑھنا اولیٰ، ورنہ جو چاہے پڑھے اور امام جنتی دیر میں یہ دُعا میں پڑھے اگر مقتدی کو یاد نہ ہوں تو پہلی دُعا کے بعد آمین آمین کہتا رہے۔

مسئلہ ۱ میت مجنون یا نابالغ ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دُعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا. (1)

اور لڑکی ہو تو اجْعَلْهَا اور شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً کہے۔ (2) (جوہرہ)

مجنون سے مراد وہ مجنون ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے مجنون ہوا کہ وہ کبھی مکلف ہی نہ ہوا اور اگر جنون عارضی ہے تو اس کی مغفرت کی دُعا کی جائے، جیسے اوروں کے لیے کی جاتی ہے کہ جنوں سے پہلے تو وہ مکلف تھا اور جنوں کے پیشتر کے گناہ جنوں سے جاتے نہ رہے۔ (3) (غنیہ)

مسئلہ ۲ چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دُعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے (4)، سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کرے، اسی طرح جیسے اور نمازوں کے سلام میں نیت کی جاتی ہے یہاں اتنی بات زیادہ ہے کہ میت کی بھی نیت کرے۔ (5) (درمختار، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۳ تکبیر و سلام کو امام جہر کے ساتھ کہے، باقی تمام دُعا میں آہستہ پڑھی جائیں اور صرف پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے وقت ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ اٹھانا نہیں۔ (6) (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ ۴ نماز جنازہ میں قرآن بہ نیت قرآن یا تشہد پڑھنا منع ہے اور بہ نیت دُعا و ثنا الحمد وغیرہ آیات دعائیہ و ثنائیہ پڑھنا جائز ہے۔ (7) (درمختار)

مسئلہ ۵ بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں تین صفیں کریں کہ حدیث میں ہے: ”جس کی نماز تین صفوں نے پڑھی،

1 ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو اس کو ہمارے لیے پیش رو کر اور اسکو ہمارے لیے ذخیرہ کر اور اسکو ہماری شفاعت کرنیوالا اور مقبول الشفاعۃ کر دے۔ ۱۲

2 ”الجوہرۃ النیرۃ“، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۸. 3 ”غنیۃ المتعملی“، فصل فی الجنائز، ص ۵۸۷.

4 اس کی وضاحت فتاویٰ رضویہ جلد 9 صفحہ 194 پر ملاحظہ فرمائیے۔

5 ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب هل یسقط فرض... إلخ، ج 3، ص ۱۳۰، وغیرہما.

6 ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج 3، ص ۱۲۸-۱۳۰.

7 ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج 3، ص ۱۳۰.

اُس کی مغفرت ہو جائے گی۔“ اور اگر گل سات ہی شخص ہوں تو ایک امام ہو اور تین پہلی صف میں اور دوسری میں اور ایک تیسری میں۔⁽¹⁾ (غنیہ)

مسئلہ ۶ - جنازہ میں کچھلی صف کو تمام صفوں پر فضیلت ہے۔⁽²⁾ (درمختار)

نماز جنازہ کون پڑھائے

مسئلہ ۷ - نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی، پھر امام مجتہد، پھر امام محلہ، پھر ولی کو، امام محلہ کا ولی پر تقدم بطور استحباب ہے اور یہ بھی اُس وقت کے ولی سے افضل ہو ورنہ ولی بہتر ہے۔⁽³⁾ (غنیہ، درمختار)

مسئلہ ۸ - ولی سے مراد میت کے عصبہ ہیں اور نماز پڑھانے میں اولیا کی وہی ترتیب ہے جو نکاح میں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر تقدم ہے اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر، البتہ اگر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا مقدم ہے، اگر عصبہ نہ ہوں تو ذوی الارحام غیروں پر مقدم ہیں۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - میت کا ولی اقرب (سب سے زیادہ نزدیک کا رشتہ دار) غائب ہے اور ولی البعد (دور کا رشتہ والا) حاضر ہے تو یہی البعد نماز پڑھائے، غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنی دُور ہے کہ اُس کے آنے کے انتظار میں حرج ہو۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ - عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو شوہر نماز پڑھائے، وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی۔ یوہیں مرد کا ولی نہ ہو تو پڑوسی اور ولی پر مقدم ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۱ - غلام مرگیا تو اُس کا آقا بیٹے اور باپ پر مقدم ہے، اگرچہ یہ دونوں آزاد ہوں اور آزاد شدہ غلام میں باپ اور بیٹے اور دیگر ورثہ آقا پر مقدم ہیں۔⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

① "غنیة المتملی"، فصل فی الجنائز، ص ۵۸۸.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۳۱.

③ "غنیة المتملی"، فصل فی الجنائز، ص ۵۸۴.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۳۹ - ۱۴۱.

④ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: تعظیم اولی الامر واجب، ج ۳، ص ۱۴۱.

⑤ "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: تعظیم اولی الامر واجب، ج ۳، ص ۱۴۱.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۴۳.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: تعظیم اولی الامر واجب، ج ۳، ص ۱۴۳.

مسئلہ ۱۲ - مکاتب کا بیٹا یا غلام مر گیا تو نماز پڑھانے کا حق مکاتب کو ہے، مگر اُس کا مولیٰ اگر موجود ہو تو اُسے چاہیے کہ مولیٰ سے پڑھوائے اور اگر مکاتب مر گیا اور اتنا مال چھوڑا کہ بدل کتابت ادا ہو جائے اور وہ مال وہاں موجود ہے تو اُس کا بیٹا نماز پڑھائے اور مال غائب ہے تو مولیٰ۔^(۱) (جوہرہ)

مسئلہ ۱۳ - عورتوں اور بچوں کو نماز جنازہ کی ولایت نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ - ولی اور بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دے۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۱۵ - میت کے ولی اقرب اور ولی ابعدا دونوں موجود ہیں تو ولی اقرب کو اختیار ہے کہ ابعدا کے سوا کسی اور سے پڑھوادے ابعدا کو منع کرنے کا اختیار نہیں اور اگر ولی اقرب غائب ہے اور اتنی دُور ہے کہ اُس کے آنے کا انتظار نہ کیا جاسکے اور کسی تحریر کے ذریعہ سے ابعدا کے سوا کسی اور سے پڑھوانا چاہے تو ابعدا کو اختیار ہے کہ اُسے روک دے اور اگر ولی اقرب موجود ہے مگر بیمار ہے تو جس سے چاہے پڑھوادے ابعدا کو منع کا اختیار نہیں۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ - عورت مرگئی شوہر اور جوان بیٹا چھوڑا تو ولایت بیٹے کو ہے شوہر کو نہیں، البتہ اگر یہ لڑکا اسی شوہر سے ہے تو باپ پر پیش قدمی مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ باپ سے پڑھوائے اور اگر دوسرے شوہر سے ہے تو سوتیلے باپ پر تقدم کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں اور بیٹا بالغ نہ ہو تو عورت کے جو اور ولی ہوں اُن کا حق ہے شوہر کا نہیں۔^(۵) (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ - دو یا چند شخص ایک درجہ کے ولی ہوں تو زیادہ حق اُس کا ہے جو عمر میں بڑا ہے، مگر کسی کو یہ اختیار نہیں کہ دوسرے ولی کے سوا کسی اور سے بغیر اُس کی اجازت کے پڑھوادے اور اگر ایسا کیا یعنی خود نہ پڑھائی اور کسی اور کو اجازت دے دی تو دوسرے ولی کو منع کا اختیار ہے، اگرچہ یہ دوسرا ولی عمر میں چھوٹا ہو اور اگر ایک ولی نے ایک شخص کو اجازت دی، دوسرے نے دوسرے کو تو جس کو بڑے نے اجازت دی وہ اولیٰ ہے۔^(۶) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۸ - میت نے وصیت کی تھی کہ میری نماز فلاں پڑھائے یا مجھے فلاں شخص غسل دے تو یہ وصیت باطل ہے یعنی اس وصیت سے ولی کا حق جاتا نہ رہے گا، ہاں ولی کو اختیار ہے کہ خود نہ پڑھائے اُس سے پڑھوادے۔^(۷) (عالمگیری وغیرہ)

① "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، الجزء الأول، ص ۱۳۶.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۳.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: تعظیم... إلخ، ج ۳، ص ۱۴۱ - ۱۴۴.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۳.

⑤ المرجع السابق.

⑥ المرجع السابق.

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۳، وغیرہ.

مسئلہ ۱۹ — ولی کے سوا کسی ایسے نے نماز پڑھائی جو ولی پر مقدم نہ ہو اور ولی نے اُسے اجازت بھی نہ دی تھی تو اگر ولی نماز میں شریک نہ ہو تو نماز کا اعادہ کر سکتا ہے اور اگر مردہ دفن ہو گیا ہے تو قبر پر نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر وہ ولی پر مقدم ہے جیسے بادشاہ و قاضی و امام محلہ کہ ولی سے افضل ہو تو اب ولی نماز کا اعادہ نہیں کر سکتا اور اگر ایک ولی نے نماز پڑھادی تو دوسرے اولیا اعادہ نہیں کر سکتے اور ہر صورت اعادہ میں جو شخص پہلی نماز میں شریک نہ تھا وہ ولی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور جو شخص شریک تھا وہ ولی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے کہ جنازہ کی دو مرتبہ نماز ناجائز ہے سوا اس صورت کے کہ غیر ولی نے بغیر اذن ولی پڑھائی۔^(۱) (عالمگیری، درمختار و غیر ہما)

مسئلہ ۲۰ — جن چیزوں سے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں نماز جنازہ بھی اُن سے فاسد ہو جاتی ہے سوا ایک بات کے کہ عورت مرد کے محاذی ہو جائے تو نماز جنازہ فاسد نہ ہوگی۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ — مستحب یہ ہے کہ میت کے سینہ کے سامنے امام کھڑا ہو اور میت سے دُور نہ ہو میت خواہ مرد ہو یا عورت بالغ ہو یا نابالغ یہ اُس وقت ہے کہ ایک ہی میت کی نماز پڑھانی ہو اور اگر چند ہوں تو ایک کے سینہ کے مقابل اور قریب کھڑا ہو۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۲ — امام نے پانچ تکبیریں کہیں تو پانچویں تکبیر میں مقتدی امام کی متابعت نہ کرے بلکہ چُپ کھڑا رہے جب امام سلام پھیرے تو اُس کے ساتھ سلام پھیر دے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۲۳ — بعض تکبیریں فوت ہو گئیں یعنی اُس وقت آیا کہ بعض تکبیریں ہو چکی ہیں تو فوراً شامل نہ ہو اس وقت ہو جب امام تکبیر کہے اور اگر انتظار نہ کیا بلکہ فوراً شامل ہو گیا تو امام کے تکبیر کہنے سے پہلے جو کچھ ادا کیا اُس کا اعتبار نہیں، اگر وہیں موجود تھا مگر تکبیر تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ کہا، خواہ غفلت کی وجہ سے دیر ہوئی یا ہنوز نیت ہی کرتا رہ گیا تو یہ شخص اس کا انتظار نہ کرے کہ امام دوسری تکبیر کہے تو اُس کے ساتھ شامل ہو بلکہ فوراً ہی شامل ہو جائے۔^(۵) (درمختار، غنیہ)

مسئلہ ۲۴ — مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئیں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے اور

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۳.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۴۴، وغیرہما.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۴.

③ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: هل يسقط فرض... إلخ، ج ۳، ص ۱۳۴.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۳۱.

⑤ "غنیة المتملی"، فصل فی الجنائز، ص ۵۸۷.

اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعائیں پڑھے گا تو پوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کندھے تک اٹھالیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے
دُعائیں چھوڑ دے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۵ - لاحق یعنی جو شروع میں شامل ہوا مگر کسی وجہ سے درمیان کی بعض تکبیریں رہ گئیں مثلاً پہلی تکبیر امام کے
ساتھ کہی، مگر دوسری اور تیسری جاتی رہیں تو امام کی چوتھی تکبیر سے پیشتر یہ تکبیریں کہہ لے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ - چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا شامل ہو جائے اور امام کے سلام کے بعد
تین بار اللہ اکبر کہہ لے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۷ - کئی جنازے جمع ہوں تو ایک ساتھ سب کی نماز پڑھ سکتا ہے یعنی ایک ہی نماز میں سب کی نیت کر لے
اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھے اور اس صورت میں یعنی جب علیحدہ علیحدہ پڑھے تو ان میں جو افضل ہے اس کی پہلے
پڑھے پھر اس کی جو اُس کے بعد سب میں افضل ہے وہی اسی القیاس۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۸ - چند جنازے کی ایک ساتھ پڑھائی تو اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں یعنی سب کا سینہ امام کے مقابل
ہو یا برابر برابر رکھیں یعنی ایک کی پائنتی یا سر ہانے دوسرے کو اور اس دوسرے کی پائنتی یا سر ہانے تیسرے کو وہی اسی القیاس۔ اگر
آگے پیچھے رکھے تو امام کے قریب اس کا جنازہ ہو جو سب میں افضل ہو پھر اُس کے بعد جو افضل ہو وہی اسی القیاس۔

اور اگر فضیلت میں برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو اسے امام کے قریب رکھیں یہ اس وقت ہے کہ سب ایک جنس کے
ہوں اور اگر مختلف جنس کے ہوں تو امام کے قریب مرد ہو اس کے بعد لڑکا پھر خنثی پھر عورت پھر مراہقہ یعنی نماز میں جس طرح
مقتدیوں کی صف میں ترتیب ہے، اس کا عکس یہاں ہے اور اگر آزاد و غلام کے جنازے ہوں تو آزاد کو امام سے قریب رکھیں گے
اگرچہ نابالغ ہو، اُس کے بعد غلام کو اور کسی ضرورت سے ایک ہی قبر میں چند مردے دفن کریں تو ترتیب عکس کریں یعنی قبلہ
کو اُسے رکھیں جو افضل ہے جب کہ سب مرد یا سب عورتیں ہوں، ورنہ قبلہ کی جانب مرد کو رکھیں پھر لڑکے پھر خنثی پھر عورت پھر
مراہقہ کو۔⁽⁵⁾ (عالمگیری، درمختار)

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج ۳، ص ۱۳۶.

② "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي، ج ۳، ص ۱۳۶.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج ۳، ص ۱۳۶.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج ۳، ص ۱۳۸.

⑤ "الفتاوى الهندية"، کتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۵.

و"الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج ۳، ص ۱۳۹.

مسئلہ ۲۹ ایک جنازہ کی نماز شروع کی تھی کہ دوسرا آ گیا تو پہلے کی پوری کر لے اور اگر دوسری تکبیر میں دونوں کی نیت کر لی، جب بھی پہلے ہی کی ہوگی اور اگر صرف دوسرے کی نیت کی تو دوسرے کی ہوگی اس سے فارغ ہو کر پہلے کی پھر پڑھے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ نماز جنازہ میں امام بے وضو ہو گیا اور کسی کو اپنا خلیفہ کیا تو جائز ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا اور مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں، جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو اور مٹی نہ دی گئی ہو تو نکالیں اور نماز پڑھ کر دفن کریں اور قبر پر نماز پڑھنے میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن تک پڑھی جائے کہ یہ موسم اور زمین اور میت کے جسم و مرض کے اختلاف سے مختلف ہے، گرمی میں جلد پھٹے گا اور جاڑے میں بدیر تریا شور زمین میں جلد خشک اور غیر شور میں بدیر فرجہ جسم جلد لاغر دیر میں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ کونیں میں گر کر مر گیا یا اوس کے اوپر مکان گر پڑا اور مردہ نکالا نہ جاسکا تو اسی جگہ اُس کی نماز پڑھیں اور دریا میں ڈوب گیا اور نکالا نہ جاسکا تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی کہ میت کا مصلیٰ کے آگے ہونا معلوم نہیں۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۳ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، سب نمازی مسجد میں ہوں یا بعض، کہ حدیث میں نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت آئی۔^(۵) (ردالمحتار) شارع عام اور دوسرے کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔^(۶) (ردالمحتار) یعنی جب کہ مالک زمین منع کرتا ہو۔

مسئلہ ۳۴ جُتھ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اگر جُتھ سے پہلے تجھینر و تکفین ہو سکے تو پہلے ہی کر لیں، اس خیال سے روک رکھنا کہ جُتھ کے بعد جمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے۔^(۷) (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۳۵ نماز مغرب کے وقت جنازہ آیا تو فرض اور سنتیں پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں۔ یوہیں کسی اور فرض نماز کے وقت جنازہ آئے اور جماعت طیار ہو تو فرض و سنت پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں، بشرطیکہ نماز جنازہ کی تاخیر میں جسم خراب

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۶۵.

② المرجع السابق.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: تعظیم اولی الامر واجب، ج ۳، ص ۱۴۶.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: تعظیم اولی الامر واجب، ج ۳، ص ۱۴۷.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۴۸.

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی کراهة صلاة الجنائز فی المسجد، ج ۳، ص ۱۴۸.

⑦ المرجع السابق، مطلب فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۷۳، و "الفتاویٰ الرضویۃ"، ج ۹، ص ۳۱۰.

ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ نماز عید کے وقت جنازہ آیا تو پہلے عید کی نماز پڑھیں پھر جنازہ پھر خطبہ اور گہن کی نماز کے وقت آئے تو پہلے جنازہ پھر گہن کی۔⁽²⁾ (درمختار، جوہرہ)

مسئلہ ۳۷ مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اُس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اُسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے، اُس کے لیے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی، یہاں تک کہ سرجب باہر ہوا تھا اس وقت چیختا تھا مگر اکثر حصہ نکلنے سے پیشتر مر گیا تو نماز نہ پڑھی جائے، اکثر کی مقدار یہ ہے کہ سر کی جانب سے ہو تو سینہ تک اکثر ہے اور پاؤں کی جانب سے ہو تو کمر تک۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۳۸ بچہ کی ماں یا جنائی نے زندہ پیدا ہونے کی شہادت دی تو اس کی نماز پڑھی جائے، مگر وراثت کے بارے میں اُن کی گواہی نامعتبر ہے یعنی بچہ اپنے باپ فوت شدہ کا وارث نہیں قرار دیا جائے گا نہ بچہ کی وارث اُس کی ماں ہوگی، یہ اس وقت ہے کہ خود باہر نکلا اور کسی نے حاملہ کے شکم پر ضرب لگائی کہ بچہ مرا ہوا باہر نکلا تو وارث ہوگا اور وارث بنائے گا۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۹ بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ اُس کی خلقت تمام ہو یا ناقص بہر حال اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اُس کا حشر ہوگا۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴۰ کافر کا بچہ دار الحرب میں اپنی ماں یا باپ کے ساتھ یا بعد میں قید کیا گیا پھر وہ مر گیا اور اُس کے ماں باپ میں سے اب تک کوئی مسلمان نہ ہو تو اسے نہ غسل دیں گے نہ کفن، خواہ دار الحرب ہی میں مرا ہو یا دارالاسلام میں اور اگر تنہا دارالاسلام میں اُسے لائیں یعنی اُس کے ماں باپ میں سے کسی کو قید کر کے نہ لائے ہوں نہ وہ بطور خود بچہ کے لانے سے

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: فیما یرجع تقدیمہ من صلاة عید و جنازة... إلخ، ج ۳، ص ۵۲ - ۵۳.

و "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۹، ص ۱۸۳ - ۱۸۴.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب العیدین، ج ۳، ص ۵۲.

و "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب صلاة الکسوف، ص ۱۲۴.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب: مهم إذا قال... إلخ، ج ۳، ص ۱۵۲ - ۱۵۴.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب: مهم إذا قال... إلخ، ج ۳، ص ۱۵۲.

⑤ المرجع السابق، ص ۱۵۴.

پہلے ذمی بن کر آئے تو اسے غسل و کفن دیں گے اور اُس کی نماز پڑھی جائے گی، اگر اس نے عاقل ہو کر کفر اختیار نہ کیا۔ (1)
(عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۳۱ - کافر کے بچہ کو قید کیا اور ابھی وہ دارالہرب ہی میں تھا کہ اُس کا باپ دارالاسلام میں آ کر مسلمان ہو گیا تو بچہ مسلمان سمجھا جائے گا یعنی اگر چہ دارالہرب میں مر جائے، اسے غسل و کفن دیں گے اس کی نماز پڑھیں گے۔ (2) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ - بچہ کو ماں باپ کے ساتھ قید کر لائے اور ان میں سے کوئی مسلمان ہو گیا یا وہ بچہ سمجھ وال تھا، خود مسلمان ہو گیا تو ان دونوں صورتوں میں وہ مسلمان سمجھا جائے گا۔ (3) (تنویر الابصار)

مسئلہ ۳۳ - کافر کے بچہ کو ماں باپ کے ساتھ قید کیا مگر وہ دونوں وہیں دارالہرب میں مر گئے تو اب مسلمان سمجھا جائے، مجنون بالغ قید کیا گیا تو اس کا حکم وہی ہے جو بچہ کا ہے۔ (4) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۴ - مسلمان کا بچہ کافر سے پیدا ہوا اور وہ اُس کی منکوحہ نہ تھی، یعنی وہ بچہ زنا کا ہے تو اُس کی نماز پڑھی جائے۔ (5) (ردالمحتار)

قبر و دفن کا بیان

مسئلہ ۱ - میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں۔ (6) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ - جس جگہ انتقال ہوا اسی جگہ دفن نہ کریں کہ یہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے خاص ہے بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں، مقصد یہ کہ اس کے لیے کوئی خاص مدفن نہ بنایا جائے میت بالغ ہو یا نابالغ۔ (7) (درمختار، ردالمحتار)

- 1..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵۹۔
و"الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۵۵، وغیرہما۔
- 2..... "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: مهم إذا قال... إلخ، ج ۳، ص ۱۵۵۔
- 3..... "تنویر الأبصار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۵۵ - ۱۵۷۔
- 4..... "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: مهم إذا قال... إلخ، ج ۳، ص ۱۵۷۔
- 5..... "ردالمختار"
- 6..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۵۔
و"ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: مهم فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۶۳۔
- 7..... "الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: مهم فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۶۶۔

مسئلہ ۳ - قبر کی لمبائی میت کے قد برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر ہو اور متوسط درجہ یہ کہ سینہ تک ہو۔^(۱) (ردالمحتار) اس سے مراد یہ کہ لحد یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔

مسئلہ ۴ - قبر دو قسم ہے، لحد کہ قبر کھود کر اس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھودیں اور صندوق وہ جو ہندوستان میں عموماً رائج ہے، لحد سنت ہے اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ - قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا جائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۶ - تابوت کہ میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں یہ مکروہ ہے، مگر جب ضرورت ہو مثلاً زمین بہت تر ہے تو حرج نہیں اور اس صورت میں تابوت کے مصارف اس میں سے لیے جائیں جو میت نے مال چھوڑا ہے۔^(۴) (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۷ - اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ ہے کہ اس میں مٹی بچھادیں اور دہنے بائیں خام^(۵) اینٹیں لگا دیں اور اوپر کبھگل^(۶) کر دیں غرض یہ کہ اندر کا حصہ مثل لحد کے ہو جائے اور لوہے کا تابوت مکروہ ہے اور قبر کی زمین نم ہو تو دھول بچھا دینا سنت ہے۔^(۷) (صغیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - قبر کے اس حصہ میں کہ میت کے جسم سے قریب ہے، پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے کہ اینٹ آگ سے پکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگ کے اثر سے بچائے۔^(۸) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۹ - قبر میں اترنے والے دو تین جو مناسب ہوں کوئی تعداد اس میں خاص نہیں اور بہتر یہ کہ قوی و نیک و امین

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في دفن الميت، ج ۳، ص ۱۶۴.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۵.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۶۴.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۶۵، وغیرہما.

⑤ یعنی کچی۔

⑥ یعنی مٹی کی لپائی۔

⑦ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في دفن الميت، ج ۳، ص ۱۶۵.

⑧ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶، وغیرہ.

ہوں کہ کوئی بات نامناسب دیکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ - جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا مستحب ہے کہ مردہ قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے، یوں نہیں کہ قبر کی پانکتی رکھیں اور سر کی جانب سے قبر میں لائیں۔⁽²⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۱ - عورت کا جنازہ اتارنے والے محارم ہوں، یہ نہ ہوں تو دیگر رشتہ والے یہ بھی نہ ہوں تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں مضائقہ نہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ - میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں:

بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

اور ایک روایت میں بِسْمِ اللّٰهِ کے بعد وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بھی آیا ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ - میت کو وہنی طرف کروٹ پر لٹائیں اور اس کا مونہہ قبلہ کو کریں، اگر قبلہ کی طرف مونہہ کرنا بھول گئے تختہ لگانے کے بعد یاد آیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ رو کر دیں اور مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو نہیں۔ یوں اگر بائیں کروٹ پر رکھا یا جدھر سر ہانا ہونا چاہیے ادھر پاؤں کیے تو اگر مٹی دینے سے پہلے یاد آیا ٹھیک کر دیں ورنہ نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۴ - قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں اور نہ کھولی تو حرج نہیں۔⁽⁶⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۱۵ - قبر میں رکھنے کے بعد لحد کو کچی اینٹوں سے بند کریں اور زمین نرم ہو تو تختہ لگانا بھی جائز ہے، تختوں کے درمیان جھری رہ گئی تو اُسے ڈھیلے وغیرہ سے بند کر دیں، صندوق کا بھی یہی حکم ہے۔⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ - عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائے رکھیں، مرد کی قبر کو

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۶۶، وغیرہ.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶.

④ "تنویر الأبصار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۶۶.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۶۷.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶.

⑥ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۴۰.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۶۷.

دفن کرتے وقت نہ چھپائیں البتہ اگر مینہ وغیرہ کوئی عذر ہو تو چھپانا جائز ہے، عورت کا جنازہ بھی ڈھکا رہے۔⁽¹⁾ (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ ۱۷ تختے لگانے کے بعد مٹی دی جائے مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے تین بار مٹی ڈالیں۔

پہلی بار کہیں: **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ** (2)

دوسری بار: **وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ** (3)

تیسری بار: **وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى** (4)

یا پہلی بار: **اللَّهُمَّ جَاغِبِ الْأَرْضَ عَنِ جَنْبِيهِ** (5)

دوسری بار: **اللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ** (6)

تیسری بار: **اللَّهُمَّ زَوِّجْهُ مِنْ حُورِ الْعَيْنِ** (7)

اور میت عورت ہو تو،

تیسری بار یہ کہیں: **اللَّهُمَّ ادْخُلْهَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ** (8)

باقی مٹی ہاتھ یا گھر پی یا پھوڑے وغیرہ جس چیز سے ممکن ہو قبر میں ڈالیں اور جتنی مٹی قبر سے نکلی اُس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔⁽⁹⁾ (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے، اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں اختیار ہے۔

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في دفن الميت، ج ۳، ص ۱۶۸.

و "الجوهرة النيرة"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۴۰.

② اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ ۱۲

③ اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے۔ ۱۲

④ اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ۱۲

⑤ اے اللہ (عزوجل)! زمین کو اس کے دونوں پہلوؤں سے کشادہ کر۔ ۱۲ عورت کے لئے ضمیر مؤنث ہو جَنْبِيهِ، لِرُوحِهَا۔ ۱۲

⑥ اے اللہ (عزوجل)! اس کی روح کیلئے آسمان کے دروازے کھول دے۔ ۱۲

⑦ اے اللہ (عزوجل)! حور عین کو اس کی زوجہ کر دے۔ ۱۲

⑧ اے اللہ (عزوجل)! اپنی رحمت سے تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ۱۲

⑨ "الجوهرة النيرة"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۴۱.

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶.

مسئلہ ۱۹ قبر چوکھوٹی نہ بنائیں بلکہ اس میں ڈھال رکھیں جیسے اونٹ کا کوہان اور اس پر پانی چھڑکنے میں حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے اور قبر ایک باشت اونچی ہو یا کچھ خفیف زیادہ۔^(۱) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ جہاز پر انتقال ہوا اور کنارہ قریب نہ ہو، تو غسل و کفن دے کر نماز پڑھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔^(۲) (غنیہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱ علما و سادات کی قبور پر قبہ وغیرہ بنانے میں حرج نہیں اور قبر کو پختہ نہ کیا جائے۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار) یعنی اندر سے پختہ نہ کی جائے اور اگر اندر خام ہو، اوپر سے پختہ تو حرج نہیں۔

مسئلہ ۲۲ اگر ضرورت ہو تو قبر پر نشان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں، مگر ایسی جگہ نہ لکھیں کہ بے ادبی ہو، ایسے مقبرہ میں دفن کرنا بہتر ہے جہاں صالحین کی قبریں ہوں۔^(۴) (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ ۲۳ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورۃ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں سرہانے اللہ سے **مُفْلِحُونَ** تک اور پابندی **اقص الرُّسُولُ** سے ختم سورت تک پڑھیں۔^(۵) (جوہرہ)

مسئلہ ۲۴ دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے، کہ ان کے رہنے سے میت کوانس ہوگا اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دُعا و استغفار کریں اور یہ دُعا کریں کہ سوال نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے۔^(۶) (جوہرہ وغیرہ)

مسئلہ ۲۵ ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں اور ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، مگر دو میتوں کے درمیان مٹی وغیرہ سے آڑ کر دیں اور کون آگے ہو کون پیچھے یہ اوپر مذکور ہوا۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ جس شہر یا گاؤں وغیرہ میں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے اگرچہ یہ وہاں رہتا نہ

- ① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶.
- ② و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۶۸.
- ③ "ردالمحتار" المرجع السابق، ص ۱۶۵ و "غنیة المتملی"، فصل فی الجنائز، ص ۶۰۷.
- ④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۶۹.
- ⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۷۰.
- ⑥ و "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۴۱.
- ⑦ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۴۱، وغیرہ.
- ⑧ المرجع السابق.
- ⑨ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶.

ہو، بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں اور دو ایک میل باہر لے جانے میں حرج نہیں کہ شہر کے قبرستان اکثر اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں اور اگر دوسرے شہر کو اس کی لاش اٹھالے جائیں تو اکثر علمائے منع فرمایا اور یہی صحیح ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ دفن سے پیشتر لے جانا چاہیں اور دفن کے بعد تو مطلقاً نقل کرنا ممنوع ہے، سوا بعض صورتوں کے جو مذکور ہوں گی۔^(۱) (عالمگیری) اور یہ جو بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ زمین کو سپرد کرتے ہیں پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور رافضیوں کا طریقہ ہے۔

مسئلہ ۲۷ دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مالک دفن کر دیا تو مالک کو اختیار ہے خواہ اولیائے میت سے کہے اپنا مردہ نکال لویا زمین برابر کر کے اس میں کھیتی کرے۔ یوہیں اگر وہ زمین شفعہ میں لے لی گئی یا غصب کیے ہوئے کپڑے کا کفن دیا تو مالک مردہ کو نکلا سکتا ہے۔^(۲) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ وقتی قبرستان میں کسی نے قبر طیار کرائی اس میں دوسرے لوگ اپنا مردہ دفن کرنا چاہتے ہیں اور قبرستان میں جگہ ہے، تو مکروہ ہے اور اگر دفن کر دیا تو قبر کھودوانے والا مردہ کو نہیں نکلا سکتا جو خرچ ہوا ہے لے لے۔^(۳) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ عورت کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعض ورثہ موجود نہ تھے ان ورثہ کو قبر کھودنے کی اجازت ہے، کسی کا کچھ مال قبر میں گر گیا مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو قبر کھود کر نکال سکتے ہیں اگرچہ وہ ایک ہی درہم ہو۔^(۴) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ اپنے لیے کفن تیار رکھے تو حرج نہیں اور قبر کھودوار کھنا بے معنی ہے کیا معلوم کہاں مرے گا۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پاخانہ، پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے، خواہ نیا ہونا اسے معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔^(۶) (عالمگیری، ردالمحتار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۷.

② المرجع السابق، و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۷۱.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۷۱.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۷.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن الميت، ج ۳، ص ۱۷۱.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۸۳.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ج ۱، ص ۱۶۶.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۸۳.

مسئلہ ۳۲ اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں پر گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے، دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے، قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے۔ ایک شخص کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوتے پہنے دیکھا، فرمایا: ”جوتے اتار دے، نہ قبر والے کو تو ایذا دے، نہ وہ تجھے۔“ (1)

مسئلہ ۳۳ قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے حافظ مقرر کرنا جائز ہے۔ (2) (درمختار) یعنی جب کہ پڑھنے والے اجرت پر نہ پڑھتے ہوں کہ اجرت پر قرآن مجید پڑھنا اور پڑھوانا جائز ہے، اگر اجرت پر پڑھوانا چاہے تو اپنے کام کاج کے لیے نوکر رکھے پھر یہ کام لے۔

مسئلہ ۳۴ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ میت کے مونہ کے سامنے قبلہ کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ درمختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے اور میت کے سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی، انتقال کے بعد سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھ دی گئی پھر کسی نے انھیں خواب میں دیکھا، حال پوچھا؟ کہا: جب میں قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ (3) (درمختار، غنیہ، عن التاتارخانیہ) یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں اور سینہ پر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پیشتر کلمہ کی انگلی سے لکھیں روشنائی سے نہ لکھیں۔ (4) (ردالمحتار)

زیارتِ قبور

مسئلہ ۳۵ زیارتِ قبور مستحب ہے ہر ہفتہ میں ایک دن زیارت کرے، جمعہ یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے، سب میں افضل روز جمعہ وقت صبح ہے۔ اولیائے کرام کے مزارات طیبہ پر سفر کر کے جانا جائز ہے، وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں اور اگر وہاں کوئی منکر شرعی ہو مثلاً عورتوں سے اختلاط تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے کہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے بُرا جانے اور ممکن ہو تو بُری بات زائل کرے۔ (5) (ردالمحتار)

..... 1

..... 2 ”الدرالمختار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الحنازة، ج ۳، ص ۱۸۵.

..... 3 المرجع السابق، و ”الفتاوی التاتارخانیة“، کتاب الصلاة، الفصل الثانی، ج ۲، ص ۱۷۰.

..... 4 ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الحنازة، مطلب: فیما یکتب علی کفن المیت، ج ۳، ص ۱۸۶.

..... 5 ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الحنازة، مطلب فی زیارة القبور، ج ۳، ص ۱۷۷.

مسئلہ ۳۶ عورتوں کے لیے بعض علمائے زیارتِ قبور کو جائز بتایا، درمختار میں یہی قول اختیار کیا، مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو جزع و فزع کریں گی، لہذا ممنوع ہے اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھیوں کے لیے حرج نہیں اور جوانوں کے لیے ممنوع۔^(۱) (ردالمحتار) اور اسلم یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزع و فزع ہے اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔^(۲) (فتاویٰ رضویہ)

مسئلہ ۳۷ زیارتِ قبر کا طریقہ یہ ہے کہ پائنتی کی جانب^(۳) سے جا کر میت کے مونہ کے سامنے کھڑا ہو، سر ہانے سے نہ آئے کہ میت کے لیے باعثِ تکلیف ہے یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑے گا کہ کون آتا ہے اور یہ کہے:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَأَنَا لَكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا
وَلَكُمْ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَالْأَجْسَادِ
الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّجْرَةِ أَدْخِلْ هَذِهِ الْقُبُورَ مِنْكَ رَوْحًا وَرَيْحَانًا وَمِنَّا تَحِيَّةً وَسَلَامًا .^(۴)

پھر فاتحہ پڑھے اور بیٹھنا چاہے تو اتنے فاصلہ سے بیٹھے کہ اس کے پاس زندگی میں نزدیک یا دور جتنے فاصلہ پر بیٹھ سکتا تھا۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۸ قبرستان میں جائے تو الحمد شریف اور **الْحَمْدُ** سے **مُفْلِحُونَ** تک اور آیت الکرسی اور **أَمَّنَ الرَّسُولُ** آخر سورہ تک اور سورہ **يَس** اور **تَبَارَكَ الَّذِي** اور **أَلْهَيْكُمْ لِلشَّكْرِ** ایک ایک بار اور **قُلْ هُوَ اللَّهُ** بارہ یا گیارہ یا سات یا تین بار پڑھے اور ان سب کا ثواب مردوں کو پہنچائے۔ حدیث میں ہے: ”جو گیارہ بار **قُلْ هُوَ اللَّهُ** شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی برابر اسے ثواب ملے گا۔“^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

① ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في زيارة القبور، ج ۳، ص ۱۷۸.

② ”الفتاوى الرضوية“، ج ۹، ص ۵۳۸.

③ یعنی قدموں کی طرف۔

④ سلام ہو تم پر اے قومِ مؤمنین کے گھر والو! تم ہمارے اگلے ہو اور ہم ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں، اللہ (عزوجل) سے ہم اپنے اور تمہارے لیے عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ (عزوجل) ہمارے اگلوں اور پچھلوں پر رحم کرے۔ اے اللہ (عزوجل)! رب فانی روحوں کے اور جسم گل جانے والے اور بوسیدہ ہڈیوں کے، تو اپنی طرف سے ان قبروں میں تازگی اور خوشبو داخل کر اور ہماری طرف سے تحیت و سلام پہنچادے۔ ۱۲

⑤ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في زيارة القبور، ج ۳، ص ۱۷۹.

⑥ ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في زيارة القبور، ج ۳، ص ۱۷۹.

مسئلہ ۳۹ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہر قسم کی عبادت اور ہر عمل نیک فرض و نفل کا ثواب مُردوں کو پہنچا سکتا ہے، اُن سب کو پہنچے گا اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اُس کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے یہ نہیں کہ اُسی ثواب کی تقسیم ہو کر ٹکڑا ٹکڑا ملے۔^(۱) (ردالمحتار) بلکہ یہ امید ہے کہ اس ثواب پہنچانے والے کے لیے اُن سب کے مجموعے کے برابر ملے مثلاً کوئی نیک کام کیا، جس کا ثواب کم از کم دس ملے گا، اس نے دس مُردوں کو پہنچایا تو ہر ایک کو دس دس ملیں گے اور اس کو ایک سو دس اور ہزار کو پہنچایا تو اسے دس ہزار دس علیٰ ہذا القیاس۔^(۲) (فتاویٰ رضویہ)

مسئلہ ۳۰ نابالغ نے کچھ پڑھ کر یا کوئی نیک عمل کر کے اُس کا ثواب مُردہ کو پہنچایا تو اِنْشَاءَ اللّٰهِ تعالیٰ پہنچے گا۔^(۳) (فتاویٰ رضویہ)

مسئلہ ۳۱ قبر کو بوسہ دینا بعض علما نے جائز کہا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ منع ہے۔^(۴) (اشعة اللمعات) اور قبر کا طواف تعظیماً منع ہے اور اگر برکت لینے کے لیے گرد مزار پھرا تو حرج نہیں، مگر عوام منع کیے جائیں بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔

دفن کے بعد تلقین

مسئلہ ۳۲ دفن کے بعد مُردہ کو تلقین کرنا، اہل سنت کے نزدیک مشروع ہے۔^(۵) (جوہرہ) یہ جو اکثر کتابوں میں ہے کہ تلقین نہ کی جائے یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ انہوں نے ہماری کتابوں میں یہ اضافہ کر دیا۔^(۶) (ردالمحتار) حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اُس کی مٹی دے چکو، تو تم میں ایک شخص قبر کے سر ہانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلاں وہ سُنے گا اور جواب نہ دے گا پھر کہے یا فلاں بن فلاں بن فلاں وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا پھر کہے یا فلاں بن فلاں وہ کہے گا، ہمیں ارشاد کر اللہ (عزوجل) تجھ پر رحم فرمائے گا، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی پھر کہے:

أَذْكَرُ مَا خَرَجْتَ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

① ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في القراءة للميت... إلخ، ج ۳، ص ۱۸۰.

② ”الفتاویٰ الرضویة“، ج ۹، ص ۶۲۳ - ۶۲۹.

③ ”الفتاویٰ الرضویة“، ج ۹، ص ۶۲۹ - ۶۴۲.

④ ”اشعة اللمعات“، کتاب الجنائز، باب زیارة القبور، ج ۱، ص ۷۶۳.

⑤ ”الجوہرۃ النیرۃ“، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۰.

⑥ ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في التلقين بعد الموت، ج ۳، ص ۹۴.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ رَضَيْتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ
إِمَامًا. (1)

نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے، چلو ہم اُس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے، اس پر کسی نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے عرض کی، اگر اُس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو؟ فرمایا: حوا کی طرف نسبت کرے۔ (2)
رواہ الطبرانی فی الکبیر والاضیاء فی الاحکام وغیرہما۔ بعض اجلہ ائمہ تابعین فرماتے ہیں: جب قبر پر مٹی برابر کر چکیں اور لوگ واپس جائیں تو مستحب سمجھا جاتا کہ میت سے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا جائے:

يا فلان بن فلان قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (3)

تین بار پھر کہا جائے:

قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (4)

اعلیٰ حضرت قبلہ نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا:

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الدِّينِ آتِيَاكَ أَوْيَا تِيَانِكَ إِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لِلَّهِ لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَأَشْهَدْ أَنَّ رَبَّكَ اللَّهُ وَدِينَكَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيَّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَبَّتْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (5)

قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ (6) (ردالمحتار)

1 ترجمہ: تو اُسے یاد کر، جس پر تو دنیا سے نکلا یعنی یہ گواہی کہ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندہ اور

رسول ہیں اور یہ کہ تو اللہ (عزوجل) کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ ۱۲

2 "المعجم الکبیر" للطبرانی، الحدیث: ۷۹۷۹، ج ۸، ص ۲۴۹ - ۲۵۰.

3 اے فلان بن فلان تو کہہ کہ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ۱۲

4 "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۹، ص ۲۲۲.

تو کہہ میرا رب اللہ (عزوجل) ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ۱۲

5 "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۹، ص ۲۲۲.

اور جان لے کہ یہ دو شخص جو تیرے پاس آئے یا آئیں گے یہ اللہ (عزوجل) کے بندے ہیں بغیر خدا کے حکم کے نہ ضرر پہنچائیں، نہ نفع

پس نہ خوف کر اور نہ غم کر اور تو گواہی دے کہ تیرا رب اللہ (عزوجل) ہے اور تیرا دین اسلام ہے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں

اللہ (عزوجل) ہم کو اور تجھ کو قول ثابت پر ثابت رکھے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بے شک وہ بخشے والا مہربان ہے۔ ۱۲

6 "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی وضع الجرید و نحو الآس علی القبور، ج ۳، ص ۱۸۴.

یوہیں جنازہ پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔

مسئلہ ۳۳ قبر پر سے ترگھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اُس کی تسبیح سے رحمت اُترتی ہے اور میت کو اُنس ہوتا ہے اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

تعزیت کا بیان

مسئلہ ۱ تعزیت مسنون ہے۔ حدیث میں ہے، ”جو اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔“^(۲) اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ دوسری حدیث ترمذی وابن ماجہ میں ہے، ”جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، اُسے اُسی کے مثل ثواب ملے گا۔“^(۳)

مسئلہ ۲ تعزیت کا وقت موت سے تین دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر اُسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں۔^(۴) (جوہرہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ دفن سے پیشتر بھی تعزیت جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو یہ اُس وقت ہے کہ اولیائے میت جزع و فزع نہ کرتے ہوں، ورنہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے پیشتر ہی کرے۔^(۵) (جوہرہ)

مسئلہ ۴ مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کریں، چھوٹے بڑے مرد و عورت سب کو مگر عورت کو اُس کے محارم ہی تعزیت کریں۔ تعزیت میں یہ کہے، اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور تم کو صبر روزی کرے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی:

لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَأَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى .

”خدا ہی کا ہے جو اُس نے لیا دیا اور اُس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے۔“^(۶) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۵ مصیبت پر صبر کرے تو اُسے دو ثواب ملتے ہیں، ایک مصیبت کا دوسرا صبر کا اور جزع و فزع سے دونوں

① ”ردالمحتار“، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في وضع الحريد و نحو الآس على القبور، ج ۳، ص ۱۸۴.

② ”سنن ابن ماجہ“، أبواب ماجاء في الجنائز، باب ماجاء في ثواب من عزى مصابا، الحديث: ۱۶۰۱، ج ۲، ص ۲۶۸.

③ ”جامع الترمذی“، أبواب الجنائز، باب ماجاء في أجر من عزى مصابا، الحديث: ۱۰۷۵، ج ۲، ص ۳۳۸.

④ ”الجوهرة النيرة“، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۴۱.

و ”ردالمحتار“، كتاب الصلاة، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت، ج ۳، ص ۱۷۷.

⑤ ”الجوهرة النيرة“، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۴۱.

⑥ ”الفتاوى الهندية“، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، ج ۱، ص ۱۶۷، وغیرہ.

جاتے رہتے ہیں۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ میت کے اعزہ کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کو آئیں اس میں حرج نہیں اور مکان کے دروازہ پر یا شارع عام پر بچھونے بچھا کر بیٹھنا بڑی بات ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۷ میت کے پروسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اُس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے اور انھیں اصرار کر کے کھلائیں۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ میت کے گھر والے تیجہ وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے نہ کہ غم کے وقت اور اگر فقرا کو کھلائیں تو بہتر ہے۔⁽⁴⁾ (فتح القدير)

مسئلہ ۹ جن لوگوں سے قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوایا، ان کے لیے بھی کھانا طیار کرنا ناجائز ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار) یعنی جب کہ ٹھہرا لیا ہو یا معروف ہو یا وہ اغنیا ہوں۔

مسئلہ ۱۰ تیجہ وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکہ سے کیا جاتا ہے، اس میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ ورثہ میں کوئی نابالغ نہ ہو ورنہ سخت حرام ہے۔ یو ہیں اگر بعض ورثہ موجود نہ ہوں جب بھی ناجائز ہے، جبکہ غیر موجودین سے اجازت نہ لی ہو اور سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت سے ہو یا کچھ نابالغ یا غیر موجود ہوں مگر بالغ موجود اپنے حصہ سے کرے تو حرج نہیں۔⁽⁶⁾ (خانہ وغیرہا)

مسئلہ ۱۱ تعزیت کے لیے اکثر عورتیں رشتہ دار جمع ہوتی ہیں اور روتی پینتی نوحہ کرتی ہیں، انھیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پردہ دینا ہے۔⁽⁷⁾ (کشف الغطا)

مسئلہ ۱۲ میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے یہ کھانا صرف گھر والے کھائیں اور انھیں کے لائق بھیجا جائے

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في الثواب على المصيبة، ج ۳، ص ۱۷۵.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، ومما يتصل بذلك مسائل، ج ۱، ص ۱۶۷.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت، ج ۳، ص ۱۷۶.

③ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في الثواب على المصيبة، ج ۳، ص ۱۷۵.

④ "فتح القدير"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، فصل في الدفن، ج ۲، ص ۱۵۱. طبعة مركز اهل السنة بركات رضا.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت، ج ۳، ص ۱۷۶.

⑥ "الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الحظر و الاباحہ، ج ۴، ص ۳۶۶، و "الفتاویٰ الرضویہ"، ج ۹، ص ۶۶۴، وغیرہ.

⑦ "الفتاویٰ الرضویہ"، ج ۹، ص ۶۶۶.

زیادہ نہیں اوروں کو وہ کھانا، کھانا منع ہے۔⁽¹⁾ (کشف الغطا) اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے، اس کے بعد مکروہ۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے۔⁽³⁾ (ردالمحتار) اور دفن کے بعد میت کے مکان پر آنا اور تعزیت کر کے اپنے اپنے گھر جانا اگر اتفاقاً ہو تو حرج نہیں اور اس کی رسم کرنا نہ چاہیے اور میت کے مکان پر تعزیت کے لیے لوگوں کا مجمع کرنا دفن کے پہلے ہو یا بعد اسی وقت ہو یا کسی اور وقت خلاف اولیٰ ہے اور کریں تو گناہ بھی نہیں۔

مسئلہ ۱۴ جو ایک بار تعزیت کر آیا اسے دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

سوگ اور نوحہ کا ذکر

مسئلہ ۱۵ سوگ کے لیے سیاہ کپڑے پہننا مردوں کو ناجائز ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری) یوہیں سیاہ پتے لگانا کہ اس میں نصاریٰ کی مشابہت بھی ہے۔

مسئلہ ۱۶ میت کے گھر والوں کو تین دن تک اس لیے بیٹھنا کہ لوگ آئیں اور تعزیت کر جائیں جائز ہے مگر ترک بہتر اور یہ اس وقت ہے کہ فروش اور دیگر آرائش نہ کرنا ہو ورنہ ناجائز۔⁽⁶⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا جس کو یئین کہتے ہیں بالاجماع حرام ہے۔ یوہیں واویلا و امصیبتنا⁽⁷⁾ کہہ کے چلانا۔⁽⁸⁾ (جوہرہ وغیرہا)

مسئلہ ۱۸ گریبان پھاڑنا، مونھ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوشنا، ران پر ہاتھ مارنا یہ سب جاہلیت کے

① "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۹، ص ۶۶۶.

② "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی الہدایا و الضیافات، ج ۵، ص ۳۴۴.

③ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی کراهة الضیافة من أهل الميت، ج ۳، ص ۱۷۷.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۷۷.

⑤ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، ومما يتصل بذلك مسائل، ج ۱، ص ۱۶۷.

⑥ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، ومما يتصل بذلك مسائل، ج ۱، ص ۱۶۷.

و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، مطلب فی کراهة الضیافة من أهل الميت، ج ۳، ص ۱۷۶.

⑦ یعنی ہائے مصیبت۔

⑧ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۹، وغیرہ.

کام ہیں اور حرام۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، مگر عورت شوہر کے مرنے پر چار مہینے دس دن سوگ کرے۔^(۲)

(حدیث)

مسئلہ ۲۰ آواز سے رونا منع ہے اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بکا فرمایا۔^(۳) (جوہرہ) اس مقام پر بعض احادیث جو نوحہ وغیرہ کے بارہ میں وارد ہیں ذکر کی جاتی ہیں کہ مسلمان بغور دیکھیں اور اپنے یہاں کی عورتوں کو سنائیں، کہ یہ بلا ہندوستان کی اکثر عورتوں میں ہندوؤں کی تقلید سے پائی جاتی ہے۔

حدیث ۱ بخاری و مسلم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”جو مونہ پر طمانچہ مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے (نوحہ کرے) وہ ہم سے نہیں۔“^(۴)

حدیث ۲ صحیحین میں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی واللفظ لمسلم، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو سر

منڈائے^(۵) اور نوحہ کرے اور کپڑے پھاڑے، میں اس سے بری ہوں۔“^(۶)

حدیث ۳ صحیح مسلم شریف میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”میری

امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں، لوگ انھیں نہ چھوڑیں گے۔

(۱) حسب پر فخر کرنا اور

(۲) نسب میں طعن کرنا اور

(۳) ستاروں سے مینہ چاہنا (فلاں پختہ کر کے سب پانی برسے گا) اور

(۴) نوحہ کرنا

اور فرمایا: ”نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر

① ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، ومما يتصل بذلك مسائل، ج ۱، ص ۱۶۷.

② انظر: ”صحیح البخاری“، کتاب الجنائز، باب إحداد المرأة علی غیر زوجها، الحدیث: ۱۲۸۰، ج ۱، ص ۴۳۲.

③ ”الحوہرۃ الثیرۃ“، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۹ - ۱۴۰.

④ ”صحیح البخاری“، کتاب الجنائز، باب لیس منا من ضرب الخدود، الحدیث: ۱۲۹۷، ج ۱، ص ۴۳۹.

⑤ یعنی کسی کے مرنے پر جیسے ہندو بھدرا کرتے ہیں۔ ۱۲

⑥ ”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب تحريم ضرب الخدود... إلخ، الحدیث: ۱۰۴، ص ۶۶.

ایک گرتا قطران کا ہوگا اور ایک خارشت کا۔“ (1)

حدیث ۳ صحیحین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے“ (2) یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو، واللہ تعالیٰ اعلم یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا، ”اے اللہ (عزوجل) کے بندو! اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے۔“ (3)

حدیث ۵ بخاری و مسلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس پر نوحہ کیا گیا، قیامت کے دن اس نوحہ کے سبب اس پر عذاب ہوگا۔“ (4) یعنی انہیں صورتوں میں

حدیث ۶ صحیح مسلم میں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں: جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، میں نے کہا مسافرت اور پردیس میں انتقال ہوا، ان پر اس طرح روؤں گی جس کا چرچا ہو، میں نے رونے کا تہیہ کیا تھا اور ایک عورت بھی اس ارادہ سے آئی کہ میری مدد کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا: ”جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دو مرتبہ نکالا، تو اس میں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہے“ فرماتی ہیں: میں رونے سے باز آئی اور نہیں روئی۔ (5)

حدیث ۷ ترمذی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو مرتا ہے اور رونے والا اس کی خوبیاں بیان کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میت پر دو فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اسے کو نچتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا تھا؟“ (6)

حدیث ۸ ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”اے ابن آدم! اگر تو اول صدمہ کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر

- 1..... ”صحیح مسلم“، کتاب الجنائز، باب التشدید فی النیاحۃ، الحدیث: ۹۳۴، ص ۴۶۵.
- 2..... ”صحیح البخاری“، کتاب الجنائز، باب البکاء عند المریض، الحدیث: ۱۳۰۴، ج ۱، ص ۴۴۱.
- 3..... ”المعجم الکبیر“، باب القاف، قبیلۃ بنت محرمة العنبریۃ، الحدیث ۱، ج ۲۵، ص ۱۰.
- 4..... ”صحیح مسلم“، کتاب الجنائز، باب المیت یعذب ببکاء أهلہ علیہ، الحدیث: ۹۳۳، ص ۴۶۵.
- 5..... ”صحیح مسلم“، کتاب الجنائز، باب البکاء علی المیت، الحدیث: ۹۲۲، ص ۴۵۹.
- 6..... ”جامع الترمذی“، أبواب الجنائز، باب ماجاء فی کراہیۃ البکاء علی المیت، الحدیث: ۱۰۰۵، ج ۲، ص ۳۰۵.

میں راضی نہیں۔“ (1)

حدیث ۹ احمد و بیہقی امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اسے یاد کر کے **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ لَرٰجِعُونَ** کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اُس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اُس دن کہ مصیبت پہنچی تھی۔“ (2)

شہید کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ ۚ وَلٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝ (3) ﴾

جو اللہ (عزوجل) کی راہ میں قتل کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں خبر نہیں۔

اور فرماتا ہے:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَرِّقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۚ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَقَضِيٍّ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (4) ﴾

جو لوگ راہِ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ گمان کر، بلکہ وہ اپنے رب (عزوجل) کے یہاں زندہ ہیں انہیں روزی ملتی ہے۔ اللہ (عزوجل) نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا اس پر خوش ہیں اور جو لوگ بعد والے ان سے ابھی نہ ملے، ان کے لیے خوشخبری کے طالب کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ (عزوجل) کی نعمت اور فضل کی خوشخبری چاہتے ہیں اور یہ کہ ایمان والوں کا اجر اللہ (عزوجل) ضائع نہیں فرماتا۔

احادیث میں اس کے فضائل بکثرت وارد ہیں، شہادت صرف اسی کا نام نہیں کہ جہاد میں قتل کیا جائے بلکہ:

حدیث ۱ ایک حدیث میں فرمایا: ”اس کے سوا سادات شہادتیں اور ہیں۔“

(۱) جو طاعون سے مرا شہید ہے۔

① ”سنن ابن ماجہ“، أبواب ماجاء في الجنائز، باب ماجاء في العبد على المصيبة، الحديث: ۱۵۹۷، ج ۲، ص ۲۶۶.

② ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، الحديث: ۱۷۳۴، ج ۱، ص ۴۲۹.

③ پ ۲، البقرة: ۱۵۴.

④ پ ۴، آل عمران: ۱۶۹-۱۷۱.

(۲) جو ڈوب کر مرنا شہید ہے۔

(۳) ذات الجنب میں مرنا شہید ہے۔

(۴) جو پیٹ کی بیماری میں مرنا شہید ہے۔^(۱)

(۵) جو جل کر مرنا شہید ہے۔

(۶) جس کے اوپر دیوار وغیرہ ڈھ پڑے اور مر جائے شہید ہے۔

(۷) عورت کہ بچہ پیدا ہونے یا کو آ رہے پن میں مر جائے شہید ہے۔^(۲)

اس حدیث کو امام مالک^(۳) و ابو داؤد و نسائی نے جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور:

حدیث ۲ امام احمد کی روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”طاعون سے

بھاگنے والا اس کے مثل ہے، جو جہاد سے بھاگا اور جو صبر کرے اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔“^(۴)

حدیث ۳ احمد و نسائی عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو طاعون میں

مرے، ان کے بارے میں اللہ عزوجل کے دربار میں مقدمہ پیش ہوگا۔ شہدا کہیں گے، یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ویسے ہی قتل کیے گئے

جیسے ہم اور بچھونوں پر وفات پانے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ اپنے بچھونوں پر مرے جیسے ہم۔ اللہ عزوجل فرمائے گا:

”ان کے زخم دیکھو، اگر ان کے زخم مقتولین کے مشابہ ہوں، تو یہ انھیں میں ہیں اور انھیں کے ساتھ ہیں۔“ دیکھیں گے تو ان کے

زخم شہدا کے زخم سے مشابہ ہوں گے، شہدا میں شامل کر دیے جائیں گے۔“^(۵)

حدیث ۴ ابن ماجہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ارشاد فرمایا مسافر ت کی موت شہادت ہے۔^(۶)

۱..... اس سے مراد استقا ہے یا دست آنا دونوں قول ہیں اور یہ لفظ دونوں کو شامل ہو سکتا ہے، لہذا اس کے فضل سے امید ہے کہ دونوں کو شہادت

کا اجر ملے۔ ۱۲ منہ حفظ رہے

۲..... حدیث کے الفاظ یہ ہیں ((وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعِ فَهِيَ شَهِيدَةٌ)) (”سنن النسائی“، کتاب الجنائز، باب النہی عن البکاء

علی المیت، الحدیث: ۱۸۴۷، ص ۲۲۰۹) دون قولہ: فہی۔

جس کے یہ معنی ہیں کہ ایسی چیز سے مری، جو اس میں اکٹھی ہے جدانہ ہوئی اس میں ولادت و زوال بکارت دونوں داخل ہیں۔ ۱۳۔

۳..... ”الموطأ“ للإمام مالک، کتاب الجنائز، باب النہی عن البکاء علی المیت، الحدیث: ۵۶۳، ج ۱، ص ۲۱۸۔

۴..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، الحدیث: ۱۴۸۸۱، ج ۵، ص ۱۴۲۔

۵..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث العرباض بن ساریہ، الحدیث: ۱۷۱۵۹، ج ۶، ص ۸۶۔

۶..... ”سنن ابن ماجہ“، أبواب ماجاء فی الجنائز، باب ماجاء فیمن مات غریباً، الحدیث: ۱۶۱۳، ج ۲، ص ۲۷۵۔

ان کے سوا اور بہت صورتیں ہیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے، امام جلال الدین سیوطی وغیرہ ائمہ نے ان کو ذکر کیا ہے، بعض یہ ہیں۔

(۹) سِل کی بیماری میں مرا۔

(۱۰) سواری سے گر کر یا مرگی سے مرا۔

(۱۱) بخار میں مرا۔

(۱۲) مال یا

(۱۳) جان یا

(۱۴) اہل یا

(۱۵) کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا۔

(۱۶) عشق میں مرا بشرطیکہ پاکدامن ہو اور چھپایا ہو۔

(۱۷) کسی درندہ نے پھاڑ کھایا۔

(۱۸) بادشاہ نے ظلماً قید کیا یا

(۱۹) مارا اور مر گیا۔

(۲۰) کسی موذی جانور کے کاٹنے سے مرا۔

(۲۱) علم دین کی طلب میں مرا۔

(۲۲) مؤذن کہ طلب ثواب کے لیے اذان کہتا ہو۔

(۲۳) تاجر راست گو۔

(۲۴) جسے سمندر کے سفر میں متلی اور قے آئی۔

(۲۵) جو اپنے بال بچوں کے لیے سعی کرے، ان میں امر الہی قائم کرے اور انھیں حلال کھلائے۔

(۲۶) جو ہر روز پچیس بار یہ پڑھے اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

(۲۷) جو چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھے اور تر کو سفر و حضر میں کہیں ترک نہ کرے۔

(۲۸) فسادِ اُمت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا، اس کے لیے سوشہید کا ثواب ہے۔

(۲۹) جو مرض میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ چالیس بار کہے اور اسی مرض میں

مر جائے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔

(۳۰) کفار سے مقابلہ کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔

(۳۱) جو ہرات میں سورۃ یس شریف پڑھے۔

(۳۲) جو باطہارت سویا اور مر گیا۔

(۳۳) جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سو بار دُرُود شریف پڑھے۔

(۳۴) جو سچے دل سے یہ سوال کرے کہ اللہ (عزوجل) کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔

(۳۵) جو جمعہ کے دن مرے۔

(۳۶) جو صبح کو اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تین بار پڑھ کر سورۃ حشر کی کچھلی تین آیتیں

پڑھے، اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر فرمائے گا کہ اس کے لیے شام تک استغفار کریں اور اگر اس دن میں مرا تو شہید مرا اور جو

شام کو کہے صبح تک کے لیے یہی بات ہے۔^(۱)

مسائل فقہیہ

اصطلاح فقہ میں شہید اس مسلمان عاقل بالغ طاہر کو کہتے ہیں جو بطور ظلم کسی آلہ جارحہ سے قتل کیا گیا اور نفس قتل سے مال

نہ واجب ہو اور دنیا سے نفع نہ اٹھایا ہو۔^(۲) شہید کا حکم یہ ہے کہ غسل نہ دیا جائے، ویسے ہی خون سمیت دفن کر دیا جائے۔^(۳)

تو جہاں یہ حکم پایا جائے گا فقہاء اسے شہید کہیں گے ورنہ نہیں، مگر شہید فقہی نہ ہونے سے یہ لازم نہیں کہ شہید کا ثواب بھی نہ پائے،

صرف اس کا مطلب اتنا ہوگا کہ غسل دیا جائے و بس۔

مسئلہ ۱ نابالغ اور مجنون کو غسل دیا جائے، اگرچہ وہ کسی طرح قتل کیے گئے، جنب اور حیض و نفاس والی عورت خواہ

ابھی حیض و نفاس میں ہو یا ختم ہو گیا مگر ابھی غسل نہ کیا تو ان سب کو غسل دیا جائے۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲ حیض شروع ہوئے ابھی پورے تین دن نہ ہوئے تھے کہ قتل کی گئی تو اسے غسل نہ دیں گے کہ ابھی یہ نہیں کہہ

① "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الشهيد، مطلب في تعداد الشهداء، ج ۳، ص ۱۹۵ - ۱۹۷.

② "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الشهيد، ج ۳، ص ۱۸۷ - ۱۸۹.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الشهيد، ج ۳، ص ۱۹۱.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الشهيد، ج ۳، ص ۱۸۷.

سکتے کہ حائض ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳ جنب ہونا یوں معلوم ہوگا کہ قتل سے پہلے اس نے خود بیان کیا ہو یا اس کی عورت نے بتایا۔⁽²⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۴ آلہ جارحہ وہ جس سے قتل کرنے سے قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے یعنی جو اعضا کو جدا کر دے جیسے تلوار، بندوق کو بھی آلہ جارحہ کہیں گے۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ جب نفس قتل سے قاتل پر قصاص واجب نہ ہو بلکہ مال واجب ہو تو غسل دیا جائے گا، مثلاً لاشی سے مارا یا قتل خطا کہ نشانہ پر مارا ہوا تھا مگر کسی آدمی کو لگا اور مر گیا یا کوئی شخص ننگی تلوار لیے سو گیا اور سوتے میں کسی آدمی پر وہ تلوار گر پڑی وہ مر گیا یا کسی شہر یا گاؤں میں یا ان کے قریب مقتول پڑا ملا اور اس کا قاتل معلوم نہیں، ان سب صورتوں میں غسل دیں گے اور اگر مقتول شہر وغیرہ میں ملا اور معلوم ہے کہ چوروں نے قتل کیا ہے خواہ اسلحہ سے قتل کیا ہو یا کسی اور چیز سے تو غسل نہ دیا جائے، اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ کس چور نے قتل کیا۔ یوہیں اگر جنگل میں ملا اور معلوم نہیں کہ کس نے قتل کیا تو غسل نہ دیں گے۔ یوہیں اگر ڈاکوؤں نے قتل کیا تو غسل نہ دیں گے، ہتھیار سے قتل کیا ہو یا کسی اور چیز سے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۶ اگر نفس قتل سے مال واجب نہ ہو بلکہ وجوب مال کسی امر خارج سے ہے، مثلاً قاتل و اولیائے مقتول میں صلح ہوگئی یا باپ نے بیٹے کو مار ڈالا یا کسی ایسے کو مارا کہ اس کا وارث بیٹا ہے، مثلاً اپنی عورت کو مار ڈالا اور عورت کا وارث بیٹا ہے جو اسی شوہر سے ہے تو قصاص کا مالک یہی لڑکا ہوگا مگر چونکہ اس کا باپ قاتل ہے قصاص ساقط ہو گیا تو ان صورتوں میں غسل نہ دیا جائے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۷ اگر قتل بطور ظلم نہ ہو بلکہ قصاص یا حد یا تعزیر میں قتل کیا گیا یا درندہ نے مار ڈالا تو غسل دیں گے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۸ کوئی شخص گھائل ہوا مگر اس کے بعد دنیا سے متمتع ہوا، مثلاً کھایا یا پیایا سو یا علاج کیا، اگرچہ یہ چیزیں بہت قلیل ہوں یا خیمہ میں ٹھہرا یعنی وہیں جہاں زخمی ہوا یا نماز کا ایک وقت پورا ہوش میں گزرا، بشرطیکہ نماز ادا کرنے پر قادر ہو یا وہاں

① "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الشہید، ج ۳، ص ۱۸۷.

② "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الشہید، ص ۱۴۳.

③ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الشہید، ج ۳، ص ۱۸۹.

④ المرجع السابق، وغیرہ.

⑤ المرجع السابق.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الشہید، ج ۳، ص ۱۹۲.

سے اٹھ کر دوسری جگہ کو چلایا لوگ اُسے معرکہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے گئے خواہ زندہ پہنچا ہو یا راستہ ہی میں انتقال ہو یا کسی دنیوی بات کی وصیت کی یا بیع کی یا کچھ خریدا یا بہت سی باتیں کیں، تو ان سب صورتوں میں غسل دیں گے، بشرطیکہ یہ امور جہاد ختم ہونے کے بعد واقع ہوئے اور اگر اثنائے جنگ میں ہوں تو یہ چیزیں مانع شہادت نہیں یعنی غسل نہ دیں گے اور وصیت اگر آخرت کے متعلق ہو یا دو ایک بات بولا اگر چہ لڑائی کے بعد تو شہید ہے غسل نہ دیں گے اور اگر لڑائی میں نہیں قتل کیا گیا بلکہ ظلماً تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی پانی گئی غسل دیں گے ورنہ نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹۔ جس کو حربی یا باغی یا ڈاکو نے کسی آلہ سے قتل کیا ہو یا ان کے جانوروں نے اسے کچل دیا، اگرچہ خود یہی ان کے جانور پر سوار تھا یا کھینچے لیے جاتا تھا یا اس جانور نے اپنے ہاتھ پاؤں اس پر مارے یا دانت سے کاٹا یا اس کی سواری کو ان لوگوں نے بھڑکا دیا اُس سے گر کر مر گیا یا انہوں نے اس پر آگ پھینکی یا اُن کے یہاں سے ہو آگ اُڑائی یا انہوں نے کسی لکڑی میں آگ لگادی جس کا ایک کنارہ اُدھر تھا اور ان صورتوں میں جل کر مر گیا یا معرکہ میں مرا ہوا ملا اور اُس پر زخم کا نشان ہے، مثلاً آنکھ کان سے خون نکلا ہے یا حلق سے صاف خون نکلا یا اُن لوگوں نے شہر پناہ پر سے اُسے پھینک دیا یا اُس کے اوپر دیوار ڈھادی یا پانی میں ڈوبا دیا یا پانی بند تھا انہوں نے کھول کر ادھر بہا دیا کہ ڈوب گیا یا گلا گھونٹ دیا، غرض وہ لوگ جس طرح بھی مسلمان کو قتل کریں یا قتل کے سبب بنیں وہ شہید ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۱۰۔ معرکہ میں مُردہ ملا اور اُس پر قتل کا کوئی نشان نہیں یا اُس کی ناک یا پاخانہ پیشاب کے مقام سے خون نکلا ہے یا حلق سے بستہ خون نکلا یا دشمن کے خوف سے مر گیا تو غسل دیا جائے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۱۔ اپنی جان یا مال یا کسی مسلمان کے بچانے میں لڑا اور مارا گیا وہ شہید ہے، لوہے یا پتھر یا لکڑی کسی چیز سے قتل کیا گیا ہو۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۔ دو کشتیوں میں مسلمان تھے، دشمن نے ایک کشتی پر آگ پھینکی یہ لوگ جل گئے، وہ آگ بڑھ کر دوسری کشتی میں لگی یہ بھی جلے تو اس دوسری کشتی والے بھی شہید ہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الشہید، ج ۳، ص ۱۹۲-۱۹۴.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السابع، ج ۱، ص ۱۶۷-۱۶۸. و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الشہید، ج ۳، ص ۱۸۹، وغیرہما.

③ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الشہید، ج ۳، ص ۱۹۰.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السابع، ج ۱، ص ۱۶۸.

⑤ المرجع السابق.

مسئلہ ۱۳ — مشرک کا گھوڑا چھوٹ کر بھاگا اور اُس پر کوئی سوار نہیں اس نے کسی مسلمان کو کچل دیا یا مسلمان نے کافر پر تیر چلایا وہ مسلمان کو لگایا کافر کے گھوڑے سے مسلمان کا گھوڑا بھڑکا اُس نے مسلمان سوار کو گرا دیا یا معاذ اللہ! مسلمانوں نے فرار کی کافروں نے ان کو آگ یا خندق کی طرف مضطر کیا یا مسلمانوں نے اپنے گرد گوکھر و بچھائے تھے پھر اُس پر چلے اور مر گئے ان سب صورتوں میں غسل دیا جائے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ — لڑائی میں کسی مسلمان کا گھوڑا بھڑکایا کافروں کا جھنڈا دیکھ کر بدکا، مگر کافروں نے اسے نہیں بھڑکایا اور اس نے سوار کو گرا دیا وہ مر گیا یا کافر قلعہ بند ہوئے اور مسلمان شہر پناہ پر چڑھے، اُس پر سے پھسل کر کوئی گرا اور مر گیا یا معاذ اللہ! مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ایک مسلمان کی سواری نے دوسرے مسلمانوں کو کچل دیا، خواہ وہ مسلمان اس پر سوار ہو یا باگ پکڑ کر لیے جاتا یا پیچھے سے ہانکتا ہو یا دشمن پر حملہ کیا اور گھوڑے سے گر کر مر گیا، ان سب صورتوں میں غسل دیا جائے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ — دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے، مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور ایک شخص مُردہ ملا تو جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ آلہ جارحہ سے ظلماً قتل کیا گیا غسل دیا جائے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ — شہید کے بدن پر جو چیزیں از قسم کفن نہ ہوں اُتار لی جائیں، مثلاً پوتین زرہ ٹوپی، خود ہتھیار، روئی کا کپڑا اور اگر کفن مسنون میں کچھ کمی پڑے تو اضافہ کیا جائے اور پاجامہ نہ اُتارا جائے اور اگر کمی ہے مگر پورا کرنے کو کچھ نہیں تو پوتین اور روئی کا کپڑا نہ اُتاریں، شہید کے سب کپڑے اُتار کر نئے کپڑے دینا مکروہ ہے۔^(۴) (عالمگیری، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۱۷ — جیسے اور مُردوں کو خوشبو لگاتے ہیں شہید کو بھی لگائیں، شہید کا خون نہ دھویا جائے، خون سمیت دفن کریں اور اگر کپڑے میں نجاست لگی ہو تو دھو ڈالیں۔^(۵) (عالمگیری وغیرہ) شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ — دشمن پر وار کیا ضرب اُس پر نہ پڑی، بلکہ خود اس پر پڑی اور مر گیا تو عند اللہ شہید ہے، مگر غسل دیں اور نماز پڑھیں۔^(۷) (جوہرہ)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السابع، ج ۱، ص ۱۶۸.

② المرجع السابق.

③ المرجع السابق.

④ المرجع السابق، "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الشہید، ج ۳، ص ۱۹۱، وغیرہما.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السابع، ج ۱، ص ۱۶۸، وغیرہ.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الشہید، ج ۳، ص ۱۹۱.

⑦ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الشہید، ص ۱۴۵.

کعبہ معظمہ میں نماز پڑھنے کا بیان

خلافت ۲۰۱ صحیح مسلم و صحیح بخاری میں ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید و عثمان بن طلحہ حبیبی و بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہم کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا گیا کچھ دیر تک وہاں ٹھہرے جب باہر تشریف لائے، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے کیا کیا؟ کہا: ایک ستون بائیں طرف کیا اور دواہنی طرف اور تین پیچھے پھر نماز پڑھی اور اُس زمانہ میں بیت اللہ شریف کے چھ ستون تھے۔^(۱)

مسئلہ ۱ کعبہ معظمہ کے اندر ہر نماز جائز ہے، فرض ہو یا نفل تنہا پڑھے یا باجماعت، اگرچہ امام کا رخ اور طرف ہو اور مقتدی کا اور طرف مگر جب کہ مقتدی کی پشت امام کے سامنے ہو تو مقتدی کی نماز نہ ہوگی اور اگر مقتدی کا مونہ امام کے مونہ کے سامنے ہو تو ہو جائے گی، مگر کوئی چیز اگر درمیان میں حائل نہ ہو تو مکروہ ہے اور اگر مقتدی کا مونہ امام کی کروٹ کی طرف ہو تو بلا کراہت جائز۔^(۲) (جوہرہ، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۲ کعبہ معظمہ کی چھت پر نماز پڑھی جب بھی یہی صورتیں ہیں، مگر اُس کی چھت پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔^(۳) (تنویر الابصار)

مسئلہ ۳ مسجد الحرام شریف میں کعبہ معظمہ کے گرد جماعت کی اور مقتدی کعبہ معظمہ کے چاروں طرف ہوں جب بھی جائز ہے اگرچہ مقتدی بہ نسبت امام کے کعبہ سے قریب تر ہو، بشرطیکہ یہ مقتدی جو بہ نسبت امام کے قریب تر ہے ادھر نہ ہو جس طرف امام ہو بلکہ دوسری طرف ہو اور اگر اسی طرف ہے جس طرف امام ہے اور بہ نسبت امام کے قریب تر ہے تو اُس کی نماز نہ ہوئی۔^(۴) (عامہ کتب)

مسئلہ ۳ امام کعبہ کے اندر ہے اور مقتدی باہر تو اقتدا صحیح ہے، خواہ امام تنہا اندر ہو یا اس کے ساتھ بعض مقتدی بھی ہوں، مگر دروازہ کھلا ہونا چاہیے کہ امام کے رکوع و سجود کا حال معلوم ہوتا رہے اور اگر دروازہ بند ہے مگر امام کی آواز آتی ہے جب بھی

① "صحیح البخاری"، کتاب الصلاة، باب الصلاة بین السواری فی غیر جماعۃ، الحدیث: ۵۰۵، ج ۱، ص ۱۸۸.

② "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی الکعبۃ، ص ۱۴۵.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی الکعبۃ، ج ۳، ص ۱۹۸، وغیرہما.

③ "تنویر الأبصار"، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی الکعبۃ، ج ۳، ص ۱۹۸.

④ "تنویر الأبصار" و "ردالمحتار" کتاب الصلاة، باب الصلاة فی الکعبۃ، ج ۳، ص ۱۹۹، وغیرہما.

حرج نہیں مگر جس صورت میں امام تنہا اندر ہو کر اہت ہے کہ امام تنہا بلندی پر ہوگا اور یہ مکروہ ہے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ امام باہر ہو اور مقتدی اندر جب بھی نماز صحیح ہے بشرطیکہ مقتدی کی پشت امام کے مواجہہ میں نہ ہو۔⁽²⁾
(ردالمحتار)

قد تم هذا الجزء بحمد الله تعالى وله الحمد اولا واخرا وباطنا وظاهرا والصلوة والسلام على من ارسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا واله واصحابه وابنه وحزبه اجمعين الى يوم الدين والحمد لله رب العلمين وانا الفقير الى الغنى ابو العلا امجد على الاعظمى غفر الله لوالديه امين.

تصدیق جلیل و تقریظ بے مثل

امام اہلسنت، ناصر دین و ملت، محی الشریعہ کاسر القتنہ، قاصع البدع، مجدد المائتہ الحاضرہ، صاحب الحجۃ القاہرہ، سیدی وسندی و کنزی و ذخری لیومی و غدی اعلیٰ حضرت مولانا مولوی حاجی قاری مفتی احمد رضا خان صاحب قادری برکاتی

نفع الاسلام و المسلمین باسرارہ القدسیہ و کمالاتہ المعنویہ و الصوریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى لا سيما على الشارع المصطفى ومقتفيه في المشارع اولى الصّدق والصفاء.

فقیر غفرلہ المولی القدر نے یہ مبارک رسالہ بہارِ شریعت حصہ چہارم تصنیف لطیف انخی فی اللہ ذی الجود والجاه و الطبع السلیم والفکر القویم والفضل والعلی مولانا ابوالعلی مولوی حکیم امجد علی قادری برکاتی اعظمی بالمذہب والمشرّب والسکنی رزقہ اللہ تعالیٰ فی الدارین الحسنی مطالعہ کیا الحمد للہ مسائل صحیحہ رجیحہ محققہ منقحہ پر مشتمل پایا۔ آج کل ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ عوام بھائی سلیس اردو میں صحیح مسئلے پائیں اور گمراہی و اغلاط کے مصنوع و ملع زیوروں کی طرف آنکھ نہ اٹھائیں مولوی عزوجل مصنف کی عمر و علم و فیض میں برکت دے اور ہر باب میں اس کتاب کے اور حصص کافی و شافی و وافی و صافی تالیف کرنے کی توفیق بخشے اور انھیں اہل سنت میں شائع و معمول اور دنیا و آخرت میں مقبول فرمائے۔ آمین

والحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين امين. ذى الحجة الحرام ١٣٣٤ هجرية على صاحبها واله الكرام افضل الصلوة والتحية امين.

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، ج ٣، ص ٢٠٠.

② "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، ج ٣، ص ٢٠٠.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نُحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ ط

زکاة کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ (1) ﴾

اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انھیں دیا ہے، اُس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

اور فرماتا ہے:

﴿ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۝ (2) ﴾

ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انھیں پاک اور ستھرا بنا دو۔

اور فرماتا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْزَكٰوةِ فَعِلُوْنَ ۝ (3) ﴾

اور فلاح پاتے وہ ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں۔

اور فرماتا ہے:

﴿ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِیْنَ ۝ (4) ﴾

اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اُس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔

اور فرماتا ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِیْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللّٰهُ یُضَعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ۝ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لَمْ یُتَّبِعُوْنَ

1 پ ۱، البقرة: ۳.

2 پ ۱۱، التوبة: ۱۰۳.

3 پ ۱۸، المؤمنون: ۴.

4 پ ۲۲، سبا: ۳۹.

مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٠﴾ قَوْلَ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا أَدَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿٣١﴾ (1)

جو لوگ اللہ (عزوجل) کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُن کی کہاوت اس دانہ کی ہے جس سے سات بالیں نکلیں۔ ہر بال میں سودا نے اور اللہ (عزوجل) جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور اللہ (عزوجل) وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ (عزوجل) کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے، نہ اذیت دیتے ہیں، اُن کے لیے اُن کا ثواب اُن کے رب کے حضور ہے اور نہ اُن پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور مغفرت اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا ہو اور اللہ (عزوجل) بے پرواہ حلم والا ہے۔

اور فرماتا ہے:

﴿ لَنْ تَسْأَلَ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُسْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۚ وَمَا يُسْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (2)

ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ (عزوجل) اُسے جانتا ہے۔

اور فرماتا ہے:

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ (3)

نیکی اس کا نام نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر دو، نیکی تو اُس کی ہے جو اللہ (عزوجل) اور پچھلے دن اور ملائکہ و کتاب و انبیاء پر ایمان لایا اور مال کو اُس کی محبت پر رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلین کو اور گردن چھٹانے میں دیا اور نماز قائم کی اور زکاة دی اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی معاہدہ کریں تو اپنے عہد کو پورا کریں اور تکلیف و مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے وہ لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ متقی ہیں۔

1 پ ۳، البقرة: ۲۶۱ - ۲۶۳.

2 پ ۴، ال عمران: ۹۲.

3 پ ۲، البقرة: ۱۷۷.

اور فرماتا ہے:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا

بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ ﴾ (1)

جو لوگ بخل کرتے ہیں اُس کے ساتھ جو اللہ (عزوجل) نے اپنے فضل سے انھیں دیا۔ وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ اُن کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ اُن کے لیے بُرا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن اُن کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ اور فرماتا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَبِئْسَ لَهُم بَعْدَ آيٍ إِلِيمٌ ۗ يَوْمَ

يُخْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِي تَارِيحِهِمْ فَتَكْوَىٰ بِهِمَا جَاهُفُهُمْ ۖ وَجُتُوبُهُمْ ۖ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ ۖ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۗ ﴾ (2)

جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اُسے اللہ (عزوجل) کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انھیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آتشِ جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور اُن سے اُن کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پٹھیں داغی جائیں گی (3) (اور اُن سے کہا جائے گا) یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ نیز زکاة کے بیان میں بکثرت آیات وارد ہوئیں جن سے اُس کا مہتم بالشان ہونا ظاہر۔

احادیث اس کے بیان میں بہت ہیں بعض ان میں سے یہ ہیں:

حدیث ۲۰۱ صحیح بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اُس کی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجه سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چٹیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اُس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔“ اس کے بعد حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اس آیت کی تلاوت کی ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ

① پ ۴، ال عمران: ۱۸۰۔

② پ ۱۰، التوبة: ۳۴ - ۳۵۔

③ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کوئی روپیہ دوسرے روپیہ پر نہ رکھا جائے گا۔ نہ کوئی اشرفی دوسری اشرفی پر بلکہ زکاة نہ

دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جمع کیے ہوں تو ہر روپیہ جدا داغ دے گا۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر ۱۲ منہ

”الترغیب و الترہیب“، کتاب الصدقات، الترہیب من منع الزکاة، الحدیث: ۲۲، ج ۱، ص ۳۱۰۔

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴿١﴾ الآیہ۔ اسی کے مثل ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

حدیث ۳ احمد کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے، ”جس مال کی زکاۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ

گنجا سانپ (2) ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اُس کے مونہ میں ڈال دے گا۔“ (3)

حدیث ۵ و ۳ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو شخص سونے

چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور اُن سے اُس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف اور اونٹ کے بارے میں فرمایا: جو اس کا حق نہیں ادا کرتا، قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فریبہ ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اُسے روندیں گے اور مونہ سے کانٹیں گے، جب ان کی کچھلی جماعت گزر جائے گی، پہلی لوٹے گی اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا: کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹا کیٹینگے اور وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں مُڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی اور سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی (4) اور اسی کے مثل صحیحین میں اونٹ اور گائے اور بکریوں کی زکاۃ نہ دینے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ (5)

حدیث ۶ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جب

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اس وقت اعراب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے (کہ زکاۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے)، صدیق اکبر نے اُن پر جہاد کا حکم دیا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اُن سے آپ کیونکر قتال کرتے ہیں کہ

① ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاۃ، باب اثم مانع الزکاۃ، الحدیث: ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۴۷۴۔

پ ۴، ال عمران: ۱۸۰۔

② سانپ جب ہزار برس کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں اور جب دو ہزار برس کا ہوتا ہے، وہ بال گر جاتے ہیں۔ یہ معنی ہیں گنچے

سانپ کے کہ اتنا پرانا ہوگا۔ ۱۳ منہ

③ ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبی ہریرہ، الحدیث: ۱۰۸۵۷، ج ۳، ص ۶۲۶۔

یہ حدیث طویل ہے مختصر اُذکر کی گئی۔ ۱۳ منہ

④ ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاۃ، باب اثم مانع الزکاۃ، الحدیث: ۹۸۷، ص ۴۹۱۔

⑤ ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ البقر، الحدیث: ۱۴۶۰، ج ۱، ص ۴۹۲۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہیں اور جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ لیا، اُس نے اپنی جان اور مال بچا لیا، مگر حق اسلام میں اور اس کا حساب اللہ (عزوجل) کے ذمہ ہے (یعنی یہ لوگ تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے ہیں، ان پر کیسے جہاد کیا جائے گا) صدیق اکبر نے فرمایا: خدا کی قسم! میں اس سے جہاد کروں گا، جو نماز و زکاة میں تفریق کرے (1) (کہ نماز کو فرض مانے اور زکاة کی فرضیت سے انکار کرے)، زکاة حق المال ہے، خدا کی قسم! بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر اُن سے جہاد کروں گا، فاروق اعظم فرماتے ہیں: واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے۔ اُس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ (2)

حدیث ۷ ابوداؤد نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ جب یہ آئیہ کریمہ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ﴾ (3) نازل ہوئی، مسلمانوں پر شاق ہوئی (سمجھے کہ چاندی سونا جمع کرنا حرام ہے تو بہت دقت کا سامنا ہوگا)، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں تم سے مصیبت دُور کر دوں گا۔ حاضر خدمت اقدس ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یہ آیت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے اصحاب پر گراں معلوم ہوئی فرمایا: کہ ”اللہ تعالیٰ نے زکاة تو اس لیے فرض کی کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے اور موارث اس لیے فرض کیے کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو (یعنی مطلقاً مال جمع کرنا حرام ہوتا تو زکاة سے مال کی طہارت نہ ہوتی، بلکہ زکاة کس چیز پر واجب ہوتی اور میراث کا ہے میں جاری ہوتی، بلکہ جمع کرنا حرام وہ ہے کہ زکاة نہ دے) اس پر فاروق اعظم نے تکبیر کہی۔ (4)

حدیث ۸ بخاری اپنی تاریخ میں اور امام شافعی و بزار و بیہقی اُم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”زکاة کسی مال میں نہ ملے گی، مگر اُسے ہلاک کر دے گی۔“ (5) بعض ائمہ نے اس حدیث کے

1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نزی کلمہ گوئی اسلام کیلئے کافی نہیں، جب تک تمام ضروریات دین کا اقرار نہ کرے اور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحث کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کے علم میں پہلے یہ بات نہ تھی، کہ وہ فرضیت کے منکر ہیں یہ خیال تھا کہ زکاة دیتے نہیں اس کی وجہ سے گنہگار ہوئے، کافر تو نہ ہوئے کہ ان پر جہاد قائم کیا جائے، مگر جب معلوم ہو گیا تو فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ وہی حق ہے، جو صدیق نے سمجھا اور کیا۔ ۱۲ منہ

2 ”صحیح البخاری“، کتاب الاعتصام، باب الإقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۷۲۸۴، ج ۴ ص ۵۰۰.

3 پ ۱۰، التوبة: ۳۴.

4 ”سنن أبی داؤد“، کتاب الزکاة، باب فی حقوق المال، الحدیث: ۱۶۶۴، ج ۲، ص ۱۷۶.

5 ”شعب الإيمان“، باب فی الزکاة، فصل فی الاستعفاف عن المسألة، الحدیث: ۳۵۲۲، ج ۳، ص ۲۷۳.

یہ معنی بیان کیے کہ زکاۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اُس حلال کو ہلاک کر دے گا اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ مالدار شخص مالِ زکاۃ لے تو یہ مالِ زکاۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکاۃ توفقیروں کے لیے ہے اور دونوں معنی صحیح ہیں۔⁽¹⁾

حدیث ۹ طبرانی نے اوسط میں بڑیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جو قوم زکاۃ نہ دے گی، اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔“⁽²⁾

حدیث ۱۰ طبرانی نے اوسط میں فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”خشکی وتری میں جو مال تلف ہوتا ہے، وہ زکاۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔“⁽³⁾

حدیث ۱۱ صحیحین میں اخف بن قیس سے مروی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اُن کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ سے نکل جائے گا اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینہ سے نکلے گا۔“⁽⁴⁾ اور صحیح مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: کہ ”پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے۔“⁽⁵⁾

حدیث ۱۲ طبرانی امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مال داروں کے ہاتھوں، سُن لو! ایسے تو نگروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انھیں دردناک عذاب دے گا۔“⁽⁶⁾

حدیث ۱۳ نیز طبرانی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”قیامت کے دن تو نگروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔“ محتاج عرض کریں گے، ہمارے حقوق جو تُو نے اُن پر فرض کیے تھے، انہوں نے ظلماً نہ دیے، اللہ عزوجل فرمائے گا: ”مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ تمہیں اپنا قُرب عطا کروں گا اور انھیں دُور رکھوں گا۔“⁽⁷⁾

① ”الترغیب و الترهیب“، کتاب الصدقات، الترهیب من منع الزکاۃ، الحدیث: ۱۸، ج ۱، ص ۳۰۹.

② ”المعجم الأوسط“، الحدیث: ۴۵۷۷، ج ۳، ص ۲۷۵ - ۲۷۶.

③ ”الترغیب و الترهیب“، کتاب الصدقات، الترهیب من منع الزکاۃ، الحدیث: ۱۶، ج ۱، ص ۳۰۸.

④ ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاۃ، باب فی الكنازین للأموال والتغلیظ علیہم، الحدیث: (۹۹۲)، ص ۴۹۷.

⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاۃ، باب فی الكنازین للأموال والتغلیظ علیہم، الحدیث: ۳۵ - (۹۹۲)، ص ۴۹۸.

⑥ ”الترغیب و الترهیب“، کتاب الصدقات، الحدیث: ۵، ج ۱، ص ۳۰۶.

و ”المعجم الأوسط“، الحدیث: ۳۵۷۹، ج ۲، ص ۳۷۴ - ۳۷۵.

⑦ ”المعجم الأوسط“، باب العین، الحدیث: ۴۸۱۳، ج ۳، ص ۳۴۹.

حدیث ۱۳ ابن خزیمہ و ابن حبان اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”دوزخ میں سب سے پہلے تین شخص جائیں گے، اُن میں ایک وہ تو نگر ہے کہ اپنے مال میں اللہ عزوجل کا حق ادا نہیں کرتا۔“ (1)

حدیث ۱۵ امام احمد مسند میں عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ ”اللہ عزوجل نے اسلام میں چار چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے تین ادا کرے، وہ اُسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری چاروں نہ بجالائے۔ نماز، زکاة، روزہ رمضان، حج بیت اللہ۔“ (2)

حدیث ۱۶ طبرانی کبیر میں بسند صحیح راوی، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور جو زکاة نہ دے، اس کی نماز قبول نہیں۔ (3)

حدیث ۱۷ صحیحین و مسند احمد و سنن ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا اور جو اللہ (عزوجل) کے لیے تواضع کرے، اللہ (عزوجل) اسے بلند فرمائے گا۔“ (4)

حدیث ۱۸ بخاری و مسلم انھیں سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جو شخص اللہ (عزوجل) کی راہ میں جوڑا خرچ کرے، وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا اور جنت کے کئی دروازے ہیں، جو نمازی ہے دروازہ نماز سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد سے ہے دروازہ جہاد سے بلایا جائے گا اور جو اہل صدقہ سے ہے دروازہ صدقہ سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہے باب الزیان سے بلایا جائے گا۔“ صدیق اکبر نے عرض کی، اس کی تو کچھ ضرورت نہیں کہ ہر دروازے سے بلایا جائے (یعنی مقصود دخول جنت ہے، وہ ایک دروازہ سے حاصل ہے) مگر کوئی ہے ایسا جو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا: ”ہاں اور میں اُمید کرتا ہوں کہ تم اُن میں سے ہو۔“ (5)

حدیث ۱۹ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ (عزوجل) نہیں قبول فرماتا مگر حلال کو، تو اسے

1..... ”صحیح ابن خزیمہ“، کتاب الزکاة، باب ذکر إدخال مانع الزکاة النار... إلخ، الحدیث: ۲۲۴۹، ج ۴، ص ۸.

2..... ”المسند“، حدیث زیاد بن نعیم، الحدیث: ۱۷۸۰۴، ج ۶، ص ۲۳۶. ”الترغیب و الترہیب“، الحدیث: ۱۴، ج ۱، ص ۳۰۸.

3..... ”المعجم الکبیر“، الحدیث: ۱۰۰۹۵، ج ۱۰، ص ۱۰۳.

4..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر و الصلة و الأدب، باب استحباب العفو و التواضع، الحدیث: ۲۵۸۸، ص ۱۳۹۷.

5..... ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۳۶۶۶، ج ۲، ص ۵۲۰.

و ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبی ہریرة، الحدیث: ۷۶۳۷، ج ۳، ص ۹۳.

اللہ تعالیٰ دستِ راست سے قبول فرماتا ہے پھر اسے اُس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے پچھیرے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔“ (1)

حدیث ۲۱ و ۲۰ نسائی وابن ماجہ اپنی سنن میں وابن خزیمہ وابن حبان اپنی صحیح میں اور حاکم نے بافادہ تصحیح ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ فرمایا: کہ ”قسم ہے! اُس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔“ اُس کو تین بار فرمایا پھر سرٹھکا لیا تو ہم سب نے سرٹھکا لیے اور رونے لگے، یہ نہیں معلوم کہ کس چیز پر قسم کھائی۔ پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے سر مبارک اٹھالیا اور چہرہ اقدس میں خوشی نمایاں تھی تو ہمیں یہ بات سُرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی اور فرمایا: ”جو بندہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکاة دیتا ہے اور ساتوں کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اُس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔“ (2)

حدیث ۲۲ امام احمد نے بروایت ثقات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”اپنے مال کی زکاة نکال، کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی اور رشتہ داروں سے سلوک کر اور مسکین اور یتیم اور سائل کا حق پہچان۔“ (3)

حدیث ۲۳ طبرانی نے اوسط و کبیر میں ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”زکاة اسلام کا ٹیل ہے۔“ (4)

حدیث ۲۴ طبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جو میرے لیے چھ چیزوں کی کفالت کرے، میں اُس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔“ میں نے عرض کی، وہ کیا ہیں یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرمایا: ”نماز و زکاة و امانت و شرمگاہ و شکم و زبان۔“ (5)

حدیث ۲۵ بزار نے علقمہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکاة ادا کرو۔“ (6)

1 ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاة، باب لا تقبل صدقة من غلول، الحدیث: ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۴۷۶.

2 ”سنن النسائی“، کتاب الزکاة، باب وجوب الزکاة، الحدیث: ۲۴۳۵، ص ۳۹۹.

3 ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۱۲۳۹۷، ج ۴، ص ۲۷۳.

4 ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۸۹۳۷، ج ۶، ص ۳۲۸.

5 ”المعجم الأوسط“، باب الفاء، الحدیث: ۴۹۲۵، ج ۳، ص ۳۹۶.

6 ”مجمع الزوائد“، کتاب الزکاة، باب فرض الزکاة، الحدیث: ۴۳۲۶، ج ۳، ص ۱۹۸.

حدیث ۲۶ طبرانی نے کبیر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”جو اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنے مال کی زکاۃ ادا کرے اور جو اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر ایمان لاتا ہے، وہ حق بولے یا سکوت کرے یعنی بُری بات زبان سے نہ نکالے اور جو اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔“ (1)

حدیث ۲۷ ابو داؤد نے حسن بصری سے مرسل اور طبرانی و بیہقی نے ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”زکاۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو اور بگناہ نازل ہونے پر دُعا و تضرع سے استعانت کرو۔“ (2)

حدیث ۲۸ ابن خزیمہ اپنی صحیح اور طبرانی اوسط اور حاکم مستدرک میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس نے اپنے مال کی زکاۃ ادا کر دی، بیشک اللہ تعالیٰ نے اُس سے شُرُور فرمادیا۔“ (3)

مسائل فقہیہ

زکاۃ شریعت میں اللہ (عزوجل) کے لیے مال کے ایک حصہ کا جو شرع نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو، نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام اور اپنا نفع اُس سے بالکل جدا کر لے۔ (4) (درمختار)

مسئلہ ۱ زکاۃ فرض ہے، اُس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار و مردود الشہادۃ ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ مباح کر دینے سے زکاۃ ادا نہ ہوگی، مثلاً فقیر کو بہ نیت زکاۃ کھانا کھلا دیا زکاۃ ادا نہ ہوئی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہوگئی۔ یوہیں بہ نیت زکاۃ فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا ادا ہوگئی۔ (6) (درمختار)

1 ”المجمع الكبير“، الحدیث: ۱۳۵۶۱، ج ۱۲، ص ۳۲۴.

2 ”مراسیل أبي داود“ مع ”سنن أبي داود“، باب في الصائم يصيب أهله، ص ۸.

3 ”المعجم الأوسط“، باب الألف، الحدیث: ۱۵۷۹، ج ۱، ص ۴۳۱.

4 ”تنوير الأبصار“، كتاب الزكاة، ج ۳، ص ۲۰۳ - ۲۰۶.

5 ”الفتاوى الهندية“، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۰.

6 ”الدر المختار“ معہ ”ردالمحتار“، كتاب الزكاة، ج ۳، ص ۲۰۴.

مسئلہ ۳ فقیر کو بہ نیت زکاۃ مکان رہنے کو دیا زکاۃ ادا نہ ہوئی کہ مال کا کوئی حصہ اسے نہ دیا بلکہ منفعت کا مالک کیا۔ (1)
(درمختار)

مسئلہ ۴ مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے ورنہ ادا نہ ہوگی، مثلاً نہایت چھوٹے بچہ یا پاگل کو دینا اور اگر بچہ کو اتنی عقل نہ ہو تو اُس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو یا وصی یا جس کی نگرانی میں ہے قبضہ کریں۔ (2) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ زکاۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں:
(۱) مسلمان ہونا۔

کافر پر زکاۃ واجب نہیں یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اُسے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ زمانہ کفر کی زکاۃ ادا کرے۔ (3)
(عامہ کتب) معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا تو زمانہ اسلام میں جو زکاۃ نہیں دی تھی ساقط ہوگئی۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ کافر دار الحرب میں مسلمان ہوا اور وہیں چند برس تک اقامت کی پھر دارالاسلام میں آیا، اگر اس کو معلوم تھا کہ مالدار مسلمان پر زکاۃ واجب ہے، تو اُس زمانہ کی زکاۃ واجب ہے ورنہ نہیں اور اگر دارالاسلام میں مسلمان ہوا اور چند سال کی زکاۃ نہیں دی تو ان کی زکاۃ واجب ہے، اگرچہ کہتا ہو کہ مجھے فرضیت زکاۃ کا علم نہیں کہ دارالاسلام میں جہل عذر نہیں۔ (5) (عالمگیری وغیرہ)
(۲) بلوغ۔

(۳) عقل، نابالغ پر زکاۃ واجب نہیں اور جنون اگر پورے سال کو گھیر لے تو زکاۃ واجب نہیں اور اگر سال کے اوّل آخر میں افاقہ ہوتا ہے، اگرچہ باقی زمانہ جنون میں گذرتا ہے تو واجب ہے، اور جنون اگر اصلی ہو یعنی جنون ہی کی حالت میں بلوغ ہوا تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا۔ یوں اگر عارضی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا تو جب افاقہ ہوگا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی۔ (6) (جوہرہ، عالمگیری، ردالمختار)

① "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، ج ۳، ص ۲۰۵۔

② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، ج ۳، ص ۲۰۴۔

③ "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، مطلب فی احکام المعتوہ، ج ۳، ص ۲۰۷۔

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۱۔

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۱، وغیرہ۔

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۲۔

و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، مطلب فی احکام المعتوہ، ج ۳، ص ۲۰۷۔

مسئلہ ۷ بوہرے پر زکاة واجب نہیں، جب کہ اسی حالت میں پورا سال گزرے اور اگر کبھی کبھی اُسے افاقہ بھی ہوتا ہے تو واجب ہے۔ جس پر غشی طاری ہوئی اس پر زکاة واجب ہے، اگرچہ غشی کامل سال بھر تک ہو۔^(۱) (عالمگیری، ردالمحتار) (۳) آزاد ہونا۔

غلام پر زکاة واجب نہیں، اگرچہ مازون ہو (یعنی اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہو) یا مکاتب^(۲) یا ام ولد^(۳) یا مستعے (یعنی غلام مشترک جس کو ایک شریک نے آزاد کر دیا اور چونکہ وہ مالدار نہیں ہے، اس وجہ سے باقی شریکوں کے حصے کما کر پورے کرنے کا اُسے حکم دیا گیا)۔^(۴) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۸ مازون غلام نے جو کچھ کمایا ہے اس کی زکاة نہ اُس پر ہے نہ اُس کے مالک پر، ہاں جب مالک کو دے دیا تو اب ان برسوں کی بھی زکاة مالک ادا کرے، جب کہ غلام مازون دین میں مستغرق نہ ہو، ورنہ اس کی کمائی پر مطلقاً زکاة واجب نہیں، نہ مالک کے قبضہ کرنے کے پہلے نہ بعد۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ مکاتب نے جو کچھ کمایا اس کی زکاة واجب نہیں نہ اس پر نہ اس کے مالک پر، جب مالک کو دے دے اور سال گذر جائے، اب بشرائط زکاة مالک پر واجب ہوگی اور گزشتہ برسوں کی واجب نہیں۔^(۶) (ردالمحتار) (۵) مال بقدر نصاب اُس کی ملک میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکاة واجب نہ ہوئی۔^(۷) (تنویر، عالمگیری) (۶) پورے طور پر اُس کا مالک ہو یعنی اس پر قابض بھی ہو۔^(۸)

مسئلہ ۱۰ جو مال گم گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہ ہوں یا جنگل میں دفن کر دیا تھا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے یا مدیون نے دین

① "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی احکام المعتوہ، ج ۳، ص ۲۰۷.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۲.

② یعنی وہ غلام جس کا آقا مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہہ دے کہ اتنا ادا کر دے تو آزاد ہے اور غلام اسے قبول بھی کر لے۔

③ یعنی وہ لونڈی جس کے بچہ پیدا ہوا اور موٹی نے اقرار کیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔

تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت حصہ ۹ میں مدبر، مکاتب اور ام ولد کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۱، وغیرہ.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۱۴.

⑥ المرجع السابق.

⑦ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۲.

⑧ المرجع السابق.

سے انکار کر دیا اور اُس کے پاس گواہ نہیں پھر یہ اموال مل گئے، تو جب تک نہ ملے تھے، اُس زمانہ کی زکاۃ واجب نہیں۔ (1)
(درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۱۱ اگر دین ایسے پر ہے جو اس کا اقرار کرتا ہے مگر ادا میں دیر کرتا ہے یا نادار ہے یا قاضی کے یہاں اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا یا وہ منکر ہے، مگر اُس کے پاس گواہ موجود ہیں تو جب مال ملے گا، سالہائے گزشتہ کی بھی زکاۃ واجب ہے۔ (2) (تنویر)

مسئلہ ۱۲ پرائی کا جانور اگر کسی نے غصب کیا، اگرچہ وہ اقرار کرتا ہو تو ملنے کے بعد بھی اس زمانہ کی زکاۃ واجب نہیں۔ (3) (خانہ)

مسئلہ ۱۳ غصب کیے ہوئے کی زکاۃ غاصب پر واجب نہیں کہ یہ اس کا مال ہی نہیں، بلکہ غاصب پر یہ واجب ہے کہ جس کا مال ہے اُسے واپس دے اور اگر غاصب نے اُس مال کو اپنے مال میں خلط کر دیا کہ تمیز ناممکن ہو اور اس کا اپنا مال بقدر نصاب ہے تو مجموع پر زکاۃ واجب ہے۔ (4) (ردالمختار)

مسئلہ ۱۴ ایک نے دوسرے کے مثلاً ہزار روپے غصب کر لیے پھر وہی روپے اُس سے کسی اور نے غصب کر کے خرچ کر ڈالے اور ان دونوں غاصبوں کے پاس ہزار ہزار روپے اپنی ملک کے ہیں تو غاصب اول پر زکاۃ واجب ہے دوسرے پر نہیں۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ شے مرہون (6) کی زکاۃ نہ مرہون (7) پر ہے، نہ راہن (8) پر، مرہون تو مالک ہی نہیں اور راہن کی ملک تام نہیں کہ اس کے قبضہ میں نہیں اور بعد راہن چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکاۃ واجب نہیں۔ (9) (درمختار وغیرہ)

① "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، ج ۳، ص ۲۱۸.

② "تنویر الأبصار"، کتاب الزکاۃ، ج ۳، ص ۲۱۹.

③ "الفتاویٰ الحانیة"، کتاب الزکاۃ، ج ۱، ص ۱۲۴.

④ "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، مطلب فیما لو صادر السطان رجلا... إلخ، ج ۳، ص ۲۵۹.

⑤ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الزکاۃ، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۳.

⑥ یعنی جو چیز گروی رکھی گئی ہے۔

⑦ یعنی جس کے پاس چیز گروی رکھی گئی ہو۔

⑧ یعنی گروی رکھنے والا۔

تفصیلی معلومات کے لئے دیکھئے: بہارِ شریعت حصہ ۱ میں رہن کا بیان۔

⑨ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، ج ۳، ص ۲۱۴، وغیرہ.

مسئلہ ۱۶ جو مال تجارت کے لیے خرید اور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضہ کے قبل مشتری پر زکاة واجب نہیں اور قبضہ کے بعد اس سال کی بھی زکاة واجب ہے۔^(۱) (ردالمحتار، ردالمحتار)

(۷) نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔

مسئلہ ۱۷ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکاة واجب نہیں، خواہ وہ دین بندہ کا ہو، جیسے قرض، زرمن (۲) کسی چیز کا تاوان یا اللہ عزوجل کا دین ہو، جیسے زکاة، خراج مثلاً کوئی شخص صرف ایک نصاب کا مالک ہے اور دو سال گزر گئے کہ زکاة نہیں دی تو صرف پہلے سال کی زکاة واجب ہے دوسرے سال کی نہیں کہ پہلے سال کی زکاة اس پر دین ہے اس کے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتی، لہذا دوسرے سال کی زکاة واجب نہیں۔ یوہیں اگر تین سال گزر گئے، مگر تیسرے میں ایک دن باقی تھا کہ پانچ درم اور حاصل ہوئے جب بھی پہلے ہی سال کی زکاة واجب ہے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکاة نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں، ہاں جس دن کہ وہ پانچ درم حاصل ہوئے اس دن سے ایک سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے پورے ہونے پر زکاة واجب ہوگی۔ یوہیں اگر نصاب کا مالک تھا اور سال تمام پر زکاة نہ دی پھر سارے مال کو ہلاک کر دیا پھر اور مال حاصل کیا کہ یہ بقدر نصاب ہے، مگر سال اول کی زکاة جو اس کے ذمہ دین ہے اس میں سے نکالیں تو نصاب باقی نہیں رہتی تو اس نئے سال کی زکاة واجب نہیں اور اگر اس پہلے مال کو اس نے قصد ہلاک نہ کیا، بلکہ بلا قصد ہلاک ہو گیا تو اس کی زکاة جاتی رہی، لہذا اس کی زکاة دین نہیں تو اس صورت میں اس نئے سال کی زکاة واجب ہے۔^(۳) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۸ اگر خود مدیون (۴) نہیں مگر مدیون کا کفیل (۵) ہے اور کفالت کے روپے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتی، زکاة واجب نہیں، مثلاً زید کے پاس ہزار روپے ہیں اور عمر و نے کسی سے ہزار قرض لیے اور زید نے اس کی کفالت کی تو زید پر اس صورت میں زکاة واجب نہیں کہ زید کے پاس اگر چہ روپے ہیں مگر عمر و کے قرض میں مستغرق ہیں کہ قرض خواہ کو اختیار ہے زید سے مطالبہ کرے اور روپے نہ ملنے پر یہ اختیار ہے کہ زید کو قید کرادے تو یہ روپے دین میں مستغرق ہیں، لہذا زکاة واجب نہیں

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۱۵.

② یعنی کسی خریدی گئی چیز کے دام۔

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۲-۱۷۴.

و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب: الفرق بین السبب والشرط والعلہ، ج ۳، ص ۲۱۰.

④ یعنی مقروض۔

⑤ یعنی مقروض کا ضامن۔

اور اگر عمر و کی دس شخصوں نے کفالت کی اور سب کے پاس ہزار ہزار روپے ہیں جب بھی ان میں کسی پر زکاة واجب نہیں کہ قرض خواہ ہر ایک سے مطالبہ کر سکتا ہے اور بصورت نہ ملنے کے جس کو چاہے قید کرادے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ جو دین میعادى ہو وہ مذہب صحیح میں وجوب زکاة کا مانع نہیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

چونکہ عادتاً دین مہر کا مطالبہ نہیں ہوتا، لہذا اگر چہ شوہر کے ذمہ کتنا ہی دین مہر ہو جب وہ مالک نصاب ہے، زکاة واجب ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری) خصوصاً مہر مؤخر جو عام طور پر یہاں رائج ہے جس کی ادا کی کوئی میعاد معین نہیں ہوتی، اس کے مطالبہ کا تو عورت کو اختیار ہی نہیں، جب تک موت یا طلاق واقع نہ ہو۔

مسئلہ ۲۰ عورت کا نفقہ شوہر پر دین نہیں قرار دیا جائے گا جب تک قاضی نے حکم نہ دیا ہو یا دونوں نے باہم کسی مقدار پر تصفیہ نہ کر لیا ہو اور اگر یہ دونوں نہ ہوں تو ساقط ہو جائے گا شوہر پر اس کا دینا واجب نہ ہوگا، لہذا مانع زکاة نہیں۔ عورت کے علاوہ کسی رشتہ دار کا نفقہ اس وقت دین ہے جب ایک مہینہ سے کم زمانہ گزرا ہو یا اس رشتہ دار نے قاضی کے حکم سے قرض لیا اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں تو ساقط ہے اور مانع زکاة نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱ دین اس وقت مانع زکاة ہے جب زکاة واجب ہونے سے پہلے کا ہو اور اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد ہو تو زکاة پر اس دین کا کچھ اثر نہیں۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۲۲ جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو اس کا اس جگہ اعتبار نہیں یعنی وہ مانع زکاة نہیں مثلاً نذر و کفارہ و صدقہ فطر و حج و قربانی کہ اگر ان کے مصارف نصاب سے نکالیں تو اگر چہ نصاب باقی نہ رہے زکاة واجب ہے، عشر و خراج واجب ہونے کے لیے دین مانع نہیں یعنی اگر چہ مدیون ہو، یہ چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۲۳ جو دین اثنائے سال میں عارض ہو یعنی شروع سال میں مدیون نہ تھا پھر مدیون ہو گیا پھر سال تمام پر

① "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب: الفرق بین السبب والشرط والعللة، ج ۳، ص ۲۱۰.

② المرجع السابق، ص ۲۱۱.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۳.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۳.

و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب: الفرق بین السبب والشرط والعللة، ج ۳، ص ۲۱۱.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب: الفرق بین السبب والشرط والعللة، ج ۳، ص ۲۱۰.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۳.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب: الفرق بین السبب والشرط والعللة، ج ۳، ص ۲۱۱، وغیرہما.

علاوہ دین کے نصاب کا مالک ہو گیا تو زکاة واجب ہوگی، اس کی صورت یہ ہے کہ فرض کرو قرض خواہ نے قرض معاف کر دیا تو اب چونکہ اس کے ذمہ دین نہ رہا اور سال بھی پورا ہو چکا ہے، لہذا واجب ہے کہ ابھی زکاة دے، یہ نہیں کہ اب سے ایک سال گزرنے پر زکاة واجب ہوگی اور اگر شروع سال سے مدیون تھا اور سال تمام پر معاف کیا تو ابھی زکاة واجب نہ ہوگی بلکہ اب سے سال گزرنے پر۔⁽¹⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۲۴ ایک شخص مدیون ہے اور چند نصاب کا مالک کہ ہر ایک سے دین ادا ہو جاتا ہے، مثلاً اس کے پاس روپے اشرفیاں بھی ہیں، تجارت کے اسباب بھی، چرائی کے جانور بھی تو روپے اشرفیاں دین کے مقابل سمجھے اور اور چیزوں کی زکاة دے اور اگر روپے اشرفیاں نہ ہوں اور چرائی کے جانوروں کی چند نصابیں ہوں، مثلاً چالیس بکریاں ہیں اور تیس گائیں اور پانچ اونٹ تو جس کی زکاة میں اسے آسانی ہو، اُس کی زکاة دے اور دوسرے کو دین میں سمجھے تو اُس صورت مذکورہ میں اگر بکریوں یا اونٹوں کی زکاة دے گا تو ایک بکری دینی ہوگی اور گائے کی زکاة میں سال بھر کا بچھڑا اور ظاہر ہے کہ ایک بکری دینا بچھڑا دینے سے آسان ہے، لہذا بکری دے سکتا ہے اور اگر برابر ہوں تو اسے اختیار ہے۔ مثلاً پانچ اونٹ ہیں اور چالیس بکریاں دونوں کی زکاة ایک بکری ہے، اُسے اختیار ہے جسے چاہے دین کے لیے سمجھے اور جس کی چاہے زکاة دے اور یہ سب تفصیل اُس وقت ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی زکاة وصول کرنے والا آئے، ورنہ اگر بطور خود دینا چاہتا ہے تو ہر صورت میں اختیار ہے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۵ اس پر ہزار روپے قرض ہیں اور اس کے پاس ہزار روپے ہیں اور ایک مکان اور خدمت کے لیے ایک غلام تو زکاة واجب نہیں، اگرچہ مکان و غلام دس ہزار روپے کی قیمت کے ہوں کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے ہیں اور جب روپے موجود ہیں تو قرض کے لیے روپے قرار دیے جائیں گے نہ کہ مکان و غلام۔⁽³⁾ (عالمگیری)

(۸) نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔⁽⁴⁾

مسئلہ ۲۶ حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے اس میں زکاة واجب نہیں، جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے سامان، سواری کے جانور، خدمت کے لیے لونڈی غلام،

① "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۱۵، وغیرہ.

② "الدرالمختار"، "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۱۶.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۳.

④ المرجع السابق، ص ۱۷۲.

آلات حرب، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ۔⁽¹⁾ (ہدایہ، عالمگیری، ردالمحتار)
مسئلہ ۲۷ ایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا، جیسے چڑا پکانے کے لیے مازو⁽²⁾ اور تیل وغیرہ اگر اس پر سال گزر گیا زکاة واجب ہے۔ یوہیں رنگریز نے اُجرت پر کپڑا رنگنے کے لیے کسم، زعفران خریدنا تو اگر بقدر نصاب ہے اور سال گزر گیا زکاة واجب ہے۔ پڑیا وغیرہ رنگ کا بھی یہی حکم ہے اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا اثر باقی نہیں رہے گا، جیسے صابون تو اگر چہ بقدر نصاب ہو اور سال گزر جائے زکاة واجب نہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ عطر فروش نے عطر بیچنے کے لیے شیشیاں خریدیں، ان پر زکاة واجب ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ خرچ کے لیے روپے کے پیسے لیے تو یہ بھی حاجتِ اصلیہ میں ہیں۔ حاجتِ اصلیہ میں خرچ کرنے کے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو کچھ خرچ کیا اور جو باقی رہے اگر بقدر نصاب ہیں تو ان کی زکاة واجب ہے، اگر چہ اسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجتِ اصلیہ ہی میں صرف ہوں گے اور اگر سال تمام کے وقت حاجتِ اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو زکاة واجب نہیں۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ اہل علم کے لیے کتابیں حاجتِ اصلیہ سے ہیں اور غیر اہل کے پاس ہوں، جب بھی کتابوں کی زکاة واجب نہیں جب کہ تجارت کے لیے نہ ہوں، فرق اتنا ہے کہ اہل علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ اگر مال بقدر نصاب نہ ہو تو زکاة لینا جائز ہے اور غیر اہل علم کے لیے ناجائز، جب کہ دو سو درم قیمت کی ہوں۔ اہل وہ ہے جسے پڑھنے پڑھانے یا تصحیح کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ کتاب سے مراد مذہبی کتاب فقہ و تفسیر و حدیث ہے، اگر ایک کتاب کے چند نسخے ہوں تو ایک سے زائد جتنے نسخے ہوں اگر دو سو درم کی قیمت کے ہوں تو اس اہل کو بھی زکاة لینا جائز ہے، خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نسخے مل کر اس قیمت کے ہوں۔⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ حافظ کے لیے قرآن مجید حاجتِ اصلیہ سے نہیں اور غیر حافظ کے لیے ایک سے زیادہ حاجتِ اصلیہ کے

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۲.

و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع و فاء، ج ۳، ص ۲۱۲.

② ایک دو کا نام۔

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۲.

④ "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع و فاء، ج ۳، ص ۲۱۸.

⑤ المرجع السابق، ص ۲۱۳.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع و فاء، ج ۳، ص ۲۱۷.

علاوہ ہے یعنی اگر مصحف شریف دوسو درم قیمت کا ہو تو زکاة لینا جائز نہیں۔⁽¹⁾ (جوہرہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ طیب کے لیے طب کی کتابیں حاجتِ اصلیہ میں ہیں، جب کہ مطالعہ میں رکھتا ہو یا اُسے دیکھنے کی ضرورت پڑے، نحو و صرف و نجوم اور دیوان اور قصے کہانی کی کتابیں حاجتِ اصلیہ میں نہیں، اصول فقہ و علم کلام و اخلاق کی کتابیں جیسے احیاء العلوم و کیمیائے سعادت وغیرہما حاجتِ اصلیہ سے ہیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۳ کفار اور بد مذہبوں کے رد اور اہل سنت کی تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجتِ اصلیہ سے ہیں۔ یو ہیں عالم اگر بد مذہب وغیرہ کی کتابیں اس لیے رکھے کہ اُن کا رد کرے گا تو یہ بھی حاجتِ اصلیہ میں ہیں اور غیر عالم کو تو ان کا دیکھنا ہی جائز نہیں۔

(۹) مال نامی ہونا یعنی بڑھنے والا خواہ حقیقتہً بڑھے یا حکماً یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے یعنی اُس کے یا اُس کے نائب کے قبضہ میں ہو، ہر ایک کی دو صورتیں ہیں وہ اسی لیے پیدا ہی کیا گیا ہو اسے خلقتی کہتے ہیں، جیسے سونا چاندی کہ یہ اسی لیے پیدا ہوئے کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں یا اس لیے مخلوق تو نہیں، مگر اس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اسے فعلی کہتے ہیں۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نمو ہوگا۔⁽³⁾ سونے چاندی میں مطلقاً زکاة واجب ہے، جب کہ بقدر نصاب ہوں اگر چہ دفن کر کے رکھے ہوں، تجارت کرے یا نہ کرے اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پر زکاة اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نیت ہو یا چرائی پر چھوٹے جانور و بس، خلاصہ یہ کہ زکاة تین قسم کے مال پر ہے۔

(۱) ثمن یعنی سونا چاندی۔

(۲) مال تجارت۔

(۳) سائتمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور۔⁽⁴⁾ (عامہ مکتب)

مسئلہ ۳۴ نیت تجارت کبھی صراحتہً ہوتی ہے کبھی دلالتہً صراحتہً یہ کہ عقد کے وقت ہی نیت تجارت کر لی خواہ وہ عقد خریداری ہو یا اجارہ، ثمن روپیہ اشرفی ہو یا اسباب میں سے کوئی شے دلالتہً کی صورت یہ ہے کہ مال تجارت کے بدلے کوئی چیز

① "الجوهرة النيرة"، كتاب الزكاة، ص ۱۴۸ .

و "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء، ج ۳، ص ۲۱۷ .

② "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء، ج ۳، ص ۲۱۷ .

③ یعنی زیادتی ہوگی۔

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۴ .

و "الفتاوى الرضوية"، ج ۱۰، ص ۱۶۱ .

خریدی یا مکان جو تجارت کے لیے ہے اس کو کسی اسباب کے بدلے کرایہ پر دیا تو یہ اسباب اور وہ خریدی ہوئی چیز تجارت کے لیے ہیں اگرچہ صراحتاً تجارت کی نیت نہ کی۔ یوں اگر کسی سے کوئی چیز تجارت کے لیے قرض لی تو یہ بھی تجارت کے لیے ہے، مثلاً دو سو درم کا مالک ہے اور من بھر گیہوں قرض لیے تو اگر تجارت کے لیے نہیں لیے تو زکاة واجب نہیں کہ گیہوں کے دام انھیں دو سو سے مچرائے جائیں گے تو نصاب باقی نہ رہی اور اگر تجارت کے لیے لیے تو زکاة واجب ہوگی کہ ان گیہوں کی قیمت دو سو پر اضافہ کریں اور مجموعہ سے قرض مچرائیں تو دو سو سالم رہے لہذا زکاة واجب ہوئی۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۵ جس عقد میں تبادلہ ہی نہ ہو جیسے ہبہ، وصیت، صدقہ یا تبادلہ ہو مگر مال سے تبادلہ نہ ہو جیسے مہر، بدل خلع⁽²⁾ بدلِ حلق⁽³⁾ ان دونوں قسم کے عقد کے ذریعہ سے اگر کسی چیز کا مالک ہوا تو اس میں نیت تجارت صحیح نہیں یعنی اگرچہ تجارت کی نیت کرے، زکاة واجب نہیں۔ یوں اگر ایسی چیز میراث میں ملی تو اس میں بھی نیت تجارت صحیح نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ مورث کے پاس تجارت کا مال تھا، اس کے مرنے کے بعد وارثوں نے تجارت کی نیت کی تو زکاة واجب ہے۔ یوں چرائی کے جانور وراثت میں ملے، زکاة واجب ہے چرائی پر رکھنا چاہتے ہوں یا نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳۷ نیت تجارت کے لیے یہ شرط ہے کہ وقت عقد نیت ہو، اگرچہ دلالتاً تو اگر عقد کے بعد نیت کی زکاة واجب نہ ہوئی۔ یوں اگر رکھنے کے لیے کوئی چیز لی اور یہ نیت کی کہ نفع ملے گا تو بیچ ڈالوں گا تو زکاة واجب نہیں۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۸ تجارت کے لیے غلام خریدا تھا پھر خدمت لینے کی نیت کر لی پھر تجارت کی نیت کی تو تجارت کا نہ ہوگا جب تک ایسی چیز کے بدلے نہ بیچے جس میں زکاة واجب ہوتی ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳۹ موتی اور جواہر پر زکاة واجب نہیں، اگرچہ ہزاروں کے ہوں۔ ہاں اگر تجارت کی نیت سے لیے تو واجب ہوگی۔⁽⁸⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴۰ زمین سے جو پیداوار ہوئی اس میں نیت تجارت سے زکاة واجب نہیں، زمین عشری ہو یا خراجی، اس کی

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۴.

و "الدرالمختار"، و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۱.

② یعنی وہ مال جس کے بدلے میں نکاح زائل کیا جائے۔

③ یعنی وہ مال جس کے بدلے میں غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۴.

⑤ المرجع السابق.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، ج ۳، ص ۲۳۱.

⑦ المرجع السابق، ص ۲۲۸.

⑧ "تنویر الأبصار" و "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، ج ۳، ص ۲۳۰.

ملک ہو یا عاریت یا کرایہ پر لی ہو، ہاں اگر زمین خراجی ہو اور عاریت یا کرایہ پر لی اور بیچ وہ ڈالے جو تجارت کے لیے تھے تو پیداوار میں تجارت کی نیت صحیح ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ مضارب^(۲) مال مضاربت سے جو کچھ خریدے، اگر چہ تجارت کی نیت نہ ہو، اگر چہ اپنے خرچ کرنے کے لیے خریدے، اس پر زکاة واجب ہے یہاں تک کہ اگر مال مضاربت سے غلام خریدے۔ پھر ان کے پہننے کو کپڑا اور کھانے کے لیے غلہ وغیرہ خریدا تو یہ سب کچھ تجارت ہی کے لیے ہیں اور سب کی زکاة واجب۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

(۱۰) سال گزرنا، سال سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند کے مہینوں سے بارہ مہینے۔ شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے، مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہوگئی تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی یعنی زکاة واجب ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ مال تجارت یا سونے چاندی کو درمیان سال میں اپنی جنس^(۵) یا غیر جنس سے بدل لیا تو اس کی وجہ سے سال گزرنے میں نقصان نہ آیا اور اگر چرائی کے جانور بدل لیے تو سال کٹ گیا یعنی اب سال اس دن سے شمار کریں گے جس دن بدلا ہے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں، بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے، اگر چہ سال تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو، خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہو یا میراث و ہبہ یا اور کسی جائز ذریعہ سے ملا ہو اور اگر دوسری جنس کا ہے مثلاً پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اور اب بکریاں ملیں تو اس کے لیے جدید سال شمار ہوگا۔^(۷) (جوہرہ)

مسئلہ ۳۴ مالک نصاب کو درمیان سال میں کچھ مال حاصل ہو اور اس کے پاس دو نصابیں ہیں اور دونوں کا جد اجد

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، باب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۲.

② مضاربت، تجارت میں ایک قسم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے کام اور منافع میں دونوں شریک۔ کام کرنے والے کو مضارب اور مالک نے جو کچھ دیا اسے اس المال (مال مضاربت) کہتے ہیں۔
تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ ۱۴، میں "مضاربت کا بیان" دیکھ لیجئے۔

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۱.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۵.

⑤ سونا، چاندی تو مطلقاً یہاں ایک ہی جنس ہیں۔ یوہیں ان کے زیور، برتن وغیرہ اسباب، بلکہ مال تجارت بھی انہیں کی جنس سے شمار ہوگا، اگر چہ کسی قسم کا ہو کہ اس کی زکاة بھی چاندی سونے سے قیمت لگا کر دی جاتی ہے۔ ۱۴ منہ

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۵.

⑦ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الزکاة، باب الزکاة الحیل، ص ۱۵۵.

سال ہے تو جو مال درمیان سال میں حاصل ہوا اُسے اس کے ساتھ ملائے، جس کی زکاة پہلے واجب ہو مثلاً اس کے پاس ایک ہزار روپے ہیں اور سائمہ کی قیمت جس کی زکاة دے چکا تھا کہ دونوں ملائے نہیں جائیں گے، اب درمیان سال میں ایک ہزار روپے اور حاصل کیے تو ان کا سال تمام اس وقت ہے جب ان دونوں میں پہلے کا ہو۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۵ اس کے پاس چرائی کے جانور تھے اور سال تمام پر ان کی زکاة دی پھر انھیں روپوں سے بیچ ڈالا اور اُس کے پاس پہلے سے بھی بقدر نصاب روپے ہیں جن پر نصف سال گزرا ہے تو یہ روپے اُن روپوں کے ساتھ نہیں ملائے جائیں گے، بلکہ اُن کے لیے اُس وقت سے نیا سال شروع ہوگا یہ اس وقت ہے کہ یہ ٹمن کے روپے بقدر نصاب ہوں، ورنہ بالا جماع انھیں کے ساتھ ملائیں یعنی اُن کی زکاة انھیں روپوں کے ساتھ دی جائے۔⁽²⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۳۶ سال تمام سے پیشتر اگر سائمہ کو روپے کے بدلے بیچا تو اب ان روپوں کو اُن روپوں کے ساتھ ملا لیں گے جو پیشتر سے اُس کے پاس بقدر نصاب موجود ہیں یعنی ان کے سال تمام پر ان کی بھی زکاة دی جائے، ان کے لیے نیا سال شروع نہ ہوگا۔ یو ہیں اگر جانور کے بدلے بیچا تو اس جانور کو اس جانور کے ساتھ ملائے، جو پیشتر سے اس کے پاس ہے اگر سائمہ کی زکاة دے دی پھر اسے سائمہ نہ رکھا پھر بیچ ڈالا تو ٹمن کو اگلے مال کے ساتھ ملا دیں گے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ اونٹ، گائے، بکری میں ایک کو دوسرے کے بدلے سال تمام سے پہلے بیچا تو اب سے اُن کے لیے نیا سال شروع ہوگا۔ یو ہیں اگر اور چیز کے بدلے بہ نیت تجارت بیچا تو اب سے ایک سال گزرنے پر زکاة واجب ہوگی اور اگر اپنی جنس کے بدلے بیچا یعنی اونٹ کو اونٹ اور گائے کو گائے کے بدلے جب بھی یہی حکم ہے اور اگر بعد سال تمام بیچا تو زکاة واجب ہو چکی اور وہ اُس کے ذمہ ہے۔⁽⁴⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۳۸ درمیان سال میں سائمہ کو بیچا تھا اور سال تمام سے پہلے عیب کی وجہ سے خریدار نے واپس کر دیا تو اگر قاضی کے حکم سے واپسی ہوئی تو نیا سال شروع نہ ہوگا، ورنہ اب سے سال شروع کیا جائے اور اگر ہبہ کر دیا تھا پھر سال تمام سے پہلے واپس کر لیا تو نیا سال لیا جائے گا، قاضی کے فیصلہ سے واپسی ہو یا بطور خود۔⁽⁵⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۳۹ اُس کے پاس خراجی زمین تھی، خراج ادا کرنے کے بعد بیچ ڈالی تو ٹمن کو اصل نصاب کے ساتھ ملا

1 "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، ج ۳، ص ۲۵۵.

2 "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۲۵.

3 المرجع السابق.

4 "الحوہرۃ الثبیرۃ"، کتاب الزکاة، باب زکاة، الاہل، ص ۱۵۰.

5 المرجع السابق.

دیں گے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۰ اس کے پاس روپے ہیں جن کی زکاۃ دے چکا ہے پھر ان سے چرائی کے جانور خریدے اور اس کے یہاں اس جنس کے جانور پہلے سے موجود ہیں تو ان کو ان کے ساتھ نہ ملائیں گے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۱ کسی نے اسے چار ہزار روپے بطور ہبہ دیے اور سال پورا ہونے سے پہلے ہزار روپے اور حاصل کیے پھر ہبہ کرنے والے نے اپنے دیے ہوئے روپے حکم قاضی سے واپس لے لیے تو ان جدید روپوں کی بھی اس پر زکاۃ واجب نہیں جب تک ان پر سال نہ گزرے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۲ کسی کے پاس تجارت کی بکریاں ہیں، جن کی قیمت دو سو درم ہے اور سال تمام سے پہلے ایک بکری مرگئی، سال پورا ہونے سے پہلے اس نے اس کی کھال نکال کر پکالی تو زکاۃ واجب ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری) یعنی جب کہ وہ کھال نصاب کو پورا کرے۔

مسئلہ ۵۳ زکاۃ دیتے وقت یا زکاۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت نیت زکاۃ شرط ہے۔ نیت کے یہ معنی ہیں کہ اگر پوچھا جائے تو بلا تامل بتا سکے کہ زکاۃ ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۴ سال بھر تک خیرات کرتا رہا، اب نیت کی کہ جو کچھ دیا ہے زکاۃ ہے تو ادا نہ ہوئی۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۵ ایک شخص کو وکیل بنایا اسے دیتے وقت تو نیت زکاۃ نہ کی، مگر جب وکیل نے فقیر کو دیا اس وقت مؤکل نے نیت کر لی ہوگئی۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۶ دیتے وقت نیت نہیں کی تھی، بعد کو کی تو اگر وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اسکی ملک میں ہے تو یہ نیت کافی ہے ورنہ نہیں۔⁽⁸⁾ (درمختار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۵.

② المرجع السابق.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۵ - ۱۷۶.

④ المرجع السابق، ص ۱۷۶.

⑤ المرجع السابق، ص ۱۷۰.

⑥ المرجع السابق، ص ۱۷۱.

⑦ المرجع السابق.

⑧ "الدر المختار"، کتاب الزکاۃ، ج ۳، ص ۲۲۲.

مسئلہ ۵۷ زکاة دینے کے لیے وکیل بنایا اور وکیل کو بہ نیت زکاة مال دیا مگر وکیل نے فقیر کو دیتے وقت نیت نہیں کی ادا ہو گئی۔ یوہیں زکاة کا مال ذمی کو دیا کہ وہ فقیر کو دے دے اور ذمی کو دیتے وقت نیت کر لی تھی تو یہ نیت کافی ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۵۸ وکیل کو دیتے وقت کہا نفل صدقہ یا کفارہ ہے مگر قبل اس کے کہ وکیل فقیروں کو دے، اُس نے زکاة کی نیت کر لی تو زکاة ہی ہے، اگرچہ وکیل نے نفل یا کفارہ کی نیت سے فقیر کو دیا ہو۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۵۹ ایک شخص چند زکاة دینے والوں کا وکیل ہے اور سب کی زکاة ملا دی تو اُسے تاوان دینا پڑے گا اور جو کچھ فقیروں کو دے چکا ہے وہ تبرع ہے یعنی نہ مالکوں سے اس کا معاوضہ پائے گا نہ فقیروں سے، البتہ اگر فقیروں کو دینے سے پہلے مالکوں نے ملانے کی اجازت دے دی تو تاوان اس کے ذمہ نہیں۔ یوہیں اگر فقیروں نے بھی اسے زکاة لینے کا وکیل کیا اور اُس نے ملا دیا تو تاوان اس پر نہیں مگر اس وقت یہ ضرور ہے کہ اگر ایک فقیر کا وکیل ہے اور چند جگہ سے اسے اتنی زکاة ملی کہ مجموعہ بقدر نصاب ہے تو اب جو جان کر زکاة دے اس کی زکاة ادا نہ ہوگی یا چند فقیروں کا وکیل ہے اور زکاة اتنی ملی کہ ہر ایک کا حصہ نصاب کی قدر ہے تو اب اس وکیل کو زکاة دینا جائز نہیں مثلاً تین فقیروں کا وکیل ہے اور چھ سو درم ملے کہ ہر ایک کا حصہ دو سو ہو جو نصاب ہے اور چھ سو سے کم ملا تو کسی کو نصاب کی قدر نہ ملا اور اگر ہر ایک فقیر نے اسے علیحدہ علیحدہ وکیل بنایا تو مجموعہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ہر ایک کو جو ملا ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس صورت میں بغیر فقیروں کی اجازت کے ملانا جائز نہیں اور ملا دے گا جب بھی زکاة ادا ہو جائیگی اور فقیروں کو تاوان دے گا اور اگر فقیروں کا وکیل نہ ہو تو اسے دے سکتے ہیں اگرچہ کتنی ہی نصابیں اُس کے پاس جمع ہو گئیں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶۰ چند اوقاف کے متولی کو ایک کی آمدنی دوسری میں ملانا جائز نہیں۔ یوہیں دلال کو زرنٹن یا بیع کا خلط^(۴) جائز نہیں۔ یوہیں اگر چند فقیروں کے لیے سوال کیا تو جو ملا ہے اُن کی اجازت کے خلط کرنا جائز نہیں۔ یوہیں آنا پسینے والے کو یہ جائز نہیں کہ لوگوں کے گےہوں ملا دے، مگر جہاں ملا دینے پر عرف جاری ہو تو ملا دینا جائز ہے اور ان سب صورتوں میں تاوان دے گا۔^(۵) (خانہ)

① "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، ج ۳، ص ۲۲۲.

② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۳.

③ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۳.

④ یعنی دلال کو خریدی گئی چیز کی قیمت یا خریدی گئی چیز کا ملانا۔

⑤ "الفتاویٰ الحانیة"، کتاب الزکاة، فصل فی اداء الزکاة، ج ۱، ص ۱۲۵.

مسئلہ ۶۱ اگر مؤکلوں (۱) نے صراحتاً ملانے کی اجازت نہ دی مگر عرف ایسا جاری ہو گیا کہ وکیل ملا دیا کرتے ہیں تو یہ بھی اجازت سمجھی جائے گی، جب کہ مؤکل (۲) اس عرف سے واقف ہو، مگر دلال کو خلط کی اجازت نہیں کہ اس میں عرف نہیں۔ (۳)
(ردالمحتار)

مسئلہ ۶۲ وکیل کو اختیار ہے کہ مالِ زکاة اپنے لڑکے یا بی بی کو دیدے جب کہ یہ فقیر ہوں اور اگر لڑکا نابالغ ہے تو اُسے دینے کے لیے خود اس وکیل کا فقیر ہونا بھی ضروری ہے، مگر اپنی اولاد یا بی بی کو اس وقت دے سکتا ہے، جب مؤکل نے اُن کے سوا کسی خاص شخص کو دینے کے لیے نہ کہہ دیا ہو ورنہ انھیں نہیں دے سکتا۔ (۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶۳ وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ خود لے لے، ہاں اگر زکاة دینے والے نے یہ کہہ دیا ہو کہ جس جگہ چاہو صرف کرو تو لے سکتا ہے۔ (۵) (درمختار)

مسئلہ ۶۴ اگر زکاة دینے والے نے اسے حکم نہیں دیا، خود ہی اُس کی طرف سے زکاة دے دی تو نہ ہوئی اگرچہ اب اُس نے جائز کر دیا ہو۔ (۶) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶۵ زکاة دینے والے نے وکیل کو زکاة کا روپیہ دیا وکیل نے اُسے رکھ لیا اور اپنا روپیہ زکاة میں دے دیا تو جائز ہے، اگر یہ نیت ہو کہ اس کے عوض مؤکل کا روپیہ لے لے گا اور اگر وکیل نے پہلے اس روپیہ کو خود خرچ کر ڈالا بعد کو اپنا روپیہ زکاة میں دیا تو زکاة ادا نہ ہوئی بلکہ یہ تبرع ہے اور مؤکل کو تاوان دے گا۔ (۷) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶۶ زکاة کے وکیل کو یہ اختیار ہے کہ بغیر اجازت مالک دوسرے کو وکیل بنا دے۔ (۸) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶۷ کسی نے یہ کہا کہ اگر میں اس گھر میں جاؤں تو مجھ پر اللہ (عزوجل) کے لیے ان سو روپوں کا خیرات کر دینا ہے پھر گیا اور جاتے وقت یہ نیت کی کہ زکاة میں دے دوں گا تو زکاة میں نہیں دے سکتا۔ (۹) (عالمگیری)

① وکیل کرنے والوں۔ ② یعنی وہ شخص جو وکیل مقرر کرے۔ وکیل کرنے والا۔

③ "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۳۔

④ المرجع السابق، ص ۲۲۴۔

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، ج ۳، ص ۲۲۴۔

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۲۲۳۔

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، باب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۴۔

⑧ "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۴۔

⑨ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۱۔

مسئلہ ۶۸ زکاة کا مال ہاتھ پر رکھا تھا، فقر الوٹ لے گئے ادا ہو گئی اور اگر ہاتھ سے گر گیا اور فقیر نے اٹھا لیا اگر یہ اسے پہچانتا ہے اور راضی ہو گیا اور مال ضائع نہیں ہوا تو ہو گئی۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۹ امین کے پاس سے امانت ضائع ہو گئی، اس نے مالک کو دفع خصوصیت کے لیے کچھ روپے دے دیے اور دیتے وقت زکاة کی نیت کر لی اور مالک فقیر بھی ہے زکاة ادا نہ ہوئی۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۷۰ مال کو بہ نیت زکاة علیحدہ کر دینے سے بری الذمہ نہ ہوگا جب تک فقیروں کو نہ دیدے، یہاں تک کہ اگر وہ جاتا رہا تو زکاة ساقط نہ ہوئی اور اگر مر گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷۱ سال پورا ہونے پر کل نصاب خیرات کر دی، اگرچہ زکاة کی نیت نہ کی بلکہ نفل کی نیت کی یا کچھ نیت نہ کی زکاة ادا ہو گئی اور اگر کل فقیر کو دے دیا اور منت یا کسی اور واجب کی نیت کی تو دینا صحیح ہے، مگر زکاة اس کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوئی اور اگر مال کا کوئی حصہ خیرات کیا تو اس حصہ کی بھی زکاة ساقط نہ ہوگی، بلکہ اس کے ذمہ ہے اور اگر کل مال ہلاک ہو گیا تو کل کی زکاة ساقط^(۴) ہو گئی اور کچھ ہلاک ہوا تو جتنا ہلاک ہوا اس کی ساقط اور جو باقی ہے اس کی واجب، اگرچہ وہ بقدر نصاب نہ ہو۔ ہلاک کے یہ معنی ہیں کہ بغیر اس کے فعل کے ضائع ہو گیا، مثلاً چوری ہو گئی یا کسی کو قرض و عاریت دی اُس نے انکار کر دیا اور گواہ نہیں یا وہ مر گیا اور کچھ ترکہ میں نہ چھوڑا اور اگر اپنے فعل سے ہلاک کیا مثلاً صرف کر ڈالا یا پھینک دیا یا غنی کو بہہ کر دیا^(۵) تو زکاة بدستور واجب الادا ہے، ایک پیسہ بھی ساقط نہ ہوگا اگرچہ بالکل نادار ہو۔^(۶) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۷۲ فقیر پر اُس کا قرض تھا اور کل معاف کر دیا تو زکاة ساقط ہو گئی اور مجز معاف کیا تو اس جز کی ساقط ہو گئی اور اگر اس صورت میں یہ نیت کی کہ پورا زکاة میں ہو جائے تو نہ ہوگی اور اگر مالدار پر قرض تھا اور کل معاف کر دیا تو زکاة ساقط نہ ہوئی بلکہ اُس کے ذمہ ہے۔ فقیر پر قرض تھا معاف کر دیا اور یہ نیت کی کہ فلاں پر جو دین ہے یہ اُس کی زکاة ہے ادا نہ ہوئی۔^(۷) (عالمگیری، درمختار)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الثالث، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۸۳.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۱.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۵.

④ یعنی معاف۔

⑤ یعنی غنی کو تحفے میں دے دیا۔

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۱.

⑦ المرجع السابق.

مسئلہ ۴۳ کسی پر اُس کے روپے آتے ہیں، فقیر سے کہہ دیا اس سے وصول کر لے اور نیت زکاۃ کی کی بعد قبضہ ادا ہو گئی۔ فقیر پر قرض ہے اس قرض کو اپنے مال کی زکاۃ میں دینا چاہتا ہے یعنی یہ چاہتا ہے کہ معاف کر دے اور وہ میرے مال کی زکاۃ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اُسے زکاۃ کا مال دے اور اپنے آتے ہوئے میں لے لے، اگر وہ دینے سے انکار کرے تو ہاتھ پکڑ کر چھین سکتا ہے اور یوں بھی نہ ملے تو قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرے کہ اُس کے پاس ہے اور میرا نہیں دیتا۔^(۱) (در مختار وغیرہ)

مسئلہ ۴۴ زکاۃ کا روپیہ مُردہ کی تجہیز و تکفین^(۲) یا مسجد کی تعمیر میں نہیں صرف کر سکتے کہ تملیک فقیر نہیں پائی گئی اور ان امور میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں اور وہ صرف کرے اور ثواب دونوں کو ہوگا بلکہ حدیث میں آیا، ”اگر سو ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے لیے اور اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔“^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴۵ زکاۃ علانیہ اور ظاہر طور پر افضل ہے اور نفل صدقہ چھپا کر دینا افضل۔^(۴) (عالمگیری) زکاۃ میں اعلان اس وجہ سے ہے کہ چھپا کر دینے میں لوگوں کو تہمت اور بدگمانی کا موقع ملے گا، نیز اعلان اوروں کے لیے باعثِ ترغیب ہے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی دیں گے مگر یہ ضرور ہے کہ ریا نہ آنے پائے کہ ثواب جاتا رہے گا بلکہ گناہ و استحقاق عذاب ہے۔

مسئلہ ۴۶ زکاۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکاۃ کہہ کر دے، بلکہ صرف نیت زکاۃ کافی ہے یہاں تک کہ اگر ہبہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکاۃ کی ہو ادا ہو گئی۔^(۵) (عالمگیری) یوہیں نذر یا ہدیہ یا پان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی ادا ہو گئی۔ بعض محتاج ضرورت مند زکاۃ کا روپیہ نہیں لینا چاہتے، انھیں زکاۃ کہہ کر دیا جائے گا تو نہیں لیں گے لہذا زکاۃ کا لفظ نہ کہے۔

مسئلہ ۴۷ زکاۃ ادا نہیں کی تھی اور اب بیمار ہے تو وارثوں سے چھپا کر دے اور اگر نہ دی تھی اور اب دینا چاہتا ہے، مگر مال نہیں جس سے ادا کرے اور یہ چاہتا ہے کہ قرض لے کر ادا کرے تو اگر غالب گمان قرض ادا ہو جانے کا ہے تو بہتر یہ ہے

① ”الدر المختار“، کتاب الزکاۃ، ج ۳، ص ۲۲۶، وغیرہ۔

② یعنی کفنِ فن۔

③ ”ردالمحتار“، کتاب الزکاۃ، مطلب فی زکاۃ ثمن المبیع و فاء، ج ۳، ص ۲۲۷۔

”تاریخ بغداد“، رقم: ۳۵۶۸، ج ۷، ص ۱۳۵۔

④ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الزکاۃ، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۱۔

⑤ المرجع السابق۔

کہ قرض لے کر ادا کرے ورنہ نہیں کہ حق العبد حق اللہ سے سخت تر ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۷۸ مالکِ نصاب سال تمام سے پیشتر بھی ادا کر سکتا ہے، بشرطیکہ سال تمام پر بھی اس نصاب کا مالک رہے اور اگر ختم سال پر مالکِ نصاب نہ رہا یا اثنائے سال میں وہ مالِ نصاب بالکل ہلاک ہو گیا تو جو کچھ دیا نفل ہے اور جو شخص نصاب کا مالک نہ ہو، وہ زکاة نہیں دے سکتا یعنی آئندہ اگر نصاب کا مالک ہو گیا تو جو کچھ پہلے دیا ہے وہ اُس کی زکاة میں محسوب نہ ہوگا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷۹ مالکِ نصاب اگر پیشتر سے چند نصابوں کی زکاة دینا چاہے تو دے سکتا ہے یعنی شروع سال میں ایک نصاب کا مالک ہے اور دو یا تین نصابوں کی زکاة دے دی اور ختم سال پر جتنی نصابوں کی زکاة دی ہے اتنی نصابوں کا مالک ہو گیا تو سب کی ادا ہو گئی اور سال تمام تک ایک ہی نصاب کا مالک رہا، سال کے بعد اور حاصل کیا تو وہ زکاة اس میں محسوب نہ ہوگی۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸۰ مالکِ نصاب پیشتر سے چند سال کی بھی زکاة دے سکتا ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری) لہذا مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا زکاة میں دیتا رہے، ختم سال پر حساب کرے، اگر زکاة پوری ہو گئی فیہا اور کچھ کمی ہو تو اب فوراً دیدے، تاخیر جائز نہیں کہ نہ اُس کی اجازت کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرے، بلکہ جو کچھ باقی ہے کُل فوراً ادا کر دے اور زیادہ دے دیا ہے تو سال آئندہ میں مُجر کر دے۔⁽⁵⁾

مسئلہ ۸۱ ایک ہزار کا مالک ہے اور دو ہزار کی زکاة دی اور نیت یہ ہے کہ سال تمام تک اگر ایک ہزار اور ہو گئے تو یہ اس کی ہے، ورنہ سال آئندہ میں محسوب ہوگی یہ جائز ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸۲ یہ گمان کر کے کہ پانسو روپے ہیں، پانسو کی زکاة دی پھر معلوم ہوا کہ چار ہی سو تھے تو جو زیادہ دیا ہے، سال آئندہ میں محسوب کر سکتا ہے۔⁽⁷⁾ (خانہ)

① "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۸.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۶.

③ المرجع السابق.

④ المرجع السابق.

⑤ یعنی آئندہ سال میں اس کو شمار کر لے۔

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاة، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۶.

⑦ "الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الزکاة، فصل فی اداء الزکاة، ج ۱، ص ۱۲۶.

مسئلہ ۸۳ کسی کے پاس سونا چاندی دونوں ہیں اور سال تمام سے پہلے ایک کی زکاۃ دی تو وہ دونوں کی زکاۃ ہے یعنی درمیان سال میں ان میں سے ایک ہلاک ہو گیا، اگرچہ وہی جس کی نیت سے زکاۃ دی ہے تو جو رہ گیا ہے اُس کی زکاۃ یہ ہوگی اور اگر اس کے پاس گائے بکری اونٹ سب بقدر نصاب ہیں اور پیشتر سے ان میں ایک کی زکاۃ دی تو جس کی زکاۃ دی، اُسی کی ہے دوسرے کی نہیں یعنی جس کی زکاۃ دی ہے اگر اثنائے سال میں اُس کی نصاب جاتی رہی تو وہ باقیوں کی زکاۃ نہیں قرار دی جائے گی۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۸۴ اثنائے سال میں جس فقیر کو زکاۃ دی تھی، ختم سال پر وہ مالدار ہو گیا یا مر گیا یا معاذ اللہ مُرتد ہو گیا تو زکاۃ پر اُس کا کچھ اثر نہیں وہ ادا ہوگی، جس شخص پر زکاۃ واجب ہے اگر وہ مر گیا تو ساقط ہوگی یعنی اس کے مال سے زکاۃ دینا ضرور نہیں، ہاں اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال تک وصیت نافذ ہے اور اگر عاقل بالغ ورثہ اجازت دے دیں تو کل مال سے زکاۃ ادا کی جائے۔^(۲) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۸۵ اگر شک ہے کہ زکاۃ دی یا نہیں تو اب دے۔^(۳) (ردالمحتار)

سائمہ کی زکاۃ کا بیان

سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصہ میں چر کر گذر کرتا ہو اور اس سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا یا فرہ کرنا ہے۔^(۴) (تنویر) اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہوں یا مقصود بوجھ لادنا یا ہل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چر کر گذر کرتا ہو، وہ سائمہ نہیں اور اس کی زکاۃ واجب نہیں۔ یوہیں اگر گوشت کھانے کے لیے ہے تو سائمہ نہیں، اگرچہ جنگل میں چرتا ہو اور اگر تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں، بلکہ اس کی زکاۃ قیمت لگا کر ادا کی جائے گی۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱ چھ مہینے چرائی پر رہتا ہے اور چھ مہینے چارہ پاتا ہے تو سائمہ نہیں اور اگر یہ ارادہ تھا کہ اسے چارہ دیں گے یا اس سے کام لیں گے مگر کیا نہیں، یہاں تک کہ سال ختم ہو گیا تو زکاۃ واجب ہے اور اگر تجارت کے لیے تھا اور چھ مہینے یا زیادہ تک

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاۃ، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۷۶.

② المرجع السابق.

③ "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، مطلب فی زکاۃ ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۸.

④ "تنویر الأبصار"، کتاب الزکاۃ، باب السائمۃ، ج ۳، ص ۲۳۲.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب السائمۃ، ج ۳، ص ۲۳۳.

چرائی پر رکھا تو جب تک یہ نیت نہ کرے کہ یہ سائمہ ہے، فقط چرانے سے سائمہ نہ ہوگا۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ - تجارت کے لیے خریدا تھا پھر سائمہ کر دیا، تو زکاۃ کے لیے ابتدائے سال اس وقت سے ہے خریدنے کے وقت سے نہیں۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۳ - سال تمام سے پہلے سائمہ کو کسی چیز کے بدلے بیچ ڈالا، اگر یہ چیز اس قسم کی ہے جس پر زکاۃ واجب ہوتی ہے اور پہلے سے اس کی نصاب اس کے پاس موجود نہیں، تو اب اس کے لیے اُس وقت سے سال شمار کیا جائے گا۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۴ - وقف کے جانور اور جہاد کے گھوڑے کی زکاۃ نہیں۔ یوہیں اندھے یا ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے جانور کی زکاۃ نہیں، البتہ اندھا اگر چرائی پر رہتا ہے تو واجب ہے۔^(۴) یوہیں اگر نصاب میں کمی ہے اور اس کے پاس اندھا جانور ہے کہ اس کے ملانے سے نصاب پوری ہو جاتی ہے تو زکاۃ واجب ہے۔ (عالمگیری)

تین قسم کے جانوروں کی زکاۃ واجب ہے، جب کہ سائمہ ہوں۔

(۱) اونٹ۔

(۲) گائے۔

(۳) بکری۔

لہذا ان کی نصاب کی تفصیل بیان کرنے کے بعد دیگر احکام بیان کیے جائیں گے۔

اونٹ کی زکاۃ کا بیان

صحیحین میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”پانچ اونٹ سے کم میں

زکاۃ نہیں۔“^(۵) اور اس کی زکاۃ میں تفصیل صحیح بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے، جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔^(۶)

مسئلہ ۱ - پانچ اونٹ سے کم میں زکاۃ واجب نہیں اور جب پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں، مگر پچیس^{۲۵} سے کم ہوں تو ہر پانچ

①..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الزکاۃ، الباب الثانی فی صدقۃ السوائم، ج ۱، ص ۱۷۶۔

②..... ”تنویر الأبصار“ و ”الدرالمختار“، کتاب الزکاۃ، باب السائمۃ، ج ۳، ص ۲۳۵۔

③..... ”الدرالمختار“، کتاب الزکاۃ، باب السائمۃ، ج ۳، ص ۲۳۵۔

④..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الزکاۃ، باب السائمۃ، ج ۳، ص ۲۳۶۔

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاۃ، باب لیس فیما دون خمسۃ أو مسق صدقۃ، الحدیث: ۹۷۹، ص ۴۸۷۔

⑥..... ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاۃ، باب من بلغت عندہ صدقۃ... الخ، الحدیث: ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ج ۱، ص ۴۹۰۔

میں ایک بکری واجب ہے یعنی پانچ ہوں تو ایک بکری، دس ہوں تو دو، وعلیٰ ہذا القیاس۔⁽¹⁾ (عامہ مکتب)

مسئلہ ۲ - زکاۃ میں جو بکری دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو بکری دیں یا بکر اس کا اختیار ہے۔⁽²⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۳ - دو نصابوں کے درمیان میں جو ہوں وہ عفو ہیں یعنی اُن کی کچھ زکاۃ نہیں، مثلاً سات آٹھ ہوں، جب بھی

وہی ایک بکری ہے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴ - پچیس اونٹ ہوں تو ایک بنت مخاض یعنی اونٹ کا بچہ مادہ جو ایک سال کا ہو چکا، دوسری برس میں ہو۔

پینتیس^{۳۵} تک یہی حکم ہے یعنی وہی بنت مخاض دیں گے۔ چھتیس^{۳۶} سے پینتالیس^{۳۵} تک میں ایک بنت لبون یعنی اونٹ کا مادہ بچہ جو دو

سال کا ہو چکا اور تیسری برس میں ہے۔ چھیالیس^{۶۰} سے ساٹھ تک میں جھہ یعنی اونٹنی جو تین برس کی ہو چکی چوتھی میں ہو۔ اکٹھ^{۶۱} سے

پچھتر تک جذع یعنی چار سال کی اونٹنی جو پانچویں میں ہو۔ چھتر^{۹۰} سے نو^{۹۱} تک میں دو بنت لبون۔ اکانو^{۹۱} سے ایک سو بیس^{۱۲۰} تک

میں دو جھہ۔ اس کے بعد ایک سو پینتالیس^{۱۳۵} تک دو جھہ اور ہر پانچ میں ایک بکری، مثلاً ایک سو پچیس^{۱۳۵} میں دو جھہ ایک بکری اور

ایک سو تیس^{۱۴۰} میں دو جھہ دو بکریاں،⁽⁴⁾ وعلیٰ ہذا القیاس⁽⁵⁾۔ پھر ایک سو پچاس^{۱۵۰} میں تین جھہ اگر اس سے زیادہ ہوں تو ان میں ویسا

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثانی فی صدقۃ السوائم، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۷۷۔

② "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب نصاب الابل، ج ۳، ص ۲۳۸۔

③ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب نصاب الابل، ج ۳، ص ۲۳۸۔

④ مزید آسانی کے لیے ذیل کا نقشہ ملاحظہ کیجئے: **اونٹ کا نصاب**

شرح زکاۃ	تعداد جن پر زکاۃ واجب ہے
ایک بکری	۵ سے ۹ تک
دو بکریاں	۱۰ سے ۱۳ تک
تین بکریاں	۱۵ سے ۱۹ تک
چار بکریاں	۲۰ سے ۲۳ تک
ایک سال کی اونٹنی	۲۵ سے ۳۵ تک
دو سال کی اونٹنی	۳۶ سے ۳۵ تک
تین سال کی اونٹنی	۳۶ سے ۶۰ تک
چار سال کی اونٹنی	۶۱ سے ۷۵ تک
دو دو سال کی دو اونٹنیاں	۷۶ سے ۹۰ تک
تین، تین سال کی دو اونٹنیاں	۹۱ سے ۱۲۰ تک

⑤ یعنی ایک سو پینتیس^{۱۳۵} میں دو جھہ تین بکریاں، ایک سو چالیس^{۱۴۰} میں دو جھہ چار بکریاں اور ایک سو پینتالیس^{۱۳۵} میں دو جھہ اور ایک بنت مخاض۔

ہی کریں جیسا شروع میں کیا تھا یعنی ہر پانچ میں ایک بکری اور پچیس^{۲۵} میں بنتِ مخاض، چھتیس^{۳۶} میں بنتِ لبون، یہ ایک سو چھیاسی^{۱۸۶} بلکہ ایک سو پچانوے تک کا حکم ہو گیا یعنی اتنے میں تین ہتھ اور ایک بنتِ لبون۔ پھر ایک سو چھیانوے سے دو سو تک چار ہتھ اور یہ بھی اختیار ہے کہ پانچ بنتِ لبون دے دیں۔ پھر دو سو کے بعد وہی طریقہ برتیں، جو ایک سو پچاس کے بعد ہے یعنی ہر پانچ میں ایک بکری، پچیس^{۲۵} میں بنتِ مخاض، چھتیس^{۳۶} میں بنتِ لبون۔ پھر دو سو چھیالیس سے دو سو پچاس تک پانچ ہتھ و علیٰ ہذا القیاس۔^(۱)

(عامہ مکتب)

مسئلہ ۵ - اونٹ کی زکاة میں جس موقع پر ایک یا دو یا تین یا چار سال کا اونٹ کا بچہ دیا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادہ ہو، نہ دین تو مادہ کی قیمت کا ہو ورنہ نہیں لیا جائے گا۔^(۲) (در مختار)

گائے کی زکاة کا بیان

ابوداؤد و ترمذی و نسائی و دارمی و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو یہ فرمایا: کہ ”ہر تیس گائے سے ایک تبیح یا تبیحہ لیں اور ہر چالیس میں ایک مسن یا مسنہ۔“^(۳) اور اسی کے مثل ابوداؤد کی دوسری روایت امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کام کرنے والے جانور کی زکاة نہیں۔^(۴)

مسئلہ ۱ - تیس سے کم گائے ہوں تو زکاة واجب نہیں، جب تیس پوری ہوں تو ان کی زکاة ایک تبیح یعنی سال بھر کا پھڑایا تبیحہ یعنی سال بھر کی پچھیا ہے اور چالیس ہوں تو ایک مسن یعنی دو سال کا پھڑایا مسنہ یعنی دو سال کی پچھیا، انسٹھ تک یہی حکم ہے۔ پھر ساٹھ میں دو تبیح یا تبیحہ پھر ہر تیس میں ایک تبیح یا تبیحہ اور ہر چالیس میں ایک مسن یا مسنہ، مثلاً ستر میں ایک تبیح اور ایک مسن اور اسی^۸ میں دو مسن^۵، و علیٰ ہذا القیاس۔ اور جس جگہ تیس اور چالیس دونوں ہو سکتے ہوں وہاں، اختیار ہے کہ تبیح

① ”تبیین الحقائق“، کتاب الزکاة، باب صدقة السوائم، ج ۲، ص ۳۴.

و ”الدر المختار“ و ”رد المحتار“، کتاب الزکاة، باب نصاب الابل، ج ۳، ص ۲۳۸ - ۲۴۰، وغیرہما.

② ”الدر المختار“، کتاب الزکاة، باب نصاب الابل، ج ۳، ص ۲۴۰.

③ ”سنن أبي داود“، کتاب الزکاة، باب في زكاة السائمة، الحديث: ۱۵۷۶، ج ۲، ص ۱۴۵.

④ ”سنن أبي داود“، کتاب الزکاة، باب في زكاة السائمة، الحديث: ۱۵۷۲، ج ۲، ص ۱۴۲.

⑤ مزید آسانی کے لیے ذیل کا نقشہ ملاحظہ کیجئے: گائے کا نصاب

شرح زکاة	تعداد جن پر زکاة واجب ہے
ایک سال کا پھڑایا پچھیا	۳۰ سے ۳۹ تک

زکاۃ میں دیں یا مُسن، مثلاً ایک سو بیس میں اختیار ہے کہ چار تہج دیں یا تین مُسن۔^(۱) (عامہ کتب)

مسئلہ ۲ - بھینس گائے کے حکم میں ہے اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو زکاۃ میں ملا دی جائیں گی، مثلاً بیس گائے ہیں اور دس بھینس تو زکاۃ واجب ہوگئی اور زکاۃ میں اس کا بچہ لیا جائے جو زیادہ ہو یعنی گائیں زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور بھینس زیادہ ہوں تو بھینس کا اور اگر کوئی زیادہ نہ ہو تو زکاۃ میں وہ لیس جو اعلیٰ سے کم ہو اور ادنیٰ سے اچھا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - گائے بھینس کی زکاۃ میں اختیار ہے کہ نر لیا جائے یا مادہ، مگر افضل یہ ہے کہ گائیں زیادہ ہوں تو بچھیا اور نر زیادہ ہوں تو بچھڑا۔^(۳) (عالمگیری)

بکریوں کی زکاۃ کا بیان

صحیح بخاری شریف میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انھیں بحرین بھیجا تو فرانس صدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے لکھ کر دیے، ان میں بکری کی نصاب کا بھی بیان ہے اور یہ کہ زکاۃ میں نہ بوڑھی بکری دی جائے، نہ عیب والی نہ بکرا۔

ہاں اگر مصدق (صدقہ وصول کرنے والا) چاہے تو لے سکتا ہے۔^(۴) اور زکاۃ کے خوف سے نہ متفرق کو جمع کریں نہ مجتمع کو متفرق کریں۔

مسئلہ ۱ - چالینس سے کم بکریاں ہوں تو زکاۃ واجب نہیں اور چالینس ہوں تو ایک بکری اور یہی حکم ایک سو بیس تک ہے

پورے دو سال کا بچھڑا یا بچھیا	۳۰ سے ۵۹ تک
ایک ایک سال کے دو بچھڑے یا بچھیاں	۶۰ سے ۶۹ تک
ایک سال کا بچھڑا یا بچھیا اور ایک دو سال کا بچھڑا	۷۰ سے ۷۹ تک
دو سال کے دو بچھڑے	۸۰ سے ۸۹ تک

① "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ البقر، ج ۳، ص ۲۴۱.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثانی فی صدقۃ السوائم، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۱۷۸.

③ المرجع السابق.

④ "صحیح البخاری"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ الغنم، الحدیث: ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ج ۱، ص ۴۹۰.

یعنی ان میں بھی وہی ایک بکری ہے اور ایک سوا کیس میں دو اور دو سوا ایک میں تین اور چار سو میں چار پھر ہر سو پر ایک (1) اور جو دو نصابوں کے درمیان میں ہے معاف ہے۔ (2) (عامہ کتب)

مسئلہ ۲ - زکاۃ میں اختیار ہے کہ بکری دے یا بکرا، جو کچھ ہو یہ ضرور ہے کہ سال بھر سے کم کا نہ ہو، اگر کم کا ہو تو قیمت کے حساب سے دیا جاسکتا ہے۔ (3) (درمختار)

مسئلہ ۳ - بھیڑ ذنب بکری میں داخل ہیں، کہ ایک سے نصاب پوری نہ ہوتی ہو تو دوسری کو ملا کر پوری کریں اور زکاۃ میں بھی ان کو دے سکتے ہیں مگر سال سے کم کے نہ ہوں۔ (4) (درمختار)

مسئلہ ۴ - جانوروں میں نسب ماں سے ہوتا ہے، تو اگر ہرن اور بکری سے بچہ پیدا ہوا تو بکریوں میں شمار ہوگا اور نصاب میں اگر ایک کی کمی ہے تو اُسے ملا کر پوری کریں گے، بکرے اور ہرنی سے ہے تو نہیں۔ یوہیں نیل گائے اور نیل سے ہے تو گائے نہیں اور نیل گائے نر اور گائے سے ہے تو گائے ہے۔ (5) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۵ - جن جانوروں کی زکاۃ واجب ہے وہ کم سے کم سال بھر کے ہوں، اگر سب ایک سال سے کم کے بچے ہوں تو زکاۃ واجب نہیں اور اگر ایک بھی اُن میں سال بھر کا ہو تو سب اسی کے تابع ہیں، زکاۃ واجب ہو جائے گی، یعنی مثلاً بکری کے چالیس بچے سال بھر سے کم کے خریدے تو وقت خریداری سے ایک سال پر زکاۃ واجب نہیں کہ اس وقت قابل نصاب نہ تھے بلکہ اُس وقت سے سال لیا جائے گا کہ ان میں کا کوئی سال بھر کا ہو گیا۔ یوہیں اگر اس کے پاس بقدر نصاب بکریاں تھیں اور چھ

① مزید آسانی کے لیے ذیل کا نقشہ ملاحظہ کیجئے: **بکری کا نصاب**

تعداد جن پر زکاۃ فرض ہے	شرح زکاۃ
۳۰ سے ۱۳۰ تک	ایک بکری
۱۳۱ سے ۲۰۰ تک	دو بکریاں
۲۰۱ سے ۳۹۹ تک	تین بکریاں
۴۰۰ سے ۳۹۹ تک	چار بکریاں
پھر ہر سو پر	ایک بکری کا اضافہ

② "تنویر الأبصار" و "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ الغنم، ج ۳، ص ۲۴۳.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثانی فی صدقۃ السوائم، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۱۷۸.

③ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ الغنم، ج ۳، ص ۲۴۳.

④ المرجع السابق، ص ۲۴۲.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثانی فی صدقۃ السوائم، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۱۷۸، وغیرہ.

مہینے گزرنے کے بعد اُن کے چالینس بچے ہوئے پھر بکریاں جاتی رہیں، بچے باقی رہ گئے تو اب سال تمام پر یہ بچے قابلِ نصاب نہیں، لہذا زکاة واجب نہیں۔^(۱) (جوہرہ)

مسئلہ ۶ - اگر اُس کے پاس اونٹ، گائیں، بکریاں سب ہیں مگر نصاب سے سب کم ہیں یا بعض تو نصاب پوری کرنے کے لیے خلط نہ کریں گے اور زکاة واجب نہ ہوگی۔^(۲) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۷ - زکاة میں متوسط درجہ کا جانور لیا جائے گا چن کر عمدہ نہ لیں، ہاں اُس کے پاس سب اچھے ہی ہوں تو وہی لیں اور گا بھن اور وہ جانور نہ لیں جسے کھانے کے لیے فر بہ کیا ہو، نہ وہ مادہ لیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نہ بکرا لیا جائے۔^(۳) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - جس عمر کا جانور دینا واجب آیا وہ اس کے پاس نہیں اور اس سے بڑھ کر موجود ہے تو وہ دے دے اور جو زیادتی ہو واپس لے، مگر صدقہ وصول کرنے والے پر لے لینا واجب نہیں اگر نہ لے اور اُس جانور کو طلب کرے جو واجب آیا یا اس کی قیمت تو اُسے اس کا اختیار ہے جس عمر کا جانور واجب ہو وہ نہیں ہے اور اس سے کم عمر کا ہے تو وہی دیدے اور جو کمی پڑے اُس کی قیمت دے یا واجب کی قیمت دیدے دونوں طرح کر سکتا ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ - گھوڑے، گدھے، خچر اگر چہ چرائی پر ہوں ان کی زکاة نہیں، ہاں اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان کی قیمت لگا کر اُس کا چالیسواں حصہ زکاة میں دیں۔^(۵) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۰ - دو نصابوں کے درمیان جو عنفو ہے اس کی زکاة نہیں ہوتی یعنی بعد سال تمام اگر وہ عنفو ہلاک ہو جائے تو زکاة میں کوئی کمی نہ ہوگی اور واجب ہونے کے بعد نصاب ہلاک ہوگئی تو اس کی زکاة بھی ساقط ہوگئی اور ہلاک پہلے عنفو کی طرف پھیریں گے، اس سے بچے تو اُس کے متصل جو نصاب ہے اس کی طرف پھر بھی بچے تو اسکے بعد و علیٰ ہذا القیاس۔ مثلاً اسی^۸ بکریاں تھیں چالینس مرگئیں تو اب بھی ایک بکری واجب رہی کہ چالینس کے بعد دوسرا چالینس عنفو ہے اور چالینس اونٹ میں پندرہ مرگئے تو بختِ محض واجب ہے کہ چالینس میں چار عنفو ہیں وہ نکالے، اس کے بعد چھتیس^۹ کی نصاب ہے وہ بھی کافی نہیں، لہذا گیارہ اور نکالے،

① "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الزکاة، باب زکاة الخیل، ص ۱۵۴.

② "تنویر الأبصار" و "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، باب زکاة المال، ج ۳، ص ۲۸۰. وغیرہ

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، ج ۳، ص ۲۵۱.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الثانی فی صدقۃ السوائم، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۷۷.

⑤ "تنویر الأبصار" و "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، ج ۳، ص ۲۴۴، وغیرہ.

پچیس رہے ان میں بہت مخاض کا حکم ہے بس یہی دیں گے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۱۱ دو بکریاں زکاة میں واجب ہوئیں اور ایک فرہ بکری دی جو قیمت میں دو کی برابر ہے زکاة ادا ہوگئی۔⁽²⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۱۲ سال تمام کے بعد مالک نصاب نے نصاب خود ہلاک کر دی تو زکاة ساقط نہ ہوگی، مثلاً جانور کو چار پانی نہ دیا گیا کہ مر گیا زکاة دینی ہوگی۔ یوہیں اگر اُس کا کسی پر قرض تھا اور وہ مقروض مالدار ہے سال تمام کے بعد اس نے معاف کر دیا تو یہ ہلاک کرنا ہے، لہذا زکاة دے اور اگر وہ نادار تھا اور اس نے معاف کر دیا تو ساقط ہوگئی۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۳ مالک نصاب نے سال تمام کے بعد قرض دے دیا یا عاریت دی یا مال تجارت کو مال تجارت کے بدلے بیچا اور جس کو دیا تھا اُس نے انکار کر دیا اور اُس کے پاس ثبوت نہیں یا وہ مر گیا اور ترکہ نہ چھوڑا تو یہ ہلاک کرنا نہیں، لہذا زکاة ساقط ہوگئی۔ اور اگر سال تمام کے بعد مال تجارت کو غیر مال تجارت کے عوض بیچ ڈالا یعنی اس کے بدلے میں جو چیز لی اُس سے تجارت مقصود نہیں، مثلاً خدمت کے لیے غلام یا پہننے کے لیے کپڑے خریدے یا سائمنہ کو سائمنہ کے بدلے بیچا اور جس کے ہاتھ بیچا اُس نے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ نہیں یا وہ مر گیا اور ترکہ نہ چھوڑا تو یہ ہلاک نہیں بلکہ ہلاک کرنا ہے، لہذا زکاة واجب ہے۔ سال تمام کے بعد مال تجارت کو عورت کے مہر میں دے دیا یا عورت نے اپنی نصاب کے بدلے شوہر سے خلع لیا تو زکاة دینی ہوگی۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۱۴ اس کے پاس روپے اشرفیاں تھیں جن پر سال گزرا مگر ابھی زکاة نہیں دی، ان کے بدلے تجارت کے لیے کوئی چیز خریدی اور یہ چیز ہلاک ہوگئی تو زکاة ساقط ہوگئی مگر جب کہ اتنی گراں⁽⁵⁾ خریدی کہ اتنے نقصان کے ساتھ لوگ نہ خریدتے ہوں تو اُس کی اصلی قیمت پر جو کچھ زیادہ دیا ہے، اس کی زکاة ساقط نہ ہوگی کہ وہ ہلاک کرنا ہے اور اگر تجارت کے لیے نہ ہو، مثلاً خدمت کے لیے غلام خریدا، وہ مر گیا تو اس روپے کی زکاة ساقط نہ ہوگی۔⁽⁶⁾ (ردالمختار)

مسئلہ ۱۵ بادشاہ اسلام نے اگرچہ ظالم یا باغی ہو، سائمنہ کی زکاة لے لی یا عشر وصول کر لیا اور انھیں محل پر صرف کیا تو

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، ج ۳، ص ۲۴۶، وغیرہما.

② "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الزکاة، باب زکاة الذهب، الجزء الاول، ص ۱۵۹.

③ "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، ج ۳، ص ۲۴۷.

④ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، ج ۳، ص ۲۴۸ - ۲۵۰.

⑤ یعنی مہنگی۔

⑥ "ردالمختار"، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، ج ۳، ص ۲۴۸.

اعادہ کی حاجت نہیں اور محل پر صرف نہ کیا تو اعادہ کیا جائے اور خرچ لے لیا تو مطلقاً اعادہ کی حاجت نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۶ - مُصَدَّق (زکاة وصول کرنے والے) کے سامنے سائمنج ڈالا تو مُصَدَّق کو اختیار ہے چاہے بقدر زکاة اس میں سے قیمت لے لے اور اس صورت میں بیع تمام ہوگئی اور چاہے جو جانور واجب ہو وہ لے لے اور اس وقت جو لیا اس کے حق میں بیع باطل ہوگی اور اگر مُصَدَّق وہاں موجود نہ تھا بلکہ اس وقت آیا کہ مجلس عقد سے وہ دونوں جدا ہو گئے تو اب جانور نہیں لے سکتا، جو جانور واجب ہوا، اُس کی قیمت لے لے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ - جس غلہ پر عشر واجب ہوا اُسے بیع ڈالا تو مُصَدَّق کو اختیار ہے چاہے بائع⁽³⁾ سے اس کی قیمت لے لے یا مشتری⁽⁴⁾ سے اُتَاغَلَّہ واپس لے، بیع اس کے سامنے ہوئی ہو یا دونوں کے جدا ہونے کے بعد مُصَدَّق آیا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ - اسی^۱ بکریاں ہیں تو ایک بکری زکاة کی ہے، یہ نہیں کیا جاسکتا کہ چالینس^۲ چالینس کے دو گروہ کر کے دو زکاة میں لیں اور اگر دو شخصوں کی چالینس^۳ چالینس بکریاں ہیں تو یہ نہیں کر سکتے کہ انھیں جمع کر کے ایک گروہ کر دیں کہ ایک ہی بکری زکاة میں دینی پڑے، بلکہ ہر ایک سے ایک ایک لی جائے گی۔ یوں اگر ایک کی انتالیس^۴ ہیں اور ایک کی چالینس^۵ تو انتالیس^۶ والے سے کچھ نہ لیں گے، غرض نہ مجتمع کو متفرق کریں گے، نہ متفرق کو مجتمع۔⁽⁶⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۹ - مویشی میں شرکت سے زکاة پر کچھ اثر نہیں پڑتا، خواہ وہ کسی قسم کی ہو۔ اگر ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب ہے تو دونوں پر پوری پوری زکاة واجب اور ایک کا حصہ بقدر نصاب ہے دوسرے کا نہیں تو اس پر واجب ہے، اس پر نہیں مثلاً ایک کی چالینس^۱ بکریاں ہیں دوسرے کی تیس^۲ تو چالیس^۳ والے پر ایک بکری تیس^۴ والے پر کچھ نہیں اگر اور کسی کی بقدر نصاب نہ ہوں مگر مجموعہ بقدر نصاب ہے تو کسی پر کچھ نہیں۔⁽⁷⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۰ - اسی^۱ بکریوں میں اکاشی شریک^۲ ہیں، یوں کہ ایک شخص ہر بکری میں نصف کا مالک ہے اور ہر بکری کے دوسرے نصف کا ان میں سے ایک ایک شخص مالک ہے تو اُس کے سب حصوں کا مجموعہ چالینس^۳ کے برابر ہوا اور یہ سب صرف

① "الدرالمختار" کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، ج ۳، ص ۲۵۵.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الثالث، فی زکاة الذهب والفضة والعروض مسائل شتی، ج ۱، ص ۱۸۱.

③ یعنی فروخت کرنے والے۔

④ یعنی خریدنے والے۔

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الثالث، فی زکاة الذهب والفضة والعروض مسائل شتی، ج ۱، ص ۱۸۱.

⑥ المرجع السابق، وغیرہ.

⑦ المرجع السابق.

آدھی آدھی بکری کے حصہ دار ہوئے، مگر زکاۃ کسی پر نہیں۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۲۱ شرکت کی مویشی میں زکاۃ دی گئی تو ہر ایک پر اُس کے حصہ کی قدر ہے، جو کچھ حصہ سے زائد گیا وہ شریک سے واپس لے، مثلاً ایک کی اکتالیس بکریاں ہیں، دوسرے کی بیاسی^{۸۲} کل ایک سو تینیس^{۱۳۳} ہوئیں اور دو زکاۃ میں لی گئیں، یعنی ہر ایک سے ایک مگر چونکہ ایک ایک تہائی کا شریک ہے اور دوسرا دو کا، لہذا ہر بکری میں دو تہائی والے کی دو تہائیاں گئیں، جن کا مجموعہ ایک تہائی اور ایک بکری ہے اور ایک تہائی والے کی ہر بکری میں ایک ہی تہائی گئی کہ مجموعہ دو تہائیاں ہو اور اُس پر واجب ایک بکری ہے، لہذا دو تہائیوں والا ایک تہائی والے سے تہائی لینے کا مستحق ہے اور اگر کل اسی^{۸۲} بکریاں ہیں، ایک دو تہائی کا شریک ہے، دوسرا ایک تہائی کا اور زکاۃ میں ایک بکری لی گئی تو تہائی کا حصہ دار اپنے شریک سے تہائی بکری کی قیمت لے کہ اس پر زکاۃ واجب نہیں۔^(۲) (ردالمحتار)

سونے چاندی مال تجارت کی زکاۃ کا بیان

حدیث ۱ سنن ابی داؤد و ترمذی میں امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”گھوڑے اور لوٹڈی غلام کی زکاۃ میں نے معاف فرمائی تو اب چاندی کی زکاۃ ہر چالیس درہم سے ایک درہم ادا کرو، مگر ایک سونوے میں کچھ نہیں، جب دو سو درہم ہوں تو پانچ درہم دو۔“^(۳)

حدیث ۲ ابوداؤد کی دوسری روایت انھیں سے یوں ہے، کہ ہر چالیس درہم سے ایک درہم ہے، مگر جب تک دو سو درہم پورے نہ ہوں کچھ نہیں جب دو سو پورے ہوں تو پانچ درہم اور اس سے زیادہ ہوں تو اسی حساب سے دیں۔^(۴)

حدیث ۳ ترمذی شریف میں بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی، کہ دو عورتیں حاضر خدمت اقدس ہوئیں، اُن کے ہاتھوں میں سونے کے نگن تھے، ارشاد فرمایا: ”تم اس کی زکاۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا: تو کیا تم اُسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے نگن پہنائے، عرض کی نہ۔ فرمایا: تو اس کی زکاۃ ادا کرو۔“^(۵)

حدیث ۴ امام مالک و ابوداؤد و ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں فرماتی ہیں: میں سونے کے

① ”الدرالمختار“، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ المال، ج ۳، ص ۲۸۱۔

② ”ردالمحتار“، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ المال، ج ۳، ص ۲۸۰۔

③ ”جامع الترمذی“، أبواب الزکاۃ، باب ما جاء فی زکاۃ الذهب والورق، الحدیث: ۶۲۰، ج ۲، ص ۱۲۲۔

④ ”سنن أبی داؤد“، کتاب الزکاۃ، باب فی زکاۃ السائمة، الحدیث: ۱۵۷۲، ج ۲، ص ۱۴۲۔

⑤ ”جامع الترمذی“، أبواب الزکاۃ، باب ما جاء فی زکاۃ الحلی، الحدیث: ۶۳۷، ج ۲، ص ۱۳۲۔

زیور پہنا کرتی تھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کیا یہ کنز ہے (جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعید آئی)؟ ارشاد فرمایا: ”جو اس حد کو پہنچے کہ اس کی زکاۃ ادا کی جائے اور ادا کر دی گئی تو کنز نہیں۔“ (1)

حدیث ۵ — امام احمد باسناد حسن اسما بنت یزید سے راوی، کہتی ہیں۔ میں اور میری خالہ حاضر خدمت اقدس ہوئیں اور ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا: ”اس کی زکاۃ دیتی ہو، عرض کی نہیں۔ فرمایا: کیا ڈرتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے، اس کی زکاۃ ادا کرو۔“ (2)

حدیث ۶ — ابو داؤد و سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم دیا کرتے کہ ”جس کو ہم بیع (تجارت) کے لیے مہیا کریں، اس کی زکاۃ نکالیں۔“ (3)

مسئلہ ۱ — سونے کی نصاب میں مشقال ہے یعنی ساڑھے سات تولے اور چاندی کی دو سو درم یعنی ساڑھے باون تولے یعنی وہ تولہ جس سے یہ رانج روپیہ سوا گیارہ ماشے ہے۔ سونے چاندی کی زکاۃ میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کا لحاظ نہیں، مثلاً سات تولے سونے یا کم کا زیور یا برتن بنا ہو کہ اس کی کاریگری کی وجہ سے دو سو درم سے زائد قیمت ہو جائے یا سونا گراں ہو کہ ساڑھے سات تولے سے کم کی قیمت دو سو درم سے بڑھ جائے، جیسے آج کل کہ ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت چاندی کی کئی نصابیں ہوں گی، غرض یہ کہ وزن میں بقدر نصاب نہ ہو تو زکاۃ واجب نہیں قیمت جو کچھ بھی ہو۔ یوں سونے کی زکاۃ میں سونے اور چاندی کی زکاۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی تو اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ وزن کا اگرچہ اس میں بہت کچھ صنعت ہو جس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی یا فرض کر دس آنے بھری چاندی بک رہی ہے اور زکاۃ میں ایک روپیہ دیا جو سولہ آنے کا قرار دیا جاتا ہے تو زکاۃ ادا کرنے میں وہ یہی سمجھا جائے گا کہ سوا گیارہ ماشے چاندی دی، یہ چھ آنے بلکہ کچھ اُوپر جو اس کی قیمت میں زائد ہیں لغو ہیں۔ (4) (در مختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ — یہ جو کہا گیا کہ ادائے زکاۃ میں قیمت کا اعتبار نہیں، یہ اسی صورت میں ہے کہ اُس کی جنس کی زکاۃ اُسی جنس سے ادا کی جائے اور اگر سونے کی زکاۃ چاندی سے یا چاندی کی سونے سے ادا کی تو قیمت کا اعتبار ہوگا، مثلاً سونے کی زکاۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت ایک اشرفی ہے تو ایک اشرفی دینا قرار پائے گا، اگرچہ وزن میں اس کی چاندی پندرہ روپے

① ”سنن أبي داود“، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلبي، الحديث: ١٥٦٤، ج ٢، ص ١٣٧.

② ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، من حديث أسماء ابنة يزيد، الحديث: ٢٧٦٨٥، ج ١٠، ص ٤٤٦.

③ ”سنن أبي داود“، كتاب الزكاة، باب العروض اذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟، الحديث: ١٥٦٢، ج ٢، ص ١٣٦.

④ ”الدر المختار“ و ”ردالمحتار“، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ج ٣، ص ٢٦٧ - ٢٧٠.

بھر بھی نہ ہو۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ سونا چاندی جب کہ بقدر نصاب ہوں تو ان کی زکاۃ چالیسواں حصہ ہے، خواہ وہ ویسے ہی ہوں یا ان کے سکے جیسے روپے اشرفیاں یا ان کی کوئی چیز بنی ہوئی خواہ اس کا استعمال جائز ہو جیسے عورت کے لیے زیور، مرد کے لیے چاندی کی ایک نگ کی ایک انگوٹھی ساڑھے چار ماشے سے کم کی یا سونے چاندی کے بلا زنجیر کے بٹن یا استعمال نا جائز ہو جیسے چاندی سونے کے برتن، گھڑی، سُرمہ دانی، سلوائی کہ ان کا استعمال مرد و عورت سب کے لیے حرام ہے یا مرد کے لیے سونے چاندی کا جھلا یا زیور یا سونے کی انگوٹھی یا ساڑھے چار ماشے سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی یا چند انگوٹھیاں یا کئی نگ کی ایک انگوٹھی، غرض جو کچھ ہو زکاۃ سب کی واجب ہے، مثلاً $\frac{1}{4}$ تولہ سونا ہے تو دو ماشہ زکاۃ واجب ہے یا $\frac{1}{5}$ تولہ ۶ ماشہ چاندی ہے تو ایک تولہ ۳ ماشہ رتی۔^(۲) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۴ سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو، جس کی قیمت سونے چاندی کی نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکاۃ واجب ہے یعنی قیمت کا چالیسواں حصہ اور اگر اسباب کی قیمت تو نصاب کو نہیں پہنچتی مگر اس کے پاس ان کے علاوہ سونا چاندی بھی ہے تو ان کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کریں، اگر مجموعہ نصاب کو پہنچا زکاۃ واجب ہے اور اسباب تجارت کی قیمت اُس سے لگائیں جس کا رواج وہاں زیادہ ہو، جیسے ہندوستان میں روپیہ کا زیادہ چلن ہے، اسی سے قیمت لگائی جائے اور اگر کہیں سونے چاندی دونوں کے سکوں کا یکساں چلن ہو تو اختیار ہے جس سے چاہیں قیمت لگائیں، مگر جب کہ روپے سے قیمت لگائیں تو نصاب نہیں ہوتی اور اشرفی سے ہو جاتی ہے یا بالعکس تو اسی سے قیمت لگائی جائے جس سے نصاب پوری ہو اور اگر دونوں سے نصاب پوری ہوتی ہے مگر ایک سے نصاب کے علاوہ نصاب کا پانچواں حصہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرے سے نہیں تو اس سے قیمت لگائیں جس سے ایک نصاب اور نصاب کا پانچواں حصہ ہو۔^(۳) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۵ نصاب سے زیادہ مال ہے تو اگر یہ زیادتی نصاب کا پانچواں حصہ ہے تو اس کی زکاۃ بھی واجب ہے، مثلاً دو سو چالیس درم یعنی ۶۳ تولہ چاندی ہو تو زکاۃ میں چھ درم واجب، یعنی ایک تولہ ۶ ماشہ $\frac{1}{5}$ رتی یعنی ۵۲ تولہ ۶ ماشہ کے بعد ہر ۱۰ تولہ ۶ ماشہ پر ۳ ماشہ $\frac{1}{5}$ رتی بڑھائیں اور سونا تو تولہ ہو تو دو ماشہ ۵ $\frac{3}{5}$ رتی یعنی ۷ تولہ ۶ ماشہ کے بعد ہر ایک تولہ ۶ ماشہ پر ۳ $\frac{3}{5}$ رتی بڑھائیں اور پانچواں حصہ نہ ہو تو معاف یعنی مثلاً نو تولہ سے ایک رتی کم اگر سونا ہے تو زکاۃ وہی ۷ تولہ ۶ ماشہ

① "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ المال، ج ۳، ص ۲۷۰.

② "الدر المختار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ المال، ج ۳، ص ۲۷۰، وغیرہ.

③ المرجع السابق، ص ۲۷۰ - ۲۷۲، وغیرہ.

کی واجب ہے یعنی ۲ ماشہ۔ یوہیں چاندی اگر ۶۳ تولہ سے ایک رتی بھی کم ہے تو زکاۃ وہی ۵۲ تولہ ۶ ماشہ کی ایک تولہ ۳ ماشہ ۶ رتی واجب۔ یوہیں پانچویں حصہ کے بعد جو زیادتی ہے، اگر وہ بھی پانچواں حصہ ہے تو اس کا چالیسواں حصہ واجب ورنہ معاف و علیٰ ہذا القیاس۔ مال تجارت کا بھی یہی حکم ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۶ اگر سونے چاندی میں کھوٹ ہو اور غالب سونا چاندی ہے تو سونا چاندی قرار دیں اور کل پر زکاۃ واجب ہے۔ یوہیں اگر کھوٹ سونے چاندی کے برابر ہو تو زکاۃ واجب اور اگر کھوٹ غالب ہو تو سونا چاندی نہیں پھر اس کی چند صورتیں ہیں۔ اگر اس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہو کہ جدا کریں تو نصاب کو پہنچ جائے یا وہ نصاب کو نہیں پہنچتا مگر اس کے پاس اور مال ہے کہ اس سے مل کر نصاب ہو جائے گی یا وہ ٹمن میں چلتا ہے اور اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو ان سب صورتوں میں زکاۃ واجب ہے اور اگر ان صورتوں میں کوئی نہ ہو تو اس میں اگر تجارت کی نیت ہو تو بشرائط تجارت اُسے مال تجارت قرار دیں اور اس کی قیمت نصاب کی قدر ہو، خود دیا اوروں کے ساتھ مل کر تو زکاۃ واجب ہے ورنہ نہیں۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۷ سونے چاندی کو باہم خلط کر دیا تو اگر سونا غالب ہو، سونا سمجھا جائے اور دونوں برابر ہوں اور سونا بقدر نصاب ہے، تنہا یا چاندی کے ساتھ مل کر جب بھی سونا سمجھا جائے اور چاندی غالب ہو تو چاندی ہے، نصاب کو پہنچے تو چاندی کی زکاۃ دی جائے مگر جب کہ اس میں جتنا سونا ہے وہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو اب بھی کل سونا ہی قرار دیں۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی اور دونوں کی کامل نصابیں تو یہ ضرور نہیں کہ سونے کو چاندی یا چاندی کو سونا قرار دے کر زکاۃ ادا کرے، بلکہ ہر ایک کی زکاۃ علیحدہ علیحدہ واجب ہے۔ ہاں زکاۃ دینے والا اگر صرف ایک چیز سے دونوں نصابوں کی زکاۃ ادا کرے تو اسے اختیار ہے، مگر اس صورت میں یہ واجب ہوگا کہ قیمت وہ لگائے جس میں فقیروں کا زیادہ نفع ہے مثلاً ہندوستان میں روپے کا چلن بہ نسبت اشرفیوں کے زیادہ ہے تو سونے کی قیمت چاندی سے لگا کر چاندی زکاۃ میں دے اور اگر دونوں میں سے کوئی بقدر نصاب نہیں تو سونے کی قیمت کی چاندی یا چاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائیں پھر اگر ملانے پر بھی نصاب نہیں ہوتی تو کچھ نہیں اور اگر سونے کی قیمت کی چاندی چاندی میں ملائیں تو نصاب ہو جاتی ہے اور چاندی کی قیمت کا سونا سونے میں ملائیں تو نہیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہو وہ کریں اور اگر دونوں

① "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ العمال، ج ۳، ص ۲۷۲.

② "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ العمال، ج ۳، ص ۲۷۳ - ۲۷۵.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ العمال، ج ۳، ص ۲۷۵ - ۲۷۷.

صورت میں نصاب ہو جاتی ہے تو اختیار ہے جو چاہیں کریں مگر جب کہ ایک صورت میں نصاب پر پانچواں حصہ بڑھ جاتا ہے تو جس میں پانچواں حصہ بڑھ جائے وہی کرنا واجب ہے، مثلاً سوا چھبیس^۲ تو لے چاندی ہے اور پونے چار تو لے سونا، اگر پونے چار تو لے سونے کی چاندی سوا چھبیس تو لے آتی ہے اور سوا چھبیس تو لے چاندی کا پونے چار تو لے سونا آتا ہے تو سونے کو چاندی یا چاندی کو سونا جو چاہیں تصور کریں اور اگر پونے چار تو لے سونے کے بدلے ۳۷ تو لے چاندی آتی ہے اور سوا چھبیس تو لے چاندی کا پونے چار تو لے سونا نہیں ملتا تو واجب ہے کہ سونے کو چاندی قرار دیں کہ اس صورت میں نصاب ہو جاتی ہے، بلکہ پانچواں حصہ زیادہ ہوتا ہے اور اس صورت میں نصاب بھی پوری نہیں ہوتی۔ یوں اگر ہر ایک نصاب سے کچھ زیادہ ہے تو اگر زیادتی نصاب کا پانچواں ہے تو اس کی بھی زکاۃ دیں اور اگر ہر ایک میں زیادتی پانچواں حصہ نصاب سے کم ہے تو دونوں ملائیں، اگر مل کر بھی کسی کی نصاب کا پانچواں حصہ نہیں ہوتا تو اس زیادتی پر کچھ نہیں اور اگر دونوں میں نصاب یا نصاب کا پانچواں حصہ ہو تو اختیار ہے، مگر جب کہ ایک میں نصاب ہو اور دوسرے میں پانچواں حصہ تو وہ کریں جس میں نصاب ہو اور اگر ایک میں نصاب یا پانچواں حصہ ہوتا ہے اور دوسرے میں نہیں تو وہی کرنا واجب ہے، جس سے نصاب ہو یا نصاب کا پانچواں حصہ۔^(۱)

(درمختار، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۹ پیسے جب رائج ہوں اور دو سو درم چاندی^(۲) یا بیس مثقال سونے^(۳) کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکاۃ واجب ہے^(۴)، اگرچہ تجارت کے لیے نہ ہوں اور اگر چلن اٹھ گیا ہو تو جب تک تجارت کے لیے نہ ہوں زکاۃ واجب نہیں۔ (فتاویٰ قاری الہدایہ) نوٹ کی زکاۃ بھی واجب ہے، جب تک ان کا رواج اور چلن ہو کہ یہ بھی ثمن اصطلاحی^(۵) ہیں اور پیسوں کے حکم میں ہیں۔

مسئلہ ۱۰ جو مال کسی پردین^(۶) ہو، اس کی زکاۃ کب واجب ہوتی ہے اور اکب اس میں تین صورتیں ہیں۔ اگر دین قوی ہو، جیسے قرض جسے عرف میں دستگرداں کہتے ہیں اور مال تجارت کا ثمن مثلاً کوئی مال اُس نے بہ نیت تجارت خریدا، اُسے کسی کے ہاتھ ادھار بیچ ڈالا یا مال تجارت کا کرایہ مثلاً کوئی مکان یا زمین بہ نیت تجارت خریدی، اُسے کسی کو سکونت یا زراعت کے

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ المال، ج ۳، ص ۲۷۸، وغیرہما.

② یعنی ساڑھے باون تولے۔

③ یعنی ساڑھے سات تولے۔

④ "فتاویٰ قاری الہدایہ"، ص ۲۹.

⑤ یعنی وہ ثمن ہے جو درحقیقت متاع (سامان) ہے لیکن لوگوں کی اصطلاح نے اسے ثمن بنا دیا۔

⑥ یہاں دین سے مراد مطلقاً قرض ہی نہیں، بلکہ ہر وہ مال ہے جو کسی بھی سبب سے کسی شخص کے ذمہ واجب ہو۔

لیے کرایہ پردے دیا، یہ کرایہ اگر اُس پر دین ہے تو دین قوی ہوگا اور دین قوی کی زکاۃ بحالت دین ہی سال بہ سال واجب ہوتی رہے گی، مگر واجب الادا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے، مگر جتنا وصول ہوا اتنے ہی کی واجب الادا ہے یعنی چالیس درم وصول ہونے سے ایک درم دینا واجب ہوگا اور اتنی وصول ہوئے تو دو، علیٰ ہذا القیاس۔ دوسرے دین متوسط کہ کسی مال غیر تجارتی کا بدل ہو مثلاً گھر کا غلہ یا سواری کا گھوڑا یا خدمت کا غلام یا اور کوئی شے حاجتِ اصلیہ کی بیچ ڈالی اور دام خریدار پر باقی ہیں اس صورت میں زکاۃ دینا اس وقت لازم آئے گا کہ دو سو درم پر قبضہ ہو جائے۔ یوہیں اگر مورث کا دین اُسے ترکہ میں ملا اگرچہ مال تجارت کا عوض ہو، مگر وارث کو دو سو درم وصول ہونے اور مورث کی موت کو سال گزرنے پر زکاۃ دینا لازم آئے گا۔ تیسرے دین ضعیف جو غیر مال کا بدل ہو جیسے مہر، بدلِ خلع، دیت، بدلِ کتابت یا مکان یا دوکان کہ بہ نیتِ تجارت خریدی نہ تھی اس کا کرایہ دار پر چڑھا، اس میں زکاۃ دینا اس وقت واجب ہے کہ نصاب پر قبضہ کرنے کے بعد سال گزر جائے یا اس کے پاس کوئی نصاب اس جنس کی ہے اور اس کا سال تمام ہو جائے تو زکاۃ واجب ہے۔

پھر اگر دین قوی یا متوسط کئی سال کے بعد وصول ہو تو اگلے سال کی زکاۃ جو اس کے ذمہ دین ہوتی رہی وہ پچھلے سال کے حساب میں اسی رقم پر ڈالی جائے گی، مثلاً عمر و پرزید کے تین سو درم دین قوی تھے، پانچ برس بعد چالیس درم سے کم وصول ہوئے تو کچھ نہیں اور چالیس وصول ہوئے تو ایک درم دینا واجب ہوا، اب اتنا لیس باقی رہے کہ نصاب کے پانچویں حصہ سے کم ہے، لہذا باقی برسوں کی ابھی واجب نہیں اور اگر تین سو درم دین متوسط تھے تو جب تک دو سو درم وصول نہ ہوں کچھ نہیں اور پانچ برس بعد دو سو وصول ہوئے تو اکیس واجب ہوں گے، سال اول کے پانچ اب سال دوم میں ایک سو پچانوے رہے ان میں سے پینتیس کہ خمس سے کم ہیں معاف ہو گئے، ایک سو ساٹھ رہے اس کے چار درم واجب لہذا سال سوم میں ایک سو اکانوے رہے، ان میں بھی چار درم واجب، چہارم میں ایک سو ستاسی رہے، پنجم میں ایک سو تراسی رہے ان میں بھی چار چار درم واجب، لہذا اگلے اکیس درم واجب الادا ہوئے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۱۱ - اگر دین سے پہلے سال نصاب رواں تھا تو جو دین اثنائے سال میں کسی پر لازم آیا، اس کا سال بھی وہی قرار دیا جائے گا جو پہلے سے چل رہا ہے، وقت دین سے نہیں اور اگر دین سے پہلے اس جنس کی نصاب کا سال رواں نہ ہو تو وقت دین سے شمار ہوگا۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ العمال، مطلب فی وجوب الزکاۃ فی دین المرصد، ج ۳، ص ۲۸۱ - ۲۸۳، وغیرہما.

② "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، مطلب فی وجوب الزکاۃ فی دین المرصد، ج ۳، ص ۲۸۳.

مسئلہ ۱۲ کسی پر دین قوی یا متوسط ہے اور قرض خواہ کا انتقال ہو گیا تو مرتے وقت اس دین کی زکاۃ کی وصیت ضرور نہیں کہ اس کی زکاۃ واجب الادا تھی ہی نہیں اور وارث پر زکاۃ اس وقت ہوگی جب مورث کی موت کو ایک سال گزر جائے اور چالیس درم دین قوی میں اور دو سو درم دین متوسط میں وصول ہو جائیں۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ سال تمام کے بعد اُن نے دین معاف کر دیا یا سال تمام سے پہلے مال زکاۃ ہبہ کر دیا تو زکاۃ ساقط ہوگی۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۱۴ عورت نے مہر کا روپیہ وصول کر لیا سال گزرنے کے بعد شوہر نے قبل دخول طلاق دے دی تو نصف مہر واپس کرنا ہوگا اور زکاۃ پورے کی واجب ہے اور شوہر پر واپسی کے بعد سے سال کا اعتبار ہے۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۱۵ ایک شخص نے یہ اقرار کیا کہ فلاں کا مجھ پر دین ہے اور اُسے دے بھی دیا پھر سال بھر بعد دونوں نے کہا دین نہ تھا تو کسی پر زکاۃ واجب نہ ہوئی۔^(۴) (عالمگیری) مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ اُس کے خیال میں دین ہو، ورنہ اگر محض زکاۃ ساقط کرنے کے لیے یہ حیلہ کیا تو عند اللہ مواخذہ کا مستحق ہے۔

مسئلہ ۱۶ مال تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت دو سو درم سے کم نہ ہو اور اگر مختلف قسم کے اسباب ہوں تو سب کی قیمتوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے کی قدر ہو۔^(۵) (عالمگیری) یعنی جب کہ اس کے پاس یہی مال ہو اور اگر اس کے پاس سونا چاندی اس کے علاوہ ہو تو اسے ملا لیں گے۔

مسئلہ ۱۷ غلہ یا کوئی مال تجارت سال تمام پر دو سو درم کا ہے پھر نرخ بڑھ گھٹ گیا تو اگر اسی میں سے زکاۃ دینا چاہیں تو جتنا اس دن تھا اس کا چالیسواں حصہ دے دیں اور اگر اس قیمت کی کوئی اور چیز دینا چاہیں تو وہ قیمت لی جائے جو سال تمام کے دن تھی اور اگر وہ چیز سال تمام کے دن تھی اب خشک ہو گئی، جب بھی وہی قیمت لگائیں جو اس دن تھی اور اگر اس روز خشک تھی، اب بھیگ گئی تو آج کی قیمت لگائیں۔^(۶) (عالمگیری)

① "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ المال، مطلب فی وجوب الزکاۃ فی دین المرصد، ج ۳، ص ۲۸۳.

② "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ المال، ج ۳، ص ۲۸۳ - ۲۸۵.

③ المرجع السابق، ص ۲۸۵.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، فی مسائل شتی، ج ۱، ص ۱۸۲.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثالث فی زکاۃ الذهب والفضۃ والعروض، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۷۹.

⑥ المرجع السابق، ص ۱۷۹ - ۱۸۰.

مسئلہ ۱۸ قیمت اس جگہ کی ہونی چاہیے جہاں مال ہے اور اگر مال جنگل میں ہو تو اُس کے قریب جو آبادی ہے وہاں جو قیمت ہو اس کا اعتبار ہے۔^(۱) (عالمگیری) ظاہر یہ ہے کہ یہ اس مال میں ہے جس کی جنگل میں خریداری نہ ہوتی ہو اور اگر جنگل میں خریدا جاتا ہو، جیسے لکڑی اور وہ چیزیں جو وہاں پیدا ہوتی ہیں تو جب تک مال وہاں پڑا ہے، وہیں کی قیمت لگائی جائے۔

مسئلہ ۱۹ کرایہ پر اٹھانے کے لیے دیکھیں ہوں، اُن کی زکاۃ نہیں۔ یوہیں کرایہ کے مکان کی۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ گھوڑے کی تجارت کرتا ہے، مَحْمُول^(۳) اور لگام اور رسیاں وغیرہ اس لیے خریدیں کہ گھوڑوں کی حفاظت میں کام آئیں گی تو اُن کی زکاۃ نہیں اور اگر اس لیے خریدیں کہ گھوڑے ان کے سمیت بیچے جائیں گے تو ان کی بھی زکاۃ دے۔ نان بائی نے روٹی پکانے کے لیے لکڑیاں خریدیں یا روٹی میں ڈالنے کو نمک خریدا تو ان کی زکاۃ نہیں اور روٹی پر چھڑکنے کو بتل خریدے تو بتلوں کی زکاۃ واجب ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ ایک شخص نے اپنا مکان تین سال کے لیے تین سو درم سال کے کرایہ پر دیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور جو کرایہ میں آتا ہے، سب کو محفوظ رکھتا ہے تو آٹھ مہینے گزرنے پر نصاب کا مالک ہو گیا کہ آٹھ ماہ میں دو سو درم کرایہ کے ہوئے، لہذا آج سے سال زکاۃ شروع ہوگا اور سال پورا ہونے پر پانچ سو درم کی زکاۃ دے کہ بیس ماہ کا کرایہ پانسو ہوا، اب اس کے بعد ایک سال اور گزرا تو آٹھ سو کی زکاۃ دے، مگر سال اول کی زکاۃ کے ساڑھے بارہ درم کم کیے جائیں۔^(۵) (عالمگیری) بلکہ آٹھ سو میں چالیس کم کی زکاۃ واجب ہوگی کہ چالیس سے کم کی زکاۃ نہیں بلکہ غفو ہے۔

مسئلہ ۲۲ ایک شخص کے پاس صرف ایک ہزار درم ہیں اور کچھ مال نہیں، اس نے سو درم سالانہ کرایہ پر دس سال کے لیے مکان لیا اور وہ کل روپے مالک مکان کو دے دیے تو پہلے سال میں نو سو کی زکاۃ دے کہ سو کرایہ میں گئے، دوسرے سال آٹھ سو کی بلکہ پہلے سال کی زکاۃ کے ساڑھے بائیس درم آٹھ سو میں سے کم کر کے باقی کی زکاۃ دے۔ اسی طرح ہر سال میں سو روپے اور سال گزشتہ کی زکاۃ کے روپے کم کر کے باقی کی زکاۃ اُس کے ذمہ ہے اور مالک مکان کے پاس بھی اگر اس کرایہ کے ہزار کے سو کچھ نہ ہو تو دو سال تک کچھ نہیں۔ دو سال گزرنے پر اب دو سو کا مالک ہوا، تین برس پر تین سو کی زکاۃ دے۔ یوہیں ہر سال سو درم کی زکاۃ بڑھتی جائے گی، مگر اگلی برسوں کی مقدار زکاۃ کم کرنے کے بعد باقی کی زکاۃ واجب ہوگی۔ صورت مذکورہ

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثالث فی زکاۃ الذهب والفضۃ والعروض، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۸۰۔

② المرجع السابق۔

③ یعنی گھوڑے کے اوپر ڈالنے کا کپڑا۔

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثالث فی زکاۃ الذهب والفضۃ والعروض، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۸۰۔

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، فی مسائل شتی، ج ۱، ص ۱۸۱۔

میں اگر اس قیمت کی کنیز کرایہ میں دی تو کرایہ دار پر کچھ واجب نہیں اور مالک مکان پر اسی طرح وجوب ہے، جو درم کی صورت میں ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ تجارت کے لیے غلام قیمتی دوسو درم کا دوسو میں خریدا اور ثمن بائع کو دے دیا، مگر غلام پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا، اب وہ بائع کے یہاں مر گیا تو بائع و مشتری دونوں پر دو سو کی زکاۃ واجب ہے اور اگر غلام دوسو درم سے کم قیمت کا تھا اور مشتری نے دوسو پر لیا تو بائع دو سو کی زکاۃ دے اور مشتری پر کچھ نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ خدمت کا غلام ہزار روپے میں بیچا اور ثمن پر قبضہ کر لیا، سال بھر بعد وہ غلام عیب دار نکلا اس بنا پر واپس ہوا، قاضی نے واپسی کا حکم دیا ہو یا اس نے خود اپنی خوشی سے واپس لے لیا ہو تو ہزار کی زکاۃ دے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ روپے کے عوض کھانا غلہ کپڑا وغیرہ فقیر کو دے کر مالک کر دیا تو زکاۃ ادا ہو جائے گی، مگر اس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکاۃ میں سمجھی جائے، بالائی مصارف مثلاً بازار سے لانے میں جو مزدور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہ اور چوگی وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یا لکڑیوں کی قیمت مخرج نہ کریں، بلکہ اس کچی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو، اس کا اعتبار ہے۔^(۴) (درمختار، عالمگیری)

عاشر کا بیان

مسئلہ ۱ عاشر اس کو کہتے ہیں جسے بادشاہ اسلام نے راستہ پر مقرر کر دیا ہو کہ تجار^(۵) جو اموال لے کر گزریں، ان سے صدقات وصول کرے۔ عاشر کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان خُر^(۶) غیر ہاشمی ہو، چوراہا ڈاکوؤں سے مال کی حفاظت پر قادر ہو۔^(۷) (بحر)

مسئلہ ۲ جو راہ گیر یہ کہے کہ میرے اس مال پر نیز گھر میں جو موجود ہے کسی پر سال نہیں گزارا یا کہتا ہے کہ میں نے اس میں تجارت کی نیت نہیں کی یا کہے یہ میرا مال نہیں بلکہ میرے پاس امانت یا بطور مضاربت ہے، بشرطیکہ اس میں اتنا نفع نہ ہو کہ اس

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، فی مسائل شتی، ج ۱، ص ۱۸۱ - ۱۸۲.

② المرجع السابق، ص ۱۸۲.

③ المرجع السابق.

④ المرجع السابق، ص ۱۸۰، "الدر المختار"، کتاب الزکاۃ، باب العاشر، ج ۳، ص ۲۰۴.

⑤ یعنی تجارت کرنے والے۔ ⑥ یعنی جو غلام نہ ہو۔

⑦ "البحر الرائق"، کتاب الزکاۃ، باب العاشر، ج ۲، ص ۴۰۲.

کا حصہ نصاب کو پہنچ جائے یا اپنے کو مزدور یا مکاتب یا مازون بتائے یا اتنا ہی کہے کہ اس مال پر زکاۃ نہیں، اگرچہ وجہ نہ بتائے یا کہے مجھ پر ذین ہے جو مال کے برابر ہے یا اتنا ہے کہ اُسے نکالیں تو نصاب باقی نہ رہے یا کہے دوسرے عاشر کو دے دیا ہے اور جس کو دینا بتاتا ہے واقع میں وہ عاشر ہے اور اس عاشر کو بھی اس کا عاشر ہونا معلوم ہو یا کہے شہر میں فقیروں کو زکاۃ دے دی اور اپنے بیان پر حلف کرے تو اُس کا قول مان لیا جائے گا، اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ اس سے رسید طلب کریں کہ رسید کبھی جعلی ہوتی ہے اور کبھی غلطی سے رسید نہیں لی جاتی اور کبھی گم ہو جاتی ہے اور اگر رسید پیش کی اور اس میں اس عاشر کا نام نہیں جسے اُس نے بتایا، جب بھی حلف لے کر اُس کا قول مان لیں گے اور اگر چند سال گزرنے پر معلوم ہوا کہ اُس نے جھوٹ کہا تھا تو اب اُس سے زکاۃ لی جائے گی۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ اگر اس مال پر سال نہیں گزرا مگر اس کے مکان پر جو مال ہے اس پر سال گزر گیا ہے اور اس مال کو اس مال کے ساتھ ملا سکتے ہوں تو اس کا قول نہیں مانا جائے گا۔ یوں اگر ایسے عاشر کو دینا بتائے جو اُسے معلوم نہیں یا کہے کسی بد مذہب کو زکاۃ دے دی یا کہے شہر میں فقیر کو نہیں دی بلکہ شہر سے باہر جا کر دی تو ان سب صورتوں میں اس کا قول نہ مانا جائے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴ سائہ اور اموال باطنہ میں اس کا قول نہیں مانا جائے گا اور جن امور میں مسلمان کا قول مانا جاتا ہے، ذمی کافر کا بھی مان لیا جائے گا، مگر اس صورت میں کہ شہر میں فقیر کو دینا بتائے تو اس کا قول معتبر نہیں۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵ حربی کافر کا قول بالکل معتبر نہیں، اگرچہ جو کچھ کہتا ہے اُس پر گواہ پیش کرے اور اگر کنیز کو ام ولد بتائے یا غلام کو اپنا لڑکا کہے اور اس کی عمر اس قابل ہو کہ یہ اس کا لڑکا ہو سکتا ہے یا کہے میں نے دوسرے کو دے دیا ہے اور جسے بتاتا ہے وہ وہاں موجود ہے تو ان امور میں حربی کا بھی قول مان لیا جائے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ جو شخص دو سو درم سے کم مال لے کر گزرا تو عاشر اُس سے کچھ نہ لے گا، خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی یا حربی، خواہ اُس کے گھر میں اور مال ہونا معلوم ہو یا نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

1..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاۃ، الباب الرابع فیمن یمر علی العاشر، ج ۱، ص ۱۸۳.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب العاشر، مطلب: لا تسقط الزکاۃ... إلخ، ج ۳، ص ۲۸۹ - ۲۹۱.

2..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب العاشر، مطلب: لا تسقط الزکاۃ... إلخ، ج ۳، ص ۲۹۰.

3..... "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العاشر، ج ۳، ص ۲۹۱.

4..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب العاشر، ج ۳، ص ۲۹۳.

5..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاۃ، الباب الرابع فیمن یمر علی العاشر، ج ۱، ص ۱۸۳.

مسئلہ ۷ - مسلمان سے چالیسواں حصہ لیا جائے اور ذمی سے بیسواں اور حربی سے دسواں حصہ۔⁽¹⁾ (تنویر) حربی سے دسواں حصہ لینا اس وقت ہے جب معلوم نہ ہو کہ حربیوں نے مسلمانوں سے کتنا لیا تھا اور اگر معلوم ہو تو جتنا انہوں نے لیا مسلمان بھی حربیوں سے اتنا ہی لیں، مگر حربیوں نے اگر مسلمانوں کا کُل مال لے لیا ہو تو مسلمان کُل نہ لیں، بلکہ اتنا چھوڑ دیں کہ اپنے ٹھکانے پہنچ جائے اور اگر حربیوں نے مسلمانوں سے کچھ نہ لیا تو مسلمان بھی کچھ نہ لیں۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - حربی بچے اور مکاتب سے کچھ نہ لیں گے، مگر جب مسلمانوں کے بچوں اور مکاتب سے حربیوں نے لیا ہو تو مسلمان بھی اُن سے لیں۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۹ - ایک بار جب حربی سے لے لیا تو دوبارہ اس سال میں نہ لیں، مگر جب لینے کے بعد دارالْحَرْب کو واپس گیا اور اب پھر دارالْحَرْب سے آیا تو دوبارہ لیں گے۔⁽⁴⁾ (تنویر الابصار)

مسئلہ ۱۰ - حربی دارالاسلام میں آیا اور واپس گیا مگر عاشر کو خبر نہ ہوئی پھر دوبارہ دارالْحَرْب سے آیا تو پہلی مرتبہ کا نہ لیں اور اگر مسلمان یا ذمی کے آنے اور جانے کی خبر نہ ہوئی اور اب دوبارہ آیا تو پہلی بار کا لیں گے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۱ - ماڈون⁽⁶⁾ کے ساتھ اگر اس کا مالک بھی ہے اور اس پر اتنا دین نہیں، جو ذات و مال کو مستغرق⁽⁷⁾ ہو تو عاشر اس سے لے گا۔⁽⁸⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۲ - عاشر کے پاس ایسی چیز لے کر گزرا جو جلد خراب ہونے والی ہے، جیسے میوہ، ترکاری، خربزہ، تربز، دودھ وغیرہا، اگرچہ اُن کی قیمت نصاب کی قدر ہو مگر عاشر نہ لیا جائے، ہاں اگر وہاں فقرا موجود ہوں تو لے کر فقرا کو بانٹ دے۔⁽⁹⁾ (عالمگیری، درمختار)

① "تنویر الابصار"، کتاب الزکاة، باب العاشر، ج ۳ ص ۲۹۴.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، باب العاشر، ج ۳، ص ۲۹۵.

③ "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، باب العاشر، ج ۳، ص ۲۹۵.

④ "تنویر الابصار"، کتاب الزکاة، باب العاشر، ج ۳ ص ۲۹۵.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، باب العاشر، ج ۳، ص ۲۹۶.

⑥ یعنی وہ غلام جسے اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دے دی ہو۔

⑦ یعنی گھیرے ہوئے۔

⑧ "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، باب العاشر، ج ۳، ص ۲۹۹.

⑨ المرجع السابق.

مسئلہ ۱۳ عاشر نے مال زیادہ خیال کر کے زکاۃ لی پھر معلوم ہوا کہ اتنے کا مال نہ تھا تو جتنا زیادہ لیا ہے سال آئندہ میں محسوب ہوگا اور اگر قصداً زیادہ لیا تو یہ زکاۃ میں محسوب نہ ہوگا کہ ظلم ہے۔^(۱) (خانہ)

کان اور دفتینہ کا بیان

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”رکاز (کان) میں خمس ہے۔“^(۲)

مسئلہ ۱ کان سے لوہا، سیسہ، تانبا، پیتل، سونا چاندی نکلے، اس میں خمس (پانچواں حصہ) لیا جائے گا اور باقی پانے والے کا ہے۔ خواہ وہ پانے والا آزاد ہو یا غلام، مسلمان ہو یا زمی، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، وہ زمین جس سے یہ چیزیں نکلیں عشری ہو یا خراجی۔^(۳) (عالمگیری) یہ اس صورت میں ہے کہ زمین کسی شخص کی مملوک نہ ہو، مثلاً جنگل ہو یا پہاڑ اور اگر مملوک ہے تو کل مالک زمین کو دیا جائے خمس بھی نہ لیا جائے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۲ فیروزہ و یاقوت و زمر و دیگر جواہر اور سرمہ، پھٹکری، چونا، موتی میں اور نمک وغیرہ بننے والی چیزوں میں خمس نہیں۔^(۵) (درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۳ مکان یا دکان میں کان نکلی تو خمس نہ لیا جائے، بلکہ کل مالک کو دیا جائے۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۴ فیروزہ، یاقوت، زمر وغیرہ جواہر سلطنت اسلام سے پیشتر کے دفن تھے اور اب نکلے تو خمس لیا جائے گا یہ مال غنیمت ہے۔^(۷) (درمختار)

مسئلہ ۵ موتی اور اس کے علاوہ جو کچھ دریا سے نکلے، اگرچہ سونا کہ پانی کی تہ میں تھا، سب پانے والے کا ہے بشرطیکہ اس میں کوئی اسلامی نشانی نہ ہو۔^(۸) (درمختار)

① ”الفتاویٰ الخانیہ“، کتاب الزکاۃ، فصل فی اداء الزکاۃ، ص ۱۲۶.

② ”صحیح مسلم“، کتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن... إلخ، الحدیث: ۱۷۱۰، ص ۹۴۰.

③ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الزکاۃ، الباب الخامس فی المعادن و الركاز، ج ۱، ص ۱۸۴.

④ ”الدرالمختار“ و ”ردالمختار“، کتاب الزکاۃ، باب الركاز، ج ۳، ص ۳۰۵.

⑤ المرجع السابق، ص ۳۰۱.

⑥ ”الدرالمختار“، کتاب الزکاۃ، باب الركاز، ج ۳، ص ۳۰۵.

⑦ المرجع السابق، ص ۳۰۶.

⑧ المرجع السابق.

مسئلہ ۶ جس دینہ (۱) میں اسلامی نشانی پائی جائے خواہ وہ نقد ہو یا ہتھیار یا خانہ داری کے سامان وغیرہ، وہ پڑے مال کے حکم میں ہے یعنی مسجدوں، بازاروں میں اس کا اعلان اتنے دنوں تک کرے کہ ظن غالب ہو جائے، اب اس کا تلاش کرنے والا نہ ملے گا پھر مساکین کو دے دے اور خود فقیر ہو تو اپنے صرف میں لائے اور اگر اس میں کفر کی علامت ہو، مثلاً بت کی تصویر ہو یا کافر بادشاہ کا نام اس پر لکھا ہو، اُس میں سے خمس لیا جائے، باقی پانے والے کو دیا جائے، خواہ اپنی زمین میں پائے یا دوسرے کی زمین میں یا مباح زمین میں۔ (۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ حربی کافر نے دینہ نکالا تو اُسے کچھ نہ دیا جائے اور جو اُس نے لے لیا ہے واپس لیا جائے، ہاں اگر بادشاہ اسلام کے حکم سے کھود کر نکالا تو جو ٹھہرا ہے وہ دیں گے۔ (۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ دینہ نکالنے میں دو شخصوں نے کام کیا تو خمس کے بعد باقی اُسے دیں گے جس نے پایا، اگر چہ دونوں نے شرکت کے ساتھ کام کیا ہے کہ یہ شرکت فاسدہ ہے اور اگر شرکت کی صورت میں دونوں نے پایا اور یہ نہیں معلوم کہ کتنا کس نے پایا تو نصف نصف کے شریک ہیں اور اس صورت میں اگر ایک نے پایا اور دوسرے نے مدد کی تو وہ پانے والے کا ہے اور مددگار کو کام کی مزدوری دی جائے گی اور اگر دینہ نکالنے پر مزدور رکھا تو جو برآمد ہوگا مزدور کو ملے گا، مستاجر کو کچھ نہیں کہ یہ اجارہ فاسد (۴) ہے۔ (۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ دینہ میں نہ اسلامی علامت ہے، نہ کفر کی تو زمانہ کفر کا قرار دیا جائے۔ (۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ صحرائے دارالحرب میں سے جو کچھ نکلا معدنی ہو یا دینہ اُس میں خمس نہیں، بلکہ گل پانے والے کو ملے گا اور اگر بہت سے لوگ بطور غلبہ کے نکال لائے تو اس میں خمس لیا جائے گا کہ یہ غنیمت ہے۔ (۷) (درمختار)

مسئلہ ۱۱ مسلمان دارالحرب میں امن لے کر گیا اور وہاں کسی کی مملوک زمین سے خزانہ یا کان نکالی تو مالک زمین کو واپس دے اور اگر واپس نہ کیا بلکہ دارالاسلام میں لے آیا تو یہی مالک ہے مگر ملک خبیث ہے، لہذا تصدق کرے اور بیچ ڈالا تو

① یعنی ذن کیے ہو مال۔

② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاة، باب الرکاز، ج ۳، ص ۳۰۷۔

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الخامس فی المعادن والرکاز، ج ۱، ص ۱۸۴۔

④

⑤ "ردالمختار"، کتاب الزکاة، باب الرکاز، ج ۳، ص ۳۰۸۔

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الخامس فی المعادن والرکاز، ج ۱، ص ۱۸۵۔

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، باب الرکاز، ج ۳، ص ۳۰۹۔

بیج صحیح ہے، مگر خریدار کے لیے بھی خبیث ہے اور اگر امان لے کر نہیں گیا تھا تو یہ مال اس کے لیے حلال ہے، نہ واپس کرے نہ اس میں خمس لیا جائے۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۲ خمس مساکین کا حق ہے کہ بادشاہ اسلام اُن پر صرف کرے اور اگر اُس نے بطور خود مساکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے، بادشاہ اسلام کو خبر پہنچے تو اُسے برقرار رکھے اور اُس کے تصرف کو نافذ کر دے اور اگر یہ خود مسکین ہے تو بقدر حاجت اپنے صرف میں لاسکتا ہے اور اگر خمس نکالنے کے بعد باقی دو سو درم کی قدر ہے تو خمس اپنے صرف میں نہیں لاسکتا کہ اب یہ فقیر نہیں ہاں اگر مدیون ہو کہ دین نکالنے کے بعد دو سو درم کی قدر باقی نہیں رہتا تو خمس اپنے صرف میں لاسکتا ہے اور اگر ماں باپ یا اولاد جو مساکین ہیں، اُن کو خمس دیدے تو یہ بھی جائز ہے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

زراعت اور پھلوں کی زکاۃ

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَالْوَاحِقَةُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾⁽³⁾

کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔

حدیث ۱ صحیح بخاری شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا عشری ہو یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہوں، اُس میں عشر ہے اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لا کر لاتے ہوں، اُس میں نصف عشر⁽⁴⁾ یعنی بیسواں حصہ۔“

حدیث ۲ ابن نجار انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: کہ ”ہر اُس شے میں جسے زمین نے نکالا، عشر یا نصف عشر ہے۔“⁽⁵⁾

مسائل فقہیہ

زمین تین قسم ہے:

- ① ”الدرالمختار“، کتاب الزکاۃ، باب الرکاز، ج ۳، ص ۳۰۹.
- ② ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الزکاۃ، باب الرکاز، ج ۳، ص ۳۱۱.
- ③ پ ۸، الانعام: ۱۴۱.
- ④ ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاۃ، باب فی العشر فیما من ماء السماء... الخ، الحدیث: ۱۴۸۳، ج ۱، ص ۵۰۱.
- ⑤ ”کنز العمال“، کتاب الزکاۃ، زکاۃ النبات والفواکہ، الحدیث: ۱۵۸۷۳، ج ۶، ص ۱۴۰.

(۱) عشری۔ (۲) خراجی۔ (۳) نہ عشری، نہ خراجی۔

اول وسوم دونوں کا حکم ایک ہے یعنی عشر دینا۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی زمینیں خراجی نہ سمجھی جائیں گی، جب تک کسی خاص زمین کی نسبت خراجی ہونا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ عشری ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں مثلاً مسلمانوں نے فتح کیا اور زمین مجاہدین پر تقسیم ہوگئی یا وہاں کے لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے، جنگ کی نوبت نہ آئی یا عشری زمین کے قریب پڑتی تھی، اسے کاشت میں لایا یا اس پڑتی کو کھیت بنایا جو عشری و خراجی دونوں سے قرب و بعد کی یکساں نسبت رکھتی ہے یا اس کھیت کو عشری پانی سے سیراب کیا یا خراجی و عشری دونوں سے یا مسلمان نے اپنے مکان کو باغ یا کھیت بنا لیا اور اسے عشری پانی سے سیراب کرتا ہے۔ یا عشری و خراجی دونوں سے یا عشری زمین کا فرزئی نے خریدی، مسلمان نے شفعہ میں اسے لے لیا یا بیع فاسد ہوگئی یا خیار شرط یا خیار رویت کی وجہ سے واپس ہوئی یا خیار عیب^(۱) کی وجہ سے قاضی کے حکم سے واپس ہوئی۔

اور بہت صورتوں میں خراجی ہے مثلاً فتح کر کے وہیں والوں کو احسان کے طور پر واپس دی یا دوسرے کافروں کو دے دی یا وہ ملک صلح کے طور پر فتح کیا گیا یا ذمی نے مسلمان سے عشری زمین خرید لی یا خراجی زمین مسلمان نے خریدی یا ذمی نے بادشاہ اسلام کے حکم سے بنجر کو آباد کیا یا بنجر زمین ذمی کو دے دی گئی یا اسے مسلمان نے آباد کیا اور وہ خراجی زمین کے پاس تھی یا اسے خراجی پانی سے سیراب کیا۔ خراجی زمین اگر چہ عشری پانی سے سیراب کی جائے، خراجی ہی رہے گی اور خراجی و عشری دونوں نہ ہوں، مثلاً مسلمانوں نے فتح کر کے اپنے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھی یا اس زمین کے مالک مر گئے اور زمین بیت المال کی ملک ہوگئی۔

مسئلہ ۱ - خراج دو قسم ہے:

(۱) خراج مقاسمہ کہ پیداوار کا کوئی حصہ آدھا یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر ہو، جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود خیبر پر مقرر فرمایا تھا۔ اور

(۲) خراج مؤظف کہ ایک مقدار معین لازم کر دی جائے خواہ روپے، مثلاً سالانہ دو روپے بیگھہ یا کچھ اور جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا تھا۔

مسئلہ ۲ - اگر معلوم ہو کہ سلطنت اسلامیہ میں اتنا خراج مقرر تھا تو وہی دیں، بشرطیکہ خراج مؤظف میں جہاں جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدار منقول ہے، اس پر زیادت نہ ہو اور جہاں منقول نہیں اس میں نصف پیداوار سے زیادہ

..... ۱ بیع فاسد، خیار شرط، خیار رویت اور خیار عیب کی تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ ۱۱، ملاحظہ فرمائیں۔

نہ ہو۔ یوں خراج مقاسمہ میں نصف سے زیادت نہ ہو اور یہ بھی شرط ہے کہ زمین اتنے دینے کی طاقت بھی رکھتی ہو۔⁽¹⁾
(درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - اگر معلوم نہ ہو کہ سلطنتِ اسلام میں کیا مقرر تھا تو جہاں جہاں فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا ہے، وہ دیں اور جہاں مقرر نہ فرمایا ہو نصف دیں۔⁽²⁾ (فتاویٰ رضویہ)

مسئلہ ۴ - فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقرر فرمایا تھا کہ ہر قسم کے غلہ میں فی جریب ایک درم اور اُس غلہ کا ایک صاع اور خر بوزے، تربوز کی پالیز اور کھیرے، کلڑی، بیگن وغیرہ ترکاریوں میں فی جریب پانچ درم انگور و خرما کے گھنے باغوں میں جن کے اندر زراعت نہ ہو سکے۔ دس درم پھر زمین کی حیثیت اور اس شخص کی قدرت کا اعتبار ہے، اس کا اعتبار نہیں کہ اُس نے کیا بویا یعنی جو زمین جس چیز کے بونے کے لائق ہے اور یہ شخص اُس کے بونے پر قادر ہے تو اس کے اعتبار سے خراج ادا کرے، مثلاً انگور بوسکتا ہے تو انگور کا خراج دے، اگر چہ گیہوں بوائے اور گیہوں کے قابل ہے تو اس کا خراج ادا کرے اگر چہ بھو بوائے۔ جریب کی مقدار انگریزی گز سے ۳۵ گز طول، ۳۵ گز عرض ہے اور صاع دو سو اٹھاسی روپیہ بھر اور دس درم کے $\frac{۳}{۱۲}$ پائی پانچ درم $\frac{۴}{۵}$ پائی اور ایک درم $\frac{۱۹}{۲۵}$ پائی۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵ - جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو، وہاں کے لوگ بطور خود فقرا وغیرہ جو مصارفِ خراج ہیں، اُن پر صرف کریں۔
مسئلہ ۶ - عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے تو اُس پیداوار کی زکاۃ فرض ہے اور اس زکاۃ کا نام عشر ہے یعنی دسواں حصہ کہ اکثر صورتوں میں دسواں حصہ فرض ہے، اگر چہ بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ لیا جائے گا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ - عشر واجب ہونے کے لیے عاقل، بالغ ہونا شرط نہیں، مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہو اس میں بھی عشر واجب ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۸ - خوشی سے عشر نہ دے تو بادشاہِ اسلام جبراً لے سکتا ہے اور اس صورت میں بھی عشر ادا ہو جائے گا، مگر ثواب کا

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الجہاد، باب العشر و الخراج و الجزیة، مطلب فی خراج المقاسمة، ج ۶،

ص ۲۹۲ - ۲۹۴.

② "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۱۰، ص ۲۳۸.

③ "الدرالمختار"، کتاب الجہاد، باب العشر و الخراج و الجزیة، ج ۶، ص ۲۹۲.

④ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الزکاۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزرع و الثمار، ج ۱، ص ۱۸۵.

⑤ المرجع السابق، وغیرہ.

مستحق نہیں اور خوشی سے ادا کرے تو ثواب کا مستحق ہے۔^(۱) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۹ جس پر عشر واجب ہوا، اُس کا انتقال ہو گیا اور پیداوار موجود ہے تو اس میں سے عشر لیا جائے گا۔^(۲)
(عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ عشر میں سال گزرنا بھی شرط نہیں، بلکہ سال میں چند بار ایک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ اس میں نصاب بھی شرط نہیں، ایک صاع بھی پیداوار ہو تو عشر واجب ہے اور یہ شرط بھی نہیں کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو اور یہ شرط بھی نہیں کہ کاشتکار زمین کا مالک ہو یہاں تک کہ مکاتب و مازون نے کاشت کی تو اس پیداوار پر بھی عشر واجب ہے، بلکہ قفی زمین میں زراعت ہوئی تو اس پر بھی عشر واجب ہے، خواہ زراعت کرنے والے اہل وقف ہوں یا اجرت پر کاشت کی۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ جو چیزیں ایسی ہوں کہ اُن کی پیداوار سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود نہ ہو اُن میں عشر نہیں، جیسے ایندھن، گھاس، نرکل، سینٹھا، جھاؤ، کھجور کے پتے، خطمی، کپاس، بیگن کا درخت، خر بڑہ، تربز، کھیرا، لکڑی کے بیج۔ یوہیں ہر قسم کی ترکاریوں کے بیج کہ اُن کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں، بیج مقصود نہیں ہوتے۔ یوہیں جو بیج دوا ہیں مثلاً کندر، میتھی، کلونجی اور اگر نرکل، گھاس، بید، جھاؤ وغیرہ سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی تو اُن میں بھی عشر واجب ہے۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۱۳ جو کھیت بارش یا نہرنالے کے پانی سے سیراب کیا جائے، اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس کی آبپاشی چرے^(۶) یا ڈول سے ہو، اس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب اور پانی خرید کر آبپاشی ہو یعنی وہ پانی کسی کی ملک ہے، اُس سے خرید کر آبپاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہے اور اگر وہ کھیت کچھ دنوں میں گھ کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزرع والشمار، ج ۱، ص ۱۸۵. وغیرہ.

② المرجع السابق.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۳.

④ المرجع السابق.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۵، وغیرہما.

⑥ یعنی چرے کا بڑا ڈول۔

اور کچھ دنوں ڈول چر سے تو اگر اکثر مینہ⁽¹⁾ کے پانی سے کام لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ڈول چر سے تو عشر واجب ہے، ورنہ نصف عشر۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ عشری زمین یا پہاڑ یا جنگل میں شہد ہوا، اس پر عشر واجب ہے۔ یوہیں پہاڑ اور جنگل کے پھلوں میں بھی عشر واجب ہے، بشرطیکہ بادشاہ اسلام نے حربیوں اور ڈاکوؤں اور باغیوں سے اُن کی حفاظت کی ہو، ورنہ کچھ نہیں۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۵ گیہوں، جو، جوار، باجرا، دھان⁽⁴⁾ اور ہر قسم کے غلے اور اسی، کسم، اخروٹ، بادام اور ہر قسم کے میوے، روئی، پھول، گنا، خربزہ، تربز، کھیرا، گلڑی، بیگن اور ہر قسم کی ترکاری سب میں عشر واجب ہے⁽⁵⁾، تھوڑا پیدا ہو یا زیادہ۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہو اس میں گل پیداوار کا عشر یا نصف عشر لیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مصارف زراعت، بل نیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت یا بیج وغیرہ نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر دیا جائے۔⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ عشر صرف مسلمانوں سے لیا جائے گا، یہاں تک کہ عشری زمین مسلمان سے ذمی نے خرید لی اور قبضہ بھی کر لیا تو اب ذمی سے عشر نہیں لیا جائے گا بلکہ خراج لیا جائے گا اور مسلمان نے ذمی سے خراجی زمین خریدی تو یہ خراجی ہی رہے گی۔ اُس مسلمان سے اس زمین کا عشر نہ لیں گے بلکہ خراج لیا جائے۔⁽⁸⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۸ ذمی نے مسلمان سے عشری زمین خریدی پھر کسی مسلمان نے شفعہ میں وہ زمین لے لی یا کسی وجہ سے بیع فاسد ہو گئی تھی اور بائع کے پاس واپس ہوئی یا بائع کو اختیار شرط تھا یا کسی کو اختیار رویت تھا اس وجہ سے واپس ہوئی یا مشتری کو اختیار عیب

① بارش۔

② "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۳ - ۳۱۶.

③ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۱ - ۳۱۳.

④ چاول۔

⑤ مثلاً دس من میں ایک من، دس سیر میں ایک سیر یا دس پھل میں ایک پھل۔

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزرع والثمار، ج ۱، ص ۱۸۶.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، مطلب مهم: فی حکم اراضی مصر... إلخ، ج ۳، ص ۳۱۷.

⑧ المرجع السابق، ص ۳۱۸.

تھا اور حکم قاضی سے واپس ہوئی، ان سب صورتوں میں پھر عشری ہی ہے اور اگر خیار عیب میں بغیر حکم قاضی واپس ہوئی تو اب خراجی ہی رہے گی۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ مسلمان نے اپنے گھر کو باغ بنا لیا، اگر اس میں عشری پانی دیتا ہے تو عشری ہے اور خراجی پانی دیتا ہے تو خراجی اور دونوں قسم کے پانی دیتا ہے، جب بھی عشری اور ذمی نے اپنے گھر کو باغ بنایا تو مطلقاً خراج لیں گے۔ آسمان اور کوئیں اور چشمہ اور دریا کا پانی عشری ہے اور جو نہر عجیبوں نے کھودی اس کا پانی خراجی ہے۔ کافروں نے کوآں کھودا تھا اور اب مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا یا خراجی زمین میں کھودا گیا وہ بھی خراجی ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ مکان یا مقبرہ میں جو پیداوار ہو، اُس میں نہ عشر ہے نہ خراج۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۱ زفت اور نطف کے چشمے عشری زمین میں ہوں یا خراجی میں اُن میں کچھ نہیں لیا جائے گا، البتہ اگر خراجی زمین میں ہوں اور آس پاس کی زمین قابل زراعت ہو تو اس زمین کا خراج لیا جائے گا، چشمہ کا نہیں اور عشری زمین میں ہوں تو جب تک آس پاس کی زمین میں زراعت نہ ہو کچھ نہیں لیا جائے گا، فقط قابل زراعت ہونا کافی نہیں۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۲ جو چیز زمین کی تابع ہو، جیسے درخت اور جو چیز درخت سے نکلے جیسے گوند اس میں عشر نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ عشر اس وقت لیا جائے جب پھل نکل آئیں اور کام کے قابل ہو جائیں اور فساد کا اندیشہ جاتا رہے، اگرچہ ابھی توڑنے کے لائق نہ ہوئے ہوں۔⁽⁶⁾ (جوہرہ نیرہ)

مسئلہ ۲۴ خراج ادا کرنے سے پیشتر اُس کی آمدنی کھانا حلال نہیں۔ یوہیں عشر ادا کرنے سے پیشتر مالک کو کھانا حلال نہیں، کھائے گا تو ضمان دے گا۔ یوہیں اگر دوسرے کو کھلایا تو اتنے کے عشر کا تاوان دے اور اگر یہ ارادہ ہے کہ کُل کا عشر ادا کر دے گا تو کھانا حلال ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، مطلب مهم: فی حکم اراضی مصر... إلخ، ج ۳، ص ۳۱۸.

② المرجع السابق، ص ۳۱۹، و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزرع والشمار، ج ۱، ص ۱۸۶.

③ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۲۰. ④ المرجع السابق، ص ۳۲۱.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزرع والشمار، ج ۱، ص ۱۸۶.

⑥ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ الزروع والشمار، ص ۱۶۲.

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزرع والشمار، ج ۱، ص ۱۸۷.

و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، مطلب مهم: فی حکم اراضی مصر... إلخ، ج ۳، ص ۳۲۱.

مسئلہ ۲۵ بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ خراج لینے کے لیے غلہ کو روک لے مالک کو تصرف نہ کرنے دے اور اس نے کئی سال کا خراج نہ دیا ہو اور عاجز ہو تو اگلی برسوں کا معاف ہے اور عاجز نہ ہو تو لیس گے۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ زراعت پر قادر ہے اور بویا نہیں تو خراج واجب ہے اور عشر جب تک کاشت نہ کرے اور پیداوار نہ ہو واجب نہیں۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۲۷ کھیت بویا مگر پیداوار ماری گئی مثلاً کھیتی ڈوب گئی یا جل گئی یا ٹیری کھا گئی یا پالے اور ٹو سے جاتی رہی تو عشر و خراج دونوں ساقط ہیں، جب کہ گل جاتی رہی اور اگر کچھ باقی ہے تو اس باقی کا عشر لیس گے اور اگر چوپائے کھا گئے تو ساقط نہیں اور ساقط ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے بعد اس سال کے اندر اس میں دوسری زراعت طیار نہ ہو سکے اور یہ بھی شرط ہے کہ توڑنے یا کاٹنے سے پہلے ہلاک ہو ورنہ ساقط نہیں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ خراجی زمین کسی نے غصب کی اور غصب سے انکار کرتا ہے اور مالک کے پاس گواہ بھی نہیں، تو اگر کاشت کرے خراج غاصب پر ہوگا۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۲۹ بیع وفا یعنی جس بیع میں یہ شرط ہو کہ بائع جب ثمن مشتری کو واپس دے گا تو مشتری بیع پھیر دے گا تو جب خراجی زمین اس طور پر کسی کے ہاتھ بیچے اور بائع کے قبضہ میں زمین ہے تو خراج بائع پر اور مشتری کے قبضہ میں ہو اور مشتری نے بویا بھی تو خراج مشتری پر۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ طیار ہونے سے پیشتر زراعت بیع ڈالی تو عشر مشتری پر ہے، اگرچہ مشتری نے یہ شرط لگائی کہ پکنے تک زراعت کاٹی نہ جائے بلکہ کھیت میں رہے اور بیچنے کے وقت زراعت طیار تھی تو عشر بائع پر ہے اور اگر زمین زراعت دونوں یا صرف زمین بیچی اور اس صورت میں سال پورا ہونے میں اتنا زمانہ باقی ہے کہ زراعت ہو سکے، تو خراج مشتری پر ہے ورنہ بائع پر۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، مطلب مهم: فی حکم اراضی مصر... إلخ، ج ۳، ص ۳۲۲.

② "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۲۳.

③ "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، مطلب مهم: فی حکم اراضی مصر... إلخ، ج ۳، ص ۳۲۳.

④ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۲۳.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، مطلب مهم: فی حکم اراضی مصر... إلخ، ج ۳، ص ۳۲۴.

⑥ المرجع السابق.

مسئلہ ۳۱ عشری زمین عاریۃ دی تو عشر کاشتکار پر ہے مالک پر نہیں اور کافر کو عاریت دی تو مالک پر عشر ہے۔ (1) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۳۲ عشری زمین بٹائی پردی تو عشر دونوں پر ہے اور خراجی زمین بٹائی پردی تو خراج مالک پر ہے۔ (2) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۳ زمین جو زراعت کے لیے نقدی پردی جاتی ہے، امام کے نزدیک اُس کا عشر زمیندار پر ہے اور صاحبین (3) کے نزدیک کاشتکار پر اور علامہ شامی نے یہ تحقیق فرمائی کہ حالت زمانہ کے اعتبار سے اب قول صاحبین پر عمل ہے۔ (4)

مسئلہ ۳۴ گورنمنٹ کو جو مالگذاری دی جاتی ہے، اس سے خراج شرعی نہیں ادا ہوتا بلکہ وہ مالک کے ذمہ ہے اُس کا ادا کرنا ضروری اور خراج کا مصرف صرف لشکر اسلام نہیں، بلکہ تمام مصالح عامہ مسلمین ہیں جن میں تعمیر مسجد و خراج مسجد و وظیفہ امام و مؤذن و تنخواہ مدرسین علم دین و خبرگیری طلبہ علم دین و خدمت علمائے اہلسنت حامیان دین جو وعظ کہتے ہیں اور علم دین کی تعلیم کرتے اور فتوے کے کام میں مشغول رہتے ہوں اور پائل و سرابنانے میں بھی صرف کیا جاسکتا ہے۔ (5) (فتاویٰ رضویہ)

مسئلہ ۳۵ عشر لینے سے پہلے غلہ بیچ ڈالا تو مصدق کو اختیار ہے کہ عشر مشتری سے لے یا بائع سے اور اگر جتنی قیمت ہونی چاہیے اُس سے زیادہ پر بیچا تو مصدق کو اختیار ہے کہ غلہ کا عشر لے یا ثمن کا عشر اور اگر کم قیمت پر بیچا اور اتنی کمی ہے کہ لوگ اتنے نقصان پر نہیں بیچتے تو غلہ ہی کا عشر لے گا اور وہ غلہ نہ رہا تو اُس کا عشر قرار دے کر بائع سے لیں یا اُس کی واجبی قیمت۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ انگور بیچ ڈالے تو ثمن کا عشر لے اور شیرہ کر کے بیچا تو اسکی قیمت کا عشر لے۔ (7) (عالمگیری)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزرع والشمار، ج ۱، ص ۱۸۷.

② "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، مطلب: هل يجب العشر علی المزارعین فی الاراضی السلطانیۃ، ج ۳، ص ۳۲۷ - ۳۲۸.

③ فقہ حنفی میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کو کہتے ہیں۔

④ "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب العشر، مطلب مهم: فی حکم اراضی مصر و شام السلطانیۃ، ج ۳، ص ۳۲۵.

⑤ "الفاویٰ الرضویۃ" (الجدیدۃ)، کتاب الزکاۃ، رسالہ افسح البیان، ج ۱۰، ص ۲۲۳.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزرع والشمار، ج ۱، ص ۱۸۷.

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزرع والشمار، ج ۱، ص ۱۸۷.

مالِ زکاۃ کن لوگوں پر صرف کیا جائے

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَدْ رِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١﴾ (1)

صدقات فقرا و مساکین کے لیے ہیں اور انکے لیے جو اس کام پر مقرر ہیں اور وہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے اور گردن چھڑانے میں اور تاوان والے کے لیے اور اللہ (عزوجل) کی راہ میں اور مسافر کے لیے، یہ اللہ (عزوجل) کی طرف سے مقرر کرنا ہے اور اللہ (عزوجل) علم و حکمت والا ہے۔

حدیث ۱ سنن ابی داؤد میں زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

کہ ”اللہ تعالیٰ نے صدقات کو نبی یا کسی اور کے حکم پر نہیں رکھا بلکہ اُس نے خود اس کا حکم بیان فرمایا اور اُس کے آٹھ حصے کیے۔“ (2)

حدیث ۲ امام احمد و ابوداؤد و حاکم ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ”غنی

کے لیے صدقہ حلال نہیں مگر پانچ شخص کے لیے:

(۱) اللہ (عزوجل) کی راہ میں جہاد کرنے والا یا

(۲) صدقہ پر عامل یا

(۳) تاوان والے کے لیے یا

(۴) جس نے اپنے مال سے خرید لیا ہو یا

(۵) مسکین کو صدقہ دیا گیا اور اس مسکین نے اپنے پڑوسی مالدار کو ہدیہ کیا۔“ (3) اور احمد و بیہقی کی دوسری روایت

میں مسافر کے لیے بھی جواز آیا ہے۔ (4)

حدیث ۳ بیہقی نے حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ فرمایا: ”صدقہ مفروضہ میں اولاد اور والد کا

① پ ۱۰، التوبة: ۶۰.

② ”سنن أبي داود“، كتاب الزكاة، باب يعطى من الصدقة وحد الغنى، الحديث: ۱۶۳۰، ج ۲، ص ۱۶۵.

③ ”المستدرک“ للحاکم، كتاب الزكاة، باب مقدار الغنى الذى يحرم السؤال، الحديث: ۱۵۲۰، ج ۲، ص ۲۹.

④ انظر: ”السنن الكبرى“ للبيهقي، كتاب قسم الصدقات، باب العامل على الصدقة ياخذ منها بقدر عمله... إلخ،

الحديث: ۱۳۱۶۷، ج ۷، ص ۲۳.

حق نہیں۔“ (1)

حدیث ۳ طبرانی کبیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”اے بنی ہاشم! تم اپنے نفس پر صبر کرو کہ صدقات آدمیوں کے دھوون ہیں۔“ (2)

حدیث ۷۵ امام احمد و مسلم مطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جائز نہیں کہ یہ تو آدمیوں کے میل ہیں۔“ (3)

اور ابن سعد کی روایت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری اہل بیت پر صدقہ حرام فرمادیا۔“ (4)

اور ترمذی و نسائی و حاکم کی روایت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں اور جس قوم کا آزاد کردہ غلام ہو، وہ انھیں میں سے ہے۔“ (5)

حدیث ۸ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کا خرما لے کر منہ میں رکھ لیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”چھی چھی کہ اُسے پھینک دیں، پھر فرمایا: کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔“ (6) طہمان و بہنر بن حکیم و براء و زید بن ارقم و عمرو بن خارجہ و سلمان و عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ و میمون و کیسان و ہرمز و خارجہ بن عمرو و مغیرہ و انس و غیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایتیں ہیں کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اہل بیت کے لیے صدقات ناجائز ہیں۔ (7)

مسئلہ ۱ زکاۃ کے مصارف سات ہیں:

(۱) فقیر

- ① ”السنن الكبرى“، کتاب قسم الصدقات باب المرأة تصیرف من زکاتها فی زوجها، الحدیث: ۱۳۲۲۹، ج ۷، ص ۴۵.
- ② ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۱۲۹۸۰، ج ۱۲، ص ۱۸۲.
- ③ ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاۃ، باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقة، الحدیث: ۱۰۷۲، ص ۵۳۹.
- ④ ”الطبقات الكبرى“ لابن سعد، ج ۱، ص ۲۹۷.
- ⑤ ”جامع الترمذی“، أبواب الزکاۃ، باب ماجاء فی کراهیة الصدقة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و اهل بیتہ و موالیہ، الحدیث: ۶۵۷، ج ۲، ص ۱۴۲.
- ⑥ ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاۃ، باب ما یدکر فی الصدقة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ، الحدیث: ۱۴۹۱، ج ۱، ص ۵۰۳.
- ⑦ انظر: ”کنز العمال“، کتاب الزکاۃ، ج ۶، ص ۱۹۵ - ۱۹۶.

(۲) مسکین

(۳) عامل

(۴) رقاب

(۵) غارم

(۶) فی سبیل اللہ

(۷) ابن سبیل۔^(۱)

مسئلہ ۲ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہو تو اُس کی حاجتِ اصلیه میں مستغرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان پہننے کے کپڑے خدمت کے لیے لونڈی غلام، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرا۔ یوہیں اگر مدیون ہے اور دین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، تو فقیر ہے اگرچہ اُس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔^(۲) (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۳ فقیر اگر عالم ہو تو اُسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے۔^(۳) (عالمگیری) مگر عالم کو دے تو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مد نظر ہو، ادب کے ساتھ دے جیسے چھوٹے بڑوں کو نذر دیتے ہیں اور معاذ اللہ عالم دین کی حقارت اگر قلب میں آئی تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے۔

مسئلہ ۴ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے، فقیر کو سوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اُسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکاۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اُس کو اور اُس کے مددگاروں کا متوسط طور پر کافی ہو، مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر لایا ہے اس کے نصف سے زیادہ ہو جائے۔^(۵) (درمختار وغیرہ)

① "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصرف، ج ۳، ص ۳۳۳ - ۳۴۰.

② "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصرف، ج ۳، ص ۳۳۳. وغیرہ

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۷.

④ المرجع السابق، ص ۱۸۷ - ۱۸۸.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصرف، ج ۳، ص ۳۳۴ - ۳۳۶، وغیرہ.

مسئلہ ۶ - عامل اگر چہ غنی ہو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے اور ہاشمی ہو تو اس کو مالِ زکاۃ میں سے دینا بھی ناجائز اور اُسے لینا بھی ناجائز ہاں اگر کسی اور مد سے دیں تو لینے میں بھی حرج نہیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ - زکاۃ کا مال عامل کے پاس سے جاتا رہا تو اب اسے کچھ نہ ملے گا، مگر دینے والوں کی زکاتیں ادا ہو گئیں۔^(۲) (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - کوئی شخص اپنے مال کی زکاۃ خود لے کر بیت المال میں دے آیا تو اُس کا معاوضہ عامل نہیں پائے گا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ - وقت سے پہلے معاوضہ لے لیا یا قاضی نے دے دیا یہ جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے نہ دیں اور اگر پہلے لے لیا اور وصول کیا ہو مال ہلاک ہو گیا تو ظاہر یہ کہ واپس نہ لیں گے۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ - رقاب سے مراد مکاتب غلام کو دینا کہ اس مالِ زکاۃ سے بدل کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن رہا کرے۔^(۵) (عامہ کتب)

مسئلہ ۱۱ - غنی کے مکاتب کو بھی مالِ زکاۃ دے سکتے ہیں اگر چہ معلوم ہے کہ یہ غنی کا مکتب ہے۔ مکتب پورا بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو گیا اور پھر بدستور غلام ہو گیا تو جو کچھ اُس نے مالِ زکاۃ لیا ہے، اس کو مولیٰ تصرف میں لاسکتا ہے اگر چہ غنی ہو۔^(۶) (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۱۲ - مکتب کو جو زکاۃ دی گئی وہ غلامی سے رہائی کے لیے ہے، مگر اب اسے اختیار ہے دیگر مصارف میں بھی خرچ کر سکتا ہے، اگر مکتب کے پاس بقدر نصاب مال ہے اور بدل کتابت سے بھی زیادہ ہے، جب بھی زکاۃ دے سکتے ہیں مگر ہاشمی کے مکتب کو زکاۃ نہیں دے سکتے۔^(۷) (عالمگیری، ردالمحتار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۸.

② "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۳۴.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۸.

④ "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۳۶.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۸.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۳۷، وغیرہ.

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۸.

و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۳۷.

مسئلہ ۱۳ غارم سے مراد مدیون ہے یعنی اس پر اتنا دین ہو کہ اُسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا اوروں پر باقی ہو مگر لینے پر قادر نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مدیون ہاشمی نہ ہو۔^(۱) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۴ فی سبیل اللہ یعنی راہِ خدا میں خرچ کرنا اس کی چند صورتیں ہیں، مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری اور زادِ راہ اُس کے پاس نہیں تو اُسے مالِ زکاۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہِ خدا میں دینا ہے اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اُس کے پاس مال نہیں اُس کو زکاۃ دے سکتے ہیں، مگر اسے حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔

یا طالب علم کہ علم دین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہِ خدا میں دینا ہے بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مالِ زکاۃ لے سکتا ہے، جب کہ اُس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو اگرچہ کسب پر قادر ہو۔ یوہیں ہر نیک بات میں زکاۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے، جب کہ بطور تملیک^(۲) ہو کہ بغیر تملیک زکاۃ ادا نہیں ہو سکتی۔^(۳) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۵ بہت سے لوگ مالِ زکاۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ متوتی مدرسہ کو اطلاع دیں کہ یہ مالِ زکاۃ ہے تاکہ متوتی اس مال کو جدار کھے اور مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پر صرف کرے، کسی کام کی اجرت میں نہ دے ورنہ زکاۃ ادا نہ ہوگی۔

مسئلہ ۱۶ ابن السبیل یعنی مسافر جس کے پاس مال نہ رہا زکاۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اُس کے گھر مال موجود ہو مگر اسی قدر لے جس سے حاجت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں۔ یوہیں اگر مالک نصاب کا مال کسی میعاد تک کے لیے دوسرے پر دین ہے اور ہنوز میعاد پوری نہ ہوئی اور اب اُسے ضرورت ہے یا جس پر اُس کا آتا ہے وہ یہاں موجود نہیں یا موجود ہے مگر نادار ہے یا دین سے منکر ہے، اگرچہ یہ ثبوت رکھتا ہو تو ان سب صورتوں میں بقدر ضرورت زکاۃ لے سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ قرض ملے تو قرض لے کر کام چلائے۔^(۴) (عالمگیری، درمختار) اور اگر دین مغل ہے یا میعاد پوری ہو گئی اور مدیون غنی حاضر ہے اور اقرار بھی کرتا ہے تو زکاۃ نہیں لے سکتا، کہ اُس سے لے کر اپنی ضرورت میں صرف کر سکتا ہے لہذا حاجت مند نہ ہو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرض جسے عرف میں لوگ دستگرداں کہتے ہیں، شرعاً ہمیشہ مغل ہوتا ہے کہ جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، اگرچہ ہزار عہد و پیمان و وثیقہ و تمسک کے ذریعہ سے اس میں میعاد مقرر کی ہو کہ اتنی مدت کے بعد دیا جائے گا، اگرچہ یہ لکھ دیا ہو کہ اُس میعاد

① "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصرف، ج ۳، ص ۳۳۹، وغیرہ.

② یعنی جس کو دے، اسے مالک بنا دے۔

③ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصرف، ج ۳، ص ۳۳۹، وغیرہ.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۸.

و "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصرف، ج ۳، ص ۳۴۰.

سے پہلے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا اگر مطالبہ کرے تو باطل و نامسموع ہوگا کہ سب شرطیں باطل ہیں اور قرض دینے والے کو ہر وقت مطالبہ کا اختیار ہے۔^(۱) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۷ مسافر یا اس مالکِ نصاب نے جس کا اپنا مال دوسرے پر دین ہے، بوقتِ ضرورت مالِ زکاۃ بقدر ضرورت لیا پھر اپنا مال مل گیا مثلاً مسافر گھر پہنچ گیا یا مالکِ نصاب کا دین وصول ہو گیا، تو جو کچھ زکاۃ میں کا باقی ہے اب بھی اپنے صرف میں لاسکتا ہے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۸ زکاۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ ان ساتوں قسموں کو دے یا ان میں کسی ایک کو دیدے، خواہ ایک قسم کے چند اشخاص کو یا ایک کو اور مالِ زکاۃ اگر بقدرِ نصاب نہ ہو تو ایک کو دینا افضل ہے اور ایک شخص کو بقدرِ نصاب دے دینا مکروہ، مگر دے دیا تو ادا ہوگئی۔ ایک شخص کو بقدرِ نصاب دینا مکروہ اُس وقت ہے کہ وہ فقیر مدیون نہ ہو اور مدیون ہو تو اتنا دے دینا کہ دین نکال کر کچھ نہ بچے یا نصاب سے کم بچے مکروہ نہیں۔ یوہیں اگر وہ فقیر بال بچوں والا ہے کہ اگرچہ نصاب یا زیادہ ہے، مگر اہل و عیال پر تقسیم کریں تو سب کو نصاب سے کم ملتا ہے تو اس صورت میں بھی حرج نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ زکاۃ ادا کرنے میں یہ ضرور ہے کہ جسے دیں مالک بنا دیں، اباحت کافی نہیں، لہذا مالِ زکاۃ مسجد میں صرف کرنا یا اُس سے میت کو کفن دینا یا میت کا دین ادا کرنا یا غلام آزاد کرنا، پل، سرائ، سقایہ، سڑک، بنوادینا، نہریا کو آں کھدوا دینا ان افعال میں خرچ کرنا یا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کر وقف کر دینا کافی ہے۔^(۴) (جوہرہ، تنویر، عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ فقیر پر دین ہے اس کے کہنے سے مالِ زکاۃ سے وہ دین ادا کیا گیا زکاۃ ادا ہوگئی اور اگر اُس کے حکم سے نہ ہو تو زکاۃ ادا نہ ہوئی اور اگر فقیر نے اجازت دی مگر ادا سے پہلے مر گیا، تو یہ دین اگر مالِ زکاۃ سے ادا کریں زکاۃ ادا نہ ہوگی۔^(۵) (درمختار) ان چیزوں میں مالِ زکاۃ صرف کرنے کا حیلہ ہم بیان کر چکے، اگر حیلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۲۱ (۱) اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانائانی وغیرہم جن کی اولاد میں یہ ہے (۲) اور اپنی اولاد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہم کو زکاۃ نہیں دے سکتا۔ یوہیں صدقہ فطر و نذر و کفارہ بھی انھیں نہیں دے سکتا۔ رہا صدقہ نفل وہ دے

..... 1

..... 2 "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۰.

..... 3 "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۸.

..... 4 "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۸.

و "تنویر الأبصار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۱ - ۳۴۳.

..... 5 "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۲.

سکتا ہے بلکہ بہتر ہے۔^(۱) (عالمگیری، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۲۲ — زنا کا بچہ جو اُس کے نطفہ سے ہو یا وہ بچہ کہ اُس کی منکوحہ سے زمانہ نکاح میں پیدا ہوا، مگر یہ کہہ چکا کہ میرا نہیں انھیں نہیں دے سکتا۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳ — بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو دے سکتا ہے اور رشتہ داروں میں جس کا نفقہ اُس کے ذمہ واجب ہے، اُسے زکاۃ دے سکتا ہے جب کہ نفقہ میں محسوب نہ کرے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۴ — ماں باپ محتاج ہوں اور حیلہ کر کے زکاۃ دینا چاہتا ہے کہ یہ فقیر کو دے دے پھر فقیر انھیں دے یہ مکروہ ہے۔^(۴) (ردالمحتار) یوہیں حیلہ کر کے اپنی اولاد کو دینا بھی مکروہ ہے۔

مسئلہ ۲۵ — (۳) اپنے یا اپنی اصل یا اپنی فرع یا اپنے زوج یا اپنی زوجہ کے غلام یا مکاتب^(۵) یا مدبر^(۶) یا ام ولد^(۷) یا اُس غلام کو جس کے کسی بچہ کا یہ مالک ہو، اگرچہ بعض حصہ آزاد ہو چکا ہو زکاۃ نہیں دے سکتا۔^(۸) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ — (۴) عورت شوہر کو (۵) اور شوہر عورت کو زکاۃ نہیں دے سکتا، اگرچہ طلاق بائن بلکہ تین طلاقیں دے چکا ہو، جب تک عدت میں ہے اور عدت پوری ہوگئی تو اب دے سکتا ہے۔^(۹) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ — (۶) جو شخص مالک نصاب ہو (جبکہ وہ چیز حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہو یعنی مکان، سامان خانہ داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، ہتھیار، اہل علم کے لیے کتابیں جو اس کے کام میں ہوں کہ یہ سب حاجتِ اصلیہ سے ہیں اور وہ چیز ان کے علاوہ ہو، اگرچہ اس پر سال نہ گزرا ہو اگرچہ وہ مال نامی نہ ہو) ایسے کو زکاۃ دینا جائز نہیں۔

① "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۴، وغیرہ.

② "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۴.

③ "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۴.

④ المرجع السابق.

⑤ یعنی آقا اپنے غلام سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہہ دے کہ اتنا ادا کر دے تو آزاد ہے اور غلام اس کو قبول بھی کر لے۔

⑥ یعنی وہ غلام جس کی نسبت مولیٰ نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔

⑦ یعنی وہ لونڈی جس کے بچہ پیدا ہوا اور مولیٰ نے اقرار کیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔

تفصیلی معلومات کے لئے بہارِ شریعت حصہ ۹ میں مدبر، مکاتب اور ام ولد کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔

⑧ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۹.

⑨ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۵.

اور نصاب سے مراد یہاں یہ ہے کہ اُس کی قیمت دوسو درم ہو، اگرچہ وہ خود اتنی نہ ہو کہ اُس پر زکاۃ واجب ہو مثلاً چھ تو لے سونا جب دوسو درم قیمت کا ہو تو جس کے پاس ہے اگرچہ اُس پر زکاۃ واجب نہیں کہ سونے کی نصاب ساڑھے سات تو لے ہے مگر اس شخص کو زکاۃ نہیں دے سکتے یا اس کے پاس تیس بکریاں یا بیس گائیں ہوں جن کی قیمت دوسو درم ہے اسے زکاۃ نہیں دے سکتا، اگرچہ اس پر زکاۃ واجب نہیں یا اُس کے پاس ضرورت کے سوا اسباب ہیں جو تجارت کے لیے بھی نہیں اور وہ دوسو درم کے ہیں تو اسے زکاۃ نہیں دے سکتے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ صحیح تندرست کو زکاۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں۔^(۲) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۹ (۷) جو شخص مالکِ نصاب ہے اُس کے غلام کو بھی زکاۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ غلام اپانچ ہو اور اُس کا مولیٰ کھانے کو بھی نہیں دیتا یا اُس کا مالک غائب ہو، مگر مالکِ نصاب کے مکاتب کو اور اُس ماذون کو دے سکتے ہیں جو خود اور اُس کا مال دین میں مستغرق ہو۔ (۸) یو ہیں غنی مرد کے نابالغ بچے کو بھی نہیں دے سکتے اور غنی کی بالغ اولاد کو دے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہوں۔^(۳) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳۰ غنی کی بی بی کو دے سکتے ہیں جب کہ مالکِ نصاب نہ ہو۔ یو ہیں غنی کے باپ کو دے سکتے ہیں جبکہ فقیر ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ جس عورت کا دین مہر اس کے شوہر پر باقی ہے، اگرچہ وہ بقدر نصاب ہو اگرچہ شوہر مالدار ہو ادا کرنے پر قادر ہو اُسے زکاۃ دے سکتے ہیں۔^(۵) (جوہرہ نیرہ)

مسئلہ ۳۲ جس بچہ کی ماں مالکِ نصاب ہے، اگرچہ اس کا باپ زندہ نہ ہو اُسے زکاۃ دے سکتے ہیں۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۳۳ جس کے پاس مکان یا دکان ہے جسے کرایہ پر اٹھاتا ہے اور اُس کی قیمت مثلاً تین ہزار ہو مگر کرایہ اتنا

① "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، مطلب فی حوائج الأصلیة، ج ۳، ص ۳۴۶.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۹، وغیرہ.

③ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۸.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۹.

⑤ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الزکاۃ، باب من یجوز دفع الصدقۃ الیہ ومن لا یجوز، ص ۱۶۷.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۹.

نہیں جو اُس کی اور بال بچوں کی خورش کو کافی ہو سکے تو اُس کو زکاۃ دے سکتے ہیں۔ یو ہیں اس کی ملک میں کھیت ہیں جن کی کاشت کرتا ہے، مگر پیداوار اتنی نہیں جو سال بھر کی خورش کے لیے کافی ہو اُس کو زکاۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ کھیت کی قیمت دو سو درم یا زائد ہو۔⁽¹⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۳ جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ ہو جس کی قیمت دو سو درم ہو اور وہ غلہ سال بھر کو کافی ہے، جب بھی اس کو زکاۃ دینا حلال ہے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۵ جاڑے⁽³⁾ کے کپڑے جن کی گرمیوں میں حاجت نہیں پڑتی حاجتِ اصلیہ میں ہیں، وہ کپڑے اگرچہ بیش قیمت ہوں زکاۃ لے سکتا ہے، جس کے پاس رہنے کا مکان حاجت سے زیادہ ہو یعنی پورے مکان میں اس کی سکونت نہیں یہ شخص زکاۃ لے سکتا ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو چیز ملتا ہے اس کی مالک عورت ہی ہے، اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک حاجت کی جیسے خانہ داری کے سامان، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن اس قسم کی چیزیں کتنی ہی قیمت کی ہوں ان کی وجہ سے عورت غنی نہیں، دوسری وہ چیزیں جو حاجتِ اصلیہ سے زائد ہیں زینت کے لیے دی جاتی ہیں جیسے زیور اور حاجت کے علاوہ اسباب اور برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت بھاری جوڑے، ان چیزوں کی قیمت اگر بقدر نصاب ہے عورت غنی ہے زکاۃ نہیں لے سکتی۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۷ موتی وغیرہ جو اہر جس کے پاس ہوں اور تجارت کے لیے نہ ہوں تو ان کی زکاۃ واجب نہیں، مگر جب نصاب کی قیمت کے ہوں تو زکاۃ لے نہیں سکتا۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۳۸ جس کے مکان میں نصاب کی قیمت کا باغ ہو اور باغ کے اندر ضروریات مکان باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ نہیں تو اسے زکاۃ لینا جائز نہیں۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۹.

② "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، مطلب فی حوائج الاصلیہ، ج ۳، ص ۳۴۶.

③ یعنی سردی۔

④ "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۷.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، مطلب فی جهاز المرأة هل تصیر به غنیہ، ج ۳، ص ۳۴۷.

⑥ المرجع السابق، وغیرہ.

⑦ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۹.

مسئلہ ۳۹ (۹) بنی ہاشم کو زکاۃ نہیں دے سکتے۔ نہ غیر انھیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔

بنی ہاشم سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبدالمطلب کی اولادیں ہیں۔ ان کے علاوہ جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعانت نہ کی، مثلاً ابولہب کہ اگرچہ یہ کافر بھی حضرت عبدالمطلب کا بیٹا تھا، مگر اس کی اولادیں بنی ہاشم میں شمار نہ ہوں گی۔^(۱) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۳۰ بنی ہاشم کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کو بھی نہیں دے سکتے تو جو غلام اُن کی ملک میں ہیں، انہیں دینا بطریقِ اولیٰ ناجائز۔^(۲) (درمختار وغیرہ، عامہ کتب)

مسئلہ ۳۱ ماں ہاشمی بلکہ سیدانی ہو اور باپ ہاشمی نہ ہو تو وہ ہاشمی نہیں کہ شرع میں نسب باپ سے ہے، لہذا ایسے شخص کو زکاۃ دے سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا مانع نہ ہو۔

مسئلہ ۳۲ صدقہ نفل اور اوقاف کی آمدنی بنی ہاشم کو دے سکتے ہیں، خواہ وقف کرنے والے نے ان کی تعیین کی ہو یا نہیں۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۳۳ (۱۰) ذمی کافر کو نہ زکاۃ دے سکتے ہیں، نہ کوئی صدقہ واجبہ جیسے نذر و کفارہ و صدقہ فطر^(۴) اور حربی کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں نہ واجبہ نفل، اگرچہ وہ دارالاسلام میں بادشاہ اسلام سے امان لے کر آیا ہو۔^(۵) (درمختار) ہندوستان اگرچہ دارالاسلام ہے مگر یہاں کے کفار ذمی نہیں، انہیں صدقات نفل مثلاً ہدیہ وغیرہ دینا بھی ناجائز ہے۔

فائدہ: جن لوگوں کو زکاۃ دینا ناجائز ہے انہیں اور بھی کوئی صدقہ واجبہ نذر و کفارہ و فطرہ دینا جائز نہیں، سوا دینیہ اور معدن کے کہ ان کا خمس اپنے والدین و اولاد کو بھی دے سکتا ہے، بلکہ بعض صورت میں خود بھی صرف کر سکتا ہے جس کا بیان

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۹، وغیرہ۔

②..... "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۵۱، وغیرہ۔

③..... المرجع السابق، ص ۳۵۲۔

④..... فتاویٰ قاضی خان میں ہے، صدقہ فطر ذمی فقراء کو دینا جائز ہے مگر مکروہ ہے۔

(الفتاویٰ الخانیۃ، کتاب الصوم، فصل فی صدقہ الفطر، ج ۱، ص ۱۱۱)۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے، ذمی کافروں کو زکوٰۃ دینا بالاتفاق جائز نہیں اور نفلی صدقہ ان کو دینا جائز ہے۔ صدقہ فطر، نذر اور کفارات میں اختلاف ہے امام ابوحنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فرماتے ہیں کہ جائز ہے مگر مسلمان فقراء کو دینا ہمیں زیادہ محبوب ہے۔

(الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۸)۔

انظر: "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، مطلب فی حوائج الأصلیۃ، ج ۳، ص ۳۵۳۔

و "المبسوط"، کتاب الصوم، فصل فی صدقہ الفطر، ج ۲، ص ۱۲۳۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۵۳۔

گزارا۔^(۱) (جوہرہ)

مسئلہ ۳۴ جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا کہ انھیں زکاۃ دے سکتے ہیں، اُن سب کا فقیر ہونا شرط ہے، سوا عامل کے کہ اس کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں اور ابن السبیل اگر چہ غنی ہو، اُس وقت حکم فقیر میں ہے، باقی کسی کو جو فقیر نہ ہو زکاۃ نہیں دے سکتے۔^(۲) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۳۵ جو شخص مرض الموت میں ہے اس نے زکاۃ اپنے بھائی کو دی اور یہ بھائی اس کا وارث ہے تو زکاۃ عند اللہ ادا ہوگئی، مگر باقی وارثوں کو اختیار ہے کہ اس سے اس زکاۃ کو واپس لیں کہ یہ وصیت کے حکم میں ہے اور وارث کے لیے بغیر اجازت دیگر ورثہ وصیت صحیح نہیں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ جو شخص اس کی خدمت کرتا اور اس کے یہاں کے کام کرتا ہے اسے زکاۃ دی یا اس کو دی جس نے خوشخبری سنائی یا اُسے دی جس نے اُس کے پاس ہدیہ بھیجا یہ سب جائز ہے، ہاں اگر عوض کہہ کر دی تو ادا نہ ہوئی۔ عید، بقر عید میں خدام مرد و عورت کو عیدی کہہ کر دی تو ادا ہوگئی۔^(۴) (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ جس نے تحری کی یعنی سوچا اور دل میں یہ بات جمی کہ اس کو زکاۃ دے سکتے ہیں اور زکاۃ دے دی بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ مصرف زکاۃ ہے یا کچھ حال نہ کھلا تو ادا ہوگئی اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی تھا یا اُس کے والدین میں کوئی تھا یا اپنی اولاد تھی یا شوہر تھا یا زوجہ تھی یا ہاشمی یا ہاشمی کا غلام تھا یا ذمی تھا، جب بھی ادا ہوگئی اور اگر یہ معلوم ہوا کہ اُس کا غلام تھا یا حربی تھا تو ادا نہ ہوئی۔ اب پھر دے اور یہ بھی تحری ہی کے حکم میں ہے کہ اُس نے سوال کیا، اس نے اُسے غنی نہ جان کر دے دیا یا وہ فقیروں کی جماعت میں انھیں کی وضع میں تھا اُسے دے دیا۔^(۵) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۸ اگر بے سوچے سمجھے دے دی یعنی یہ خیال بھی نہ آیا کہ اُسے دے سکتے ہیں یا نہیں اور بعد میں معلوم ہوا کہ اُسے نہیں دے سکتے تھے تو ادا نہ ہوئی، ورنہ ہوگئی اور اگر دیتے وقت شک تھا اور تحری نہ کی یا کسی طرف دل نہ جمایا تحری کی اور غالب گمان یہ ہوا کہ یہ زکاۃ کا مصرف نہیں اور دے دیا تو ان سب صورتوں میں ادا نہ ہوئی مگر جبکہ دینے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ واقعی

① "الجوهرة النيرة"، كتاب الزكاة، ص ۱۶۷.

② "الدرالمختار"، كتاب الزكاة، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۳۴ - ۳۴۱، وغيره.

③ "ردالمحتار"، كتاب الزكاة، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۴۴.

④ "الجوهرة النيرة"، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة... إلخ، ص ۱۶۹.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، ج ۱، ص ۱۹۰.

⑤ "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، ص ۱۸۹، و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الزكاة، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۵۳.

وہ مصرفِ زکاة تھا تو ہوگئی۔⁽¹⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۴۹ زکاة وغیرہ صدقات میں افضل یہ ہے کہ اولاً اپنے بھائیوں، بہنوں کو دے پھر اُن کی اولاد کو پھر چچا اور پھوپھوں کو پھر ان کی اولاد کو پھر ماموں اور خالہ کو پھر اُن کی اولاد کو پھر ذوی الارحام یعنی رشتہ والوں کو پھر پڑوسیوں کو پھر اپنے پیشہ والوں کو پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو۔⁽²⁾ (جوہرہ، عالمگیری)

حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے اُمّتِ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! قسم ہے اُس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا، جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے، قسم ہے اُس کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔“⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۰ دوسرے شہر کو زکاة بھیجنا مکروہ ہے، مگر جب کہ وہاں اُس کے رشتے والے ہوں تو اُن کے لیے بھیج سکتا ہے یا وہاں کے لوگوں کو زیادہ حاجت ہے یا زیادہ پرہیزگار ہیں یا مسلمانوں کے حق میں وہاں بھیجنا زیادہ نافع ہے یا طالبِ علم کے لیے بھیجے یا زاہدوں کے لیے یا دارالحرب میں ہے اور زکاة دارالاسلام میں بھیجے یا سال تمام سے پہلے ہی بھیج دے، ان سب صورتوں میں دوسرے شہر کو بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۵۱ شہر سے مراد وہ شہر ہے جہاں مال ہو، اگر خود ایک شہر میں ہے اور مال دوسرے شہر میں تو جہاں مال ہو وہاں کے فقرا کو زکاة دی جائے اور صدقہ فطر میں وہ شہر مراد ہے جہاں خود ہے، اگر خود ایک شہر میں ہے اُس کے چھوٹے بچے اور غلام دوسرے شہر میں تو جہاں خود ہے وہاں کے فقرا پر صدقہ فطر تقسیم کرے۔⁽⁵⁾ (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۵۲ بد مذہب کو زکاة دینا جائز نہیں۔⁽⁶⁾ (درمختار) جب بد مذہب کا یہ حکم ہے تو وہابیہ زمانہ کہ توہینِ خدا

① ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۹۰، وغیرہ.

② ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۹۰.

③ ”المعجم الاوسط“، الحدیث ۸۸۲۸، ج ۶، ص ۲۹۶.

و ”ردالمحتار“، کتاب الزکاة، باب المصروف، مطلب فی حوائج الاصلیة، ج ۳، ص ۳۵۵.

④ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۹۰.

و ”الدرالمختار“، کتاب الزکاة، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۵۵.

⑤ ”الفتاویٰ الہندیہ“، المرجع السابق.

⑥ ”الدرالمختار“، کتاب الزکاة، باب المصروف، ج ۳، ص ۳۵۶.

و تنقیص شان رسالت کرتے اور شائع کرتے ہیں، جن کو اکابر علمائے حرمین طہیین نے بالاتفاق کافر و مرتد فرمایا۔ (1) اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، انھیں زکاۃ دینا حرام و سخت حرام ہے اور دی تو ہرگز ادا نہ ہوگی۔

مسئلہ ۵۳ جس کے پاس آج کھانے کو ہے یا تندرست ہے کہ کما سکتا ہے اُسے کھانے کے لیے سوال حلال نہیں اور بے مانگے کوئی خود دے دے تو لینا جائز اور کھانے کو اُس کے پاس ہے مگر کپڑا نہیں تو کپڑے کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ یو ہیں اگر جہاد یا طلب علم دین میں مشغول ہے تو اگرچہ صحیح تندرست کمانے پر قادر ہو اُسے سوال کی اجازت ہے، جسے سوال جائز نہیں اُس کے سوال پر دینا بھی ناجائز دینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ (2) (در مختار)

مسئلہ ۵۴ مستحب یہ ہے کہ ایک شخص کو اتنا دیں کہ اُس دن اُسے سوال کی حاجت نہ پڑے اور یہ اُس فقیر کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہے، اُس کے کھانے بال بچوں کی کثرت اور دیگر امور کا لحاظ کر کے دے۔ (3) (در مختار، ردالمحتار)

صدقہ فطر کا بیان

حدیث ۱ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکاۃ فطر ایک صاع خرما یا جو، غلام و آزاد مرد و عورت چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پر مقرر کی اور یہ حکم فرمایا: کہ ”نماز کو جانے سے پیشتر ادا کر دیں۔“ (4)

حدیث ۲ ابو داؤد و نسائی کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آخر رمضان میں فرمایا: اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو، اس صدقہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، ایک صاع خرما یا جو یا نصف صاع گیہوں۔ (5)

①..... تفصیلی معلومات کے لیے اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، علامہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی کتاب ”حُصَامُ الْحَرَمَیْنِ عَلٰی مَنْحَرِ الْکُفْرِ وَالْمَیْنِ“ کا مطالعہ فرمائیے۔ ”حُصَامُ الْحَرَمَیْنِ“ کی اہمیت کے پیش نظر، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: تَمْهِيْدُ الْاِيْمَانِ اور حُصَامُ الْحَرَمَیْنِ کے کیا کہنے! واللہ العظیم جل جلالہ، میرے آقا امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ کتابیں لکھ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے میری مدنی التجاء ہے کہ پہلی فرصت میں ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔“ آپ کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام ہے کہ: ”کیا آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن کی کُتُب تَمْهِيْدُ الْاِيْمَانِ اور حُصَامُ الْحَرَمَیْنِ پڑھ یا سن لی ہیں؟“

②..... ”الدرالمختار“، کتاب الزکاۃ، باب المصرف، ج ۳، ص ۳۵۷.

③..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الزکاۃ، باب المصرف، مطلب فی حوائج الاصلیة، ج ۳، ص ۳۵۸.

④..... ”صحیح البخاری“، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، الحدیث: ۱۵۰۳، ج ۱، ص ۵۰۷.

⑤..... ”سنن أبي داود“، کتاب الزکاۃ، باب من روى نصف صاع من قمح، الحدیث: ۱۶۲۲، ج ۲، ص ۱۶۱.

حدیث ۳ — ترمذی شریف میں بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔^(۱)

حدیث ۴ — ابوداؤد وابن ماجہ و حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکاۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خورش^(۲) ہو جائے۔^(۳)

حدیث ۵ — دیلمی و خطیب وابن عساکر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”بندہ کا روزہ آسمان وزمین کے درمیان معلق رہتا ہے، جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے۔“^(۴)

مسئلہ ۱ — صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے۔ ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے اگرچہ مسنون قبل نماز عید ادا کر دینا ہے۔^(۵) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲ — صدقہ فطر شخص پر واجب ہے مال پر نہیں، لہذا مرگیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے کچھ اُن پر جبر نہیں اور اگر وصیت کر گیا ہے تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا اگرچہ ورثہ اجازت نہ دیں۔^(۶) (جوہرہ وغیرہ)

مسئلہ ۳ — عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہو یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہو اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مر یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہو یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ — صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالکِ نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں۔^(۸) (درمختار) مال نامی اور حاجت اصلیہ کا بیان گزر چکا، اس کی صورتیں

① ”جامع الترمذی“، أبواب الزکاۃ، باب ماجاء فی صدقۃ الفطر، الحدیث: ۶۷۴، ج ۲، ص ۱۵۱۔

② یعنی خوراک۔

③ ”سنن أبي داود“، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ الفطر، الحدیث: ۱۶۰۹، ج ۲، ص ۱۵۷۔

④ ”تاریخ بغداد“، رقم: ۴۷۳۵، ج ۹، ص ۱۲۲۔

⑤ ”الدرالمختار“، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۲، وغیرہ۔

⑥ ”الجوہرۃ النیرۃ“، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ص ۱۷۴، وغیرہ۔

⑦ ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الزکاۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، ج ۱، ص ۱۹۲۔

⑧ ”الدرالمختار“، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۲ - ۳۶۵۔

وہیں سے معلوم کریں۔

مسئلہ ۵ نابالغ یا مجنون اگر مالکِ نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے، اُن کا ولی اُن کے مال سے ادا کرے، اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا تو اب یہ خود ادا کر دیں اور اگر خود مالکِ نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش میں آنے پر اُن کے ذمہ ادا کرنا نہیں۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں، مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ واجب رہے گا ساقط نہ ہوگا، بخلاف زکاۃ و عشرکہ یہ دونوں مال ہلاک ہو جانے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۷ مرد مالکِ نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچہ کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالکِ نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے اور مجنون اولاد اگر چہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اُس کا صدقہ اُس کے باپ پر واجب ہے اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے، جنون خواہ اصلی ہو یعنی اسی حالت میں بالغ ہو یا بعد کو عارض ہوا دونوں کا ایک حکم ہے۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا جب بھی واجب ہے۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ نابالغ لڑکی جو اس قابل ہے کہ شوہر کی خدمت کر سکے اس کا نکاح کر دیا اور شوہر کے یہاں اُسے بھیج بھی دیا تو کسی پر اس کی طرف سے صدقہ واجب نہیں، نہ شوہر پر نہ باپ پر اور اگر قابل خدمت نہیں یا شوہر کے یہاں اُسے بھیجا نہیں تو بدستور باپ پر ہے پھر یہ سب اس وقت ہے کہ لڑکی خود مالکِ نصاب نہ ہو، ورنہ بہر حال اُس کا صدقہ فطر اس کے مال سے ادا کیا جائے۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتی کی طرف سے اس پر صدقہ دینا واجب ہے۔^(۶) (درمختار)

۱..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۵.

۲..... "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۶.

۳..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۷.

۴..... "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۷.

۵..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۸.

۶..... "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۸.

مسئلہ ۱۱ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ خدمت کے غلام اور مدبر و ام ولد کی طرف سے ان کے مالک پر صدقہ فطر واجب ہے، اگرچہ غلام مدون ہو، اگرچہ دین میں مستغرق ہو اور اگر غلام گروی ہو اور مالک کے پاس حاجتِ اصلیہ کے سوا اتنا ہو کہ دین ادا کر دے اور پھر نصاب کا مالک رہے تو مالک پر اُس کی طرف سے بھی صدقہ واجب ہے۔^(۲) (درمختار، عالمگیری وغیرہما)

مسئلہ ۱۳ تجارت کے غلام کا فطرہ مالک پر واجب نہیں اگرچہ اس کی قیمت بقدر نصاب نہ ہو۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۴ غلام عاریۃ^(۴) دے دیا یا کسی کے پاس امانت رکھا تو مالک پر فطرہ واجب ہے اور اگر یہ وصیت کر گیا کہ یہ غلام فلاں کا کام کرے اور میرے بعد اس کا مالک فلاں ہے تو فطرہ مالک پر ہے، اُس پر نہیں جس کے قبضہ میں ہے۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۱۵ بھاگا ہوا غلام اور وہ جسے حربیوں نے قید کر لیا ان کی طرف سے صدقہ مالک پر نہیں۔ یوہیں اگر کسی نے غصب کر لیا اور غاصب انکار کرتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں تو اس کا فطرہ بھی واجب نہیں، مگر جب کہ واپس مل جائیں تو اب ان کی طرف سے سالہائے گزشتہ کا فطرہ دے، مگر حربی اگر غلام کے مالک ہو گئے تو واپسی کے بعد بھی اس کا فطرہ نہیں۔^(۶) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ مکاتب کا فطرہ نہ مکاتب پر ہے، نہ اس کے مالک پر۔ یوہیں مکاتب اور ماذون کے غلام کا اور مکاتب اگر بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز آیا تو مالک پر سالہائے گزشتہ کا فطرہ نہیں۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ دو یا چند شخصوں میں غلام مشترک ہے تو اُس کا فطرہ کسی پر نہیں۔^(۸) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ غلام بیچ ڈالا اور بائع یا مشتری یا دونوں نے واپسی کا اختیار رکھا عید الفطر آگئی اور میعاد اختیار ختم نہ ہوئی تو

① "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۸.

② "الدرالمختار"، کتاب الزکاة، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۹.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، ج ۱، ص ۱۹۲، وغیرہما.

③ "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۹.

④ یعنی ادھار۔

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الزکاة، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۶۹.

⑥ المرجع السابق، ص ۳۷۰.

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاة، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، ج ۱، ص ۱۹۳.

⑧ المرجع السابق.

اُس کا فطرہ موقوف ہے، اگر بیع قائم رہی تو مشتری دے ورنہ بائع۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ - اگر مشتری نے خیار عیب یا خیار رویت کے سبب واپس کیا تو اگر قبضہ کر لیا تھا تو مشتری پر ہے، ورنہ بائع پر۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ - غلام کو بیچا مگر وہ بیع فاسد ہوئی اور مشتری نے قبضہ کر کے واپس کر دیا یا عید کے بعد قبضہ کر کے آزاد کر دیا تو بائع پر ہے اور اگر عید سے پہلے قبضہ کیا اور بعد عید آزاد کیا تو مشتری پر۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ - مالک نے غلام سے کہا جب عید کا دن آئے تو آزاد ہے۔ عید کے دن غلام آزاد ہو جائے گا اور مالک پر اس کا فطرہ واجب۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ - اپنی عورت اور اولاد عاقل بالغ کا فطرہ اُس کے ذمہ نہیں اگرچہ اپنا بیج ہو، اگرچہ اس کے نفقات اس کے ذمہ ہوں۔⁽⁵⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۳ - عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کے بغیر اذن ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، بشرطیکہ اولاد اس کے عیال میں ہو یعنی اس کا نفقہ وغیرہ اُس کے ذمہ ہو، ورنہ اولاد کی طرف سے بلا اذن⁽⁶⁾ ادا نہ ہوگا اور عورت نے اگر شوہر کا فطرہ بغیر حکم ادا کر دیا ادا نہ ہوا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری، رد المحتار وغیرہما)

مسئلہ ۲۴ - ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا۔⁽⁸⁾ (عالمگیری، جوہرہ)

مسئلہ ۲۵ - صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو نصف صاع، کھجور یا منقے یا جو یا اس کا آٹا یا ستو ایک صاع۔⁽⁹⁾ (درمختار، عالمگیری)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، ج ۱، ص ۱۹۳.

② المرجع السابق.

③ المرجع السابق.

④ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۷۰، وغیرہ.

⑤ یعنی بغیر اجازت۔

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، ج ۱، ص ۱۹۳.

⑦ و "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۷۰، وغیرہما.

⑧ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، ج ۱، ص ۱۹۳.

⑨ المرجع السابق، ص ۱۹۱، و "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۷۲.

مسئلہ ۲۶ گیہوں، جو، کھجوریں، منقے دیے جائیں تو ان کی قیمت کا اعتبار نہیں، مثلاً نصف صاع عمدہ جو جن کی قیمت ایک صاع جو کے برابر ہے یا چھارم صاع کھرے گیہوں جو قیمت میں آدھے صاع گیہوں کے برابر ہیں یا نصف صاع کھجوریں دیں جو ایک صاع جو یا نصف صاع گیہوں کی قیمت کی ہوں یہ سب ناجائز ہے جتنا دیا اتنا ہی ادا ہوا، باقی اس کے ذمہ باقی ہے ادا کرے۔^(۱) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۷ نصف صاع جو اور چھارم صاع گیہوں دیے یا نصف صاع جو اور نصف صاع کھجور تو بھی جائز ہے۔^(۲) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ گیہوں اور جو ملے ہوئے ہوں اور گیہوں زیادہ ہیں تو نصف صاع دے ورنہ ایک صاع۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ گیہوں اور جو کے دینے سے ان کا آنا دینا افضل ہے اور اس سے افضل یہ کہ قیمت دیدے، خواہ گیہوں کی قیمت دے یا جو کی یا کھجور کی مگر گرانی میں خود ان کا دینا قیمت دینے سے افضل ہے اور اگر خراب گیہوں یا جو کی قیمت دی تو اچھے کی قیمت سے جو کمی پڑے پوری کرے۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ ان چار چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے، مثلاً چاول، جوار، باجرہ یا اور کوئی غلہ یا اور کوئی چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا یعنی وہ چیز آدھے صاع گیہوں یا ایک صاع جو کی قیمت کی ہو، یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا اگر چہ گیہوں یا جو کی ہو۔^(۵) (ردالمختار، عالمگیری وغیرہما)

مسئلہ ۳۱ اعلیٰ درجہ کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے، کہ صاع کا وزن تین سو اسی^{۳۵} روپے بھر ہے اور نصف صاع ایک سو پچھتر روپے اٹھنی بھر اوپر۔^(۶) (فتاویٰ رضویہ)

مسئلہ ۳۲ فطرہ کا مقدم کرنا مطلقاً جائز ہے جب کہ وہ شخص موجود ہو، جس کی طرف سے ادا کرتا ہو اگر چہ رمضان سے پیشتر ادا کر دے اور اگر فطرہ ادا کرتے وقت مالک نصاب نہ تھا پھر ہو گیا تو فطرہ صحیح ہے اور بہتر یہ ہے کہ عید کی صبح صادق

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، ج ۱، ص ۱۹۲، وغیرہ.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، ج ۱، ص ۱۹۲.

③ "ردالمحتار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۷۳.

④ المرجع السابق، ص ۳۷۶، و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، ج ۱، ص ۱۹۱ - ۱۹۲.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، المرجع السابق، ص ۱۹۱، و "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۷۳، وغیرہما.

⑥ "الفتاویٰ الرضویۃ"، ج ۱۰، ص ۲۹۵.

ہونے کے بعد اور عید گاہ جانے سے پہلے ادا کر دے۔^(۱) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے اور چند مسکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے۔ یوہیں ایک

مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۴ شوہر نے عورت کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا، اُس نے شوہر کے فطرہ کے گہوں اپنے فطرہ کے گہوں

میں ملا کر فقیر کو دے دیے اور شوہر نے ملانے کا حکم نہ دیا تھا تو عورت کا فطرہ ادا ہو گیا شوہر کا نہیں مگر جب کہ ملا دینے پر عرف جاری ہو تو شوہر کا بھی ادا ہو جائے گا۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۵ عورت نے شوہر کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا اذن دیا، اس نے عورت کے گہوں اپنے گہوں میں ملا کر سب

کی نیت سے فقیر کو دے دیے جائز ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکاۃ کے ہیں یعنی جن کو زکاۃ دے سکتے ہیں، انہیں فطرہ بھی

دے سکتے ہیں اور جنہیں زکاۃ نہیں دے سکتے، انہیں فطرہ بھی نہیں سوا عامل کے کہ اس کے لیے زکاۃ ہے فطرہ نہیں۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۷ اپنے غلام کی عورت کو فطرہ دے سکتے ہیں، اگرچہ اُس کا نفقہ اُسی پر ہو۔^(۶) (درمختار)

سوال کسے حلال ہے اور کسے نہیں

آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے، کون محنت کرے مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے۔ ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں اور بہتیرے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو ننگ و عار خیال کرتے اور بھیک مانگنا کہ حقیقتہً ایسوں کے لیے بے عزتی و بے غیرتی ہے مایہ عزت جانتے ہیں اور بہتوں نے تو بھیک

① "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۷۶.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الزکاۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، ج ۱، ص ۱۹۲.

② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، مطلب فی مقدار الفطرۃ بالمد الشامی، ج ۳، ص ۳۷۷.

③ المرجع السابق، ص ۳۷۸. ④ "الفتاویٰ الہندیۃ"،

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، مطلب فی مقدار الفطرۃ بالمد الشامی، ج ۳، ص ۳۷۹.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج ۳، ص ۳۸۰.

مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے، گھر میں ہزاروں روپے ہیں سود کا لین دین کرتے زراعت وغیرہ کرتے ہیں مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے، اُن سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے واہ صاحب واہ! کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں۔ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام ہے اور جسے اُن کی حالت معلوم ہو، اُسے جائز نہیں کہ ان کو دے۔

اب چند حدیثیں سنئے! دیکھیے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے سالکوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔

حدیث ۱ بخاری و مسلم عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”آدمی سوال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اُس کے چہرہ پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔“ (1) یعنی نہایت بے آبرو ہو کر۔

حدیث ۲ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن حبان سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے مونہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے مونہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، ہاں اگر آدمی صاحبِ سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اُس سے چارہ نہ ہو (2) (تو جائز ہے)۔“ اور اسی کے مثل امام احمد نے عبد اللہ بن عمر اور طبرانی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔

حدیث ۵ بیہقی نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص لوگوں سے سوال کرے، حالانکہ نہ اُسے فاقہ پہنچا، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اُس کے مونہ پر گوشت نہ ہوگا۔“ اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”جس پر نہ فاقہ گزرا اور نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں اور سوال کا دروازہ کھولے اللہ تعالیٰ اُس پر فاقہ کا دروازہ کھول دے گا، ایسی جگہ سے جو اس کے دل میں بھی نہیں۔“ (3)

حدیث ۶ نسائی نے عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا۔“ (4) اسی کی مثل طبرانی نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔

① ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب کراهة المسألة للناس، الحدیث: ۱۰۴۔ (۱۰۴۰)، ص ۵۱۸۔

② ”سنن أبي داود“، کتاب الزکاة، باب ماتحوز فيه المسألة، الحدیث: ۱۶۳۹، ج ۲، ص ۱۶۸۔

③ ”شعب الإيمان“، باب في الزکاة، فصل في الاستعفاف عن المسألة، الحدیث: ۳۵۲۶، ج ۳، ص ۲۷۴۔

④ ”سنن النسائي“، کتاب الزکاة، باب المسألة، الحدیث: ۲۵۸۳، ص ۴۲۵۔

حدیث ۹ و ۸ — امام احمد بہ سند جید و طبرانی و بزار عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”غنی کا سوال کرنا، قیامت کے دن اس کے چہرہ میں عیب ہوگا۔“ (1) اور بزار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ”غنی کا سوال آگ ہے، اگر تھوڑا دیا گیا تو تھوڑی اور زیادہ دیا تو زیادہ۔“ (2) اور اسی کے مثل امام احمد و بزار و طبرانی نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

حدیث ۱۰ — طبرانی کبیر میں اور ابن خزیمہ اپنی صحیح میں اور ترمذی اور بیہقی حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے، گویا وہ انگارا کھاتا ہے۔“ (3)

حدیث ۱۱ — مسلم و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، وہ انگارے کا سوال کرتا ہے تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے۔“ (4)

حدیث ۱۲ — ابوداؤد و ابن حبان و ابن خزیمہ سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جو اُسے بے پرواہ کرے، وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، وہ کیا مقدار ہے، جس کے ہوتے سوال جائز نہیں؟ فرمایا: صبح و شام کا کھانا۔“ (5)

حدیث ۱۳ — ابن حبان اپنی صحیح میں امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص لوگوں سے سوال کرے، اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پتھر ہے، اب اسے اختیار ہے، چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ طلب کرے۔“ (6)

حدیث ۱۴ و ۱۵ — امام احمد و ابویعلیٰ و بزار نے عبدالرحمن بن عوف اور طبرانی نے صغیر میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور حق معاف کرنے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندہ کی عزت بڑھائے گا اور بندہ سوال کا دروازہ نہ کھولے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا۔“ (7)

① ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث عمران بن حصین، الحدیث: ۱۹۸۴۲، ج ۷، ص ۱۹۳.

② ”مسند البزار“، مسند عمران بن حصین، الحدیث: ۳۵۷۲، ج ۹، ص ۴۹.

③ ”المعجم الكبير“، باب الحاء، الحدیث: ۳۵۰۶، ج ۴، ص ۱۵.

④ ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب کراهة المسألة للناس، الحدیث: ۱۰۴۱، ص ۵۱۸.

⑤ ”سنن أبي داود“، کتاب الزکاة، باب من يعطى من الصدقة و حد الغنى، الحدیث: ۱۶۲۹، ج ۲، ص ۱۶۴.

⑥ ”الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان“، کتاب الزکاة، باب المسألة... إلخ، الحدیث: ۳۳۸۲، ج ۵، ص ۱۶۶.

⑦ ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث عبدالرحمن بن عوف، الحدیث: ۱۶۷۴، ج ۱، ص ۴۱۰.

حدیث ۱۶ مسلم و ابوداؤد و نسائی قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں: مجھ پر ایک مرتبہ تاوان لازم آیا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، فرمایا: ”ٹھہرو ہمارے پاس صدقہ کا مال آئے گا تو تمہارے لیے حکم فرمائیں گے، پھر فرمایا: اے قبیصہ! سوال حلال نہیں، مگر تین باتوں میں کسی نے ضمانت کی ہو (یعنی کسی قوم کی طرف سے دیت کا ضامن ہو یا آپس کی جنگ میں صلح کرائی اور اس پر کسی مال کا ضامن ہو) تو اسے سوال حلال ہے، یہاں تک کہ وہ مقدار پائے پھر باز رہے یا کسی شخص پر آفت آئی کہ اُس کے مال کو تباہ کر دیا تو اسے سوال حلال ہے، یہاں تک کہ بسراوقات کے لیے پا جائے یا کسی کو فاقہ پہنچا اور اُس کی قوم کے تین عقلمند شخص گواہی دیں^(۱) کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے تو اسے سوال حلال ہے، یہاں تک کہ بسراوقات کے لیے حاصل کر لے اور ان تین باتوں کے سوا اے قبیصہ سوال کرنا حرام ہے کہ سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔“^(۲)

حدیث ۱۷ و ۱۸ امام بخاری و ابن ماجہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی شخص رستی لے کر جائے اور اپنی پیٹھ پر کٹڑیوں کا گٹھا لاکر بیچے اور سوال کی ذلت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو بچائے یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ لوگ اُسے دیں یا نہ دیں۔“^(۳) اسی کے مثل امام بخاری و مسلم و امام مالک و ترمذی و نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

حدیث ۱۹ امام مالک و بخاری و مسلم و ابوداؤد و نسائی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، صدقہ کا اور سوال سے بچنے کا ذکر فرما رہے تھے، یہ فرمایا: کہ ”اوپر والا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا مانگنے والا۔“^(۴)

حدیث ۲۰ امام مالک و بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی و نسائی ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے سوال کیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے عطا فرمایا، پھر مانگا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے عطا فرمایا، پھر مانگا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے عطا فرمایا، یہاں تک کہ وہ مال جو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس تھا ختم ہو گیا پھر فرمایا: ”جو کچھ میرے پاس مال ہوگا، اُسے میں تم سے اٹھانہ رکھوں گا اور جو سوال سے بچنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اُسے بچائے گا اور

① تین شخصوں کی گواہی جمہور کے نزدیک بطور استحباب ہے اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کا مالدار ہونا معلوم و مشہور ہے تو بغیر گواہ اس کا قول مسلم نہیں اور جس کا مالدار ہونا معلوم نہ ہو تو فقط اس کا کہہ دینا کافی ہے۔ ۱۲ امنہ

② ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب من تحل له المسألة، الحدیث: ۱۰۴۴، ص ۵۱۹.

③ ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاة، باب الاستعفاف عن المسألة، الحدیث: ۱۴۷۱، ج ۱، ص ۴۹۷.

④ ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب بیان ان اليد العليا خیر من اليد السفلی... إلخ، الحدیث: ۱۰۳۳، ص ۵۱۵.

جو غنی بنا چاہے گا، اللہ (عزوجل) اُسے غنی کر دے گا اور جو صبر کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اُسے صبر دے گا اور صبر سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ وسیع عطا کسی کو نہ ملی۔“ (1)

حدیث ۲۱ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ لالچ محتاجی ہے اور نا اُمیدی تو نگری۔ آدمی جب کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ (2)

حدیث ۲۲ امام بخاری و مسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، فرماتے ہیں: کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے تو میں عرض کرتا، کسی ایسے کو دیجیے جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو، ارشاد فرمایا: ”اسے لو اور اپنا کر لو اور خیرات کر دو، جو مال تمہارے پاس بے طمع اور بے مانگے آجائے، اسے لے لو اور جو نہ آئے تو اُس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ ڈالو۔“ (3)

حدیث ۲۳ ابو داؤد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ ایک انصاری نے حاضر خدمت اقدس ہو کر سوال کیا، ارشاد فرمایا: ”کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ عرض کی، ہے تو، ایک ٹاٹ ہے جس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے ہیں اور ایک حصہ بچھاتے ہیں اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، ارشاد فرمایا: میرے حضور دونوں چیزوں کو حاضر کرو، وہ حاضر لائے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اپنے دست مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا: انھیں کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب نے عرض کی، ایک درہم کے عوض میں خریدتا ہوں، ارشاد فرمایا: ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ دو یا تین بار فرمایا، کسی اور صاحب نے عرض کی، میں دو درہم پر لیتا ہوں، انھیں یہ دونوں چیزیں دے دیں اور درہم لے لیے اور انصاری کو دونوں درہم دے کر ارشاد فرمایا: ایک کاغذ خرید کر گھر ڈال آؤ اور ایک کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ، وہ حاضر لائے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اپنے دست مبارک سے اُس میں بیٹ ڈالا اور فرمایا: جاؤ لکڑیاں کاٹو اور پیچو اور پندرہ دن تک تمہیں نہ دیکھوں (یعنی اتنے دنوں تک یہاں حاضر نہ ہونا) وہ گئے، لکڑیاں کاٹ کر بیچتے رہے، اب حاضر ہوئے تو اُنکے پاس دس درہم تھے، چند درہم کا کپڑا خریدا اور چند کاغذ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے مونہ پر چھالا ہو کر آتا۔ سوال درست نہیں، مگر تین شخص کے لیے، ایسی محتاجی والے کے لیے جو اُسے زمین پر لٹا دے یا تاوان والے کے لیے جو سوا کر دے یا خون والے (دیت) کے لیے جو اُسے تکلیف پہنچائے۔“ (4)

① ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب التعفف والصبر... إلخ، الحدیث: ۱۰۵۳، ص ۵۲۴.

② ”حلیۃ الأولیاء و طبقات الأصفیاء“، رقم: ۱۲۵، ج ۱، ص ۸۷.

③ ”صحیح البخاری“، کتاب الأحکام، باب رزق الحکام والعاملین علیہا، الحدیث: ۷۱۶۴، ج ۴، ص ۴۶۱.

④ ”سنن أبی داؤد“، کتاب الزکاة، باب ماتحوز فیہ المسألة، الحدیث: ۱۶۴۱، ج ۲، ص ۱۶۸.

حدیث ۲۵ و ۲۳

ابوداؤد و ترمذی بافادہ تصحیح و تخمین و حاکم بافادہ تصحیح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جسے فاقہ پہنچا اور اُس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اُس کا فاقہ بند نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ عزوجل جلد اُسے بے نیاز کر دے گا، خواہ جلد موت دے دے یا جلد مالدار کر دے۔“ (1) اور طبرانی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”جو بھوکا یا محتاج ہو اور اس نے آدمیوں سے چھپایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ایک سال کی حلال روزی اس پر کشادہ فرمائے۔“ (2)

بعض سائل کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ (عزوجل) کے لیے دو، خدا کے واسطے دو، حالانکہ اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں اُسے ملعون فرمایا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں بدترین خلاق اور اگر کسی نے اس طرح سوال کیا تو جب تک بُری بات کا سوال نہ ہو یا خود سوال بُرا نہ ہو (جیسے مالدار یا ایسے شخص کا بھیک مانگنا جو قوی تندرست کمانے پر قادر ہو) اور یہ سوال کو بلا دقت پورا کر سکتا ہے تو پورا کرنا ہی ادب ہے کہ کہیں بروئے ظاہر حدیث یہ بھی اُسی وعید کا مستحق نہ ہو (3)، وہاں اگر سائل مُتَعَنَّت ہو (4) تو نہ دے۔ نیز یہ بھی لحاظ رہے کہ مسجد میں سوال نہ کرے، خصوصاً جُحُوح کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کہ یہ حرام ہے، بلکہ بعض علما فرماتے ہیں: کہ ”مسجد کے سائل کو اگر ایک پیسہ دیا تو ستر پیسے اور خیرات کرے کہ اس ایک پیسہ کا کفارہ ہو۔“ (5) مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک شخص کو عرفہ کے دن عرفات میں سوال کرتے دیکھا، اُسے دُڑے لگائے اور فرمایا: کہ اس دن میں اور ایسی جگہ غیر خدا سے سوال کرتا ہے۔ (6)

1 ”سنن أبي داود“، كتاب الزكاة، باب في الاستغفار، الحديث: ۱۶۴۵، ج ۲، ص ۱۷۰.

2 ”المعجم الصغير للطبرانی“، الحديث: ۲۱۴، ج ۱، ص ۱۴۱.

3 طبرانی مجہم کبیر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

((ملعون من سال بوجه الله و ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا)).

(”الترغيب و الترہيب“، كتاب الصدقات، ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة... إلخ، الحديث: ۱، ج ۱، ص ۳۴۰).

تجنیس ناصری پھرتا تاریخانیہ پھر ہندیہ میں ہے:

إذا قال السائل بحق الله تعالى أو بحق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعطيني كذا لا يحب عليه في الحكم

والاحسن في المروءة أن يعطيه. وعن ابن المبارك قال يعجبني إذا سأل سائل بوجه الله تعالى أن لا يعطى - ۱۳ منہ

(انظر: ”ردالمحتار“، كتاب الهبة، مطلب في معنى التملك، ج ۱۲، ص ۶۴۹).

4 یعنی سوال کرنے والا خود اپنی ذلت کے درپے ہو یعنی پیشہ ور بھکاری ہو۔

5 ”ردالمحتار“، كتاب الهبة، مطلب في معنى التملك، ج ۱۲، ص ۶۴۹.

6 ”مشكاة المصابيح“، كتاب الزكاة، باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له، الحديث: ۱۸۵۵، ج ۱، ص ۵۱۴.

ان چند احادیث کے دیکھنے سے معلوم ہوا ہوگا کہ بھیک مانگنا بہت ذلت کی بات ہے بغیر ضرورت سوال نہ کرے اور حالت ضرورت میں بھی اُن امور کا لحاظ رکھے، جن سے ممانعت وارد ہے اور سوال کی اگر حاجت ہی پڑ جائے تو مبالغہ ہرگز نہ کرے کہ بے لیے پیچھا نہ چھوڑے کہ اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔

صدقات نفل کا بیان

اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا نہایت اچھا کام ہے، مال سے تم کو فائدہ نہ پہنچا تو تمہارے کیا کام آیا اور اپنے کام کا وہی ہے جو کھا پہن لیا یا آخرت کے لیے خرچ کیا، نہ وہ کہ جمع کیا اور دوسروں کے لیے چھوڑ گئے۔ اس کے فضائل میں چند حدیثیں سنیں اور ان پر عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔

حدیث ۱ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”بندہ کہتا ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے اور اُسے تو اس کے مال سے تین ہی قسم کا فائدہ ہے، جو کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پُرانا کر دیا، یا عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کیا اور اُس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔“ (1)

حدیث ۲ بخاری و نسائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”تم میں کون ہے کہ اُسے اپنے وارث کا مال، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! ہم میں کوئی ایسا نہیں، جسے اپنا مال زیادہ محبوب نہ ہو۔ فرمایا: اپنا مال تو وہ ہے، جو آگے روانہ کر چکا اور جو پیچھے چھوڑ گیا، وہ وارث کا مال ہے۔“ (2)

حدیث ۳ امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”اگر میرے پاس اُحد برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند آتا ہے کہ تین راتیں نہ گزرنے پائیں اور اُس میں کا میرے پاس کچھ رہ جائے، ہاں اگر مجھ پر دین ہو تو اُس کے لیے کچھ رکھ لوں گا۔“ (3)

حدیث ۳ و ۵ صحیح مسلم میں انھیں سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی دن ایسا نہیں کہ صبح ہوتی ہے، مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان میں ایک کہتا ہے، اے اللہ (عزوجل)! خرچ کرنے والے کو بدلہ دے اور دوسرا

① ”صحیح مسلم“، کتاب الزهد والرقائق، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، الحدیث: ۲۹۵۹، ص ۱۵۸۲.

② ”صحیح البخاری“، کتاب الرقائق، باب ما قدم من ماله فهو له، الحدیث: ۶۴۴۲، ج ۴، ص ۲۳۰.

③ ”صحیح البخاری“، کتاب الرقائق، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یسرني أن عندی مثل احد هذا ذہبا،

الحدیث: ۶۴۴۵، ج ۴، ص ۲۳۲.

کہتا ہے، اے اللہ (عزوجل)! روکنے والے کے مال کو تلف کر۔“ (1) اور اسی کے مثل امام احمد و ابن حبان و حاکم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

حدیث ۶ صحیحین میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: ”خرچ کر اور شمار نہ کر کہ اللہ تعالیٰ شمار کر کے دے گا اور بند نہ کر کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر بند کر دے گا۔ کچھ دے جو تجھے استطاعت ہو۔“ (2)

حدیث ۷ نیز صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابن آدم! خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔“ (3)

حدیث ۸ صحیح مسلم و سنن ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ابن آدم! بچے ہوئے کا خرچ کرنا، تیرے لیے بہتر ہے اور اُس کا روکنا، تیرے لیے بُرا ہے اور بقدر ضرورت روکنے پر ملامت نہیں اور اُن سے شروع کر جو تیری پرورش میں ہیں۔“ (4)

حدیث ۹ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو شخصوں کی ہے جو لوہے کی زرہ پہنے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ سینے اور گلے سے جکڑے ہوئے ہیں تو صدقہ دینے والے نے جب صدقہ دیا وہ زرہ کشادہ ہوگئی اور بخیل جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، ہر کڑی اپنی جگہ کو پکڑ لیتی ہے وہ کشادہ کرنا بھی چاہتا ہے تو کشادہ نہیں ہوتی۔“ (5)

حدیث ۱۰ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہے اور بخل سے بچو کہ بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا، اسی بخل نے انھیں خون بہانے اور حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا۔“ (6)

حدیث ۱۱ نیز اسی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

1..... ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب فی المنفق والممسک، الحدیث: ۱۰۱۰ ص ۵۰۴.

2..... ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاة، باب الصدقة فیما استطاع، الحدیث: ۱۴۳۴، ج ۱، ص ۴۸۳.

کتاب الہبة، باب ہبة المرأة لغير زوجها... إلخ، الحدیث: ۲۵۹۱، ص ۲۰۴.

3..... ”صحیح البخاری“، کتاب النفقات، باب فضل النفقة علی الأهل، الحدیث: ۵۳۵۲، ج ۳، ص ۵۱۱.

4..... ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب بیان أن الید العلیا خیر من الید السفلی... إلخ، الحدیث: ۱۰۳۶، ص ۵۱۶.

5..... ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب مثل المنفق والبخیل، ۷۶- (۱۰۲۱)، ص ۵۱۰.

6..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم، الحدیث: ۲۵۷۸، ص ۱۳۹۴.

کس صدقہ کا زیادہ اجر ہے؟ فرمایا: اس کا کہ صحت کی حالت میں ہو اور لالچ ہو، محتاجی کا ڈر ہو اور تو نگری کی آرزو، یہ نہیں کہ چھوڑے رہے اور جب جان گلے کو آجائے تو کہے اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو دینا اور یہ تو فلاں کا ہو چکا یعنی وارث کا۔“ (1)

حدیث ۱۲ صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کعبہ معظمہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے، مجھے دیکھ کر فرمایا: ”قسم ہے رب کعبہ کی! وہ ٹوٹے میں ہیں۔ میں نے عرض کی، میرے باپ ماں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر قربان وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: زیادہ مال والے، مگر جو اس طرح اور اس طرح اور اس طرح کرے آگے پیچھے دہنے بائیں یعنی ہر موقع پر خرچ کرے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔“ (2)

حدیث ۱۳ سنن ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سختی قریب ہے اللہ (عزوجل) سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے آدمیوں سے، دُور ہے جہنم سے اور بخیل دور ہے اللہ (عزوجل) سے، دور ہے جنت سے، دور ہے آدمیوں سے، قریب ہے جہنم سے اور جاہل سختی اللہ (عزوجل) کے نزدیک زیادہ پیارا ہے، بخیل عابد سے۔“ (3)

حدیث ۱۴ سنن ابوداؤد میں ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کا اپنی زندگی (یعنی صحت) میں ایک درم صدقہ کرنا، مرتے وقت کے سو درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔“ (4)

حدیث ۱۵ امام احمد و نسائی و دارمی و ترمذی ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مرتے وقت صدقہ دیتا یا آزاد کرتا ہے، اُس کی مثال اُس شخص کی ہے کہ جب آسودہ ہو لیا تو ہدیہ کرتا ہے۔“ (5)

حدیث ۱۶ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”ایک شخص جنگل میں تھا، اُس نے اُبر میں ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، وہ اُبر ایک کنارہ کو ہو گیا اور اُس نے پانی سکستان میں گرایا اور ایک نالی نے وہ سارا پانی لے لیا، وہ شخص پانی کے پیچھے ہو لیا، ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے باغ میں کھڑا ہوا گھر پیا سے پانی پھیر رہا ہے۔ اُس نے کہا، اے اللہ (عزوجل) کے بندے! تیرا کیا نام ہے؟ اُس نے کہا، فلاں نام، وہی نام جو

- ① ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب بیان ان افضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، الحدیث: ۱۰۳۲، ص ۵۱۵.
 - ② ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب تغلیظ عقوبة من لا یؤدی الزکاة، الحدیث: ۹۹۰، ص ۴۹۵.
 - ③ ”جامع الترمذی“، ابواب البر والصلوة، باب ماجاء فی السخاء، الحدیث: ۱۹۶۸، ج ۳، ص ۳۸۷.
 - ④ ”سنن ابی داؤد“، کتاب الوصایا، باب ماجاء فی کراهیة الإضرار فی الوصیة، الحدیث: ۲۸۶۶، ج ۳، ص ۱۵۵.
 - ⑤ ”سنن الدارمی“، کتاب الوصایا، باب من أحب الوصیة ومن کره، الحدیث: ۳۲۲۶، ج ۲، ص ۵۰۵.
- و ”جامع الترمذی“، ابواب الوصایا... الخ، باب ماجاء فی الرجل یتصدق... الخ، الحدیث: ۲۱۲۳، ج ۴، ص ۴۴.

اُس نے ابر میں سے سنا۔ اُس نے کہا، اے اللہ (عزوجل) کے بندے! تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اُس نے کہا، میں نے اُس ابر میں سے جس کا یہ پانی ہے، ایک آواز سنی کہ وہ تیرا نام لے کر کہتا ہے، فلاں کے باغ کو سیراب کر، تو تو کیا کرتا ہے (کہ تیرا نام لے کر پانی بھیجا جاتا ہے)؟ جواب دیا کہ جو کچھ پیدا ہوتا اس میں سے ایک تہائی خیرات کرتا ہوں اور ایک تہائی میں اور میرے بال بچے کھاتے ہیں اور ایک تہائی بونے کے لیے رکھتا ہوں۔“ (1)

حدیث ۱۷ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”بنی اسرائیل میں تین شخص تھے۔ ایک برص والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ عزوجل نے ان کا امتحان لینا چاہا، ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ برص والے کے پاس آیا۔ اس سے پوچھا، تجھے کیا چیز زیادہ محبوب ہے؟ اُس نے کہا: اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور یہ بات جاتی رہے، جس سے لوگ گھن کرتے ہیں۔ فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ گھن کی چیز جاتی رہی اور اچھا رنگ اور اچھی کھال اسے دی گئی، فرشتے نے کہا: تجھے کونسا مال زیادہ محبوب ہے؟ اُس نے اونٹ کہا یا گائے (راوی کا شک ہے، مگر برص والے اور گنجنے میں سے ایک نے اونٹ کہا، دوسرے نے گائے)۔ اُسے دس مہینے کی حاملہ اونٹنی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے۔

پھر گنجنے کے پاس آیا، اُس سے کہا: تجھے کیا شے زیادہ محبوب ہے؟ اُس نے کہا: خوبصورت بال اور یہ جاتا رہے، جس سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ بات جاتی رہی اور خوبصورت بال اُسے دیے گئے، اُس سے کہا: تجھے کونسا مال محبوب ہے؟ اُس نے گائے بتائی۔ ایک گا بھن گائے اُسے دی گئی اور کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے۔

پھر اندھے کے پاس آیا اور کہا: تجھے کیا چیز زیادہ محبوب ہے؟ اُس نے کہا: یہ کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ واپس دے کہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اُس کی نگاہ واپس دی۔ فرشتہ نے پوچھا، تجھے کونسا مال زیادہ پسند ہے؟ اُس نے کہا: بکری۔ اُسے ایک گا بھن بکری دی۔ اب اونٹنی اور گائے اور بکری سب کے بچے ہوئے، ایک کے لیے اونٹوں سے جنگل بھر گیا۔ دوسرے کے لیے گائے سے، تیسرے کے لیے بکریوں سے۔

پھر وہ فرشتہ برص والے کے پاس اُس کی صورت اور ہیأت میں ہو کر آیا (یعنی برص والا بن کر) اور کہا: میں مرد مسکین ہوں، میرے سفر میں وسائل منقطع ہو گئے، پہنچنے کی صورت میرے لیے آج نظر نہیں آتی، مگر اللہ (عزوجل) کی مدد سے پھر تیری مدد سے، میں اُس کے واسطے سے جس نے تجھے خوبصورت رنگ اور اچھا چمڑا اور مال دیا ہے۔ ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، جس سے

① ”صحیح مسلم“، کتاب الزهد و الرقائق، باب فضل الانفاق علی المساکین و ابن السبیل، الحدیث: ۲۹۸۴، ص ۱۵۹۳۔

میں سفر میں مقصد تک پہنچ جاؤں۔ اُس نے جواب دیا: حقوق بہت ہیں۔ فرشتے نے کہا: گویا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، فقیر نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا، اُس نے کہا: میں تو اس مال کا نسللاً بعد نسل وارث کیا گیا ہوں۔ فرشتے نے کہا: اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تُو تھا۔

پھر گنجے کے پاس اُسی کی صورت بن کر آیا، اُس سے بھی وہی کہا: اُس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا: اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے، جیسا تُو تھا۔

پھر اندھے کے پاس اس کی صورت وہی آت بن کر آیا اور کہا: میں مسکین شخص اور مسافر ہوں، میرے سفر میں وسائل منقطع ہو گئے، آج پہنچنے کی صورت نہیں، مگر اللہ (عزوجل) کی مدد سے پھر تیری مدد سے میں اس کے وسیلہ سے جس نے تجھے نگاہ واپس دی، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے سفر میں مقصد تک پہنچ جاؤں۔ اُس نے کہا: میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دیں تُو جو چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ خدا کی قسم! اللہ (عزوجل) کے لیے تُو جو کچھ لے گا، میں تجھ پر مشقت نہ ڈالوں گا۔ فرشتے نے کہا: تُو اپنا مال اپنے قبضہ میں رکھ، بات یہ ہے کہ تم تینوں شخصوں کا امتحان تھا، تیرے لیے اللہ (عزوجل) کی رضا ہے اور ان دونوں پر ناراضی۔“ (1)

حدیث ۱۸ امام احمد و ابوداؤد و ترمذی ام بحید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کہتی ہیں: میں نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! مسکین دروازہ پر کھڑا ہوتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا کہ اُسے دوں، ارشاد فرمایا: ”اُسے کچھ دیدے، اگرچہ گھر جلا ہوا۔“ (2)

حدیث ۱۹ بیہتی نے دلائل النبوة میں روایت کی، کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گوشت کا ٹکڑا ہدیہ میں آیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا۔ انہوں نے خادمہ سے کہا: اسے گھر میں رکھ دے، شاید حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تناول فرمائیں، اُس نے طاق میں رکھ دیا۔ ایک سائل آ کر دروازہ پر کھڑا ہوا اور کہا صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تم میں برکت دے گا۔ لوگوں نے کہا، اللہ (عزوجل) تجھ میں برکت دے۔ (3) سائل چلا گیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تشریف لائے اور فرمایا: تمہارے یہاں کچھ کھانے کی چیز ہے؟ ام المؤمنین نے عرض کی، ہاں اور خادمہ سے فرمایا: جا وہ گوشت لے آ۔

1..... "صحیح مسلم"، کتاب الزہد... الخ، باب الدنيا سجن للمؤمن... الخ، الحدیث: ۲۹۶۴، ص ۱۵۸۴.

و "صحیح البخاری"، کتاب احادیث الانبیاء، باب حدیث ابرص وأعمى وأقرع فی بنی اسرائیل، الحدیث: ۳۴۶۴، ج ۲، ص ۴۶۳.

2..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حدیث أم بحید، الحدیث: ۲۷۲۱۸، ج ۱۰، ص ۳۲۸.

3..... سائل کو واپس کرنا ہوتا تو یہ لفظ بولتے۔ ۱۲ امنہ

وہ گئی تو طاق میں ایک پتھر کا ایک ٹکڑا پایا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ”چونکہ تم نے سائل کو نہ دیا، لہذا وہ گوشت پتھر ہو گیا۔“ (1)

حدیث ۲۰ بیہقی شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سختوں جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہے، اُس نے اُسکی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اُس کو نہ چھوڑے گی جب تک جنت میں داخل نہ کر لے اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے، اُس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اُسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔“ (2)

حدیث ۲۱ رزین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”صدقہ میں جلدی کرو کہ بلا صدقہ کو نہیں پھلا گئی۔“ (3)

حدیث ۲۲ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی، اگر نہ پائے؟ فرمایا: اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنے کو نفع پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔ عرض کی، اگر اس کی استطاعت نہ ہو یا نہ کرے؟ فرمایا: صاحب حاجت پریشان کی اعانت کرے۔ عرض کی، اگر یہ بھی نہ کرے؟ فرمایا: نیکی کا حکم کرے۔ عرض کی، اگر یہ بھی نہ کرے؟ فرمایا: شر سے باز رہے کہ یہی اُس کے لیے صدقہ ہے۔“ (4)

حدیث ۲۳ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”دو شخصوں میں عدل کرنا صدقہ ہے، کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد دینا یا اُس کا اسباب اٹھادینا صدقہ ہے اور اچھی بات صدقہ ہے اور جو قدم نماز کی طرف چلے گا صدقہ ہے، راستہ سے اذیت کی چیز دور کرنا صدقہ ہے۔“ (5)

حدیث ۲۴ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو مسلمان پیڑ لگائے یا کھیت بوئے، اُس میں سے کسی آدمی یا پرند یا چوپایہ نے کھایا، وہ سب اُس کے لیے صدقہ ہے۔“ (6)

1 ”دلائل النبوة“ للبيهقي، باب ماجاء في اللحم الذي صار حجرا... إلخ، ج 6، ص 300.

و ”مشكاة المصابيح“، كتاب الزكاة، باب الانفاق و كراهية الامساك، الحديث: 1880، ج 1، ص 521.

2 ”شعب الإيمان“، باب في الجود والسخاء، الحديث: 10877، ج 7، ص 435.

3 ”مشكاة المصابيح“، كتاب الزكاة، باب الانفاق و كراهية الامساك، الحديث: 1887، ج 1، ص 522.

4 ”صحيح البخاري“، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، الحديث: 6022، ج 4، ص 105.

5 ”صحيح مسلم“، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع... إلخ، الحديث: 1009، ص 504.

6 ”صحيح مسلم“، كتاب المساقاة و المزارعة، باب فضل الغرس و الزرع، الحديث: 1553، ص 840.

حدیث ۲۶۲۵ سنن ترمذی میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیک بات کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، راہ بھولے ہوئے کو راہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا صدقہ ہے، راستہ سے پتھر، کانٹا، ہڈی دور کرنا صدقہ ہے، اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔“ (1) اسی کے مثل امام احمد و ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

حدیث ۲۷ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”ایک درخت کی شاخ بیچ راستہ پر تھی، ایک شخص گیا اور کہا: میں اُس کو مسلمانوں کے راستہ سے دُور کر دوں گا کہ اُن کو ایذا نہ دے، وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔“ (2)

حدیث ۲۸ ابوداؤد و ترمذی ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو مسلمان کسی مسلمان ننگے کو کپڑا پہنا دے، اللہ تعالیٰ اُسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اُسے جنت کے پھل کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اُسے ریح مقبوم (یعنی جنت کی شراب سربند) پلائے گا۔“ (3)

حدیث ۲۹ امام احمد و ترمذی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو جب تک اُس میں کا اُس شخص پر ایک پیوند بھی رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔“ (4)

حدیث ۳۱۳۰ ترمذی و ابن حبان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”صدقہ رب العزت کے غضب کو بجھاتا ہے اور بُری موت کو دفع کرتا ہے۔“ (5) نیز اس کے مثل ابو بکر صدیق و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی۔

حدیث ۳۲ ترمذی نے باقائدہ تصحیح ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، لوگوں نے ایک بکری ذبح کی تھی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ”اس میں سے کیا باقی رہا؟ عرض کی، سوا شانہ کے کچھ باقی نہیں، ارشاد فرمایا: شانہ

1..... ”جامع الترمذی“، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في صنائع المعروف، الحديث: ۱۹۶۳، ج ۳، ص ۳۸۴.

2..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلة والأدب، باب فضل لزالة الأذى عن الطريق، الحديث: ۱۲۸- (۱۹۱۴) (۲۶۱۸) ص ۱۴۱۰، ۱۴۱۱.

3..... ”سنن أبي داود“، کتاب الزکاة، باب في فضل سقى الماء، الحديث: ۱۶۸۲، ج ۲، ص ۱۸۰.

4..... ”جامع الترمذی“، أبواب صفة القيامة، باب ماجاء في ثواب من كسا مسلما، الحديث: ۲۴۹۲، ج ۴، ص ۲۱۸.

5..... ”جامع الترمذی“، أبواب الزکاة، باب ماجاء في فضل الصدقة، الحديث: ۶۶۴، ج ۲، ص ۱۴۶.

کے سوا سب باقی ہے۔“ (1)

حدیث ۳۳ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن خزیمہ و ابن حبان ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تین شخصوں کو اللہ (عزوجل) محبوب رکھتا ہے اور تین شخصوں کو مبغوض۔ جن کو اللہ (عزوجل) محبوب رکھتا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس آیا اور اُن سے اللہ (عزوجل) کے نام پر سوال کیا، اس قرابت کے واسطے سے سوال نہ کیا، جو سائل اور قوم کے درمیان ہے، انہوں نے نہ دیا، اُن میں سے ایک شخص چلا گیا اور سائل کو چھپا کر دیا کہ اس کو اللہ (عزوجل) جانتا ہے اور وہ شخص جس کو دیا اور کسی نے نہ جانا۔ اور ایک قوم رات بھر چلی، یہاں تک کہ جب انھیں نیند ہر چیز سے زیادہ پیاری ہو گئی، سب نے سر رکھ دیے (یعنی سو گئے)، اُن میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر دُعا کرنے لگا اور اللہ (عزوجل) کی آیتیں پڑھنے لگا۔ اور ایک شخص لشکر میں تھا، دشمن سے مقابلہ ہوا اور ان کو شکست ہوئی، اُس شخص نے اپنا سینہ آگے کر دیا، یہاں تک کہ قتل کیا جائے یا فتح ہو۔ اور وہ تین جنہیں اللہ (عزوجل) ناپسند فرماتا ہے۔ ایک بوڑھا زنا کار، دوسرا فقیر متکبر، تیسرا مال دار ظالم۔“ (2)

حدیث ۳۴ ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جب اللہ (عزوجل) نے زمین پیدا فرمائی تو اُس نے ہلنا شروع کیا تو پہاڑ پیدا فرما کر اس پر نصب فرما دیے اب زمین ٹھہر گئی، فرشتوں کو پہاڑ کی سختی دیکھ کر تعجب ہوا، عرض کی، اے پروردگار! تیری مخلوق میں کوئی ایسی شے ہے کہ وہ پہاڑ سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا: ہاں، لوہا۔ عرض کی، اے رب (عزوجل)! لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا: ہاں، آگ۔ عرض کی، آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ فرمایا: ہاں، پانی۔ عرض کی، پانی سے بھی زیادہ سخت کچھ ہے؟ فرمایا: ہاں، ہو۔ عرض کی، ہو اسے بھی زیادہ سخت کوئی شے ہے؟ فرمایا: ہاں، ابن آدم کہ دہنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اُسے بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے۔“ (3)

حدیث ۳۵ نسائی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مسلمان اپنے نفل مال سے اللہ (عزوجل) کی راہ میں جو خرچ کرے، جنت کے دربان اس کا استقبال کریں گے۔ ہر ایک اُسے اُس کی طرف بلائے گا، جو اُس کے پاس ہے۔ میں نے عرض کی، اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا: ”اگر اُونٹ دے تو دو اُونٹ اور گائے دے تو دو گائیں۔“ (4)

① ”جامع الترمذی“، أبواب صفة القيامة... إلخ، ۳۳-باب، الحدیث: ۲۴۷۸، ج ۴، ص ۲۱۲.

② ”سنن النسائي“، كتاب الزكاة، باب ثواب من يعطي، الحدیث: ۲۵۶۷، ص ۴۲۲.

③ ”جامع الترمذی“، أبواب تفسير القرآن، باب في حكمة خلق الجبال... إلخ، الحدیث: ۳۳۸۰، ج ۵، ص ۲۴۲.

④ ”سنن النسائي“، كتاب الجهاد، باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى، الحدیث: ۳۱۸۲، ص ۵۱۹.

حدیث ۳۶ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صدقہ خطا کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔“ (1)

حدیث ۳۷ امام احمد بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: کہ ”مسلمان کا سایہ قیامت کے دن اُس کا صدقہ ہوگا۔“ (2)

حدیث ۳۸ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ و حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”بہتر صدقہ وہ ہے کہ پشتِ غنی سے ہو یعنی اُس کے بعد تو نگری باقی رہے اور ان سے شروع کرو جو تمہاری عیال میں ہیں یعنی پہلے اُن کو دو پھر اوروں کو۔“ (3)

حدیث ۳۹ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین میں مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”مسلمان جو کچھ اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے، اگر ثواب کے لیے ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔“ (4)

حدیث ۴۰ زینب زوجہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیحین میں مروی، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرایا، شوہر اور یتیم بچے جو پرورش میں ہیں ان کو صدقہ دینا کافی ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: ان کو دینے میں دونا اجر ہے، ایک اجر قرابت اور ایک اجر صدقہ۔“ (5)

حدیث ۴۱ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسکین کو صدقہ دینا، صرف صدقہ ہے اور رشتہ والے کو دینا، صدقہ بھی ہے اور صلہِ رحمی بھی۔“ (6)

حدیث ۴۲ امام بخاری و مسلم ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: گھر میں جو کھانے کی چیز ہے، اگر عورت اُس میں سے کچھ دیدے مگر ضائع کرنے کے طور پر نہ ہو تو اُسے دینے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا اور خازن (بھنڈاری) کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایک کا اجر دوسرے کے اجر کو کم نہ کرے گا (7) یعنی اس صورت میں کہ جہاں ایسی عادت جاری ہو کہ عورتیں دیا کرتی ہوں اور شوہر منع نہ کرتے ہوں اور اسی حد تک جو عادت

① ”جامع الترمذی“، ابواب الإیمان، باب ماجاء فی حرمة الصلاة، الحدیث: ۲۶۲۵، ج ۴، ص ۲۸۰.

② ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث رجل من أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۱۸۰۶۵، ج ۶، ص ۳۰۲.

③ ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاة، باب لاصدقة إلا عن ظہر غنی، الحدیث: ۱۴۲۶، ج ۱، ص ۴۸۱.

④ ”صحیح البخاری“، کتاب النفقات، باب فضل النفقة علی الأهل... إلخ، الحدیث: ۵۳۵۱، ج ۳، ص ۵۱۱.

⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب فضل النفقة والصدقة... إلخ، الحدیث: ۱۰۰۰، ص ۵۰۱.

⑥ ”جامع الترمذی“، ابواب الزکاة، باب ماجاء فی الصدقة علی ذی القرابة، الحدیث: ۶۵۸، ج ۲، ص ۱۴۲.

⑦ ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاة، باب من أمر خادمه... إلخ، الحدیث: ۱۴۲۵، ج ۱، ص ۴۸۱.

کے موافق ہے مثلاً روٹی دوروٹی، جیسا کہ ہندوستان میں عموماً رواج ہے اور اگر شوہر نے منع کر دیا ہو یا وہاں کی ایسی عادت نہ ہو تو بغیر اجازت عورت کو دینا جائز نہیں۔ ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا: عورت شوہر کے گھر سے بغیر اجازت کچھ نہ خرچ کرے۔ عرض کی گئی، کھانا بھی نہیں؟ فرمایا: یہ تو بہت اچھا مال ہے۔⁽¹⁾

حدیث ۳۳ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خازن مسلمان امانت دار کہ جو اُسے حکم دیا گیا، پورا پورا اُس کو دے دیتا ہے، وہ دو صدقہ دینے والوں میں کا ایک ہے۔“⁽²⁾

حدیث ۳۴ حاکم اور طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ ”ایک لقمہ روٹی اور ایک ٹٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے۔ اُن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کو دے آتا ہے پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا۔“⁽³⁾

حدیث ۳۵ ابن ماجہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے خطبہ میں فرمایا: ”اے لوگو! مرنے سے پہلے اللہ (عزوجل) کی طرف رجوع کرو اور مشغولی سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرو اور پوشیدہ و علانیہ صدقہ دے کر اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلقات کو ملاؤ تو تمہیں روزی دی جائے گی اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری شکستگی دور کی جائے گی۔“⁽⁴⁾

حدیث ۳۶ صحیحین میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تم میں ہر شخص سے اللہ عزوجل کلام فرمائے گا، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی ترجمان نہ ہوگا، وہ اپنی ذہنی طرف نظر کرے گا تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے، دکھائی دے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا تو وہی دیکھے گا، جو پہلے کر چکا ہے، پھر اپنے سامنے نظر کرے گا تو مونہہ کے سامنے آگ دکھائی دے گی تو آگ سے بچو، اگرچہ خرے کا ایک ٹکڑا دے کر۔“⁽⁵⁾ اور اسی کے مثل عبد اللہ بن مسعود و صدیق اکبر و ام المومنین صدیقہ و انس و ابو ہریرہ و ابو امامہ و نعمان بن بشیر وغیرہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی۔

حدیث ۳۷ ابویعلیٰ جابر اور ترمذی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد

- 1..... ”جامع الترمذی“، أبواب الزکاة، باب ماجاء فی نفقة المرأة من بیت زوجها، الحدیث: ۶۷۰، ج ۲، ص ۱۴۹.
- 2..... ”صحیح البخاری“، کتاب الزکاة، باب اجر الخادم... إلخ، الحدیث: ۱۴۳۸، ج ۱، ص ۴۸۴.
- 3..... ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۵۳۰۹، ج ۴، ص ۸۹.
- 4..... ”سنن ابن ماجہ“، أبواب إقامة الصلوات، باب فی فرض الجمعة، الحدیث: ۱۰۸۱، ج ۲، ص ۵.
- 5..... ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة... إلخ، الحدیث: ۶۷- (۱۰۱۶)، ص ۵۰۷.

فرمایا: ”صدقہ خطا کو ایسے بچھاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔“ (1)

حدیث ۳۸ امام احمد و ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں: ”ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا، اُس وقت تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔“ (2)

اور طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ صدقہ قبر کی حرارت کو دفع کرتا ہے۔“ (3)

حدیث ۳۹ طبرانی و بیہقی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

رب عزوجل فرماتا ہے: ”اے ابن آدم! اپنے خزانہ میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری جائے

گا۔ تجھے میں پورا دوں گا، اُس وقت کہ تو اُس کا زیادہ محتاج ہوگا۔“ (4)

حدیث ۵۱۵۰ امام احمد و بزار و طبرانی و ابن خزیمہ و حاکم و بیہقی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بیہقی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے راوی، کہ ”آدمی جب کچھ بھی صدقہ نکالتا ہے تو ستر شیطان کے جڑے چیر کر نکلتا ہے۔“ (5)

حدیث ۵۲ طبرانی نے عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں

کہ: ”مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بُری موت کو دفع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تکبر و فخر کو دور فرما

دیتا ہے۔“ (6)

حدیث ۵۳ طبرانی کبیر میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں

کہ: ”صدقہ بُرائی کے ستر دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔“ (7)

حدیث ۵۴ ترمذی و ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں: کہ ”اللہ عزوجل نے یحییٰ بن زکریا علیہما الصلوٰۃ والسلام کو پانچ باتوں کی وحی بھیجی کہ خود عمل کریں اور بنی اسرائیل کو حکم فرمائیں

کہ وہ ان پر عمل کریں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں صدقہ کا حکم فرمایا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو دشمن نے قید

① ”جامع الترمذی“، أبواب الإیمان، باب ماجاء فی حرمة الصلاة، الحدیث: ۲۶۲۵، ج ۴، ص ۲۸۰.

② ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند الشامیین، حدیث عقبہ بن عامر، الحدیث: ۱۷۳۳۵ ج ۶، ص ۱۲۶.

③ ”المعجم الکبیر“، الحدیث: ۷۸۷، ج ۱۷، ص ۲۸۶.

④ ”شعب الإیمان“، باب فی الزکاة، التحریض علی صدقة التطوع، الحدیث: ۳۳۴۲، ج ۳، ص ۲۱۱.

⑤ ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث بریدة الأسلمی، الحدیث: ۲۳۰۲۳، ج ۹، ص ۱۲.

⑥ ”المعجم الکبیر“، الحدیث: ۳۱، ج ۱۷، ص ۲۲.

⑦ ”المعجم الکبیر“، الحدیث: ۴۴۰۲، ج ۴، ص ۲۷۴.

کیا اور اس کا ہاتھ گردن سے ملا کر باندھ دیا اور اُسے مارنے کے لیے لائے، اُس وقت تھوڑا بہت جو کچھ تھا، سب کو دے کر اپنی جان بچائی۔“ (1)

حدیث ۵۵ ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”جس نے حرام مال جمع کیا پھر اُسے صدقہ کیا تو اُس میں اُس کے لیے کچھ ثواب نہیں، بلکہ گناہ ہے۔“ (2)

حدیث ۵۶ ابو داؤد و ابن خزیمہ و حاکم انھیں سے راوی، عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! کونسا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا: ”کم مایہ شخص کا کوشش کر کے صدقہ دینا۔“ (3)

حدیث ۵۷ نسائی و ابن خزیمہ و ابن حبان انھیں سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔“ کسی نے عرض کی، یہ کیونکر یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)؟ فرمایا: ”ایک شخص کے پاس مال کثیر ہے، اُس نے اُس میں سے لاکھ درہم لے کر صدقہ کیے اور ایک شخص کے پاس صرف دو ہیں، اُس نے اُن میں سے ایک کو صدقہ کر دیا۔“ (4)

روزہ کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲﴾ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۴﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّقْتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ

1..... ”جامع الترمذی“، أبواب الأمثال، باب ماجاء فی مثل الصلاة والصيام والصدقة، الحدیث: ۲۸۷۲، ج ۴، ص ۳۹۴.

2..... ”الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان“، کتاب الزکاة، باب التطوع، الحدیث: ۳۳۵۶، ج ۵، ص ۱۵۱.

3..... ”سنن أبي داود“، کتاب الزکاة، باب الرخصة فی ذلك، الحدیث: ۱۶۷۷، ج ۲، ص ۱۷۹.

4..... ”الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان“، کتاب الزکاة، باب صدقة التطوع، الحدیث: ۳۳۳۶، ج ۵، ص ۱۴۴.

وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ قَالَتِ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ ۚ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٠﴾ ﴿١﴾

اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو چند دنوں کا۔ پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے اور جو طاقت نہیں رکھتے، وہ فدیہ دیں۔ ایک مسکین کا کھانا پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ ماہِ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا۔ لوگوں کی ہدایت کو اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ (عزوجل) تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اللہ (عزوجل) کی بڑائی بولو، کہ اُس نے تمہیں ہدایت کی اور اس امید پر کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اے محبوب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دُعا کرنے والے کی دُعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو اُنھیں چاہیے کہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس اُمید پر کہ راہ پائیں۔ تمہارے لیے روزہ کی رات میں عورتوں سے جماع حلال کیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ (عزوجل) کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہو تو تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے معاف فرمایا تو اب اُن سے جماع کرو اور اسے چاہو جو اللہ (عزوجل) نے تمہارے لیے لکھا اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ فجر کا سپید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے پھر رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے جماع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ یہ اللہ (عزوجل) کی حدیں ہیں، اُن کے قریب نہ جاؤ، اللہ (عزوجل) اپنی نشانیاں یو ہیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ بچیں۔

روزہ بہت عمدہ عبادت ہے، اس کی فضیلت میں بہت حدیثیں آئیں۔ ان میں سے بعض ذکر کی جاتی ہیں۔

حدیث ۱ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”جب رمضان آتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔“ (2)

1 پ ۲، البقرة: ۱۸۳ - ۱۸۷.

2 ”صحیح البخاری“، کتاب الصوم، باب هل یقال رمضان أو شهر رمضان... إلخ، الحدیث: ۱۸۹۹، ج ۱، ص ۶۲۶.

ایک روایت میں ہے، کہ ”جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔“ (1)

ایک روایت میں ہے، کہ ”رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور

شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔“ (2)

اور امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ کی روایت میں ہے، ”جب ماہِ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن

قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اُن میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے

دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اُن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور منادی پکارتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے!

متوجہ ہو اور اے شر کے چاہنے والے! باز رہ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔“ (3)

امام احمد و نسائی کی روایت انھیں سے ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ

ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے

بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر

ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، وہ بیشک محروم ہے۔“ (4)

حدیث ۲ ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں۔ رمضان آیا تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا، وہ ہر چیز سے محروم رہا اور اس کی خیر سے وہی محروم

ہوگا، جو پورا محروم ہے۔“ (5)

حدیث ۳ بیہقی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہتے ہیں: جب رمضان کا مہینہ آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سب قیدیوں کو رہا فرمادیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔“ (6)

حدیث ۴ بیہقی شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جنت

ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے

1 ”صحیح البخاری“، کتاب الصوم، باب هل یقال رمضان أو شهر رمضان... إلخ، الحدیث: ۱۸۹۸، ج ۱، ص ۶۲۵.

2 ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب فضل شهر رمضان، الحدیث: ۲- (۱۰۷۹)، ص ۵۴۳.

3 ”جامع الترمذی“، أبواب الصوم، باب ماجاء فی فضل شهر رمضان، الحدیث: ۶۸۲، ج ۲، ص ۱۵۵.

4 ”سنن النسائی“، کتاب الصیام، باب ذکر الاختلاف علی معمر فیہ، الحدیث: ۲۱۰۳، ص ۳۵۵.

5 ”سنن ابن ماجہ“، أبواب ماجاء فی الصیام، باب ماجاء فی فضل شهر رمضان، الحدیث: ۱۶۴۴، ج ۲، ص ۲۹۸.

6 ”شعب الایمان“، باب فی الصیام، فضائل شهر رمضان، الحدیث: ۳۶۲۹، ج ۳، ص ۳۱۱.

عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، وہ کہتی ہیں، اے رب! تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا، جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔“ (1)

حدیث ۵ — امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”رمضان کی آخر شب میں اس اُمت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کی گئی، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا: نہیں لیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے، جب کام پورا کر لے۔“ (2)

حدیث ۶ — بیہقی شعب الایمان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں وعظ فرمایا۔ فرمایا: ”اے لوگو! تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام (نماز پڑھنا) تطوع (یعنی سنت) جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ مواسات (3) کا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے، اُس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اُس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔“ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا، جس سے روزہ افطار کرائے؟ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا، جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے اور جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا، اُس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اُس کا اول رحمت ہے اور اس کا اوسط مغفرت ہے اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اُسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔“ (4)

حدیث ۷ — صحیحین و ترمذی و نسائی و صحیح ابن خزیمہ میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

① ”شعب الایمان“، باب فی الصیام، فضائل شہر رمضان، الحدیث: ۳۶۳۳، ج ۳، ص ۳۱۲ - ۳۱۳.

② ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۷۹۲۲، ج ۳، ص ۱۴۴.

③ یعنی غنوا ری اور بھلائی۔

④ ”شعب الایمان“، باب فی الصیام، فضائل شہر رمضان، الحدیث: ۳۶۰۸، ج ۳، ص ۳۰۵.

و ”صحیح ابن خزیمہ“، کتاب الصیام، باب فضائل شہر رمضان... إلخ، الحدیث: ۱۸۸۷، ج ۳، ص ۱۹۱.

فرماتے ہیں: ”جنت میں آٹھ دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ کا نام ریان ہے، اس دروازہ سے وہی جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں۔“ (1)

حدیث ۸ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا، اُس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شبِ قدر کا قیام کرے گا، اُس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔“ (2)

حدیث ۹ امام احمد و حاکم اور طبرانی کبیر میں اور ابن ابی الدُنیا اور بیہقی شعب الایمان میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”روزہ و قرآن بندہ کے لیے شفاعت کریں گے، روزہ کہے گا، اے رب (عزوجل)! میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اُس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے رب (عزوجل)! میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اُس کے بارے میں قبول کر۔ دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔“ (3)

حدیث ۱۰ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ دس سے سات سو تک دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اُس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب (عزوجل) سے ملنے کے وقت اور روزہ دار کے مونہ کی بُو اللہ عزوجل کے نزدیک مُشک سے زیادہ پاکیزہ ہے اور روزہ سپر ہے اور جب کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ بے ہودہ بکے اور نہ چیخے پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے، میں روزہ دار ہوں۔“ (4) اسی کے مثل امام مالک و ابوداؤد و ترمذی و نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کی۔

حدیث ۱۱ طبرانی اوسط میں اور بیہقی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل کے نزدیک اعمال سات قسم کے ہیں۔ دو عمل واجب کرنے والے اور دو کا بدلہ ان کے برابر ہے اور ایک عمل کا بدلہ دس گنا

① ”صحیح البخاری“، کتاب بدء الخلق، باب صفة أبواب الجنة، الحدیث: ۳۲۵۷، ج ۲، ص ۳۹۴.

② ”صحیح البخاری“، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، الحدیث: ۲۰۰۹، ج ۱، ص ۶۵۸.

و ”صحیح البخاری“، کتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر، الحدیث: ۲۰۱۴، ج ۱، ص ۶۶۰.

③ ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۶۶۳۷، ج ۲، ص ۵۸۶.

④ ”مشكاة المصابيح“، کتاب الصوم، الفصل الأول، الحدیث: ۱۹۵۹، ج ۱، ص ۵۴۱.

اور ایک عمل کا معاوضہ سات سو ہے اور ایک وہ عمل ہے، جس کا ثواب اللہ (عزوجل) ہی جانے۔ وہ دو جو واجب کرنے والے ہیں ان میں:

(۱) ایک یہ کہ جو خدا سے اس حال میں ملے کہ خالص اسی کی عبادت کرتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا، اُس کے لیے جنت واجب۔

(۲) دوسرا یہ کہ جو خدا سے ملا اس حال میں کہ اُس نے شرک کیا ہے تو اس کے لیے جہنم واجب اور

(۳) جس نے برائی کی، اس کو اسی قدر سزا دی جائے گی اور

(۴) جس نے نیکی کا ارادہ کیا، مگر عمل نہ کیا تو اُس کو ایک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور

(۵) جس نے نیکی کی، اُسے دس گنا ثواب ملے گا اور

(۶) جس نے اللہ (عزوجل) کی راہ میں خرچ کیا، اُس کو سات سو کا ثواب ملے گا۔ ایک درہم کا سات سو درہم اور ایک

دینار کا ثواب سات سو دینار اور روزہ اللہ عزوجل کے لیے ہے، اس کا ثواب اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“ (۱)

حدیث ۱۵۲۱۲ — امام احمد باسناد حسن اور بیہتی روایت کرتے ہیں کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”روزہ سپر ہے

اور دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ۔“ (۲) اُسی کے قریب جابر و عثمان بن ابی العاص و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی۔

حدیث ۱۷۱۶ — ابو یعلیٰ و بیہتی سلمہ بن قیس اور احمد و بزار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا: ”جس نے اللہ عزوجل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کو ا

کہ جب بچہ تھا، اس وقت سے اُڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرا۔“ (۳)

حدیث ۱۸ — ابو یعلیٰ و طبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر کسی

نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اُسے سونا دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا۔ اس کا ثواب تو قیامت ہی کے

دن ملے گا۔“ (۴)

حدیث ۱۹ — ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر شے کے لیے

① ”شعب الإيمان“، باب فی الصیام، فضائل الصوم، الحدیث: ۳۵۸۹، ج ۳، ص ۲۹۸.

و ”الترغیب و الترهیب“، کتاب الصوم، الحدیث: ۸، ج ۲، ص ۴۹.

② ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۹۲۳۶، ج ۳، ص ۳۶۷.

③ ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۱۰۸۱۰، ج ۳، ص ۶۱۹.

④ ”مسند أبي يعلى“، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۶۱۰۴، ج ۵، ص ۳۵۳.

زکاۃ ہے اور بدن کی زکاۃ روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔“ (1)

حدیث ۲۰ نسائی وابن خزیمہ و حاکم ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! مجھے

کسی عمل کا حکم فرمائیے؟ فرمایا: ”روزہ کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔“ میں نے عرض کی، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے؟

ارشاد فرمایا: ”روزہ کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔“ انھوں نے پھر وہی عرض کی، وہی جواب ارشاد ہوا۔ (2)

حدیث ۲۱ تا ۲۶ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا: جو بندہ اللہ (عزوجل) کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اُس کے مونہہ کو دوزخ سے ستر برس کی راہ دور فرما

دے گا۔“ (3) اور اسی کی مثل نسائی و ترمذی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، اور طبرانی ابو درداء اور ترمذی ابو امامہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: کہ ”اُس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا، جتنا آسمان و

زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔“ (4)

اور طبرانی کی روایت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ”دوزخ اس سے سو برس کی راہ دُور ہوگی۔“ (5) اور ابو یعلیٰ

کی روایت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ”غیر رمضان میں اللہ (عزوجل) کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے

سو برس کی مسافت پر جہنم سے دور ہوگا۔“ (6)

حدیث ۲۷ بیہقی عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

روزہ دار کی دُعا، افطار کے وقت رو نہیں کی جاتی۔“ (7)

حدیث ۲۸ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابن حبان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے: ”تین شخص کی دُعا رو نہیں کی جاتی۔ روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے اور بادشاہ عادل اور مظلوم کی

1..... ”سنن ابن ماجہ“، أبواب ماجاء في الصيام، باب في الصوم زكاة الجسد، الحديث: ۱۷۴۵، ج ۲، ص ۳۴۶.

2..... ”سنن النسائي“، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف... إلخ، الحديث: ۲۲۲۰، ص ۳۷۱.

و ”الترغيب و الترهيب“، كتاب الصوم، الحديث: ۲۱، ج ۲، ص ۵۲.

3..... ”صحيح مسلم“، كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل الله... إلخ، الحديث: ۱۶۸- (۱۱۵۳)، ص ۵۸۱.

4..... ”جامع الترمذي“، أبواب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل الصوم... إلخ، الحديث: ۱۶۳۰، ج ۳، ص ۲۳۳.

5..... ”المعجم الأوسط“، باب الباء، الحديث: ۳۲۴۹، ج ۲، ص ۲۶۸.

6..... ”مسند أبي يعلى“، مسند معاذ بن أنس، الحديث: ۱۴۸۴، ج ۲، ص ۳۶.

7..... ”شعب الإيمان“، باب في الصيام، فصل فيما يفطر الصائم عليه، الحديث: ۳۹۰۴، ج ۳، ص ۴۰۷.

دُعا، اِس کو اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔“ اور رب عزوجل فرماتا ہے: ”مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑے زمانہ بعد۔“ (1)

حدیث ۲۹ ابن حبان و بیہقی ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس نے

رمضان کا روزہ رکھا اور اُس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اُس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اُس کا کفارہ ہو گیا۔“ (2)

حدیث ۳۰ ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس نے

مکہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے اور جگہ کے ایک لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا اور ہر دن ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب اور ہر رات ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر

سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں حسنہ اور ہر رات میں حسنہ لکھے گا۔“ (3)

حدیث ۳۱ بیہقی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”میری اُمت

کو ماہ رمضان میں پانچ باتیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ عزوجل

ان کی طرف نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف نظر فرمائے گا، اُسے کبھی عذاب نہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت اُن کے مونہ کی

یو اللہ (عزوجل) کے نزدیک مُشک سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے

ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ عزوجل جنت کو حکم فرماتا ہے، کہتا ہے: مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا قریب ہے کہ دنیا کی

تعب سے یہاں آ کر آرام کریں۔ پانچویں یہ کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ کسی نے عرض کی، کیا

وہ شب قدر ہے؟ فرمایا: نہیں کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اُس وقت

مزدوری پاتے ہیں۔“ (4)

حدیث ۳۲ حاکم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سب لوگ منبر کے پاس حاضر ہوں، ہم حاضر ہوئے، جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) منبر کے پہلے درجہ پر چڑھے، کہا: آمین۔

دوسرے پر چڑھے، کہا: آمین۔ تیسرے پر چڑھے، کہا: آمین۔“ جب منبر سے تشریف لائے، ہم نے عرض کی، آج ہم نے

① ”سنن ابن ماجہ“، أبواب ماجاء في الصيام، باب في الصائم لا ترد دعوتہ، الحدیث: ۱۷۵۲، ج ۲، ص ۳۴۹.

② ”الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان“، كتاب الصوم، باب فضل رمضان، الحدیث: ۳۴۲۴، ج ۵، ص ۱۸۲-۱۸۳.

③ ”سنن ابن ماجہ“، أبواب المناسك، باب الصوم شهر رمضان بمكة، الحدیث: ۳۱۱۷، ج ۳، ص ۵۲۳.

④ ”شعب الإيمان“، باب في الصيام، فضائل شهر رمضان، الحدیث: ۳۶۰۳، ج ۳، ص ۳۰۳.

حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے ایسی بات سُنی کہ کبھی نہ سُنتے تھے۔ فرمایا: جبرئیل نے آ کر عرض کی، ”وہ شخص دور ہو، جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجہ پر چڑھا تو کہا وہ شخص دور ہو، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا کہا وہ شخص دور ہو، جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھا پائے اور اُن کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ میں نے کہا آمین۔“ (1) اسی کے مثل ابو ہریرہ و حسن بن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ابن حبان نے روایت کی۔

حدیث ۳۵ اصہبانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ عزوجل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور جب اللہ (عزوجل) کسی بندہ کی طرف نظر فرمائے تو اُسے کبھی عذاب نہ دے گا اور ہر روز دس لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب انیسویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے، اُن کے مجموعہ کے برابر اُس ایک رات میں آزاد کرتا ہے پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملنگہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عزوجل اپنے نور کی خاص تجلّی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے: ”اے گروہ ملنگہ! اُس مزدور کا کیا بدلہ ہے، جس نے کام پورا کر لیا۔“ فرشتے عرض کرتے ہیں، اُس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔“ (2)

حدیث ۳۶ ابن خزیمہ نے ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی، اُس میں یہ بھی ہے، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری اُمت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔“ (3)

حدیث ۳۷ بزار و ابن خزیمہ و ابن حبان عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! فرمائیے تو اگر میں اُس کی گواہی دوں کہ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے رسول ہیں اور پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکاۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں کا قیام کروں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ فرمایا: ”صدیقین اور شہداء میں سے۔“ (4)

1..... ”المستدرک“، کتاب البر و الصلۃ، باب لعن اللہ العاق لو الدیہ... إلخ، الحدیث: ۷۳۳۸، ج ۵، ص ۲۱۲.

2..... ”کنز العمال“، کتاب الصوم، الحدیث: ۲۳۷۰۲، ج ۸، ص ۲۱۹.

3..... ”صحیح ابن خزیمہ“، کتاب الصیام، باب ذکر ترتیب الحنة لشهر رمضان... إلخ، الحدیث: ۱۸۸۶، ج ۳، ص ۱۹۰.

4..... ”الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان“، کتاب الصوم، باب فضل رمضان، الحدیث: ۳۴۲۹، ج ۵، ص ۱۸۴.

مسائل فقہیہ

روزہ عرفِ شرع میں مسلمان کا بہ نیتِ عبادت صبح صادق سے غروبِ آفتاب تک اپنے کو قصداً کھانے پینے جماع سے باز رکھنا، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔^(۱) (عامہ کتب)

مسئلہ ۱ - روزے کے تین درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ کہ یہی پیٹ اور شرم گاہ کو کھانے پینے جماع سے روکنا۔ دوسرا خواص کا روزہ کہ انکے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ پاؤں اور تمام اعضا کو گناہ سے باز رکھنا۔ تیسرا خاص الخاص کا کہ جمعِ ماسوی اللہ^(۲) سے اپنے کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا۔^(۳) (جوہرہ نیرہ)

مسئلہ ۲ - روزے کی پانچ قسمیں ہیں:

(۱) فرض۔

(۲) واجب۔

(۳) نفل۔

(۴) مکروہ تنزیہی۔

(۵) مکروہ تحریمی۔

فرض و واجب کی دو قسمیں ہیں: معین و غیر معین۔ فرض معین جیسے ادائے رمضان۔ فرض غیر معین جیسے قضائے رمضان اور روزہ کفارہ۔ واجب معین جیسے نذر معین۔ واجب غیر معین جیسے نذر مطلق۔

نفل دو ہیں: نفل مسنون، نفل مستحب جیسے عاشوراء یعنی دسویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ نویں کا بھی اور ہر مہینے میں تیرھویں، چودھویں، پندرھویں اور عرفہ کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، ششِ عید کے روزے صوم داود علیہ السلام، یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار۔

مکروہ تنزیہی جیسے صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا۔ نیروز و مہرگان کے دن روزہ۔ صومِ دہر (یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا)، صومِ سکوت (یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ بات نہ کرے)، صومِ وصال کہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۹۴۔

② یعنی اللہ عزوجل کے سوا کائنات کی ہر چیز۔

③ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۷۵۔

رکھے، یہ سب مکروہ تنزیہی ہیں۔ مکروہ تحریمی جیسے عید اور ایام تشریق (1) کے روزے۔ (2) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ روزے کے مختلف اسباب ہیں، روزہ رمضان کا سبب ماہ رمضان کا آنا، روزہ نذر کا سبب منت ماننا، روزہ کفارہ کا سبب قسم توڑنا یا قتل یا ظہار وغیرہ۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ ماہ رمضان کا روزہ فرض جب ہوگا کہ وہ وقت جس میں روزہ کی ابتدا کر سکے پالے یعنی صبح صادق سے ضحوة کبریٰ تک کہ اُس کے بعد روزہ کی نیت نہیں ہو سکتی، لہذا روزہ نہیں ہو سکتا اور رات میں نیت ہو سکتی ہے مگر روزہ کی محل نہیں، لہذا اگر مجنون کو رمضان کی کسی رات میں ہوش آیا اور صبح جنون کی حالت میں ہوئی یا ضحوة کبریٰ کے بعد کسی دن ہوش آیا تو اُس پر رمضان کے روزے کی قضا نہیں، جبکہ پورا رمضان اسی جنون میں گزر جائے اور ایک دن بھی ایسا وقت مل گیا، جس میں نیت کر سکتا ہے تو سارے رمضان کی قضا لازم ہے۔ (4) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ رات میں روزہ کی نیت کی اور صبح غشی کی حالت میں ہوئی اور یہ غشی کئی دن تک رہی تو صرف پہلے دن کا روزہ ہو باقی دنوں کی قضا رکھے، اگرچہ پورے رمضان بھر غشی رہی اگرچہ نیت کا وقت نہ ملا۔ (5) (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ ۶ ادائے روزہ رمضان اور نذر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے ضحوة کبریٰ تک ہے، اس وقت میں جب نیت کر لے، یہ روزے ہو جائیں گے۔ لہذا آفتاب ڈوبنے سے پہلے نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا پھر بے ہوش ہو گیا اور ضحوة کبریٰ کے بعد ہوش آیا تو یہ روزہ نہ ہو اور آفتاب ڈوبنے کے بعد نیت کی تھی تو ہو گیا۔ (6) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ ضحوة کبریٰ نیت کا وقت نہیں، بلکہ اس سے پیشتر نیت ہو جانا ضرور ہے اور اگر خاص اس وقت یعنی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی پر پہنچ گیا، نیت کی تو روزہ نہ ہو۔ (7) (درمختار)

① یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور گیارہ، بارہ، تیرہ ذی الحجہ، ان پانچ دنوں۔

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۹۴۔

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۸۸ - ۳۹۲۔

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۹۴۔

④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۸۵ - ۳۸۷۔

⑤ "الجوہرۃ الثبیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۷۵۔

و "ردالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۸۸۔

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۳۔

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۴۔

مسئلہ ۸ نیت کے بارے میں نفل عام ہے، سنت و مستحب و مکروہ سب کو شامل ہے کہ ان سب کے لیے نیت کا وہی وقت ہے۔ (۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ جس طرح اور جگہ بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادہ کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں۔ یہاں بھی وہی مراد ہے مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے:

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ هَذَا .

”یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ عزوجل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔“

اور اگر دن میں نیت کرے تو یہ کہے:

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ .

”میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔“

اور اگر تبرک و طلب توفیق کے لیے نیت کے الفاظ میں ان شاء اللہ تعالیٰ بھی ملا لیا تو حرج نہیں اور اگر پکا ارادہ نہ ہو،

مذبذب ہو تو نیت ہی کہاں ہوئی۔ (۲) (جوہرہ نیرہ)

مسئلہ ۱۰ دن میں نیت کرے تو ضرور ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزہ دار ہوں، صبح سے نہیں تو روزہ نہ ہوا۔ (۳) (جوہرہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ اگرچہ ان تین قسم کے روزوں کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے، مگر رات میں نیت کر لینا مستحب ہے۔ (۴) (جوہرہ)

مسئلہ ۱۲ یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو روزہ ہے یہ نیت صحیح نہیں، بہر حال وہ روزہ دار نہیں۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ رمضان کے دن میں نہ روزہ کی نیت ہے نہ یہ کہ روزہ نہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے تو

① ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۳.

② ”الجوهرة النيرة“، کتاب الصوم، ص ۱۷۵.

③ ”الجوهرة النيرة“، کتاب الصوم، ص ۱۷۵.

و ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۴.

④ ”الجوهرة النيرة“، کتاب الصوم، ص ۱۷۵.

⑤ ”الفتاوى الهندية“، کتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه... إلخ، ج ۱، ص ۱۹۵.

روزہ نہ ہوا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ رات میں نیت کی پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا، تو نیت جاتی نہ رہی وہی پہلی کافی ہے پھر سے نیت

کرنا ضرور نہیں۔⁽²⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۱۵ عورت حیض و نفاس والی تھی، اُس نے رات میں کل روزہ رکھنے کی نیت کی اور صبح صادق سے پہلے حیض و

نفاس سے پاک ہو گئی تو روزہ صحیح ہو گیا۔⁽³⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۱۶ دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزہ کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو،

لہذا اگر صبح صادق کے بعد بھول کر بھی کھاپی لیا ہو یا جماع کر لیا تو اب نیت نہیں ہو سکتی۔⁽⁴⁾ (جوہرہ) مگر معتمد یہ ہے کہ بھولنے کی حالت میں اب بھی نیت صحیح ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی، مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ یوں روزہ میں توڑنے کی نیت

سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب تک توڑنے والی چیز نہ کرے۔⁽⁶⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۱۸ اگر رات میں روزہ کی نیت کی پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھے گا تو وہ نیت جاتی رہی۔ اگر نئی نیت نہ کی اور

دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور جماع سے بچا تو روزہ نہ ہوا۔⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ سحری کھانا بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزہ کے لیے، مگر جب سحری

کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں۔⁽⁸⁾ (جوہرہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ رمضان کے ہر روزہ کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے۔ پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزہ کی

نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں۔⁽⁹⁾ (جوہرہ)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الأول فی تعریفہ... إلخ، ج ۱، ص ۱۹۵.

② "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۷۵.

③ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۷۵.

④ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۷۶.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۱۹.

⑥ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۷۵.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۸.

⑧ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۷۶.

⑨ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۷۶.

مسئلہ ۲۱ یہ تینوں یعنی رمضان کی ادا اور نفل و نذر معین مطلقاً روزہ کی نیت سے ہو جاتے ہیں، خاص انہیں کی نیت ضروری نہیں۔ یوہیں نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، بلکہ غیر مریض و مسافر نے رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کی جب بھی اسی رمضان کا ہوگا۔^(۱) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۲ مسافر اور مریض اگر رمضان شریف میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کریں تو جس کی نیت کریں گے، وہی ہوگا رمضان کا نہیں۔^(۲) (تنویر الابصار) اور مطلق روزے کی نیت کریں تو رمضان کا ہوگا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ نذر معین یعنی فلاں دن روزہ رکھوں گا، اس میں اگر اُس دن کسی اور واجب کی نیت سے روزہ رکھا تو جس کی نیت سے روزہ رکھا، وہ ہوا منت کی قضا دے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ رمضان کے مہینے میں کوئی اور روزہ رکھا اور اُسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے، جب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۲۵ کوئی مسلمان دارالحرہ میں قید تھا اور ہر سال یہ سوچ کر کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے روزے رکھے بعد کو معلوم ہوا کہ کسی سال بھی رمضان میں نہ ہوئے بلکہ ہر سال رمضان سے پیشتر ہوئے تو پہلے سال کا تو ہوا ہی نہیں کہ رمضان سے پیشتر رمضان کا روزہ ہو نہیں سکتا اور دوسرے تیسرے سال کی نسبت یہ ہے کہ اگر مطلق رمضان کی نیت کی تھی تو ہر سال کے روزے سال گزشتہ کے روزوں کی قضا ہیں اور اگر اس سال کے رمضان کی نیت سے رکھے تو کسی سال کے نہ ہوئے۔^(۶) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ اگر صورت مذکورہ میں تحریر کی یعنی سوچا اور دل میں یہ بات جمی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ رکھا، مگر واقع میں روزے شوال کے مہینے میں ہوئے تو اگر رات سے نیت کی تو ہو گئے، کیونکہ قضا میں قضا کی نیت شرط نہیں، بلکہ ادا کی نیت سے بھی قضا ہو جاتی ہے پھر اگر رمضان و شوال دونوں تیس تیس دن یا انتیس انتیس دن کے ہیں تو ایک روزہ اور رکھے کہ عید کا روزہ ممنوع ہے اور اگر رمضان تیس کا اور شوال انتیس کا تو دو اور رکھے اور رمضان انتیس کا تھا اور یہ تیس کا تو پورے ہو گئے اور اگر وہ

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۳، وغیرہ.

② "تنویر الابصار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۵.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۹۵ - ۱۹۶.

④ المرجع السابق، ص ۱۹۶.

⑤ "الدرالمختار"،

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۷.

مہینہ ذی الحجہ کا تھا تو اگر دونوں تیس یا انتیس کے ہیں تو چار روزے اور رکھے اور رمضان میں کا تھا یہ انتیس کا تو پانچ اور بالعکس تو تین رکھے۔ غرض ممنوع روزے نکال کر وہ تعداد پوری کرنی ہوگی جتنے رمضان کے دن تھے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ - ادائے رمضان اور نذر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے، مثلاً قضاے رمضان اور نذر غیر معین اور نفل کی قضا (یعنی نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا اس کی قضا) اور نذر معین کی قضا اور کفارہ کا روزہ اور حرم میں شکار کرنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہو واوہ اور حج میں وقت سے پہلے سر منڈانے کا روزہ اور تمتع کا روزہ، ان سب میں عین صبح چمکتے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے، خاص اس معین کی نیت کرے اور ان روزوں کی نیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے پھر بھی ان کا پورا کرنا ضرور ہے توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ اگرچہ یہ اس کے علم میں ہو کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے یہ وہ نہیں ہوگا بلکہ نفل ہوگا۔⁽²⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۸ - یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمہ روزے کی قضا ہے روزہ رکھا۔ اب معلوم ہوا کہ گمان غلط تھا تو اگر فوراً توڑ دے تو توڑ سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پورا کر لے اور فوراً نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا، توڑے گا تو قضا واجب ہے۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ - رات میں قضا روزے کی نیت کی، صبح کو اسے نفل کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ - نماز پڑھتے میں روزہ کی نیت کی تو نیت صحیح ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۱ - کئی روزے قضا ہو گئے تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا، دوسرے کی قضا اور اگر کچھ اس سال کے قضا ہو گئے، کچھ اگلے سال کے باقی ہیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رمضان کی اور اس رمضان کی قضا اور اگر دن اور سال کو معین نہ کیا، جب بھی ہو جائیں گے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ - رمضان کا روزہ قصداً توڑا تھا تو اس پر اس روزے کی قضا ہے اور⁽⁷⁾ ساٹھ روزے کفارہ کے۔ اب اس

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۹۶.

② "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۳، وغیرہ.

③ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۹.

④ المرجع السابق، ص ۳۹۸.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۹۸.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۹۶.

⑦ اگر کفارے کی شرائط پائی گئیں تو۔

نے اکٹھ روزے رکھ لیے، قضا کا دن معین نہ کیا تو ہو گیا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ یوم الشک یعنی شعبان کی تیسویں تاریخ کو نفل خالص کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور نفل کے سوا کوئی اور روزہ رکھا تو مکروہ ہے، خواہ مطلق روزہ کی نیت ہو یا فرض کی یا کسی واجب کی، خواہ نیت معین کی، کی ہو یا تردد کے ساتھ یہ سب صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر رمضان کی نیت ہے تو مکروہ تحریمی ہے، ورنہ مقیم کے لیے تنزیہی اور مسافر نے اگر کسی واجب کی نیت کی تو کراہت نہیں پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو مقیم کے لیے بہر حال رمضان کا روزہ ہے اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا اور نیت کسی واجب کی کی تھی تو جس واجب کی نیت تھی وہ ہو اور اگر کچھ حال نہ گھلا تو واجب کی نیت بے کارگی اور مسافر نے جس کی نیت کی بہر صورت وہی ہو۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۴ اگر تیسویں تاریخ ایسے دن ہوئی کہ اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا تو اُسے روزہ رکھنا افضل ہے، مثلاً کوئی شخص پیر یا جمعرات کا روزہ رکھا کرتا ہے اور تیسویں اسی دن پڑی تو رکھنا افضل ہے۔ یو ہیں اگر چند روز پہلے سے رکھ رہا تھا تو اب یوم الشک میں کراہت نہیں۔ کراہت اسی صورت میں ہے کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھا جائے یعنی صرف تیس شعبان کو یا انیس اور تیس کو۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۵ اگر نہ تو اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا نہ کئی روز پہلے سے روزے رکھے تو اب خاص لوگ روزہ رکھیں اور عوام نہ رکھیں، بلکہ عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ ضحوة کبریٰ تک روزہ کے مثل رہیں، اگر اس وقت تک چاند کا ثبوت ہو جائے تو رمضان کے روزے کی نیت کر لیں ورنہ کھاپی لیں۔ خواص سے مراد یہاں علما ہی نہیں، بلکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ یوم الشک میں اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے، وہ خواص میں ہے ورنہ عوام میں۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۶ یوم الشک کے روزہ میں یہ پکارا دہ کر لے کہ یہ روزہ نفل ہے تردد نہ رہے، یوں نہ ہو کہ اگر رمضان ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے، ورنہ نفل کا یا یوں کہ اگر آج رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے، ورنہ کسی اور واجب کا کہ یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو فرض رمضان ادا ہوگا۔ ورنہ دونوں صورتوں میں نفل ہے اور گنہگار بہر حال ہو اور یوں بھی نیت نہ کرے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو روزہ ہے، ورنہ روزہ نہیں کہ اس صورت میں تو نہ

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الأول، ج ۱، ص ۱۹۶.

② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصوم، مبحث فی صوم یوم الشک، ج ۳، ص ۳۹۹.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۰۰.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۰۲.

نیت ہی ہوئی، نہ روزہ ہو اور اگر نفل کا پورا ارادہ ہے مگر کبھی کبھی دل میں یہ خیال گزر جاتا ہے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس میں حرج نہیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۷ عوام کو جو یہ حکم دیا گیا کہ ضحوة کبریٰ تک انتظار کریں، جس نے اس پر عمل کیا مگر بھول کر کھالیا پھر اس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہو تو روزہ کی نیت کر لے ہو جائے گا کہ انتظار کرنے والا روزہ دار کے حکم میں ہے اور بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔⁽²⁾ (درمختار)

چاند دیکھنے کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾⁽³⁾

اے محبوب! تم سے ہلال کے بارہ میں لوگ سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں۔

حدیث ۱ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”روزہ نہ رکھو، جب تک چاند نہ دیکھ لو اور افطار نہ کرو، جب تک چاند نہ دیکھ لو اور اگر ابر ہو تو مقدار پوری کر لو۔“⁽⁴⁾

حدیث ۲ نیز صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی تیس پوری کر لو۔“⁽⁵⁾

حدیث ۳ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، ایک اعرابی نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ فرمایا: ”تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں۔“ عرض کی، ہاں۔ فرمایا: ”تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ (عزوجل) کے رسول ہیں۔“

① ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصوم، الباب الأول، ج ۱، ص ۲۰۰.

و ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، مبحث فی صوم یوم الشک، ج ۳، ص ۴۰۳.

② ”الدرالمختار“، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۰۴.

③ پ ۲، البقرة: ۱۸۹.

④ ”صحیح البخاری“، کتاب الصوم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، إذا رأیتم الهلال فصوموا... إلخ،

الحدیث: ۱۹۰۶، ج ۱، ص ۶۲۹.

⑤ ”صحیح البخاری“، کتاب الصوم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، إذا رأیتم... إلخ، الحدیث: ۱۹۰۹، ج ۱، ص ۶۳۰.

اُس نے کہا، ہاں۔ ارشاد فرمایا: ”اے بلال! لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔“ (1)

حدیث ۳ ابو داؤد و دارمی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ لوگوں نے باہم چاند دیکھنا شروع کیا، میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ (2)

حدیث ۵ ابو داؤد اُم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کا اس قدر تحفظ کرتے کہ اتنا اور کسی کا نہ کرتے پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے اور اگر ابر ہوتا تو تیس دن پورے کر کے روزہ رکھتے۔ (3)

حدیث ۶ صحیح مسلم میں ابی البختری سے مروی، کہتے ہیں ہم عمرہ کے لیے گئے، جب لطن نخلہ میں پہنچے تو چاند دیکھ کر کسی نے کہا تین رات کا ہے، کسی نے کہا دو رات کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہم ملے اور ان سے واقعہ بیان کیا، فرمایا: تم نے دیکھا کس رات میں؟ ہم نے کہا، فلاں رات میں، فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس کی مدت دیکھنے سے مقرر فرمائی، لہذا اس رات کا قرار دیا جائے گا جس رات کو تم نے دیکھا۔ (4)

مسئلہ ۱ پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا، واجب کفایہ ہے۔

(۱) شعبان۔

(۲) رمضان۔

(۳) شوال۔

(۴) ذیقعدہ۔

(۵) ذی الحجہ۔

شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ تیس پورے کر کے رمضان شروع کریں اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے اور ذیقعدہ کا ذی الحجہ کے لیے (5) اور ذی الحجہ کا بقرعید کے لیے۔ (6) (فتاویٰ رضویہ)

① ”سنن أبي داود“، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، الحديث: ۲۳۴۰، ج ۲، ص ۴۴۰.

② ”سنن أبي داود“، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، الحديث: ۲۳۴۲، ج ۲، ص ۴۴۱.

③ ”سنن أبي داود“، كتاب الصيام، باب إذا أغمي الشهر، الحديث: ۲۳۲۵، ج ۲، ص ۴۳۴.

④ ”صحیح مسلم“، كتاب الصيام، باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال و صفره... إلخ، الحديث: ۱۰۸۸، ص ۵۴۹.

⑤ کہ وہ حج کا خاص مہینہ ہے۔ ⑥ ”الفتاویٰ الرضویة“، ج ۱۰ ص ۴۴۹ - ۴۵۱.

مسئلہ ۲ شعبان کی انتیس کو شام کے وقت چاند دیکھیں دکھائی دے تو کل روزہ رکھیں، ورنہ شعبان کے تیس دن پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کریں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ شرعی سے رد کر دی گئی مثلاً فاسق ہے یا عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا تو اُسے حکم ہے کہ روزہ رکھے، اگرچہ اپنے آپ عید کا چاند دیکھ لیا ہے اور اس روزہ کو توڑنا جائز نہیں، مگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں^(۲) اور اس صورت میں اگر رمضان کا چاند تھا اور اُس نے اپنے حسابوں میں روزے پورے کیے، مگر عید کے چاند کے وقت پھر اُبر یا غبار ہے تو اُسے بھی ایک دن اور رکھنے کا حکم ہے۔^(۳) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۴ تنہا اُس نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا پھر روزہ توڑ دیا یا قاضی کے یہاں گواہی بھی دی تھی اور ابھی اُس نے اُس کی گواہی پر حکم نہیں دیا تھا کہ اُس نے روزہ توڑ دیا تو بھی کفارہ لازم نہیں، صرف اُس روزہ کی قضا دے اور اگر قاضی نے اُس کی گواہی قبول کر لی۔ اُس کے بعد اُس نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم ہے اگرچہ یہ فاسق ہو۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۵ جو شخص علم ہیأت جانتا ہے، اُس کا اپنے علم ہیأت کے ذریعہ سے کہہ دینا کہ آج چاند ہوا یا نہیں ہوا کوئی چیز نہیں اگرچہ وہ عادل ہو، اگرچہ کئی شخص ایسا کہتے ہوں کہ شرع میں چاند دیکھنے یا گواہی سے ثبوت کا اعتبار ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ ہر گواہی میں یہ کہنا ضرور ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بغیر اس کے شہادت نہیں، مگر اُبر میں رمضان کے چاند کی گواہی میں اس کہنے کی ضرورت نہیں، اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے اس رمضان کا چاند آج یا کل یا فلاں دن دیکھا ہے۔ یوہیں اس کی گواہی میں دعویٰ اور مجلس قضا اور حاکم کا حکم بھی شرط نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے حاکم کے یہاں گواہی دی تو جس نے اُس کی گواہی سنی اور اُس کو بظاہر معلوم ہوا کہ یہ عادل ہے اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، اگرچہ حاکم کا حکم اُس نے نہ سنا ہو مثلاً حکم دینے سے پہلے ہی چلا گیا۔^(۶) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۷ اُبر اور غبار میں رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل بالغ، مستور یا عادل شخص سے ہو جاتا ہے، وہ مرد ہو خواہ عورت، آزاد ہو یا باندی غلام یا اس پر تہمت زنا کی حد ماری گئی ہو، جب کہ توبہ کر چکا ہے۔

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب الثانی فی رؤیة الهلال، ج ۱، ص ۱۹۷.

② "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۰۴.

③

④ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۰۴.

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب الثانی فی رؤیة الهلال، ج ۱، ص ۱۹۷.

⑥ المرجع السابق، و "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۰۶.

عادل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کم سے کم متقی ہو یعنی کبار گناہ سے بچتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو مثلاً بازار میں کھانا۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ فاسق اگر چہ رمضان کے چاند کی شہادت دے اُس کی گواہی قابل قبول نہیں رہا یہ کہ اُس کے ذمہ گواہی دینا لازم ہے یا نہیں۔ اگر امید ہے کہ اُس کی گواہی قاضی قبول کر لے گا تو اُسے لازم ہے کہ گواہی دے۔⁽²⁾

مستور یعنی جس کا ظاہر حال مطابق شرع ہے، مگر باطن کا حال معلوم نہیں، اُس کی گواہی بھی غیر رمضان میں قابل قبول نہیں۔ (درمختار)

مسئلہ ۹ جس شخص عادل نے رمضان کا چاند دیکھا، اُس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت ادا کر دے، یہاں تک کہ اگر لونڈی یا پردہ نشین عورت نے چاند دیکھا تو اس پر گواہی دینے کے لیے اسی رات میں جانا واجب ہے۔ لونڈی کو اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ اپنے آقا سے اجازت لے۔ یوہیں آزاد عورت کو گواہی کے لیے جانا واجب، اس کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم اُس وقت ہے جب اُس کی گواہی پر ثبوت موقوف ہو کہ بے اُس کی گواہی کے کام نہ چلے ورنہ کیا ضرورت۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ جس کے پاس رمضان کے چاند کی شہادت گزری، اُسے یہ ضرور نہیں کہ گواہ سے دریافت کرے تم نے کہاں سے دیکھا اور وہ کس طرف تھا اور کتنے اونچے پر تھا وغیرہ وغیرہ۔⁽⁴⁾ (عالمگیری وغیرہ) مگر جب کہ اس کا بیان مشتبہ ہو تو سوالات کرے خصوصاً عید میں کہ لوگ خواہ مخواہ اس کا چاند دیکھ لیتے ہیں۔

مسئلہ ۱۱ تنہا امام (بادشاہ اسلام) یا قاضی نے چاند دیکھا تو اُسے اختیار ہے، خواہ خود ہی روزہ رکھنے کا حکم دے یا کسی کو شہادت لینے کے لیے مقرر کرے اور اُس کے پاس شہادت ادا کرے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ گاؤں میں چاند دیکھا اور وہاں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس گواہی دے تو گاؤں والوں کو جمع کر کے شہادت ادا کرے اور اگر یہ عادل ہے تو لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مبحث فی صوم یوم الشک، ج ۳، ص ۴۰۶.

② "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۰۶.

③ المرجع السابق، ص ۴۰۷.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الثانی فی رؤیۃ الهلال، ج ۱، ص ۱۹۷، وغیرہ.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الثانی فی رؤیۃ الهلال، ج ۱، ص ۱۹۷.

⑥ المرجع السابق.

مسئلہ ۱۳ کسی نے خود تو چاند نہیں دیکھا، مگر دیکھنے والے نے اپنی شہادت کا گواہ بنایا تو اس کی شہادت کا وہی حکم ہے جو چاند دیکھنے والے کی گواہی کا ہے، جبکہ شہادۃ علی الشہادۃ کے تمام شرائط پائے جائیں۔^(۱) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۴ اگر مطلع صاف ہو تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا، رہا یہ کہ اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے یہ قاضی کے متعلق ہے، جتنے گواہوں سے اُسے غالب گمان ہو جائے حکم دیدے گا، مگر جب کہ بیرون شہر یا بلند جگہ سے چاند دیکھنا بیان کرتا ہے تو ایک مستور کا قول بھی رمضان کے چاند میں قبول کر لیا جائے گا۔^(۲) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۵ جماعت کثیرہ کی شرط اُس وقت ہے جب روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لیے شہادت گزرے اور اگر کسی اور معاملہ کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں ثقہ کی شہادت گزری اور قاضی نے شہادت کی بنا پر حکم دے دیا تو اب یہ شہادت کافی ہے۔ روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لیے بھی ثبوت ہو گیا، مثلاً ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرا اس کے ذمہ اتنا دین ہے اور اس کی میعاد یہ ٹھہری تھی کہ جب رمضان آجائے تو دین ادا کر دے گا اور رمضان آ گیا مگر یہ نہیں دیتا۔ مدعی علیہ^(۳) نے کہا، بیشک اس کا دین میرے ذمہ ہے اور میعاد بھی یہی ٹھہری تھی، مگر ابھی رمضان نہیں آیا اس پر مدعی نے دو گواہ گزارے جنہوں نے چاند دیکھنے کی شہادت دی، قاضی نے حکم دے دیا کہ دین ادا کر، تو اگرچہ مطلع صاف تھا اور وہی کی گواہیاں ہوئیں، مگر اب روزہ رکھنے اور عید کرنے کے حق میں بھی یہی دو گواہیاں کافی ہیں۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ یہاں مطلع صاف تھا، مگر دوسری جگہ نا صاف تھا، وہاں قاضی کے سامنے شہادت گزری، قاضی نے چاند ہونے کا حکم دیا، اب دو یا چند آدمیوں نے یہاں آ کر جہاں مطلع صاف تھا، اس بات کی گواہی دی کہ فلاں قاضی کے یہاں دو شخصوں نے فلاں رات میں چاند دیکھنے کی گواہی دی اور اس قاضی نے ہمارے سامنے حکم دے دیا اور دعوے کے شرائط بھی پائے جاتے ہیں تو یہاں کا قاضی بھی ان شہادتوں کی بنا پر حکم دیدے گا۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۱۷ اگر کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ اگر شہادت بھی دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ اگر یہ شہادت دیں کہ فلاں فلاں نے دیکھا، بلکہ اگر یہ شہادت دیں کہ فلاں جگہ کے قاضی نے روزہ یا افطار کے لیے لوگوں سے کہا یہ سب طریقے نا کافی ہیں۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الثانی فی رؤیۃ الهلال، ج ۱، ص ۱۹۷، وغیرہ.

② "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۰۹، وغیرہ ③ یعنی وہ شخص جس پر دعویٰ کیا جائے۔

④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مطلب: ما قالہ السبکی من الاعتماد علی قول... إلخ، ج ۳، ص ۴۱۱.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۱۲.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مطلب: ما قالہ السبکی من الاعتماد علی قول... إلخ، ج ۳، ص ۴۱۳.

مسئلہ ۱۸ کسی شہر میں چاند ہوا اور وہاں سے متعدد جماعتیں دوسرے شہر میں آئیں اور سب نے اس کی خبر دی کہ وہاں فلاں دن چاند ہوا ہے اور تمام شہر میں یہ بات مشہور ہے اور وہاں کے لوگوں نے رویت کی بنا پر فلاں دن سے روزے شروع کیے تو یہاں والوں کے لیے بھی ثبوت ہو گیا۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ رمضان کی چاند رات کو ابر تھا، ایک شخص نے شہادت دی اور اس کی بنا پر روزے کا حکم دے دیا گیا، اب عید کا چاند اگر بوجہ ابر کے نہیں دیکھا گیا تو تیس روزے پورے کر کے عید کر لیں اور اگر مطلع صاف ہے تو عید نہ کریں، مگر جبکہ دو عادلوں کی گواہی سے رمضان ثابت ہوا ہو۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ مطلع ناصاف ہے تو علاوہ رمضان کے شوال و ذی الحجہ بلکہ تمام مہینوں کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں اور سب عادل ہوں اور آزاد ہوں اور ان میں کسی پر تہمت زنا کی حد نہ قائم کی گئی ہو، اگرچہ تو بہ کر چکا ہو اور یہ بھی شرط ہے کہ گواہ گواہی دیتے وقت یہ لفظ کہے میں گواہی دیتا ہوں۔^(۳) (عامہ کتب)

مسئلہ ۲۱ گاؤں میں دو شخصوں نے عید کا چاند دیکھا اور مطلع ناصاف ہے اور وہاں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس شہادت دیں تو گاؤں والوں سے کہیں، اگر یہ عادل ہوں تو لوگ عید کر لیں۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ تنہا امام یا قاضی نے عید کا چاند دیکھا تو انھیں عید کرنا یا عید کا حکم دینا جائز نہیں۔^(۵) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۳ اثنیسویس رمضان کو کچھ لوگوں نے یہ شہادت دی کہ ہم نے لوگوں سے ایک دن پہلے چاند دیکھا جس کے حساب سے آج تیس ہے تو اگر یہ لوگ یہیں تھے تو اب ان کی گواہی مقبول نہیں کہ وقت پر گواہی کیوں نہ دی اور اگر یہاں نہ تھے اور عادل ہوں تو قبول کر لی جائے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا، شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کر دیے، اٹھائیس ہی روزے رکھے تھے کہ عید کا چاند ہو گیا تو اگر شعبان کا چاند دیکھ کر تیس دن کا مہینہ قرار دیا تھا تو ایک روزہ رکھیں اور اگر شعبان کا بھی

① "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مطلب: ما قاله السبکی من الاعتماد علی قول الحساب مردود، ج ۳، ص ۴۱۳.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مطلب: ما قاله السبکی من الاعتماد علی قول الحساب مردود،

ج ۳، ص ۴۱۳.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب الثانی فی رؤیة الهلال، ج ۱، ص ۱۹۸.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب الثانی فی رؤیة الهلال، ج ۱، ص ۱۹۸.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۰۸، وغیرہ.

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب الثانی فی رؤیة الهلال، ج ۱، ص ۱۹۸.

چاند دکھائی نہ دیا تھا، بلکہ رجب کی تیس تاریخیں پوری کر کے شعبان کا مہینہ شروع کیا تو دو روزے قضا کے رکھیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ دن میں ہلال دکھائی دیا زوال سے پہلے یا بعد، بہر حال وہ آئندہ رات کا قرار دیا جائے گا یعنی اب جو رات آئے گی اس سے مہینہ شروع ہوگا تو اگر تیسویں رمضان کے دن میں دیکھا تو یہ دن رمضان ہی کا ہے شوال کا نہیں اور روزہ پورا کرنا فرض ہے اور اگر شعبان کی تیسویں تاریخ کے دن میں دیکھا تو یہ دن شعبان کا ہے رمضان کا نہیں لہذا آج کا روزہ فرض نہیں۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف وہیں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہان کے لیے ہے۔ مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اُس وقت ہے کہ اُن کے نزدیک اُس دن تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے^(۳) یعنی دیکھنے کی گواہی یا قاضی کے حکم کی شہادت گزرے یا متعدد جماعتیں وہاں سے آ کر خبر دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا ہے اور وہاں لوگوں نے روزہ

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الثانی فی رؤیة الهلال، ج ۱، ص ۱۹۹.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مطلب فی اختلاف المطالع، ج ۳، ص ۴۱۷.

③ مجدد اعظم، اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: کہ رویت ہلال کے ثبوت کے لیے شرع میں سات طریقے ہیں:

(۱) خود شہادت رویت یعنی چاند دیکھنے والوں کی گواہی۔

(۲) شہادۃ علی الشہادۃ۔ یعنی گواہوں نے چاند خود نہ دیکھا بلکہ دیکھنے والوں نے ان کے سامنے گواہی دی اور اپنی گواہی پر انہیں گواہ کیا۔ انہوں نے اس گواہی کی گواہی دی۔ یہ وہاں ہے کہ گواہان اصل حاضری سے معذور ہوں۔

(۳) شہادۃ علی القضاء یعنی دوسرے کسی اسلامی شہر میں حاکم اسلام کے یہاں رویت ہلال پر شہادتیں گزریں اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا اور دو عادل گواہوں نے جو اس گواہی کے وقت موجود تھے، انہوں نے دوسرے مقام پر اس قاضی اسلام کے روبرو گواہی گزرے اور قاضی کے حکم پر گواہی دی۔

(۴) کتاب القاضی الی القاضی یعنی قاضی شرع جسے سلطان اسلام نے مقدمات کا اسلامی فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہو وہ دوسرے شہر کے قاضی کو، گواہیاں گزرنے کی شرعی طریقے پر اطلاع دے۔

(۵) استفاضہ یعنی کسی اسلامی شہر سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب ایک زبان اپنے علم سے خبر دیں کہ وہاں فلاں دن رویت ہلال کی بنا پر روزہ ہو یا عید کی گئی۔

(۶) اکمال مدت یعنی ایک مہینے کے جب تیس دن کامل ہو جائیں تو دوسرے ماہ کا ہلال آپ ہی ثابت ہو جائے گا کہ مہینہ تیس دن سے زائد کا نہ ہونا یقینی ہے۔

(۷) اسلامی شہر میں حاکم شرع کے حکم سے انیس ۲۹ کی شام کو مثلاً توپیں داغی گئیں یا فائر ہوئے تو خاص اس شہر والوں یا اس شہر کے گرد اگر دیہات والوں کے واسطے توپوں کی آوازیں سننا بھی ثبوت ہلال کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔

(انظر: "الفتاویٰ الرضویۃ"، ج ۱۰، ص ۴۰۵ - ۴۲۰، ملخصاً).

رکھایا عید کی ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۷ - تار یا ٹیلیفون سے رویت ہلال نہیں ثابت ہو سکتی، نہ بازاری افواہ اور جنتریوں اور اخباروں میں چھپا ہونا کوئی ثبوت ہے۔ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ انتیس^{۲۹} رمضان کو بکثرت ایک جگہ سے دوسری جگہ تاریخ بھیجے جاتے ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں، اگر کہیں سے تار آ گیا بس لو عید آگئی یہ محض ناجائز و حرام ہے۔

تار کیا چیز ہے؟ اولاً تو یہی معلوم نہیں کہ جس کا نام لکھا ہے واقعی اسی کا بھیجا ہوا ہے اور فرض کرو اسی کا ہو تو تمہارے پاس کیا ثبوت اور یہ بھی سہی تو تار میں اکثر غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہاں کا نہیں نہیں کا ہاں معمولی بات ہے اور مانا کہ بالکل صحیح پہنچا تو یہ محض ایک خبر ہے شہادت نہیں اور وہ بھی بیسوں واسطہ سے اگر تار دینے والا انگریزی پڑھا ہوا نہیں تو کسی اور سے لکھوائے گا معلوم نہیں کہ اُس نے کیا لکھوایا اُس نے کیا لکھا، آدمی کو دیا اُس نے تار دینے والے کے حوالہ کیا، اب یہاں کے تار گھر میں پہنچا تو اُس نے تقسیم کرنے والے کو دیا اُس نے اگر کسی اور کے حوالے کر دیا تو معلوم نہیں کتنے واسطہ سے اُس کو ملے اور اگر اسی کو دیا جب بھی کتنے واسطے ہیں پھر یہ دیکھیے کہ مسلمان مستور جس کا عادل و فاسق ہونا معلوم نہ ہو اُس تک کی گواہی معتبر نہیں اور یہاں جن جن ذریعوں سے تار پہنچا اُن میں سب کے سب مسلمان ہی ہوں، یہ ایک عقلی احتمال ہے جس کا وجود معلوم نہیں ہوتا اور اگر یہ مکتوب الیہ⁽²⁾ صاحب بھی انگریزی پڑھے نہ ہوں تو کسی سے پڑھوائیں گے، اگر کسی کافر نے پڑھا تو کیا اعتبار اور مسلمان نے پڑھا تو کیا اعتماد کہ صحیح پڑھا۔ غرض شمار کیجیے تو بکثرت ایسی وجہیں ہیں جو تار کے اعتبار کو کھوتی ہیں فقہانے خط کا تو اعتبار ہی نہ کیا اگر چہ کاتب کے دستخط تحریر پہنچتا ہو اور اُس پر اُس کی مہر بھی ہو کہ الخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم خط خط کے مشابہ ہوتا ہے اور مہر مہر کے۔ تو کجا تار۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۸ - ہلال⁽³⁾ دیکھ کر اُس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے⁽⁴⁾، اگر چہ دوسرے کو بتانے کے لیے ہو۔⁽⁵⁾ (عالمگیری، درمختار)

ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا

حدیث ۱ - صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس

① ”الدر المختار“، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۱۹.

② یعنی جسے خط پہنچا۔

③ یعنی چاند۔

④ کیونکہ یہ اہل جاہلیت کا عمل ہے۔

⑤ ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، مطلب فی اختلاف المطالع، ج ۳، ص ۴۱۹.

روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پیا، وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اُسے اللہ (عزوجل) نے کھلایا اور پلایا۔“ (1)

حدیث ۲ — ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس پر قے نے غلبہ کیا، اس پر قضا نہیں اور جس نے قصد اُتے کی، اس پر روزہ کی قضا ہے۔“ (2)

حدیث ۳ — ترمذی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، میری آنکھ

میں مرض ہے، کیا روزہ کی حالت میں سرمہ لگاؤں؟ فرمایا: ”ہاں۔“ (3)

حدیث ۴ — ترمذی ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین چیزیں روزہ نہیں

توڑتیں، پچھنا اور قے اور احتلام۔“ (4)

تنبیہ: اس باب میں ان چیزوں کا بیان ہے، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رہا یہ امر کہ اُن سے روزہ مکروہ بھی ہوتا ہے یا نہیں اس سے اس باب کو تعلق نہیں، نہ یہ کہ وہ فعل جائز ہے یا ناجائز۔

مسئلہ ۱ — بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا روزہ فاسد نہ ہوا۔ خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل اور روزہ کی نیت سے پہلے یہ

چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطیکہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ (5) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ — کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا، مگر جب کہ وہ روزہ دار

بہت کمزور ہو کہ یاد دلانے کا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا اور کھالے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔

بعض مشائخ نے کہا جو ان کو دیکھے تو یاد دلادے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں۔ مگر یہ حکم اکثر کے

لحاظ سے ہے کہ جو ان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ

قوت و ضعف (6) کا لحاظ ہے، لہذا اگر جو ان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا

① ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب اکل الناسی و شربہ و جماعہ لا یفطر، الحدیث: ۱۱۵۵، ص ۵۸۲۔

② ”جامع الترمذی“، ابواب الصوم... إلخ، باب ماجاء فیمن استقاء عمدا، الحدیث: ۷۲۰، ج ۲، ص ۱۷۳۔

③ ”جامع الترمذی“، ابواب الصوم، باب ماجاء فی الکحل للصائم، الحدیث: ۷۲۶، ج ۲، ص ۱۷۷۔

④ ”جامع الترمذی“، ابواب الصوم، باب ماجاء فی الصائم یندرعہ القیء، الحدیث: ۷۱۹، ج ۲، ص ۱۷۲۔

⑤ ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۱۹۔

⑥ یعنی طاقت اور جسمانی کمزوری۔

واجب۔ (۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ مٹھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چلی پینے یا چھانسنے میں اڑتا ہے یا غلہ کا غبار ہو یا ہوا سے خاک اڑی یا جانوروں کے گھر یا ناپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یا دھواں اور اگر خود قصد دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا جبکہ روزہ دار ہونا یا دھواں، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر کی بتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی، اُس نے مونہہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا روزہ جاتا رہا۔ یوں ہٹھ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ یاد ہو اور ہٹھ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ (۲) (درمختار، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۴ بھری سگی لگوائی (۳) یا تیل یا سرمہ لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرمہ کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمہ کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹا۔ (۴) (جوہرہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں عورت کی طرف بلکہ اس کی شرم گاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہواں سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ (۵) (جوہرہ، ردالمختار)

مسئلہ ۶ غسل کیا اور پانی کی خنکی (۶) اندر محسوس ہوئی یا ٹھکی کی اور پانی بالکل پھینک دیا صرف کچھ تری مونہہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اُسے نکل گیا یا دو کوئی اور حلق میں اُس کا مزہ محسوس ہوا یا ہڑ چوسی اور تھوک نکل گیا، مگر تھوک کے ساتھ ہڑ (۷) کا کوئی جو حلق میں نہ پہنچایا کان میں پانی چلا گیا یا تنکے سے کان کھجایا اور اُس پر کان کا میل لگ گیا پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو یا دانت یا مونہہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ

① "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۰۔

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۰۔ وغیرہما

③ جہاں سگی لگانی ہوتی ہے پہلے اس جگہ کو تیز دھا آ لے (استرے) وغیرہ سے زخم لگاتے ہیں، پھر کسی جانور کے سینگ کا چوڑا حصہ زخم پر رکھ کر اس کا باریک حصہ اپنے منہ میں لے کر زور سے چوستے ہیں، پھر اس سوراخ کو آٹے وغیرہ سے بند کر دیتے ہیں، پھر جب اکھیرتے ہیں تو فاسد خون نکل جاتا ہے۔

④ "الجوهرة النيرة"، کتاب الصوم، ص ۱۷۹۔

و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب: یکرہ السہر... إلخ، ج ۳، ص ۴۲۱۔

⑤ "الجوهرة النيرة"، کتاب الصوم، ص ۱۷۸۔

و "الدرالمختار" کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۱۔

⑥ ٹھنڈک۔

⑦ ایک دو کا نام۔

اُتر گئی یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا، مگر حلق سے نیچے نہ اُترتا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔⁽¹⁾ (درمختار، فتح القدير)

مسئلہ ۷ - روزہ دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر بھونک دیا، اگرچہ اس کی بھال یا پیکان⁽²⁾ پیٹ کے اندر رہ گئی یا

اس کے پیٹ میں جھلی تک زخم تھا، کسی نے کنکری ماری کہ اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا اور اگر خود اس نے یہ سب کیا اور بھال یا

پیکان یا کنکری اندر رہ گئی تو جاتا رہا۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اُسے پی گیا یا مونہ سے رال ٹپکی، مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اُسے

چڑھا کر پی گیا یا ناک میں رینٹھ آگئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اُسے چڑھا کر نگل گیا یا کھنکار مونہ میں آیا اور کھا

گیا اگرچہ کتنا ہی ہو، روزہ نہ جائے گا مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - مکھی حلق میں چلی گئی روزہ نہ گیا اور قصد انگلی تو جاتا رہا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ - بھولے سے جماع کر رہا تھا یا آتے ہی الگ ہو گیا یا صبح صادق سے پیشتر جماع میں مشغول تھا صبح ہوتے

ہی جدا ہو گیا روزہ نہ گیا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہو اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یا آنے

اور صبح ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت جماع نہیں اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا اگرچہ صرف ٹھہر گیا اور حرکت

نہ کی روزہ جاتا رہا۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۱ - بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی

اُگل دیا، روزہ نہ گیا اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں جاتا رہا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ - غیر سبیلین⁽⁸⁾ میں جماع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یوہیں ہاتھ سے منی نکالنے میں

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۱.

و "فتح القدير"، کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء و الکفارة، ج ۲، ص ۲۵۷ - ۲۵۸.

② تیر یا نیزے کی ٹوک۔

③ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۳.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۳.

و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم... إلخ، مطلب فی حکم الاستمناء بالکف، ج ۳، ص ۴۲۸.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۳.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۴.

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۳.

⑧ یعنی آگے اور پیچھے کے مقام کے علاوہ۔

اگرچہ یہ سخت حرام ہے کہ حدیث میں اسے ملعون فرمایا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۳ چوپایہ یا مردہ سے جماع کیا اور انزال نہ ہو تو روزہ نہ گیا اور انزال ہو تو جاتا رہا۔ جانور کا بوسہ لیا یا اس

کی فرج کو چھوا تو روزہ نہ گیا اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۴ احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا⁽³⁾، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ ہے۔

قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا: ”جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔“⁽⁴⁾

اور حدیث میں فرمایا: ”غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔“⁽⁵⁾ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی

ہے۔ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۵ جنابت⁽⁶⁾ کی حالت میں صبح کی بلکہ اگرچہ سارے دن جنب رہا روزہ نہ گیا⁽⁷⁾ مگر اتنی دیر تک قصداً

غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ و حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا: کہ جنب جس گھر میں ہوتا ہے، اس میں رحمت کے فرشتے

نہیں آتے۔⁽⁸⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۶ جن یعنی پری سے جماع کیا تو جب تک انزال نہ ہو، روزہ نہ ٹوٹے گا۔⁽⁹⁾ (ردالمحتار) یعنی جب کہ انسانی

شکل میں نہ ہو اور انسانی شکل میں ہو تو وہی حکم ہے جو انسان سے جماع کرنے کا ہے۔

مسئلہ ۱۷ تیل یا تیل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ

حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔⁽¹⁰⁾ (فتح القدير)

① ”الدرالمختار“ و ”ردالمختار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۶.

② ”الدرالمختار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۷.

③ ”الدرالمختار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۱، ۴۲۸.

④ پ ۲۶، الحجرات: ۱۲.

⑤ ”المعجم الأوسط“ للطبرانی، الحدیث: ۶۵۹۰، ج ۵، ص ۶۳.

⑥ یعنی غسل فرض ہونے۔

⑦ ”الدرالمختار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۸.

⑧ انظر: ”سنن أبي داود“، کتاب الطہارۃ، باب فی الحنب یؤخر الغسل، الحدیث: ۲۲۷، ج ۱، ص ۱۰۹.

⑨ ”ردالمختار“، کتاب الصوم، مطلب فی جواز الافطار بالتحری، ج ۳، ص ۴۴۲.

⑩ ”فتح القدير“، کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء و الکفارة، ج ۲، ص ۲۵۹.

روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان

حدیث ۱ بخاری واحمد و ابوداؤد و ترمذی وابن ماجہ و دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ رکھ بھی لے۔“ (۱) یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے رکھ کر توڑ دینا تو اس سے سخت تر ہے۔

حدیث ۲ ابن خزیمہ و ابن حبان اپنی صحیح میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا: مجھ میں اس کی طاقت نہیں، انہوں نے کہا: ہم اہل کر دیں گے، میں چڑھ گیا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں، میں نے کہا: یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں پھر مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ اُلٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا: ”یہ کون لوگ ہیں؟“ کہا: ”یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں۔“ (۲)

حدیث ۳ ابویعلیٰ باسناد حسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ ”اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد تین ہیں، جن پر اسلام کی بنا مضبوط کی گئی، جو ان میں ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے، اُس کا خون حلال ہے، کلمہ توحید کی شہادت اور نماز فرض اور روزہ رمضان۔“ (۳)

اور ایک روایت میں ہے، ”جو ان میں سے ایک کو ترک کرے، وہ اللہ (عزوجل) کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا فرض و نفل کچھ مقبول نہیں۔“ (۴)

مسئلہ ۱ کھانے پینے، جماع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ (۵) (عامہ کتب)

①..... ”جامع الترمذی“، أبواب الصوم، باب ماجاء فی الإفطار متعمدا، الحدیث: ۷۲۳، ج ۲، ص ۱۷۵.

②..... ”صحیح ابن خزيمة“، أبواب صوم التطوع، باب ذکر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار... إلخ، الحدیث: ۱۹۸۶، ج ۳، ص ۲۳۷.

③..... ”مسند أبي يعلى“، مسند ابن عباس، الحدیث: ۲۳۴۵، ج ۲، ص ۳۷۸.

④..... ”الترغيب و الترهيب“، كتاب الصوم، الترهيب من إفطار شئى من رمضان من غير عذر، الحدیث: ۳، ج ۲، ص ۶۶.

⑤..... ”الهداية“، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، ج ۱، ص ۱۲۰.

مسئلہ ۲ - ٹھہ، سگار، سگریٹ، چرٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزا ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔

مسئلہ ۳ - شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو مونہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، مونہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا روزہ جاتا رہا۔ یوہیں دانتوں کے درمیان کوئی چیز چبنے کے برابر یا زیادہ تھی اُسے کھا گیا یا کم ہی تھی (1)، مگر مونہ سے نکال کر پھر کھالی یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اُتر اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا، تو نہیں۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۳ - روزہ میں دانت اکھڑا یا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اُترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ (3) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا، ورنہ جاتا رہا لیکن اگر وہ تر ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً جاتا رہا، یہی حکم شرم گاہ زن (4) کا ہے، شرم گاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل (5) ہے۔ یوہیں اگر ڈورے میں بوٹی باندھ کر نکل لی، اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی کہ گلنے نہ پائی تو نہیں گیا اور اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ جاتا رہا۔ (6) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۶ - عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ جاتا رہا اور خشک انگلی پاخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرم گاہ میں تو روزہ نہ گیا اور بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو جاتا رہا، بشرطیکہ پاخانہ کے مقام میں اُس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنہ کا سر رکھتے ہیں۔ (7) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

① مگر فرج القدر میں فرمایا کہ اگر اتنی ہو کہ بغیر تھوک کے مدد کے حلق سے نیچے اتر سکتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اتنی خفیف ہو کہ لعاب کے ساتھ اتر سکتی ہے ورنہ نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ۱۲ منہ

② "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۲۔

③ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم... إلخ، مطلب: یکرہ السہر اذا خاف فوت الصبح، ج ۳، ص ۴۲۲۔

④ عورت کی شرم گاہ۔ ⑤ یعنی شرم گاہ کا اندرونی حصہ۔

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۳۔

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۴۔

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، المرجع السابق، و "الدرالمختار"، المرجع السابق، ص ۴۲۴۔

مسئلہ ۷ - مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ حقہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ جاتا رہا اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۸ - مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ مٹانہ تک پہنچ گیا ہو اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو جاتا رہا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ - دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ جاتا رہا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں اور وہ دوا تر تھی، جب بھی جاتا رہا اور خشک تھی تو نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ - حقہ^(۴) لیا یا نتھنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ - کلی کر رہا تھا بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصداً ہو۔ یوہیں کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اُس کے حلق میں چلی گئی روزہ جاتا رہا۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ - سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا مونہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اول حلق میں جا رہا روزہ جاتا رہا۔^(۷) (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ - دوسرے کا تھوک نکل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نکل گیا روزہ جاتا رہا۔^(۸) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ - مونہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا پھر تھوک نکل لیا روزہ جاتا رہا۔^(۹) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ - ڈورا بنا سے تر کرنے کے لیے مونہ پر گزارا پھر دوبارہ، سہ بارہ۔ یوہیں کیا روزہ نہ جائے گا مگر جبکہ

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۲۴.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۴.

③ المرجع السابق.

④ یعنی کسی دوا کی بتی یا پچکاری پیچھے کے مقام میں چڑھانا جس سے اجابت ہو جائے۔

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۴.

⑥ المرجع السابق، ص ۲۰۲.

⑦ المرجع السابق. و "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۷۸.

⑧ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۳.

⑨ المرجع السابق.

ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر مونہ میں رہی اور تھوک نکل لیا تو روزہ جاتا رہا۔⁽¹⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۱۶ آنسو مونہ میں چلا گیا اور نکل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے مونہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ پاخانہ کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے اور اگر کچھ پانی اُس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ عورت کا بوسہ لیا یا مٹھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا اور عورت نے مرد کو مٹھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے مٹھوا اور کپڑا اتنا دبیز ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا اگرچہ انزال ہو گیا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ قصداً بھر مونہ قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا اور اس سے کم کی تو نہیں اور بلا اختیار قے ہو گئی تو بھر مونہ ہے یا نہیں اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اُس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹی، نہ لوٹائی تو اگر بھر مونہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا، اگرچہ لوٹ گئی یا اُس نے خود لوٹائی اور بھر مونہ ہے اور اُس نے لوٹائی، اگرچہ اس میں سے صرف پنے برابر حلق سے اُتری تو روزہ جاتا رہا اور نہ نہیں۔⁽⁵⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۰ قے کے یہ احکام اُس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا⁽⁶⁾ یا خون اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ رمضان میں بلا عذر جو شخص علانیہ قصداً کھائے تو حکم ہے کہ اُسے قتل کیا جائے۔⁽⁸⁾ (ردالمحتار)

① "الجوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ص ۱۸۱.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ج ۱، ص ۲۰۳.

③ المرجع السابق، ص ۲۰۴.

④ المرجع السابق، ص ۲۰۴ - ۲۰۵.

⑤ "الدرالمختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج ۳، ص ۴۵۰، وغیرہ.

⑥ یعنی کڑوا پانی۔

⑦ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ج ۱، ص ۲۰۴.

⑧ "ردالمحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الكفارة، ج ۳، ص ۴۴۹.

ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضا لازم ہے

مسئلہ ۱ - یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیایا جماع کیا بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا یعنی اگر شرعی (۱) پایا گیا، اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضا لازم ہے یعنی اُس روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑھے گا۔ (۲) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲ - بھول کر کھایا پیایا جماع کیا تھا یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا یا احتلام ہو یا تھے ہوئی اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا اب قصداً کھالیا تو صرف قضا فرض ہے۔ (۳) (درمختار)

مسئلہ ۳ - کان میں تیل پٹکا یا پیٹ یا دماغ کی تھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی یا حقنہ لیا یا ناک سے دوا چڑھائی یا پتھر، کنکری، مٹی، روئی، کاغذ، گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں یا رمضان میں بلا نیت روزہ روزہ کی طرح رہا یا صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پیشتر نیت کی اور بعد نیت کھالیا یا روزہ کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی یا اس کے حلق میں مینہ کی بوند یا اولاً جارہا یا بہت سا آنسو یا پسینہ نکل گیا یا بہت چھوٹی لڑکی سے جماع کیا جو قابل جماع نہ تھی یا مردہ یا جانور سے وطی کی یا ران یا پیٹ پر جماع کیا یا بوسہ لیا یا عورت کے ہونٹ پو سے یا عورت کا بدن چھوا اگرچہ کوئی کپڑا حائل ہو، مگر پھر بھی بدن کی گرمی محسوس ہوتی ہو۔

اور ان سب صورتوں میں انزال بھی ہو گیا یا ہاتھ سے منی نکالی یا مباشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا یا ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا، اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو یا عورت روزہ دار سورہی تھی، سوتے میں اس سے وطی کی گئی یا صبح کو ہوش میں تھی اور روزہ کی نیت کر لی تھی پھر پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں اس سے وطی کی گئی یا یہ گمان کر کے کہ رات ہے، سحری کھالی یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھالی حالانکہ صبح ہو چکی تھی یا یہ گمان کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا ہے، افطار کر لیا حالانکہ ڈوبنا تھا یا دو شخصوں نے شہادت دی کہ آفتاب ڈوب گیا اور دو نے شہادت دی کہ دن ہے اور اُس نے روزہ افطار کر لیا، بعد کو معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ (۴) (درمختار وغیرہ)

- ① اگر شرعی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو صحیح دھمکی دے کہ اگر تو روزہ نہ توڑے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا یا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا یا ناک، کان وغیرہ کوئی عضو کاٹ ڈالوں گا یا سخت مار ماروں گا۔ اور روزہ دار یہ سمجھتا ہو کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے، کر گزرے گا۔
- ② "الدر المختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۳۰، ۴۳۶، وغیرہ۔
- ③ "الدر المختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۳۱۔
- ④ "الدر المختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۳۱ - ۴۳۹، وغیرہ۔

مسئلہ ۳ مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہوگئی، مجنون کو ہوش ہو گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبراً کسی نے توڑ دیا یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جا رہی۔ کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے، اُسے روزے کے مثل گزارنا واجب ہے اور نابالغ جو بالغ ہو یا کافر تھا مسلمان ہوا اُن پر اس دن کی قضا واجب نہیں باقی سب پر قضا واجب ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۵ نابالغ دن میں بالغ ہو یا کافر دن میں مسلمان ہوا اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہے اور نیت کر بھی لی پھر وہ روزہ توڑ دیا تو اس دن کی قضا واجب نہیں۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ بچہ کی عمر دس سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہوگئی، اگرچہ ضحوة کبریٰ سے پیشتر اور روزہ کی نیت کر لی تو آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل اور مریض یا مسافر نے نیت کی یا مجنون تھا ہوش میں آ کر نیت کی تو ان سب کا روزہ ہو گیا۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۸ صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یا یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب ہے کفارہ نہیں۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اُس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے یعنی جب کہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں کر دے تو بہتر ہے۔

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۴۰.

② "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب فی جواز الإفطار بالتحری، ج ۳، ص ۴۴۱.

③ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب فی جواز الإفطار بالتحری، ج ۳، ص ۴۴۲.

④ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۴۱.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب یکرہ السہر... إلخ، ج ۳، ص ۴۲۵.

ان صورتوں کا بیان جن میں کفارہ بھی لازم ہے

مسئلہ ۱ - رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے کہ ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابلِ شہوت ہے، اُس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جماع کیا، انزال ہوا ہو یا نہیں یا اس روزہ دار کے ساتھ جماع کیا گیا یا کوئی غذا یا دو کھائی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی یا کوئی ایسا فعل کیا، جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا پھر قصداً کھاپی لیا، مثلاً فصد یا پچھنا لیا یا سُرْمہ لگایا یا جانور سے وطی کی یا عورت کو مٹھوایا بوسہ لیا یا ساتھ لٹایا یا مباشرتِ فاحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا یا پاخانہ کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اب ان افعال کے بعد قصداً کھالیا۔

تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں اور اگر ان صورتوں میں کہ افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پر اعتماد ہو، اُس کے فتویٰ دینے پر اُس نے قصداً کھالیا یا اُس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اُس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصداً کھالیا تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا یا جو حدیث اُس نے سنی وہ ثابت نہ ہو۔^(۱) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲ - جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو، اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں۔^(۲) (جوہرہ)

مسئلہ ۳ - مسافر بعد صبح کے ضحوة کبریٰ سے پہلے وطن کو آیا اور روزہ کی نیت کر لی پھر توڑ دیا یا مجنون اس وقت ہوش میں آیا اور روزہ کی نیت کر کے پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ - کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہو، جو روزہ کے منافی ہو یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو، جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی، مثلاً عورت کو اسی دن میں حیض یا نفاس آگیا یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط ہے اور سفر سے ساقط نہ ہوگا کہ یہ اختیاری امر ہے۔ یوہیں اگر اپنے کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کفارہ ساقط نہ

① "الدر المختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۴۲ - ۴۴۶.

② "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۸۰ - ۱۸۱.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۶.

ہوگا۔⁽¹⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۵ وہ کام کیا جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے پھر بادشاہ نے اُسے سفر پر مجبور کیا کفارہ ساقط نہ ہوگا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ مرد کو مجبور کر کے جماع کرایا یا عورت کو مرد نے مجبور کیا پھر اثنائے جماع میں اپنی خوشی سے مشغول رہا یا رہی

تو کفارہ لازم نہیں کہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔⁽³⁾ (جوہرہ) مجبوری سے مراد اکراہ شرعی ہے، جس میں قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا ضرب شدید⁽⁴⁾ کی صحیح دھمکی دی جائے اور روزہ دار بھی سمجھے کہ اگر میں اس کا کہانہ مانوں گا تو جو کہتا ہے، کر گزرے گا۔

مسئلہ ۷ کفارہ واجب ہونے کے لیے بھر پیٹ کھانا ضرور نہیں، تھوڑا سا کھانے سے بھی واجب ہو جائے گا۔⁽⁵⁾

(جوہرہ)

مسئلہ ۸ تیل لگایا یا نعیت کی پھر یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا یا کسی عالم ہی نے روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا، اب

اس نے کھانی لیا جب بھی کفارہ لازم ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۹ قے آئی یا بھول کر کھایا یا پیاجامع کیا اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر اس کے

بعد کھالیا تو کفارہ لازم نہیں اور اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر کھالیا تو کفارہ لازم ہے۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ لعاب تھوک کرچاٹ گیا یا دوسرے کا تھوک نکل گیا تو کفارہ نہیں، مگر محبوب کا لذت یا معظم دینی⁽⁸⁾ کا

تبرک کے لیے تھوک نکل گیا تو کفارہ لازم ہے۔⁽⁹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے، کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا

قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا۔⁽¹⁰⁾ (درمختار)

① "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۸۱.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۶.

③ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۸۰ - ۱۸۱.

④ یعنی سخت مار۔

⑤ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۸۰.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۴۶.

⑦ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم... إلخ، مطلب فی حکم الاستمناء بالکف، ج ۳، ص ۴۳۱، وغیرہ.

⑧ یعنی بزرگ۔

⑨ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب فی جواز الإفطار بالتحری، ج ۳، ص ۴۴۴.

⑩ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۴۰.

مسئلہ ۱۲ کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر جبکہ سڑا ہو یا اُس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو کفارہ نہیں۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں، مگر گل ارمنی یا وہ مٹی جس کے کھانے کی اُسے عادت ہے، کھائی تو کفارہ واجب ہے اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو نہیں۔^(۲) (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ نجس شوربے میں روٹی بھگو کر کھائی یا کسی کی کوئی چیز غصب کر کے کھالی تو کفارہ واجب ہے اور تھوک میں خون تھا اگرچہ خون غالب ہو، نگل لیا یا خون پی لیا تو کفارہ نہیں۔^(۳) (جوہرہ)

مسئلہ ۱۵ کچی مٹی کھائی یا پستہ یا خروٹ مسلم یا خشک یا بادام مسلم نگل لیا یا چھلکے سمیت انڈا یا چھلکے کے ساتھ انا کر کھا لیا تو کفارہ نہیں اور خشک پستہ یا خشک بادام اگر چبا کر کھایا اور اس میں مغز بھی ہو تو کفارہ ہے اور مسلم نگل لیا ہو تو نہیں، اگرچہ پھٹا ہو اور تر بادام مسلم نگلنے میں بھی کفارہ ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ چنے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب، یہی حکم درخت کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں ورنہ نہیں۔

مسئلہ ۱۷ خرپزہ یا تربز کا چھلکا کھایا، اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں ورنہ ہے۔ کچے چاول، باجرا، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ نہیں، یہی حکم کچے جَو کا ہے اور بھنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ تیل یا تیل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے مونھ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب۔^(۶) (ردمختار)

① "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب فی جواز الإفطار بالتحری، ج ۳،

ص ۴۴۴ - ۴۴۵

② "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۸۱.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۲، ۲۰۵.

③ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۸۱.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۲، ۲۰۵.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۲، ۲۰۵.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۵۳.

مسئلہ ۱۹ دوسرے نے نوالہ چبا کر دیا، اُس نے کھا لیا یا اُس نے خود اپنے منہ سے نکال کر کھا لیا تو کفارہ نہیں۔ (1)
(عالمگیری) بشرطیکہ اس کے چبائے ہوئے کو لذات یا تبرک نہ سمجھتا ہو۔

مسئلہ ۲۰ سحری کا نوالہ منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہوگئی یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالہ منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب، مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ عورت نے نابالغ یا مجنون سے وطی کرائی یا مرد کو وطی کرنے پر مجبور کیا، تو عورت پر کفارہ واجب ہے مرد پر نہیں۔ (3) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۲ مُشک، زعفران، کافور، سرکہ کھایا یا خرپزہ، تربز، ککڑی، کھیرا، باقلا کا پانی پیا تو کفارہ واجب ہے۔ (4)
(عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ رمضان میں روزہ دار قتل کے لیے لایا گیا اُس نے پانی مانگا، کسی نے اُسے پانی پلا دیا پھر وہ چھوڑ دیا گیا تو اُس پر کفارہ واجب ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا۔ اُس نے یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا روزہ قصداً توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے۔ (6) یوہیں عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، اُس نے قصداً روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ساقط ہو گیا۔ یوہیں اگر یقین تھا کہ دشمن سے آج لڑنا ہے اور روزہ توڑ ڈالا اور لڑائی نہ ہوئی تو کفارہ واجب نہیں۔ (7) (درمختار)

مسئلہ ۲۵ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے اور یہ نہ کر سکے مثلاً اس کے پاس نہ لونڈی غلام ہے، نہ اتنا مال کہ خریدے یا مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں جیسے آج کل یہاں ہندوستان میں، تو پے در پے ساٹھ روزے رکھے، یہ بھی نہ کر سکے تو ساٹھ مساکین کو بھر بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں

..... 1

..... 2 "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۳.

..... 3 "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۵، وغیرہ.

..... 4 "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، ج ۱، ص ۲۰۵.

..... 5 المرجع السابق، ص ۲۰۶.

..... 6 یعنی کفارہ کی ضرورت نہیں۔

..... 7 "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد، ج ۳، ص ۴۴۸.

ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو اب سے ساٹھ روزے رکھے، پہلے کے روزے محسوب نہ ہوں گے اگرچہ اُسٹھ رکھ چکا تھا، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آجائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے یہ ناغے نہیں شمار کیے جائیں گے یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر ساٹھ ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔⁽¹⁾ (کتب کثیرہ)

مسئلہ ۲۶ — اگر دو روزے توڑے تو دونوں کے لیے دو کفارے دے، اگرچہ پہلے کا بھی کفارہ نہ ادا کیا ہو۔⁽²⁾ (ردالمحتار) یعنی جب کہ دونوں دور رمضان کے ہوں اور اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔⁽³⁾ (جوہرہ)

کفارہ کے متعلق دیگر جزئیات کتاب الطلاق باب الظہار میں ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوں گی۔

مسئلہ ۲۷ — آزاد و غلام، مرد و عورت، بادشاہ و فقیر سب پر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ باندی کو اگر معلوم تھا کہ صبح ہوگئی اُس نے اپنے آقا کو خبر دی کہ ابھی صبح نہ ہوئی اس نے اس کے ساتھ جماع کیا تو لونڈی پر کفارہ واجب ہوگا اور اُس کے مولیٰ پر صرف قضا ہے کفارہ نہیں۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

روزہ کے مکروہات کا بیان

حدیث ۲۰۱ — بخاری و ابوداؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو بُری بات کہنا اور اُس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔“⁽⁵⁾ اور اسی کے مثل طبرانی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

حدیث ۳ و ۳ — ابن ماجہ و نسائی و ابن خزیمہ و حاکم و بیہقی و دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انھیں روزہ سے سوا پیاس کے کچھ نہیں اور بہت سے رات میں قیام

① ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب فی الکفارة، ج ۳، ص ۴۴۷۔

و ”الفتاویٰ الرضویة“، ج ۱۰، ص ۵۹۵، وغیرہما۔

② ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب فی الکفارة، ج ۳، ص ۴۴۹۔

③ ”الحوہرۃ النیرۃ“، کتاب الصوم، ص ۱۸۲۔

④ ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب فی الکفارة، ج ۳، ص ۴۴۷۔

⑤ ”صحیح البخاری“، کتاب الصوم، باب من لم یدع قول الزور والعمل بہ فی الصوم، الحدیث: ۱۹۰۳،

ج ۱، ص ۶۲۸۔

کرنے والے ایسے کہ انھیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔“ (1) اور اسی کے مثل طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔

حدیث ۵ و ۶ — بیہقی ابو عبیدہ اور طبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”روزہ سپر ہے، جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی، کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا: جھوٹ یا غیبت سے۔“ (2)

حدیث ۷ — ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔“ (3)

حدیث ۸ — ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روزہ دار کو

مباشرت کرنے کے بارے میں سوال کیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے انھیں اجازت دی پھر ایک دوسرے صاحب نے حاضر

ہو کر یہی سوال کیا تو انھیں منع فرمایا اور جن کو اجازت دی تھی، بوڑھے تھے اور جن کو منع فرمایا: جوان تھے۔“ (4)

حدیث ۹ — ابو داؤد و ترمذی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں میں نے بے شمار بار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کو روزہ میں مسواک کرتے دیکھا۔ (5)

مسئلہ ۱ — جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں روزہ

میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔

مسئلہ ۲ — روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی

غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضی کا باعث ہوگا اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں، چبانے کے لیے یہ

عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اُس سے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ

ایسا ہے جو اُس سے چبا کر دیدے، تو بچہ کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ (6) (درمختار وغیرہ)

چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اُس میں سے تھوڑا کھا لینا کہ

① ”سنن ابن ماجہ“، ابواب ماجاء فی الصیام، باب ماجاء فی الغیبة والرفث للصائم، الحدیث: ۱۶۹۰، ج ۲، ص ۳۲۰.

و ”السنن الکبریٰ“، کتاب الصیام، باب الصائم... الخ، الحدیث: ۸۳۱۳، ج ۴، ص ۴۴۹.

② ”المعجم الأوسط“، باب العین، الحدیث: ۴۵۳۶، ج ۳، ص ۲۶۴.

③ ”المستدرک“ للحاکم، کتاب الصوم، باب من أفطر فی رمضان ناسیا... الخ، الحدیث: ۱۶۱۱، ج ۲، ص ۶۷.

④ ”سنن أبي داود“، کتاب الصیام، باب کراهیة للشاب، الحدیث: ۲۳۸۷، ج ۲، ص ۴۵۷.

⑤ ”جامع الترمذی“، ابواب الصوم، باب ماجاء فی السواک للصائم، الحدیث: ۷۲۵، ج ۲، ص ۱۷۶.

⑥ ”الدرالمختار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده، ج ۳، ص ۴۵۳، وغیرہ.

یوں ہو تو کراہت کیسی روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اُسے تھوک دیں اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے۔

مسئلہ ۳ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۴ بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا یہ فرض روزہ کا حکم ہے نفل میں کراہت نہیں، جبکہ اس کی حاجت ہو۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جب کہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً^(۳) مکروہ ہے۔ یوہیں مباشرت فاحشہ۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ گلاب یا مشک وغیرہ سوگھنا داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سر مد لگانا مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سر مہ لگایا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مُشت^(۵) داڑھی ہے تو یہ دونوں باتیں بغیر روزہ کے بھی مکروہ ہیں اور روزہ میں بدرجہ اولیٰ۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۷ روزہ میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزہ میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تراگرچہ پانی سے ترکی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد کسی وقت مکروہ نہیں۔^(۷) (عامہ کتب) اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔

مسئلہ ۸ فصد کھلوانا، کچھنے لگوانا مکروہ نہیں جب کہ ضعف کا اندیشہ نہ ہو اور اندیشہ ہو تو مکروہ ہے، اُسے چاہیے کہ

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۵۳.

② "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد ما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۵۳.

③ یعنی چاہے انزال و جماع کا ڈر ہو یا نہ ہو۔

④ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب: فیما یکرہ للصائم، ج ۳، ص ۴۵۴.

⑤ یعنی ایک مُشتی۔

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۵۵.

⑦ "البحر الرائق"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۲، ص ۴۹۱.

مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک

روزے میں نہیں کرنا چاہیے۔ ("الفتاویٰ الرضویۃ"، ج ۱۰، ص ۵۱۱).

غروب تک مؤخر کرے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ بھر موندھ پانی لے اور وضو غسل کے علاوہ ٹھنڈ پھینچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا پہینا مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا پہینا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔^(۲) (عالمگیری، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۱۰ پانی کے اندر^(۳) ریاح خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا، مگر مکروہ ہے اور روزہ دار کو استنجے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔^(۴) (عالمگیری) یعنی اور دنوں میں حکم یہ ہے کہ استنجا کرنے میں نیچے کوزہ دیا جائے اور روزہ میں یہ مکروہ ہے۔

مسئلہ ۱۱ موندھ میں تھوک اکٹھا کر کے نکل جانا بغیر روزہ کے بھی ناپسند ہے اور روزہ میں مکروہ۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں، جس سے ایسا ضعف آجائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو۔ لہذا انبائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے پھر باقی دن میں آرام کرے۔^(۶) (درمختار) یہی حکم معمار و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ ضعف کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر سکیں۔

مسئلہ ۱۳ اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا تو حکم ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔^(۷) (درمختار) جب کہ کھڑا ہونے سے اتنا ہی عاجز ہو جو باب صلاة المريض میں گزرا۔

مسئلہ ۱۴ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے۔^(۸) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو، جب تک گمان

۱..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الثالث، فیما یکرہ للصائم وما لا یکرہ، ج ۱، ص ۱۹۹ - ۲۰۰.

۲..... المرجع السابق، ص ۱۹۹، و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب فی حدیث

التوسعة علی العیال والاکتعال یوم عاشوراء، ج ۳، ص ۴۵۹. وغیرہما

۳..... مثلاً نہر، ندی، تالاب وغیرہ میں نہاتے وقت۔

۴..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الثالث فیما یکرہ للصائم وما لا یکرہ، ج ۱، ص ۱۹۹.

۵..... المرجع السابق، وغیرہ.

۶..... "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۳، ص ۴۶۰.

۷..... المرجع السابق، ص ۴۶۱.

۸..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الثالث، فیما یکرہ للصائم وما لا یکرہ، ج ۱، ص ۲۰۰.

غالب نہ ہو افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہے اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہ چاہیے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ — ایک عادل کے قول پر افطار کر سکتا ہے، جب کہ اس کی بات سچی مانتا ہو اور اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کی بنا پر افطار نہ کرے۔ یوہیں مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے اور آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے کا رواج ہے، اس پر افطار کر سکتا ہے، اگرچہ توپ چلانے والے فاسق ہوں جب کہ کسی عالم محقق توفیق دان محتاط فی الدین کے حکم پر چلتی ہو۔^(۲)

آج کل کے عام علما بھی اس فن سے ناواقف محض ہیں اور جنتریاں کہ شائع ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں ان پر عمل جائز نہیں۔ یوہیں سحری کے وقت اکثر جگہ نقارہ بجاتا ہے، انھیں شرائط کیساتھ اس کا بھی اعتبار ہے اگرچہ بجانے والے کیسے ہی ہوں۔

مسئلہ ۱۷ — سحری کے وقت مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح سے بہت پہلے اذان شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جاڑے کے دنوں میں تو بعض مرغ دو بجے سے اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت صبح ہونے میں بہت وقت باقی رہتا ہے۔ یوہیں بول چال سن کر اور روشنی دیکھ کر بولنے لگتے ہیں۔^(۳) (ردالمحتار مع زیادة)

مسئلہ ۱۸ — صبح صادق کورات کا مطلقاً چھٹایا ساتواں حصہ سمجھنا غلط ہے، رہا یہ کہ صبح کس وقت ہوتی ہے اُسے ہم حصہ سوم باب الاوقات میں بیان کر آئے وہاں سے معلوم کریں۔

سحری و افطار کا بیان

حدیث ۱ — بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“^(۴)

حدیث ۲ — مسلم و ابوداؤد و ترمذی و نسائی و ابن خزمیہ و عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔“^(۵)

حدیث ۳ — طبرانی نے کبیر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا:

① ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم... إلخ، مطلب فی حدیث التوسعة علی العیال... إلخ، ج ۳، ص ۴۵۹.

② ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده، مطلب فی جواز الإفطار السحری، ج ۳، ص ۴۳۹، وغیرہ.

③

④ ”صحیح البخاری“، کتاب الصوم، بابرکة السحور من غیر ایجاب، الحدیث: ۱۹۲۳، ج ۱، ص ۶۳۳.

⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب فضل السحور... إلخ، الحدیث: ۱۰۹۶، ص ۵۵۲.

”تین چیزوں میں برکت ہے، جماعت اور شرید اور سحری میں۔“ (1)

حدیث ۳ طبرانی اوسط میں اور ابن حبان صحیح میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا: کہ ”اللہ (عزوجل) اور اُس کے فرشتے، سحری کھانے والوں پر دُرود بھیجتے ہیں۔“ (2)

حدیث ۵ ابن ماجہ وابن خزیمہ و بیہقی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا: ”سحری کھانے سے دن کے روزہ پر استغانت کرو اور قیلولہ سے رات کے قیام پر۔“ (3)

حدیث ۶ نسائی باسناد حسن ایک صحابی سے راوی، کہتے ہیں میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا اور

حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سحری تناول فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا: ”یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تو اسے نہ چھوڑنا۔“ (4)

حدیث ۷ طبرانی کبیر میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا: ”تین شخصوں پر کھانے میں ان شاء اللہ تعالیٰ حساب نہیں، جبکہ حلال کھایا۔ روزہ دار اور سحری کھانے والا اور سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔“ (5)

حدیث ۸ ۱۰۲۸ امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سحری

گل کی گل برکت ہے اُسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ (عزوجل) اور اس کے فرشتے دُرود بھیجتے ہیں۔“ (6) نیز عبد اللہ بن عمر و سائب بن یزید و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی اسی قسم کی روایتیں آئیں۔

حدیث ۱۱ بخاری و مسلم و ترمذی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے، جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔“ (7)

حدیث ۱۲ ابن حبان صحیح میں انھیں سے راوی، کہ فرمایا: ”میری اُمت میری سنت پر رہے گی، جب تک افطار میں

ستاروں کا انتظار نہ کرے۔“ (8)

① ”المعجم الكبير“، الحديث: ۶۱۲۷، ج ۶، ص ۲۵۱.

② ”الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان“، كتاب الصوم، باب السحور، الحديث: ۳۴۵۸، ج ۵، ص ۱۹۴.

③ ”سنن ابن ماجه“، أبواب ماجاء في الصيام، باب ماجاء في السحور، الحديث: ۱۶۹۳، ج ۲، ص ۳۲۱.

④ ”السنن الكبرى“ للنسائي، كتاب الصيام، باب فضل السحور، الحديث: ۲۴۷۲، ج ۲، ص ۷۹.

⑤ ”المعجم الكبير“، الحديث: ۱۲۰۱۲، ج ۱۱، ص ۲۸۵.

⑥ ”المستند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري، الحديث: ۱۱۰۸۶، ج ۴، ص ۲۶.

⑦ ”صحيح البخاري“، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، الحديث: ۱۹۵۷، ج ۱، ص ۶۴۵.

⑧ ”الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان“، كتاب الصوم، باب الإفطار و تعجيله، الحديث: ۳۵۰۱، ج ۵، ص ۲۰۹.

حدیث ۱۳ احمد و ترمذی و ابن خزیمہ و ابن حبان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: ”میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے، جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔“ (1)

حدیث ۱۴ طبرانی اوسط میں یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرمایا: ”تین چیزوں کو اللہ (عزوجل) محبوب رکھتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔“ (2)

حدیث ۱۵ ابوداؤد و ابن خزیمہ و ابن حبان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصاریٰ تاخیر کرتے ہیں۔“ (3)

حدیث ۱۶ امام احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔“ (4)

حدیث ۱۷ ابوداؤد و ترمذی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، تر کھجوریں نہ ہوتیں تو چند خشک کھجوروں سے اور اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو چند چٹو پانی پیتے۔“ (5) ابوداؤد نے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. (6)

حدیث ۱۸ نسائی و ابن خزیمہ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ فرمایا: ”جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان کر دے تو اسے بھی اتنا ہی ملے گا۔“ (7)

حدیث ۱۹ طبرانی کبیر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا۔ فرشتے ماہِ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور

① ”جامع الترمذی“، أبواب الصوم، باب ماجاء في تعجيل الإفطار، الحديث: ۷۰۰، ج ۲، ص ۱۶۴.

② ”المعجم الأوسط“، الحديث: ۷۴۷۰، ج ۵، ص ۳۲۰.

③ ”سنن أبي داود“، كتاب الصيام، باب ما يستحب من تعجيل الفطر، الحديث: ۲۳۵۳، ج ۲، ص ۴۴۶.

④ ”جامع الترمذی“، أبواب الصوم باب ماجاء ما يستحب عليه الإفطار، الحديث: ۶۹۵، ج ۲، ص ۱۶۲.

⑤ ”جامع الترمذی“، أبواب الصوم، باب ماجاء ما يستحب عليه الإفطار، الحديث: ۶۹۶، ج ۲، ص ۱۶۲.

⑥ ”سنن أبي داود“، كتاب الصيام، باب القول عند الإفطار، الحديث: ۲۳۵۸، ج ۲، ص ۴۴۷.

⑦ ”شعب الإيمان“، باب في الصيام، فصل فيمن فطر صائما، الحديث: ۳۹۵۳، ج ۳، ص ۴۱۸.

جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام شبِ قدر میں اُس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔“ (1)

اور ایک روایت میں ہے، ”جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر

دُرو بھیجتے ہیں اور شبِ قدر میں جبرئیل اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔“ (2)

اور ایک روایت میں ہے، ”جو روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اُسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل

ہونے تک پیسا سا نہ ہوگا۔“ (3)

بیان اُن وجوہ کا جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے

حدیث ۱ صحیحین میں اُم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہتی ہیں حمزہ بن عمرو اسلمی بہت روزے رکھا کرتے

تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہ سفر میں روزہ رکھوں؟ ارشاد فرمایا: ”چاہو رکھو، چاہے نہ رکھو۔“ (4)

حدیث ۲ صحیح مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں سولہویں رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے ساتھ ہم جہاد میں گئے۔ ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہ رکھا تو نہ روزہ داروں نے غیر روزہ داروں پر عیب لگایا

اور نہ انہوں نے ان پر۔ (5)

حدیث ۳ ابوداؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ انس بن مالک کعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا: کہ ”اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرمادی (یعنی چار رکعت والی دو پڑھے گا) اور مسافر اور دودھ پلانے والی

اور حاملہ سے روزہ معاف فرمادیا۔“ (6) (کہ اُن کو اجازت ہے کہ اُس وقت نہ رکھیں بعد میں وہ مقدار پوری کر لیں)۔

مسئلہ ۱ سفر و حمل اور بچہ کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاک و اکراہ و نقصانِ عقل اور جہاد یہ سب روزہ نہ

رکھنے کے لیے عذر ہیں، ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گنہگار نہیں۔ (7) (درمختار)

① ”المعجم الكبير“، الحديث: ٦١٦٢، ج ٦، ص ٢٦١.

② ”کنز العمال“، كتاب الصوم، الحديث: ٢٣٦٥٣، ج ٨، ص ٢١٥.

③ ”شعب الإيمان“، باب في الصيام، فضائل شهر رمضان، الحديث: ٣٦٠٨، ج ٣، ص ٣٠٥ - ٣٠٦.

④ ”صحيح البخاري“، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار، الحديث: ١٩٤٣، ج ١، ص ٦٤٠.

⑤ ”صحيح مسلم“، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في الشهر رمضان... إلخ، الحديث: ١١١٦، ص ٥٦٤.

⑥ ”جامع الترمذي“، أبواب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، الحديث: ٧١٥، ج ٢، ص ١٧٠.

⑦ ”الدر المختار“ و ”ردالمحتار“، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ٣، ص ٤٦٢.

مسئلہ ۲ سفر سے مراد سفر شرعی ہے یعنی اتنی دُور جانے کے ارادہ سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک تین دن کی مسافت ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳ دن میں سفر کیا تو اُس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں۔ البتہ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گنہگار ہوگا اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اُسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ مسافر نے ضحوة کبریٰ سے پیشتر اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزہ کی نیت کر لینا واجب ہے۔^(۳) (جوہرہ)

مسئلہ ۵ حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچہ کا صحیح اندیشہ ہے، تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچہ کی ماں ہو یا دائی اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو یا خادم و خادمہ کو ناقابل برداشت ضعف کا غالب گمان ہو تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔^(۵) (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ ۷ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے محض وہم ناکافی ہے۔ غالب گمان کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے یا

(۲) اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے یا

(۳) کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اُس کی خبر دی ہو اور اگر نہ کوئی علامت ہو نہ تجربہ نہ اس قسم

کے طبیب نے اُسے بتایا، بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے افطار کر لیا تو کفارہ لازم آئے گا۔^(۶) (ردالمحتار) آج کل کے اکثر اطباء اگر کافر نہیں تو فاسق ضرور ہیں اور نہ سہی تو حاذق طبیب فی زمانہ نایاب سے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کا کہنا کچھ قابل

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۶۳.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الافطار، ج ۱، ص ۲۰۶ - ۲۰۷.

③ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۸۶.

④ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۶۳.

⑤ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، ص ۱۸۳.

و "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۶۳.

⑥ "ردالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۶۴.

اعتبار نہیں نہ ان کے کہنے پر روزہ افطار کیا جائے۔ ان طبیعوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا ذرا سی بیماری میں روزہ کو منع کر دیتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کس مرض میں روزہ مُضر ہے کس میں نہیں۔

مسئلہ ۸ باندی کو اپنے مالک کی اطاعت میں فرائض کا موقع نہ ملے تو یہ کوئی عذر نہیں۔ فرائض ادا کرے اور اتنی دیر کے لیے اُس پر اطاعت نہیں۔ مثلاً فرض نماز کا وقت تنگ ہو جائے گا تو کام چھوڑ دے اور فرض ادا کرے اور اگر اطاعت کی اور روزہ توڑ دیا تو کفارہ دے۔^(۱) (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو روزہ جاتا رہا اور حیض سے پورے دس دن رات میں پاک ہوئی تو بہر حال کل کا روزہ رکھے اور کم میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے کو اتنا عرصہ ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچے گا تو بھی روزہ رکھے اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح چمکی تو روزہ نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً، روزہ کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں۔^(۳) (جوہرہ) مگر چھپ کر کھانا اولیٰ ہے خصوصاً حیض والی کے لیے۔

مسئلہ ۱۱ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف صحیح یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے اور صبر کیا تو اجر ملے گا۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ سانپ نے کاٹا اور جان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑ دیں۔^(۶) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۴ جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا، اُن پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں۔ فلہذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفل روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔

حدیث میں فرمایا: ”جس پر اگلے رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہ ہوں

گے۔“ (۷)

① ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۶۴.

② ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الصوم، الباب الخامس فی الاعذار التی تبيح الإفطار، ج ۱، ص ۲۰۷.

③ ”الحوہرۃ النیرۃ“، کتاب الصوم، ص ۱۸۶.

④ ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الصوم، الباب الخامس فی الاعذار التی تبيح الإفطار، ج ۱، ص ۲۰۷.

⑤ ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۶۲. ⑥ المرجع السابق.

⑦ ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۸۶۲۹، ج ۳، ص ۲۶۶.

اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آگیا تو اب پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے، قضا نہ رکھے، بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے ہیں۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۵ خود اس مسافر کو اور اُس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے ورنہ نہ رکھنا بہتر۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۶ اگر یہ لوگ اپنے اسی عذر میں مر گئے، اتنا موقع نہ ملا کہ قضا رکھتے تو ان پر یہ واجب نہیں کہ فدیہ کی وصیت کر جائیں پھر بھی وصیت کی تو تہائی مال میں جاری ہوگی اور اگر اتنا موقع ملا کہ قضا روزے رکھ لیتے، مگر نہ رکھے تو وصیت کر جانا واجب ہے اور عہد اُنہ رکھے ہوں تو بدرجہ اولیٰ وصیت کرنا واجب ہے اور وصیت نہ کی، بلکہ ولی نے اپنی طرف سے دے دیا تو بھی جائز ہے مگر ولی پر دینا واجب نہ تھا۔⁽³⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ ہر روزہ کا فدیہ بقدر صدقہ فطر ہے اور تہائی مال میں وصیت اس وقت جاری ہوگی، جب اس میت کے وارث بھی ہوں اور اگر وارث نہ ہوں اور سارے مال سے فدیہ ادا ہوتا ہو تو سب فدیہ میں صرف کر دینا لازم ہے۔ یوہیں اگر وارث صرف شوہر یا زوجہ ہے تو تہائی نکالنے کے بعد ان کا حق دیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے اگر فدیہ میں صرف ہو سکتا ہے تو صرف کر دیا جائے گا۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۸ وصیت کرنا صرف اتنے ہی روزوں کے حق میں واجب ہے جن پر قادر ہوا تھا، مثلاً دس قضا ہوئے تھے اور عذر جانے کے بعد پانچ پر قادر ہوا تھا کہ انتقال ہو گیا تو پانچ ہی کی وصیت واجب ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۹ ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔⁽⁶⁾ (عامہ کتب)

مسئلہ ۲۰ اعتکاف واجب اور صدقہ فطر کا بدلہ اگر ورثہ ادا کر دیں تو جائز ہے اور اُن کی مقدار وہی بقدر صدقہ فطر

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۶۵.

② "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۶۵.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۶۶.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الخامس في الاعذار التي تبیح الإفطار، ج ۱، ص ۲۰۷.

④ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۶۷.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۶۷.

⑥ انظر: "فتح القدير"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۲، ص ۲۷۹.

ہے اور زکاۃ دینا چاہیں تو جتنی واجب تھی اُس قدر نکالیں۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۱ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہوگئی کہ اب روز بروز کمزور رہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اُس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، اُسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے یا ہر روزہ کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دیدے۔⁽²⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۲ اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں بوجہ گرمی کے روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر جاڑوں⁽³⁾ میں رکھ سکے گا تو اب افطار کر لے اور اُن کے بدلے کے جاڑوں میں رکھنا فرض ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آگئی کہ روزہ رکھ سکے، تو فدیہ صدقہ نفل ہو کر رہ گیا ان روزوں کی قضا رکھے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کا ایک دم فدیہ دے دے یا آخر میں دے اور اس میں تملیک⁽⁶⁾ شرط نہیں بلکہ اباحت بھی کافی ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو دے بلکہ ایک مسکین کو کئی دن کے فدیے دے سکتے ہیں۔⁽⁷⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۵ قسم⁽⁸⁾ یا قتل⁽⁹⁾ کے کفارہ کا اس پر روزہ ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس روزہ کا فدیہ نہیں اور روزہ توڑنے یا ظہار⁽¹⁰⁾ کا کفارہ اس پر ہے، تو اگر روزہ نہ رکھ سکے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاوے۔⁽¹¹⁾ (عالمگیری)

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۷۱.

② "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۷۱، وغیرہ.

③ سردیوں۔

④ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۷۲.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الإفطار، ج ۱، ص ۲۰۷.

⑥ یعنی مالک بناوینا۔

⑦ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج ۳، ص ۴۷۲، وغیرہ.

⑧ قسم کے کفارے میں تین روزے ہیں۔

⑨ یعنی قتل خطا کے کفارے میں دو ماہ کے روزے ہیں۔

⑩ ظہار کے کفارے میں دو ماہ کے روزے ہیں۔ ("التنف في الفتاویٰ"، کتاب الصوم، ص ۹۳ - ۹۴).

⑪ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الإفطار، ج ۱، ص ۲۰۷.

مسئلہ ۲۶ کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مانی اور برابر روزے رکھے تو کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے بسر اوقات ہو تو اُسے بقدر ضرورت افطار کی اجازت ہے اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے اور اس کی بھی قوت نہ ہو تو استغفار کرے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ نفل روزہ قصداً شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے کہ توڑے گا تو قضا واجب ہوگی اور یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمہ کوئی روزہ ہے، شروع کیا بعد کو معلوم ہوا کہ نہیں ہے، اب اگر فوراً توڑ دیا تو کچھ نہیں اور یہ معلوم کرنے کے بعد نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا، توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۲۸ نفل روزہ قصداً نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلاً اثنائے روزہ میں حیض آ گیا، جب بھی قضا واجب ہے۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۲۹ عیدین یا ایام تشریق میں روزہ نفل رکھا تو اس روزہ کا پورا کرنا واجب نہیں، نہ اُس کے توڑنے سے قضا واجب، بلکہ اس روزہ کا توڑ دینا واجب ہے اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ نفل روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے، مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی تو نفل روزہ توڑ دینے کے لیے یہ عذر ہے، بشرطیکہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا اور بشرطیکہ ضحوة کبریٰ سے پہلے توڑے بعد کو نہیں۔ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضی کے سبب توڑ سکتا ہے اور اس میں بھی عصر کے قبل تک توڑ سکتا ہے بعد عصر نہیں۔^(۵) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ کسی نے یہ قسم کھائی کہ اگر تو روزہ نہ توڑے تو میری عورت کو طلاق ہے، تو اُسے چاہیے کہ اس کی قسم سچی کر دے یعنی روزہ توڑ دے اگرچہ روزہ قضا ہو^(۶) اگرچہ بعد زوال ہو۔ (درمختار)

① "ردالمحتار"، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۷۲.

② "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۷۳.

③ المرجع السابق، ص ۴۷۴.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۷۴.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۷۵ - ۴۷۷.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب الخامس فی الاعذار الّتی تبيح الإفطار، ج ۱، ص ۲۰۸.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۷۶.

مسئلہ ۳۲ - اُس کی کسی بھائی نے دعوت کی تو ضوہ کبریٰ کے قبل روزہ نفل توڑ دینے کی اجازت ہے۔ (۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۳ - عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت و قسم کے روزے نہ رکھے اور رکھ لے تو شوہر توڑوا سکتا ہے

مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے یا شوہر اور اُس کے درمیان جدائی ہو جائے

یعنی طلاق بائن دیدے یا مر جائے ہاں اگر روزہ رکھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہو مثلاً وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے تو

ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی قضا رکھ سکتی ہے، بلکہ اگر وہ منع کرے جب بھی اور ان دنوں میں بھی بے اس کی اجازت کے

نفل نہیں رکھ سکتی۔ رمضان اور قضاے رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ اس کی ممانعت پر بھی رکھے۔ (۲)

(درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۴ - باندی غلام بھی علاوہ فرائض کے مالک کی اجازت بغیر نہیں رکھ سکتے۔ ان کا مالک چاہے تو توڑوا سکتا

ہے۔ پھر اُس کی قضا مالک کی اجازت پر یا آزاد ہونے کے بعد رکھیں۔ البتہ غلام نے اگر اپنی عورت سے ظہار کیا تو کفارہ کے

روزے بغیر مولیٰ کی اجازت کے رکھ سکتا ہے۔ (۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۵ - مزدور یا نوکر اگر نفل روزہ رکھے تو کام پورا ادا نہ کر سکے گا تو مستاجر یعنی جس کا نوکر ہے یا جس نے

مزدوری پر اُسے رکھا ہے، اُس کی اجازت کی ضرورت ہے اور کام پورا کر سکے تو کچھ ضرورت نہیں۔ (۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ - لڑکی کو باپ اور ماں کو بیٹے اور بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی کچھ ضرورت نہیں اور ماں باپ اگر بیٹے کو

روزہ نفل سے منع کر دیں، اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے تو ماں باپ کی اطاعت کرے۔ (۵) (ردالمحتار)

روزہ نفل کے فضائل

(۱) عاشورا یعنی دسویں محرم کا روزہ اور بہتر یہ ہے کہ نویں کو بھی رکھے۔

حدیث ۱ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورا کا روزہ خود رکھا

اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ (۶)

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۷۷.

② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۷۷.

③ المرجع السابق، ص ۴۷۸.

④ "ردالمختار"، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۷۸. ⑤ المرجع السابق، ص ۴۷۸.

⑥ "صحیح مسلم"، کتاب الصیام، باب ای یوم یصام فی عاشوراء، الحدیث: ۱۱۳۴، ص ۵۷۳.

حدیث ۲ مسلم و ابوداؤد و ترمذی و نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل ہے۔“ (1)

حدیث ۳ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، فرماتے ہیں: میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزہ کو اور دن پر فضیلت دے کر جتو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ عاشورا کا دن اور یہ رمضان کا مہینہ۔ (2)

حدیث ۴ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشورا کے دن روزہ دار پایا، ارشاد فرمایا: یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بہ نسبت تمہارے ہم زیادہ حق دار اور زیادہ قریب ہیں تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ (3)

حدیث ۵ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”مجھے اللہ (عزوجل) پر گمان ہے کہ عاشورا کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔“ (4)

(۲) عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ۔

حدیث ۱۰۲۶ صحیح مسلم و سنن ابی داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”مجھے اللہ (عزوجل) پر گمان ہے، کہ عرفہ کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا

① ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، الحدیث: ۱۱۶۳، ص ۵۹۱.

② ”صحیح البخاری“، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، الحدیث: ۲۰۰۶، ج ۱، ص ۶۵۷.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، الحدیث: ۱۲۸- (۱۱۳۰)، ص ۵۷۱.

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ عزوجل کوئی خاص نعمت عطا فرمائے اس کی یادگار قائم کرنا درست و محبوب ہے کہ وہ نعمت خاصہ یاد آئیگی اور اس کا شکر ادا کرنے کا سبب ہوگا۔ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ﴾ (پ ۱۳، ابراہیم: ۵) ”خدا کے انعام کے دنوں کو یاد کرو۔“

اور ہم مسلمانوں کے لیے ولادت اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون سا دن ہوگا، جس کی یادگار قائم کریں کہ تمام نعمتیں انہیں کے طفیل میں ہیں اور یہ دن عید سے بھی بہتر کہ انہیں کے صدقہ میں تو عید عید ہوئی اسی وجہ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کا سبب ارشاد فرمایا:

کہ ((فِيهِ وُلِدْتُ)) (”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، الحدیث: ۱۹۸- (۱۱۶۲)، ص ۵۹۱) اس دن میری ولادت ہوئی۔ ۱۴ منہ

④ ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة ايام من كل شهر... إلخ، الحدیث: ۱۱۶۲، ص ۵۸۹.

دیتا ہے۔“ (1) اور اس کے مثل سہل بن سعد و ابو سعید خدری و عبد اللہ بن عمرو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی۔

حدیث ۱۱ → ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیہقی و طبرانی روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفہ کے روزہ کو ہزار دن کے برابر بتاتے۔ (2) مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے، اُسے عرفہ کے دن کا روزہ مکروہ ہے۔ کہ ابو داؤد و نسائی و ابن خزیمہ و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ (3)

(۳) شوال میں چھ دن کے روزے (4) جنہیں لوگ شش عید کے روزے کہتے ہیں۔

حدیث ۱۲ و ۱۳ → مسلم و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و طبرانی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد چھ دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا۔“ (5) اور اسی کے مثل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔

حدیث ۱۴ و ۱۵ → نسائی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابن حبان و ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام احمد و طبرانی و بزار جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے عید الفطر کے بعد چھ روزے رکھ لیے تو اُس نے پورے سال کا روزہ رکھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا اُسے دس ملیں گی تو ماہ رمضان کا روزہ دس مہینے کے برابر ہے اور ان چھ دنوں کے بدلے میں دو مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔“ (6)

حدیث ۱۶ → طبرانی اوسط میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اُس کے بعد چھ دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا، جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔“ (7)

- 1..... ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة ايام من كل شهر... إلخ، الحدیث: ۱۱۶۲، ص ۵۸۹.
- 2..... ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۶۸۰۲، ج ۵، ص ۱۲۷.
- 3..... ”سنن أبي داود“، کتاب الصیام، باب في صوم يوم عرفه بعرفة، الحدیث: ۲۴۴۰، ج ۲، ص ۴۷۹.
- 4..... بہتر یہ ہے کہ یہ روزے متفرق رکھے جائیں اور عید کے بعد لگا تار چھ دن میں ایک ساتھ رکھ لیے، تب بھی حرج نہیں۔ کذا فی الدرر ۱۲۱.
- 5..... ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب استحباب صوم سنة ايام من شوال اتباعا لرمضان، الحدیث: ۱۱۶۴، ص ۵۹۲.
- 6..... ”السنن الكبرى“ للنسائی، کتاب الصیام، باب صیام سنة ايام من شوال، الحدیث: ۲۸۶۰ - ۲۸۶۱، ج ۲، ص ۱۶۲ - ۱۶۳.
- 7..... ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۸۶۲۲، ج ۶، ص ۲۳۴.

(۳) شعبان کا روزہ اور پندرہویں شعبان کے فضائل۔

حدیث ۱۷ طبرانی وابن حبان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”شعبان کی پندرہویں شب میں اللہ عزوجل تمام مخلوق کی طرف تجلّی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، مگر کافر اور عداوت والے کو۔“ (1)

حدیث ۱۸ و ۱۹ بیہقی نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”میرے پاس جبرئیل آئے اور یہ کہا: یہ شعبان کی پندرہویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب (2) کے بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لگانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔“ (3) امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔

حدیث ۲۰ بیہقی نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل شعبان کی پندرہویں شب میں تجلّی فرماتا ہے، استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالبِ رحمت پر رحم فرماتا ہے اور عداوت والوں کو جس حال پر ہیں، اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔“ (4)

حدیث ۲۱ ابن ماجہ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے راوی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جب شعبان کی پندرہویں رات آجائے تو اُس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ غروبِ آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلّی فرماتا ہے اور فرماتا ہے: کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اُسے روزی

1 ”الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان“، كتاب الحظرو الإباحة، باب ماجاء في التباعد... إلخ، الحديث: ۵۶۳۶، ج ۷، ص ۴۷۰.

جن دو شخصوں میں کوئی دنیوی عداوت ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ ہر ایک دوسرے سے مل جائے اور ہر ایک دوسرے کی خطا معاف کر دے تاکہ مغفرت الہی انہیں بھی شامل ہو۔ انہیں احادیث کی بنا پر بچہ تعالیٰ یہاں بریلی میں اعلیٰ حضرت قبلہ مدظلہم الاقدس نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ ۱۳ چودہ شعبان کو رات آنے سے پہلے مسلمان آپس میں ملتے اور عنون تقصیر کراتے اور جگہ کے مسلمان بھی ایسا ہی کریں تو نہایت انسب و بہتر ہو۔ ۱۲ منہ

2 عرب میں بنی کلب ایک قبیلہ ہے، جن کے یہاں بکریاں بکثرت ہوتی تھیں۔ ۱۲ منہ

3 ”شعب الإيمان“، باب في الصيام، ماجاء في ليلة النصف من شعبان، الحديث: ۳۸۳۷، ج ۳، ص ۳۸۳.

4 ”شعب الإيمان“، باب في الصيام، ماجاء في ليلة النصف من شعبان، الحديث: ۳۸۳۵، ج ۳، ص ۳۸۲.

دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اُسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔“ (1)

حدیث ۲۲ → اُم المؤمنین صدیقہ فرماتی ہیں: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہ دیکھا۔ (2)

(۵) ہر مہینے میں تین روزے خصوصاً ایام بیض تیرہ، چودہ، پندرہ۔

حدیث ۲۳ و ۲۴ → بخاری و مسلم و نسائی ابو ہریرہ اور مسلم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں ایک یہ ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھوں۔ (3)

حدیث ۲۵ و ۲۶ → صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر مہینے میں تین دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر (ہمیشہ) کا روزہ۔“ (4) اسی کے مثل قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔

حدیث ۲۷ و ۲۸ → امام احمد و ابن حبان ابن عباس اور بزار مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے سینہ کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔“ (5)

حدیث ۲۹ → طبرانی میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”جس سے ہو سکے، ہر مہینے میں تین روزے رکھے کہ ہر روزہ دس گناہ مٹاتا ہے اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو۔“ (6)

حدیث ۳۰ → امام احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب مہینے میں تین روزے رکھنے ہوں تو تیرہ، چودہ، پندرہ کو رکھو۔“ (7)

حدیث ۳۱ → نسائی نے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چار چیزوں کو

- ① ”سنن ابن ماجہ“، أبواب إقامة الصلوات... إلخ، باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان، الحدیث: ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۱۶۰.
- ② ”جامع الترمذی“، أبواب الصوم، باب ماجاء في وصال شعبان برمضان، الحدیث: ۷۳۶، ج ۲، ص ۱۸۲.
- ③ ”صحیح البخاری“، کتاب الصوم، باب صیام البيض ثلاث عشرة... إلخ، الحدیث: ۱۹۸۱، ج ۱، ص ۶۵۱.
- ④ ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر... إلخ، الحدیث: ۱۸۷- (۱۱۵۹)، (۱۱۶۲)، ص ۵۹۰، ۵۸۷.

⑤ ”مسند البزار“، مسند علی بن طالب، الحدیث: ۶۸۸، ج ۲، ص ۲۷۱.

⑥ ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۶۰، ج ۲۵، ص ۳۵.

⑦ ”جامع الترمذی“، أبواب الصوم، باب ماجاء في صوم ثلاثة ايام من كل شهر... إلخ، الحدیث: ۷۶۱، ج ۲، ص ۱۹۳.

نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشور اور عشرہ ذی الحجہ اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے اور فجر کے پہلے دو رکعتیں۔⁽¹⁾

حدیث ۳۲ نسائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایام بیض میں بغیر روزہ کے نہ ہوتے، نہ سفر میں، نہ حضر میں۔⁽²⁾

(۶) پیر اور جمعرات کے روزے۔

حدیث ۳۵۳۳ سنن ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔“⁽³⁾ اسی کے مثل اسامہ بن زید و جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی۔

حدیث ۳۶ ابن ماجہ انھیں سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پیر اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے، اس کے بارے میں عرض کی گئی تو فرمایا: ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے، مگر وہ دو شخص جنہوں نے باہم جدائی کر لی ہے، ان کی نسبت ملائکہ سے فرماتا ہے: ”انہیں چھوڑو، یہاں تک کہ صلح کر لیں۔“⁽⁴⁾

حدیث ۳۷ ترمذی شریف میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو خیال کر کے روزہ رکھتے تھے۔⁽⁵⁾

حدیث ۳۸ صحیح مسلم شریف میں ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے پیر کے دن روزے کا سبب دریافت کیا گیا، فرمایا: ”اسی میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔“⁽⁶⁾

(۷) بعض اور دنوں کے روزے۔

حدیث ۳۹ ابویعلیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو چہار شنبہ اور

- ① ”سنن النسائي“، كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثلاثة ايام من كل شهر... إلخ، الحديث: ۲۴۱۳، ص ۳۹۵.
- ② ”سنن النسائي“، كتاب الصيام، باب صوم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأبي هو وامي... إلخ، الحديث: ۲۳۴۲، ص ۳۸۶.
- ③ ”جامع الترمذي“، أبواب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين و الخميس، الحديث: ۷۴۷، ج ۲، ص ۱۸۷.
- ④ ”سنن ابن ماجه“، أبواب ما جاء في الصيام، باب صيام يوم الاثنين و الخميس، الحديث: ۱۷۴۰، ج ۲، ص ۳۴۴.
- ⑤ ”جامع الترمذي“، أبواب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين و الخميس، الحديث: ۷۴۵، ج ۲، ص ۱۸۶.
- ⑥ ”صحیح مسلم“، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر... إلخ، الحديث: ۱۹۸- (۱۱۶۲)، ص ۵۹۱.

پنج شنبہ کو روزے رکھے، اس کے لیے دوزخ سے براءت لکھ دی جائے گی۔“ (1)

حدیث ۳۲۳۰ طبرانی اوسط میں انھیں سے راوی، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے چہار شنبہ و پنج شنبہ و جمعہ کو روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا، جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے۔“ (2)

اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، کہ ”جنت میں موتی اور یاقوت وزبرجد کا محل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے برأت لکھ دی جائے گی۔“ (3)

اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے، کہ ”جو ان تین دنوں کے روزے رکھے پھر جمعہ کو تھوڑا یا زیادہ تصدق کرے تو جو گناہ کیا ہے، بخش دیا جائے گا اور ایسا ہو جائے گا جیسے اُس دن کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔“ (4) مگر خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

حدیث ۳۳ مسلم و نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو، ہاں کوئی کسی قسم کا روزہ رکھتا تھا اور جمعہ کا دن روزہ میں واقع ہو گیا تو حرج نہیں۔“ (5)

حدیث ۳۴ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و ابن خزمیہ انھیں سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جمعہ کے دن کوئی روزہ نہ رکھے، مگر اس صورت میں کہ اس کے پہلے یا بعد ایک دن اور روزہ رکھے۔“ (6) اور ابن خزمیہ کی روایت میں ہے، ”جمعہ کا دن عید ہے، لہذا عید کے دن کو روزہ کا دن نہ کرو، مگر یہ کہ اس کے قبل یا بعد روزہ رکھو۔“ (7)

حدیث ۳۵ صحیح بخاری و مسلم میں محمد بن عباد سے ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے روزہ سے منع فرمایا؟ کہا: ہاں، اس گھر کے رب کی قسم۔ (8)

1..... "مسند أبي يعلى"، مسند عبد الله بن عمر، الحديث: ۵۶۱۰، ج ۵، ص ۱۱۵.

2..... "المعجم الأوسط"، الحديث: ۲۵۳، ج ۱، ص ۸۷. 3..... "المعجم الأوسط"، الحديث: ۲۵۴، ج ۱، ص ۸۷.

4..... "شعب الإيمان"، باب في الصيام، صوم شوال والأربعاء والخميس والجمعة، الحديث: ۳۸۷۲، ج ۳، ص ۳۹۷.

5..... "صحیح مسلم"، کتاب الصیام، باب کراهیة افراد یوم الجمعة... إلخ، الحديث: ۱۴۸- (۱۱۴۴)، ص ۵۷۶.

6..... "صحیح مسلم"، کتاب الصیام، باب کراهیة افراد یوم الجمعة... إلخ، الحديث: ۱۱۴۴، ص ۵۷۶.

7..... "صحیح ابن خزيمة"، کتاب الصیام، باب الدلیل علی ان یوم الجمعة یوم عید... إلخ، الحديث: ۲۱۶۱، ج ۳، ص ۳۱۵.

8..... "صحیح مسلم"، کتاب الصیام، باب کراهیة افراد یوم الجمعة... إلخ، الحديث: ۱۱۴۳، ص ۵۷۵.

منت کے روزہ کا بیان

شرعی منت جس کے ماننے سے شرعاً اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے لیے مطلقاً چند شرطیں ہیں۔

(۱) ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جنس سے کوئی واجب ہو، عیادتِ مریض اور مسجد میں جانے اور جنازہ کے ساتھ جانے کی منت نہیں ہو سکتی۔

(۲) وہ عبادت خود بالذات مقصود ہو کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو، لہذا وضو و غسل و نظرِ مصحف کی منت صحیح نہیں۔

(۳) اس چیز کی منت نہ ہو جو شرع نے خود اس پر واجب کی ہو، خواہ فی الحال یا آئندہ مثلاً آج کی ظہر یا کسی فرض نماز کی منت صحیح نہیں کہ یہ چیزیں تو خود ہی واجب ہیں۔

(۴) جس چیز کی منت مانی وہ خود بذاتہ کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور اگر کسی اور وجہ سے گناہ ہو تو منت صحیح ہو جائے گی، مثلاً عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اگر اس کی منت مانی تو منت ہو جائے گی اگرچہ حکم یہ ہے کہ اُس دن نہ رکھے، بلکہ کسی دوسرے دن رکھے کہ یہ ممانعتِ عارضی ہے یعنی عید کے دن ہونے کی وجہ سے، خود روزہ ایک جائز چیز ہے۔

(۵) ایسی چیز کی منت نہ ہو جس کا ہونا محال ہو، مثلاً یہ منت مانی کہ کل گزشتہ میں روزہ رکھوں گا یہ منت صحیح نہیں۔^(۱)

مسئلہ ۱ منت صحیح ہونے کے لیے کچھ یہ ضرور نہیں کہ دل میں اس کا ارادہ بھی ہو، اگر کہنا کچھ چاہتا تھا زبان سے منت کے الفاظ جاری ہو گئے منت صحیح ہو گئی یا کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ (عزوجل) کے لیے مجھ پر ایک دن کا روزہ رکھنا ہے اور زبان سے ایک مہینہ نکلا مہینے بھر کا روزہ واجب ہو گیا۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲ ایامِ منہیہ یعنی عید و بقر عید اور ذی الحجہ کی گیارہویں بارہویں تیرہویں کے روزے رکھنے کی منت مانی اور انہیں دنوں میں رکھ بھی لیے تو اگرچہ یہ گناہ ہو مگر منت ادا ہو گئی۔^(۳) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۳ اس سال کے روزے کی منت مانی تو ایامِ منہیہ چھوڑ کر باقی دنوں میں روزے رکھے اور ان دنوں کے بدلے کے اور دنوں میں رکھے اور اگر ایامِ منہیہ میں بھی رکھ لیے تو منت پوری ہو گئی مگر گنہگار ہوا۔ یہ حکم اُس وقت ہے کہ ایام

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب السادس فی النذر، ج ۱، ص ۲۰۸۔

② "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مطلب فی الکلام علی النذر، ج ۳، ص ۴۸۲۔

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب السادس فی النذر، ج ۱، ص ۲۰۹۔

③ "الدرالمختار" کتاب الصوم، فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۸۱ - ۴۸۳، وغیرہ۔

منہیہ سے پہلے منت مانی اور اگر ایام منہیہ گزرنے کے بعد مثلاً ذی الحجہ کی چودھویں شب میں اس سال کے روزے کی منت مانی تو ختم ذی الحجہ تک روزہ رکھنے سے منت پوری ہوگئی کہ یہ سال ختم ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے اور رمضان سے پہلے اس سنہ کے روزے کی منت مانی تھی تو رمضان کے بدلے کے روزے اس کے ذمہ نہیں۔

اور اگر منت میں پے در پے روزہ کی شرط یا نیت کی جب بھی جن دنوں میں روزہ کی ممانعت ہے، اُن میں روزہ نہ رکھے۔ مگر بعد میں پے در پے ان دنوں کی قضا رکھے اور اگر ایک دن بھی بے روزہ رہا تو اس دن کے پہلے جتنے روزے رکھے تھے، ان سب کا اعادہ کرے اور اگر ایک سال کے روزے کی منت کی تو سال بھر روزہ رکھنے کے بعد پینتیس^{۳۵} یا چونتیس^{۳۴} دن کے اور رکھے یعنی ماہ رمضان اور پانچ دن ایام ممنوعہ کے بدلے کے، اگرچہ ان دنوں میں بھی اُس نے روزے رکھے ہوں کہ اس صورت میں یہ ناکافی ہیں۔ البتہ اگر یوں کہا کہ ایک سال کے روزے پے در پے رکھوں گا تو اب ان پینتیس دنوں کے روزوں کی ضرورت نہیں، مگر اس صورت میں اگر پے در پے نہ ہوں گے تو سرے سے پھر رکھنے ہوں گے، مگر ایام ممنوعہ میں نہ رکھے بلکہ سال پورا ہونے پر پانچ دن علی الاصل رکھے۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - منت کے الفاظ میں یمین^(۲) کا بھی احتمال ہے، لہذا یہاں چھ صورتیں ہوں گی۔

(۱) ان لفظوں سے کچھ نیت نہ کی نہ منت کی نہ یمین کی۔

(۲) فقط منت کی نیت کی یعنی یمین ہونے نہ ہونے کسی کا ارادہ نہ کیا۔

(۳) منت کی نیت کی اور یہ کہ یمین نہیں۔

(۴) یمین کی نیت کی اور یہ کہ منت نہیں۔

(۵) منت اور یمین دونوں کی نیت کی۔

(۶) فقط یمین کی نیت کی اور منت ہونے یا نہ ہونے کسی کی نہیں۔

پہلی تین صورتوں میں فقط منت ہے کہ پوری نہ کرے تو قضا دے اور چوتھی صورت میں یمین ہے کہ اگر پوری نہ کی تو کفارہ

دینا ہوگا۔ پانچویں اور چھٹی صورتوں میں منت اور یمین دونوں ہیں، پوری نہ کرے تو منت کی قضا دے اور یمین کا کفارہ۔^(۳)

(تنویر الابصار)

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مطلب فی الکلام علی النذر، ج ۳، ص ۴۸۲ - ۴۸۴.

② یعنی قسم۔

③ "تنویر الابصار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۸۴.

مسئلہ ۵ - اس مہینے کے روزے کی منت مانی اور اس میں ایام منہیہ ہیں تو اُن میں روزے نہ رکھے، بلکہ اُن کے بدلے کے بعد میں رکھے اور رکھ لیے تو گنہگار ہو مگر منت پوری ہوگئی اور اس صورت میں پورے ایک مہینے کے روزے واجب نہیں، بلکہ منت ماننے کے وقت سے اُس مہینے میں جتنے دن باقی ہیں اُن دنوں میں روزے واجب ہیں اور اگر وہ مہینہ رمضان کا تھا تو منت ہی نہ ہوئی کہ رمضان کے روزے تو خود ہی فرض ہیں۔ ہاں اگر ماہ رمضان کے روزوں کی منت مانی اور رمضان آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو ایک ماہ تک مسکین کو کھانا کھلانے کی وصیت واجب ہے۔

اور اگر کسی معین مہینے کی منت مانی، مثلاً رجب یا شعبان کی تو پورے مہینہ کا روزہ ضرور ہے، وہ مہینہ اونٹیس کا ہو تو اونٹیس روزے اور تیس کا ہو تو تیس اور ناغہ نہ کرے پھر اگر کوئی روزہ چھوٹ گیا تو اس کو بعد میں رکھ لے پورے مہینے کے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔⁽¹⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۶ - ایک مہینے کے روزے کی منت مانی تو پورے تیس دن کے روزے واجب ہیں، اگرچہ جس مہینے میں رکھے وہ اونٹیس ہی کا ہو اور یہ بھی ضرور ہے کہ کوئی روزہ ایام منہیہ میں نہ ہو کہ اس صورت میں اگر ایام منہیہ میں روزے رکھے تو گنہگار تو ہوا ہی، وہ روزے بھی ناکافی ہیں اور پے در پے کی شرط لگائی یا دل میں نیت کی تو یہ بھی ضرور ہے کہ ناغہ نہ ہونے پائے اگر ناغہ ہوا، اگرچہ ایام منہیہ میں تو اب سے ایک مہینے کے علی الاطلاق روزے رکھے یعنی یہ ضرور ہے کہ ان تیس دنوں میں کوئی دن ایسا نہ ہو، جس میں روزہ کی ممانعت ہے اور پے در پے کی نہ شرط لگائی، نہ نیت میں ہے تو متفرق طور پر تیس روزے رکھ لینے سے بھی منت پوری ہو جائے گی۔

اور اگر عورت نے ایک ماہ پے در پے روزے رکھنے کی منت مانی تو اگر ایک مہینہ یا زیادہ طہارت کا زمانہ اُسے ملتا ہے تو ضرور ہے کہ ایسے وقت شروع کرے کہ حیض آنے سے پیشتر تیس دن پورے ہو جائیں، ورنہ حیض آنے کے بعد اب سے تیس پورے کرنے ہوں گے اور اگر مہینہ پورا ہونے سے پہلے اُسے حیض آجایا کرتا ہے تو حیض سے پہلے جتنے روزے رکھ چکی ہے، انھیں حساب کر لے جو باقی رہ گئے، انھیں حیض ختم ہونے کے بعد متصلاً بلا ناغہ پورا کر لے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۷ - پے در پے روزے کی منت مانی تو ناغہ کرنا جائز نہیں اور متفرق طور پر مثلاً دس روزے کی منت مانی تو لگاتار رکھنا جائز ہے۔⁽³⁾ (بحر)

① "ردالمحتار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۸۴، ۴۸۶، وغیرہ.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مطلب فی صوم الست من شوال، ج ۳، ص ۴۸۶، وغیرہما.

③ "البحر الرائق"، کتاب الصوم، فصل فی النذر، ج ۲، ص ۵۱۹.

مسئلہ ۸ - منت دو قسم ہے۔

ایک معلق کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا یا فلاں شخص سفر سے آجائے تو مجھ پر اللہ (عزوجل) کے لیے اتنے روزے یا نمازیں صدقہ وغیرہ ہے۔

دوسری غیر معلق جو کسی چیز کے ہونے، نہ ہونے پر موقوف نہیں بلکہ یہ کہ اللہ (عزوجل) کے لیے میں اپنے اوپر اتنے روزے یا نمازیں صدقہ وغیرہ واجب کرتا ہوں۔ غیر معلق میں اگرچہ وقت یا جگہ وغیرہ معین کرے، مگر منت پوری کرنے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اس سے پیشتر یا اس کے غیر میں نہ ہو سکے، بلکہ اگر اس وقت سے پیشتر روزے رکھ لیے یا نماز پڑھ لی وغیرہ وغیرہ تو منت پوری ہوگئی۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۹ - اس رجب کے روزے کی منت مانی اور جمادی الآخرہ میں روزے رکھ لیے اور یہ مہینہ انتیس کا ہوا، اگر یہ رجب بھی انتیس کا ہو تو پوری ہوگئی ایک اور روزہ کی ضرورت نہیں اور تیس کا ہوا تو ایک روزہ اور رکھے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ - اس رجب کے روزہ کی منت مانی اور رجب میں بیمار رہا تو دوسرے دنوں میں ان کی قضا رکھے اور قضا میں اختیار ہے کہ لگاتار روزے ہوں یا ناعدے کر۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۱۱ - معلق میں شرط پائی جانے سے پہلے منت پوری نہیں کر سکتا، اگر پہلے ہی روزے رکھ لیے بعد میں شرط پائی گئی تو اب پھر رکھنا واجب ہوگا، پہلے کے روزے اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۱۲ - ایک دن کے روزے کی منت مانی تو اختیار ہے کہ ایام منہیہ کے سوا جس دن چاہے روزہ رکھ لے۔ یوہیں دو دن، تین دن میں بھی اختیار ہے، البتہ اگر ان میں پے درپے کی نیت کی تو پے درپے رکھنا واجب ہوگا، ورنہ اختیار ہے کہ ایک ساتھ رکھے یا ناعدے کر اور متفرق کی نیت کی اور پے درپے رکھ لیے جب بھی جائز ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ - ایک ساتھ دس روزوں کی منت مانی اور پندرہ روزے رکھے، بیچ میں ایک دن افطار کیا اور یہ یاد نہیں کہ کون سے دن روزہ نہ تھا تو لگاتار پانچ دن اور رکھ لے۔^(۶) (عالمگیری)

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم... إلخ، فصل فی العوارض... إلخ، ج ۳، ص ۴۸۶.

② "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مطلب فی صوم الست من شوال، ج ۳، ص ۴۸۷.

③ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۴۸۹.

④ المرجع السابق، ص ۴۸۸.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السادس فی النذر، ج ۱، ص ۲۰۹.

⑥ المرجع السابق.

مسئلہ ۱۳ مریض نے ایک ماہ روزہ رکھنے کی منت مانی اور صحت نہ ہوئی مر گیا تو اُس پر کچھ نہیں اور اگر ایک دن کے لیے بھی اچھا ہو گیا تھا اور روزہ نہ رکھا تو پورے مہینے بھر کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے اور اس دن روزہ رکھ لیا جب بھی باقی دنوں کے لیے وصیت چاہیے۔ یوں اگر تندرست نے منت مانی اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے مر گیا تو اس پر بھی وصیت کرنا واجب ہے اور اگر رات میں منت مانی تھی اور رات ہی میں مر گیا جب بھی وصیت کر دینی چاہیے۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۵ یہ منت مانی کہ جس دن فلاں شخص آئے گا، اس دن اللہ (عزوجل) کے لیے مجھ پر روزہ رکھنا واجب ہے تو اگر ضحوة کبریٰ سے پیشتر آیا اور اُس نے کچھ کھایا یا پیانہ نہیں ہے تو روزہ رکھ لے اور اگر رات میں آیا تو کچھ نہیں۔ یوں اگر زوال کے بعد آیا یا کھانے کے بعد آیا یا منت ماننے والی عورت تھی اور اُس دن اُسے حیض تھا تو ان صورتوں میں بھی کچھ نہیں اور اگر یہ کہا تھا کہ جس دن فلاں آئے گا، اُس دن کا اللہ (عزوجل) کے لیے مجھے ہمیشہ روزہ رکھنا ہے اور کھانا کھانے کے بعد آیا تو اُس دن کا روزہ تو نہیں، مگر آئندہ ہر ہفتہ میں اُس دن کا روزہ اُس پر واجب ہو گیا، مثلاً پیر کے دن آیا تو ہر پیر کو روزہ رکھے۔^(۲) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۶ یہ منت مانی کہ جس دن فلاں آئے گا، اُس روز کا روزہ مجھ پر ہمیشہ ہے اور دوسری منت یہ مانی کہ جس دن فلاں کو صحت ہو جائے اس دن کا روزہ مجھ پر ہمیشہ ہے۔ اتفاقاً جس دن وہ آیا، اُسی دن وہ اچھا بھی ہو گیا تو ہر ہفتہ میں صرف اُسی ایک دن کا روزہ رکھنا اس پر ہمیشہ واجب ہوا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ آدھے دن کے روزے کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں۔^(۴) (عالمگیری)

اعتکاف کا بیان

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلٰكُنَّ فِي الْمَسْجِدِ ۝﴾^(۵)

عورتوں سے مباشرت نہ کرو، جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔

حدیث ۱ صحیحین میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخر

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، مطلب فی صوم الست من شوال، ج ۳، ص ۴۸۸.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السادس فی النذر، ج ۱، ص ۲۰۸، ۲۰۹، وغیرہ.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السادس فی النذر، ج ۱، ص ۲۰۹.

④ المرجع السابق.

⑤ پ ۲، البقرة: ۱۸۷.

عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ (1)

حدیث ۲ ابو داؤد انھیں سے راوی، کہتی ہیں: معتکف پر سنت (یعنی حدیث سے ثابت) یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جاسکتا ہے جو ضروری ہے اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ (2)

حدیث ۳ ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا: ”وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اُسے اُس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اُس نے تمام نیکیاں کیں۔“ (3)

حدیث ۴ بیہقی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے رمضان میں دس دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کیے۔“ (4)

مسئلہ ۱ مسجد میں اللہ (عزوجل) کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے اور اس کے لیے مسلمان، عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بہ نیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے، آزاد ہونا بھی شرط نہیں لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے مولیٰ سے اجازت لینی ہوگی اور مولیٰ کو بہر حال منع کرنے کا حق حاصل ہے۔ (5) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانہ میں کہ بہتیری مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہیں نہ مؤذن۔ (6) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ سب سے افضل مسجد شریف میں اعتکاف ہے پھر مسجد نبوی میں علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پھر مسجد اقصیٰ (7) میں

- 1..... ”صحیح مسلم“، کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف العشر الاواخر من رمضان، الحدیث: ۱۱۷۲، ص ۵۹۷.
- 2..... ”سنن ابی داؤد“، کتاب الصیام، باب المعتکف یعود المریض، الحدیث: ۲۴۷۳، ج ۲، ص ۴۹۲.
- 3..... ”سنن ابن ماجہ“، ابواب ما جاء فی الصیام، باب فی ثواب الاعتکاف، الحدیث: ۱۷۸۱، ج ۲، ص ۳۶۵.
- 4..... ”شعب الایمان“، باب فی الاعتکاف، الحدیث: ۳۹۶۶، ج ۳، ص ۴۲۵.
- 5..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۴۹۲ - ۴۹۴.
- و ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۱.
- 6..... ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۴۹۳.
- 7..... یعنی بیت المقدس۔

پھر اُس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔⁽¹⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۳ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے مگر اس جگہ کرے جو اُس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے جسے مسجد بیت کہتے ہیں اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے اور بہتر یہ کہ اس جگہ کو چبوترہ وغیرہ کی طرح بلند کر لے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ خفتی⁽⁴⁾ مسجد بیت میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۷ اعتکاف تین قسم ہے۔

(۱) واجب، کہ اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا۔

(۲) سنت مؤکدہ، کہ رمضان کے پورے عشرۃ اخیرہ یعنی آخر کے دس دن میں اعتکاف کیا جائے یعنی بیسویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بہ نیت اعتکاف مسجد میں ہو اور تیسویں کے غروب کے بعد یا انتیس کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر بیسویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ۔

(۳) ان دو کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۸ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری وغیرہ) یہ بغیر محنت ثواب مل رہا

① "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ص ۱۸۸.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۴۹۴.

③ المرجع السابق.

④ تجرأ.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۴۹۴.

⑥ المرجع السابق، ص ۴۹۵، و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۱.

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۱، وغیرہ.

ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اسے تو نہ کھونا چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازہ پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب پاؤ گے تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے اور جو جانتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو۔

مسئلہ ۹ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی چھٹی دس تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے، اُس میں روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا اور اگر یوں کہا کہ ایک دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت صحیح ہے اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں۔^(۲) (درمختار، عالمگیری) یوں ہیں اگر ضحوة کبریٰ کے بعد منت مانی اور روزہ نہ تھا تو یہ منت صحیح نہیں کہ اب روزہ کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ اگر روزہ کی نیت کر سکتا ہو مثلاً ضحوة کبریٰ سے قبل جب بھی منت صحیح نہیں کہ یہ روزہ نفل ہوگا اور اس اعتکاف میں روزہ واجب درکار۔

مسئلہ ۱۱ یہ ضرور نہیں کہ خاص اعتکاف ہی کے لیے روزہ ہو بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے، اگرچہ اعتکاف کی نیت سے نہ ہو مثلاً اس رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تو وہی رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی ہیں اور اگر رمضان کے روزے تو رکھے مگر اعتکاف نہ کیا تو اب ایک ماہ کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ اعتکاف کرے اور اگر یوں نہ کیا یعنی روزے رکھ کر اعتکاف نہ کیا اور دوسرا رمضان آ گیا تو اس رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی نہیں۔

یوں ہیں اگر کسی اور واجب کے روزے رکھے تو یہ اعتکاف ان روزوں کے ساتھ بھی ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب اُس کے لیے خاص اعتکاف کی نیت سے روزے رکھنا ضروری ہے اور اگر اس صورت میں کہ رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تھی نہ روزے رکھے، نہ اعتکاف کیا اب ان روزوں کی قضا رکھ رہا ہے تو ان قضا روزوں کے ساتھ وہ اعتکاف کی منت بھی پوری کر سکتا ہے۔^(۳) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

① "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۴۹۶.

② "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۴۹۶.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۱.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۴۹۷.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۱.

مسئلہ ۱۲ - نفلی روزہ رکھا تھا اور اُس دن کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ اعتکاف واجب کے لیے نفلی روزہ کافی نہیں اور یہ روزہ واجب ہو نہیں سکتا۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ - ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا بلکہ خاص اُس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ - عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے اور اب بائن ہونے یا موتِ شوہر کے بعد منت پوری کرے۔ یوہیں لونڈی غلام کو ان کا مالک منع کر سکتا ہے، یہ آزاد ہونے کے بعد پوری کریں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ - شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا اور مولیٰ نے باندی غلام کو اجازت دیدی جب بھی روک سکتا ہے اگرچہ اب روکے گا تو گنہگار ہوگا۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ - شوہر نے ایک مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت لگاتار پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ یہ حکم دے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے ایک مہینہ پورا کر لے اور اگر کسی خاص مہینے کی اجازت دی ہے تو اب اختیار نہ رہا۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ - اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یوہیں اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ یوہیں عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی، اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی اعتکاف جاتا رہا۔^(۶) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۸ - معتکف کو مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں۔

ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکیں یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو و غسل کا پانی لے سکے اس طرح کہ مسجد میں پانی کی

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۱۔

② المرجع السابق۔

③ المرجع السابق۔

④ المرجع السابق۔

⑤ المرجع السابق۔

⑥ المرجع السابق، ص ۲۱۲، و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۱۔

کوئی بوند نہ گرے کہ وضو و غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے اور لگن وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ یوہیں اگر مسجد میں وضو و غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔

دوم حاجت شرعی مثلاً عید یا جمعہ کے لیے جانایا اذان کہنے کے لیے منارہ پر جانا، جبکہ منارہ پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو اور اگر منارہ کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی منارہ پر جا سکتا ہے مؤذن کی تخصیص نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ - قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے ٹھہرنے کی اجازت نہیں اور اگر محتکف کا مکان مسجد سے دُور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب تو یہ ضرور نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے اور اگر اس کے خود دو مکان ہیں ایک نزدیک دوسرا دُور تو نزدیک والے مکان میں جائے کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں دُور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔⁽²⁾ (ردالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ - جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ اذان ثانی سے پیشتر سنتیں پڑھ لے اور اگر دُور ہو تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس انداز سے جائے کہ اذان ثانی کے پہلے سنتیں پڑھ سکے زیادہ پہلے نہ جائے۔

اور یہ بات اس کی رائے پر ہے جب اس کی سمجھ میں آجائے کہ پہنچنے کے بعد صرف سنتوں کا وقت باقی رہے گا، چلا جائے اور فرض جمعہ کے بعد چار یا چھ رکعتیں سنتوں کی پڑھ کر چلا آئے اور ظہر احتیاطی پڑھنی ہے تو اعتکاف والی مسجد میں آ کر پڑھے اور اگر پچھلی سنتوں کے بعد واپس نہ آیا، وہیں جامع مسجد میں ٹھہرا رہا، اگرچہ ایک دن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا اعتکاف وہیں پورا کیا تو بھی وہ اعتکاف فاسد نہ ہو مگر یہ مکروہ ہے اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا، وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱ - اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت⁽⁴⁾ ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۱.

② "ردالمختار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۱.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۲.

③ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۲.

④ سیدی اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں "اگر اپنے محلے کی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں بلکہ افضل یہی ہے کہ اسی مسجد میں تنہا نماز پڑھے کیونکہ یہ حق مسجد ہے۔" ("جد الممتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف،

ج ۳، ص ۲۸۸) لہذا اس پر عمل کیا جائے۔... علمیہ

⑤ "ردالمختار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۳، ۵۰۵.

مسئلہ ۲۲ - اعتکاف کے زمانہ میں حج یا عمرہ کا احرام باندھا تو اعتکاف پورا کر کے جائے اور اگر وقت کم ہے کہ اعتکاف پورا کرے گا تو حج جاتا رہے گا تو حج کو چلا جائے پھر سرے سے اعتکاف کرے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳ - اگر وہ مسجد گرگنی یا کسی نے مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا اور فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ - اگر ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے لیے گیا یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہوا اور یہ بھی نکلا یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا، اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو گیا۔^(۳) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۵ - عورت مسجد میں معتکف تھی، اسے طلاق دی گئی تو گھر چلی جائے اور اسی اعتکاف کو پورا کر لے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ - اگر منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہوگا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا،^(۵) مگر خالی دل میں یتیم کر لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہہ لینا ضروری ہے۔^(۶) (عالمگیری، ردالمحتار وغیرہما)

مسئلہ ۲۷ - پاخانہ پیشاب کے لیے گیا تھا، قرض خواہ نے روک لیا اعتکاف فاسد ہو گیا۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ - معتکف کو وطنی کرنا اور عورت کا بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانا حرام ہے۔ جماع سے بہر حال اعتکاف فاسد ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو قصداً ہو یا بھولے سے مسجد میں ہو یا باہر رات میں ہو یا دن میں، جماع کے علاوہ اوروں میں اگر انزال ہو تو فاسد ہے ورنہ نہیں، احتلام ہو گیا یا خیال جمانے یا نظر کرنے سے انزال ہوا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔^(۸) (عالمگیری وغیرہ)

① "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۳.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۲.

③ المرجع السابق.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۲.

⑤ سنت اعتکاف حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت شدہ طریقے سے ہی ادا ہوگا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اعتکاف کے دوران اس قسم کی حاجت کے لیے نکلنا ثابت نہیں لہذا ظاہر یہی ہے کہ سنت اعتکاف میں اس طرح کی شرط لگانے کا تو یہ اعتکاف نفل ہو جائے گا۔
("جد الممتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۲۹۵، ملخصاً)۔ علمہ

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۲.

و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۶، وغیرہما

⑦ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۲.

⑧ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۳، وغیرہ.

مسئلہ ۲۹ - معتکف نے دن میں بھول کر کھالیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا، گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا مگر بے نور و بے برکت ہوتا ہے۔^(۱) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۳۰ - معتکف نکاح کر سکتا ہے اور عورت کو رجعی طلاق دی ہے تو رجعت بھی کر سکتا ہے، مگر ان امور کے لیے اگر مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔^(۲) (عالمگیری، درمختار) مگر جماع اور بوسہ وغیرہ سے اس کو رجعت حرام ہے، اگرچہ رجعت ہو جائے گی۔

مسئلہ ۳۱ - معتکف نے حرام مال یا نشہ کی چیز رات میں کھائی تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔^(۳) (عالمگیری) مگر اس حرام کا گناہ ہوا تو پتہ کرے۔

مسئلہ ۳۲ - بے ہوشی اور جنون اگر طویل ہوں کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف جاتا رہا اور قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال کے بعد صحت ہو اور اگر معتوہ یعنی بوہرا ہو گیا، جب بھی اچھے ہونے کے بعد قضا واجب ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ - معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔^(۵) (درمختار وغیرہ) مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو۔

مسئلہ ۳۴ - معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے پھر یہ کام کر سکتا ہے۔^(۶) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۵ - معتکف کو اپنی یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں کوئی چیز خریدنا یا بیچنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو یا ہو تو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیرے اور اگر خرید و فروخت بقصد تجارت ہو تو ناجائز اگرچہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو۔^(۷) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ - معتکف اگر بہ نیت عبادت سکوت کرے یعنی چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھے تو مکروہ تحریمی ہے اور اگر

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۳، وغیرہ.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۳.

و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۶.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۳.

④ المرجع السابق.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۶، وغیرہ.

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۶.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۶.

چُپ رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو حرج نہیں اور بری بات سے چُپ رہا تو یہ مکروہ نہیں، بلکہ یہ تو اعلیٰ درجہ کی چیز ہے کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے اور جس بات میں نہ ثواب ہونہ گناہ یعنی مباح بات بھی مختلف کو مکروہ ہے، مگر بوقت ضرورت اور بے ضرورت مسجد میں مباح کلام نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۷ مختلف نہ چُپ رہے، نہ کلام کرے تو کیا کرے۔ یہ کرے قرآن مجید کی تلاوت، حدیث شریف کی قراءت اور درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سیر و اذکار اور اولیاء صالحین کی حکایت اور امور دین کی کتابت۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۸ ایک دن کے اعتکاف کی منت مانی تو اس میں رات داخل نہیں۔ طلوع فجر سے پیشتر مسجد میں چلا جائے اور غروب کے بعد چلا آئے اور اگر دو دن یا تین دن یا زیادہ دنوں کی منت مانی یا دو یا تین یا زیادہ راتوں کے اعتکاف کی منت مانی تو ان دونوں صورتوں میں اگر صرف دن یا صرف راتیں مراد لیں تو نیت صحیح ہے، لہذا پہلی صورت میں منت صحیح ہے اور صرف دنوں میں اعتکاف واجب ہو اور اس صورت میں اختیار ہے کہ اتنے دنوں کا لگا تا اعتکاف کرے یا متفرق طور پر۔ اور دوسری صورت میں منت صحیح نہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور رات میں روزہ ہو نہیں سکتا اور اگر دونوں صورتوں میں دن اور رات دونوں مراد ہیں۔ یا کچھ نیت نہ کی تو دونوں صورتوں میں دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے اور علی الاطلاق اتنے دنوں میں اعتکاف ضروری ہے، تفریق نہیں کر سکتا۔

نیز اس صورت میں یہ بھی ضرور ہے کہ دن سے پہلے جو رات ہے، اس میں اعتکاف ہو، لہذا غروب آفتاب سے پہلے جائے اعتکاف میں چلا جائے اور جس دن پورا ہو غروب آفتاب کے بعد نکل آئے اور اگر دن کی منت مانی اور کہتا یہ ہے کہ میں نے دن کہہ کر رات مراد لی، تو یہ نیت صحیح نہیں دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے۔⁽³⁾ (جوہرہ، عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳۹ عید کے دن کے اعتکاف کی منت مانی تو کسی اور دن میں جس دن روزہ رکھنا جائز ہے، اس کی قضا کرے اور اگر یمن کی نیت تھی تو کفارہ دے اور عید ہی کے دن کر لیا تو منت پوری ہو گئی مگر گنہگار ہوا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

① "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۷.

② المرجع السابق، ص ۵۰۸.

③ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ص ۱۹۰.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۳ - ۲۱۴.

و "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۱۰.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۴.

مسئلہ ۳۰ کسی دن یا کسی مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو اس سے پیشتر بھی اس منت کو پورا کر سکتا ہے یعنی جبکہ معلق نہ ہو اور مسجد حرم شریف میں اعتکاف کرنے کی منت مانی تو دوسری مسجد میں بھی کر سکتا ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ ماہ گزشتہ کے اعتکاف کی منت مانی تو صحیح نہیں۔ منت مان کر معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو منت ساقط ہوگئی پھر مسلمان ہوا تو اس کی قضا واجب نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور مر گیا تو ہر روز کے بدلے بقدر صدقہ فطر کے مسکین کو دیا جائے یعنی جبکہ وصیت کی ہو اور اس پر واجب ہے کہ وصیت کر جائے اور وصیت نہ کی، مگر وارثوں نے اپنی طرف سے فدیہ دے دیا، جب بھی جائز ہے۔ مریض نے منت مانی اور مر گیا تو اگر ایک دن کو بھی اچھا ہو گیا تھا تو ہر روز کے بدلے صدقہ فطر کی قدر دیا جائے اور ایک دن کو بھی اچھا نہ ہوا تو کچھ واجب نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ بات اس کے اختیار میں ہے کہ جس مہینے کا چاہے اعتکاف کرے، مگر لگاتار اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے اور اگر یہ کہے کہ میری مراد ایک مہینے کے صرف دن تھے، راتیں نہیں تو یہ قول نہیں مانا جائے گا۔ دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے اور تیس دن کہا تھا جب بھی یہی حکم ہے۔ ہاں اگر منت مانتے وقت یہ کہا تھا کہ ایک مہینے کے دنوں کا اعتکاف ہے، راتوں کا نہیں تو صرف دنوں کا اعتکاف واجب ہو اور اب یہ بھی اختیار ہے کہ متفرق طور پر تیس دن کا اعتکاف کر لے اور اگر یہ کہا تھا کہ ایک مہینے کی راتوں کا اعتکاف ہے دنوں کا نہیں تو کچھ نہیں۔^(۴) (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ ۳۴ اعتکاف نفل اگر چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں، کہ وہیں تک ختم ہو گیا اور اعتکاف مسنون کہ رمضان کی پچھلی دس تاریخوں تک کے لیے بیٹھا تھا، اسے توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے دس دنوں کی قضا واجب نہیں اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی معین مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ اگر علی الاتصال واجب ہوا تھا تو سرے سے اعتکاف کرے اور علی الاتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے۔^(۵) (ردالمحتار)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب السابع فی الاعتکاف، ج ۱، ص ۲۱۴.

② المرجع السابق.

③ المرجع السابق.

④ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ص ۱۹۰، ۱۹۱.

و "الدرالمختار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۱۰.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۳.

مسئلہ ۳۵ اعتکاف کی قضا صرف قصداً توڑنے سے نہیں بلکہ اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا مثلاً بیمار ہو گیا یا بلا اختیار چھوٹا مثلاً عورت کو حیض یا نفاس آیا یا جنون و بے ہوشی طویل طاری ہوئی، ان میں بھی قضا واجب ہے اور ان میں اگر بعض فوت ہو تو گل کی قضا کی حاجت نہیں، بلکہ بعض کی قضا کر دے اور گل فوت ہوا تو گل کی قضا ہے اور منت میں علی الاطلاق واجب ہوا تھا اور تو علی الاطلاق (۱) گل کی قضا ہے۔ (۲) (ردالمحتار)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْآيَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَفْضَلِ أَنْبِيَائِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَعَلَيْنَا
مَعَهُمْ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب ”فیضانِ سنت“ میں لکھتے ہیں:

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ. ”مسلمان کی نیت اسکے عمل سے بہتر

ہے۔“ (المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ۵۹۴۲، ج ۶، ص ۱۸۵)

اپنے اعتکاف کی عظیم الشان نیکی کے ساتھ مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کر کے ثواب میں خوب اضافہ کیجئے۔

- (۱) تہوؤف کے ان مدنی اصولوں (الف) تغلیلِ طعام (یعنی کم کھانا) (ب) تغلیلِ کلام (یعنی کم بولنا) (ج) تغلیلِ منام (یعنی کم سونا) پر کار بند رہوں گا، روزانہ پانچوں نمازیں (۲) پہلی صف میں (۳) تکبیرِ اولیٰ کے ساتھ (۴) باجماعت ادا کروں گا (۵) ہر اذان اور (۶) ہر اقامت کا جواب دوں گا (۷) ہر بار کح اول و آخر دُرود شریف اذان کے بعد کی دُعا پڑھوں گا (۸) روزانہ تہجد (۹) اشراق (۱۰) چاشت اور (۱۱) اذانین کے نوافل ادا کروں گا (۱۲) تلاوت اور (۱۳) دُرود شریف کی کثرت کروں گا (۱۴) روزانہ رات سورۃ المُلک پڑھوں/سُنوں گا (۱۵) زبان پر قتلِ مدینہ لگاؤں گا یعنی فُصول گوئی سے بچوں گا اور ممکن ہو تو اس نیتِ خیر کے ساتھ ضرورت کی دُنوی بات بھی لکھ کر یا اشارہ سے کروں گا تا کہ فُصول، یا بُری باتوں میں نہ جا پڑوں یا شور و غل کا سبب نہ بن جاؤں (۱۶) مسجد کو ہر طرح کی بدو سے بچاؤں گا۔ (ماخوذ از: فیضانِ سنت (تخریج شدہ)، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

① یعنی مسلسل بلاناغہ۔

② ”ردالمحتار“، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج ۳، ص ۵۰۳۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ط

حج کا بیان

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

﴿ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۗ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مِّمَّا قَامَ اِبْرٰهِيْمٌ ۗ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَبِاللّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّمُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَنِيْ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۗ ﴾ (1)

بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت تمام جہان کے لیے، اُس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور جو شخص اس میں داخل ہو یا امن ہے اور اللہ (عزوجل) کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، جو شخص باعتبار راستہ کے اس کی طاقت رکھے اور جو کفر کرے تو اللہ (عزوجل) سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اور فرماتا ہے:

﴿ وَاْتِمُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ ﴾ (2)

حج و عمرہ کو اللہ (عزوجل) کے لیے پورا کرو۔

حدیث ۱ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا: ”اے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حج کرو۔“ ایک شخص نے عرض کی، کیا ہر سال یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے سکوت فرمایا (3)۔ انھوں نے تین بار یہ کلمہ کہا۔ ارشاد فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا پھر فرمایا: جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو، اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیا کی مخالفت سے ہلاک ہوئے، لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اُسے کرو اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اُسے چھوڑ دو۔ (4)

① پ ۴، آل عمران: ۹۶-۹۷. ② پ ۲، البقرة: ۱۹۶.

③ یعنی خاموش رہے۔

④ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب فرض الحج مرّة في العمر، الحدیث: ۱۳۳۷، ص ۶۹۸.

حدیث ۲ صحیحین میں انھیں سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کون عمل افضل ہے؟ فرمایا: ”اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر ایمان۔ عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا: اللہ (عزوجل) کی راہ میں جہاد۔ عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا: حجِ مبرور۔“ (1)

حدیث ۳ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ انھیں سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس نے حج کیا اور رفٹ (فحش کلام) نہ کیا اور فحش نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اُس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔“ (2)

حدیث ۴ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ انھیں سے راوی، ”عمرہ سے عمرہ تک اُن گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے اور حجِ مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔“ (3)

حدیث ۵ مسلم و ابن خزیمہ و غیرہما عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”حج ان گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں۔“ (4)

حدیث ۶ و ۷ ابن ماجہ أم المؤمنین أم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔“ (5)

اور أم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابن ماجہ نے روایت کی، کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) عورتوں پر جہاد ہے؟ فرمایا: ”ہاں ان کے ذمہ وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں حج و عمرہ۔“ (6)
اور صحیحین میں انھیں سے مروی، کہ فرمایا: ”تمہارا جہاد حج ہے۔“ (7)

- 1..... ”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب من قال ان الإیمان هو العمل، الحدیث: ۲۶، ج ۱، ص ۲۱.
- 2..... ”صحیح البخاری“، کتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، الحدیث: ۱۵۲۱، ج ۱، ص ۵۱۲.
- و ”الترغیب و الترہیب“، کتاب الحج، الترغیب فی الحج و العمرة... إلخ، الحدیث: ۲، ج ۲، ص ۱۰۳.
- 3..... ”صحیح البخاری“، کتاب العمرة، باب وجوب العمرة و فضلها، الحدیث: ۱۷۷۳، ج ۱، ص ۵۸۶.
- 4..... ”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب کون الاسلام یهدم ما قبله... إلخ، الحدیث: ۱۲۱، ص ۷۴.
- 5..... ”سنن ابن ماجہ“، أبواب المناسک، باب الحج جہاد النساء، الحدیث: ۲۹۰۲، ج ۳، ص ۴۱۴.
- 6..... ”سنن ابن ماجہ“، أبواب المناسک، باب الحج جہاد النساء، الحدیث: ۲۹۰۱، ج ۳، ص ۴۱۳.
- 7..... ”صحیح البخاری“، کتاب الجہاد، باب جہاد النساء، الحدیث: ۲۸۷۵، ج ۲، ص ۲۷۴.

حدیث ۸ — ترمذی وابن خزیمہ وابن حبان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں، جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔“ (1)

حدیث ۹ — بخاری و مسلم و ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ و غیر ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کی برابر ہے۔“ (2)

حدیث ۱۰ — بزار نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سو کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا، جیسے اُس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔“ (3)

حدیث ۱۱ و ۱۲ — بیہقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”جو خانہ کعبہ کے قصد سے آیا اور اُونٹ پر سوار ہوا تو اُونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا کو مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا، جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔“ (4) اور اسی کے مثل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی۔

حدیث ۱۳ — ابن خزیمہ و حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے اُس کے لیے ہر قدم پر سات سو نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی۔ کہا گیا، حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا: ہر نیکی لاکھ نیکی ہے۔“ (5) تو اس حساب سے ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں ہوئیں **وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ**.

حدیث ۱۴ و ۱۵ — بزار نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حج و عمرہ کرنے والے اللہ (عزوجل) کے وفد ہیں، اللہ (عزوجل) نے انھیں بلایا، یہ حاضر ہوئے، انھوں نے اللہ (عزوجل) سے سوال کیا، اُس

- ① ”جامع الترمذی“، أبواب الحج، باب ماجاء فی ثواب الحج و العمرة، الحدیث: ۸۱۰، ج ۲، ص ۲۱۸.
- ② ”صحیح البخاری“، کتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، الحدیث: ۱۸۶۳، ج ۱، ص ۶۱۴.
- ③ ”مسند البزار“، مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الحدیث: ۳۱۹۶، ج ۸، ص ۱۶۹.
- ④ ”شعب الإيمان“، باب فی المناسك، باب فضل الحج و العمرة، الحدیث: ۴۱۱۵، ج ۳، ص ۴۷۸.
- ⑤ ”المستدرک“ للحاكم، کتاب المناسك، باب فضيلة الحج ماشيا، الحدیث: ۱۷۳۵، ج ۲، ص ۱۱۴.

نے انھیں دیا۔“ (1) اسی کے مثل ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی۔

حدیث ۱۷ بزار و طبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”حاجی کی

مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اُس کے لیے بھی۔“ (2)

حدیث ۱۸ اصہبانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”حج فرض جلد ادا

کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے۔“ (3)

اور ابوداؤد و دارمی کی روایت میں یوں ہے: ”جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے۔“ (4)

حدیث ۱۹ طبرانی اوسط میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ داؤد علیہ السلام نے

عرض کی، اے اللہ! (عزوجل) جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انھیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا: ”ہرزائر کا

اُس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، اُن کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انھیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو اُن کی

مغفرت فرما دوں گا۔“ (5)

حدیث ۲۰ طبرانی کبیر میں اور بزار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہتے ہیں میں مسجد منیٰ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا پھر کہا،

یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں؟ ارشاد فرمایا:

”اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے حاضر ہوئے ہو اور اگر چاہو تو میں کچھ نہ کہوں، تمہیں سوال کرو۔“ عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہمیں بتا دیجیے۔ ارشاد فرمایا: تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصد سے جانے کو دریافت

کرے اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کو اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے

اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کو اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور عرفہ کی شام کے وقوف کو اور تیرے لیے اس میں کیا

ثواب ہے اور جمار کی رمی کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب

① ”الترغیب و الترهیب“، کتاب الحج، الترغیب فی الحج و العمرة... إلخ، الحدیث: ۲۰، ج ۲، ص ۱۰۷.

② ”مجمع الزوائد“، باب دعاء الحجاج و العمار، الحدیث: ۵۲۸۷، ج ۳، ص ۴۸۳.

③ ”الترغیب و الترهیب“، کتاب الحج، الترغیب فی الحج و العمرة... إلخ، الحدیث: ۲۶، ج ۲، ص ۱۰۹.

④ ”سنن أبي داود“ کتاب المناسک، باب ۵، الحدیث: ۱۷۳۲، ج ۲، ص ۱۹۷.

⑤ ”المعجم الأوسط“ للطبرانی، باب المیم، الحدیث: ۶۰۳۷، ج ۴، ص ۲۹۷.

ہے اور اس کے ساتھ طوافِ افاضہ (۱) کو۔“

اُس شخص نے عرض کی، قسم ہے! اس ذات کی جس نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو حق کے ساتھ بھیجا، اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے دریافت کروں۔ ارشاد فرمایا: ”جب تو بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسنہ لکھا جائے گا اور تیری خطا مٹا دی جائے گی اور طواف کے بعد کی دو رکعتیں ایسی ہیں جیسے اولادِ اسماعیل میں کوئی غلام ہو، اُس کے آزاد کرنے کا ثواب اور صفا و مردہ کے درمیان سعی ستر غلام آزاد کرنے کے مثل ہے۔“

اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عزوجل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلّی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مہابات فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے: ”میرے بندے دُور دُور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے، اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا، میرے بندو! واپس جاؤ تمہاری مغفرت ہوگئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو۔“

اور جمروں پر زمی کرنے میں ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں حسنہ لکھا جائے گا اور ایک گناہ مٹایا جائے گا، اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانہ آئندہ میں عمل کرو اور زمانہ گذشتہ میں جو کچھ تھا معاف کر دیا گیا۔ (2)

حدیث ۲۱ ابو یعلیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا۔ قیامت تک اُس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اُس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔“ (3)

حدیث ۲۲ طبرانی و ابو یعلیٰ و دارقطنی و بیہقی اُم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو اس راہ میں حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا اُس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا اور اس سے کہا جائے گا تو جنت

①..... اس کو طوافِ زیارت بھی کہتے ہیں۔

②..... ”الترغیب و الترهیب“، کتاب الحج، الترغیب فی الحج و العمرة... إلخ، الحدیث: ۳۲، ج ۲، ص ۱۱۰۔

③..... ”مسند أبي يعلى“، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، الحدیث: ۶۳۲۷، ج ۵، ص ۴۴۱۔

میں داخل ہو جائے۔“ (1)

حدیث ۲۳ طبرانی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ گھر اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، پھر جس نے حج کیا یا عمرہ وہ اللہ (عزوجل) کے ضمان میں ہے اگر مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں داخل فرمائے گا اور گھر کو واپس کر دے تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔“ (2)

حدیث ۲۵ و ۲۴ دارمی ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانع ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔“ (3) اسی کی مثل ترمذی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

حدیث ۲۶ ترمذی وابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، ایک شخص نے عرض کی، کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا: ”توشہ اور سواری۔“ (4)

حدیث ۲۷ شرح سنت میں انھیں سے مروی، کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا: پراگندہ سر، میلا کچھلا۔ دوسرے نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) حج کا کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا: ”بلند آواز سے لبیک کہنا اور قربانی کرنا۔“ کسی اور نے عرض کی، سبیل کیا ہے؟ فرمایا: ”توشہ اور سواری۔“ (5)

حدیث ۲۸ ابوداؤد وابن ماجہ أم المؤمنین أم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”جو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر آیا، اُس کے اگلے اور پچھلے گناہ سب بخش دیے جائیں گے یا اُس کے لیے جنت واجب ہوگی۔“ (6)

مسائل فقہیہ

حج نام ہے احرام باندھ کر نویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا اور اس کے لیے ایک خاص

① ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۵۳۸۸، ج ۴، ص ۱۱۱.

② ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۹۰۳۳، ج ۶، ص ۳۵۲.

③ ”سنن الدارمی“، کتاب المناسک، باب من مات ولم یحج، الحدیث: ۱۷۸۵، ج ۲، ص ۴۵.

④ ”جامع الترمذی“، أبواب الحج، باب ماجاء فی ایجاب الحج بالزاد و الراحلة، الحدیث: ۸۱۳، ج ۲، ص ۲۱۹.

⑤ ”شرح السنة“ للبخاری، کتاب الحج، باب وجوب الحج... إلخ، الحدیث: ۱۸۴۰، ج ۴، ص ۹.

⑥ ”سنن أبي داود“، کتاب المناسک، باب فی المواقیف، الحدیث: ۱۷۴۱، ج ۲، ص ۲۰۱.

وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ ۹۔ ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے مگر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔^(۱) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱ دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مال حرام سے حج کو جانا حرام ہے۔ حج کو جانے کے لیے جس سے اجازت لینا واجب ہے بغیر اُس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے مثلاً ماں باپ اگر اُس کی خدمت کے محتاج ہوں اور ماں باپ نہ ہوں تو دادا، دادی کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ حج فرض کا حکم ہے اور نفل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کرے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ لڑکا خوبصورت اُمرد ہو تو جب تک داڑھی نہ نکلے، باپ اُسے جانے سے منع کر سکتا ہے۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۳ جب حج کے لیے جانے پر قادر ہو حج فوراً فرض ہو گیا یعنی اسی سال میں اور اب تاخیر گناہ ہے اور چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی مرد و مگر جب کرے گا ادائیگی ہے قضا نہیں۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۴ مال موجود تھا اور حج نہ کیا پھر وہ مال تلف ہو گیا، تو قرض لے کر جائے اگر چہ جانتا ہو کہ یہ قرض ادا نہ ہوگا مگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قدرت دے گا تو ادا کر دوں گا۔ پھر اگر ادا نہ ہو سکا اور نیت ادا کی تھی تو امید ہے کہ مولیٰ عزوجل اس پر مؤاخذہ نہ فرمائے۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۵ حج کا وقت شوال سے دسویں ذی الحجہ تک^(۶) ہے کہ اس سے پیشتر^(۷) حج کے افعال نہیں ہو سکتے، سوا احرام کے کہ احرام اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اگر چہ مکروہ ہے۔^(۸) (درمختار، ردالمحتار)

حج واجب ہونے کے شرائط

مسئلہ ۶ حج واجب ہونے کی آٹھ شرطیں ہیں، جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہیں:

- ۱..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۶.
- و "الدرالمختار" معہ "ردالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۱۶-۵۱۸.
- ۲..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بمال حرام، ج ۳، ص ۵۱۹.
- ۳..... "الدرالمختار" کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۲۰.
- ۴..... "الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۲۰.
- ۵..... "الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۲۱.
- ۶..... یعنی دو مہینے اور دس دن تک۔
- ۷..... پہلے۔
- ۸..... "الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۴۳.

① اسلام

لہذا اگر مسلمان ہونے سے پیشتر استطاعت تھی پھر فقیر ہو گیا اور اسلام لایا تو زمانہ کفر کی استطاعت کی بنا پر اسلام لانے کے بعد حج فرض نہ ہوگا، کہ جب استطاعت تھی اس کا اہل نہ تھا اور اب کہ اہل ہو استطاعت نہیں اور مسلمان کو اگر استطاعت تھی اور حج نہ کیا تھا اب فقیر ہو گیا تو اب بھی فرض ہے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ حج کرنے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا⁽²⁾ پھر اسلام لایا تو اگر استطاعت ہو تو پھر حج کرنا فرض ہے، کہ مرتد ہونے سے حج وغیرہ سب اعمال باطل ہو گئے۔⁽³⁾ (عالمگیری) یو ہیں اگر اثنائے حج⁽⁴⁾ میں مرتد ہو گیا تو احرام باطل ہو گیا اور اگر کافر نے احرام باندھا تھا، پھر اسلام لایا تو اگر پھر سے احرام باندھا اور حج کیا تو ہوگا ورنہ نہیں۔

② دارالحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں حج ہے۔

لہذا جس وقت استطاعت تھی یہ مسئلہ معلوم نہ تھا اور جب معلوم ہوا اس وقت استطاعت نہ ہو تو فرض نہ ہو اور جاننے کا ذریعہ یہ ہے کہ دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں نے جن کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو، اُسے خبر دیں اور ایک عادل نے خبر دی، جب بھی واجب ہو گیا اور دارالاسلام میں ہے تو اگر چہ حج فرض ہونا معلوم نہ ہو فرض ہو جائے گا کہ دارالاسلام میں فرائض کا علم نہ ہونا عذر نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

③ بلوغ

نابالغ نے حج کیا یعنی اپنے آپ جبکہ سمجھ وال⁽⁶⁾ ہو یا اُس کے ولی نے اس کی طرف سے احرام باندھا ہو جب کہ نا سمجھ ہو، بہر حال وہ حج نفل ہوا، حجۃ الاسلام یعنی حج فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بمال حرام، ج ۳، ص ۵۲۱.

②..... مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے، جو ضروریات دین سے ہو یعنی زبان سے کلمہ کفر کہے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یو ہیں بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے مثلاً بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔
نوٹ: تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت حصہ 9، مرتد کا بیان کا مطالعہ فرمائیں۔

③..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷.

④..... یعنی حج کے دوران۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۸.

⑥..... سمجھ دار۔

مسئلہ ۸ نابالغ نے حج کا احرام باندھا اور وقوفِ عرفہ سے پیشتر بالغ ہو گیا تو اگر اسی پہلے احرام پر رہ گیا حج نفل ہوا حجۃ الاسلام نہ ہو اور اگر سرے سے احرام باندھ کر وقوفِ عرفہ کیا تو حجۃ الاسلام ہوا۔^(۱) (عالمگیری)

④ عاقل ہونا

مجنون پر فرض نہیں۔

مسئلہ ۹ مجنون تھا اور وقوفِ عرفہ سے پہلے جنون جاتا رہا اور نیا احرام باندھ کر حج کیا تو یہ حج حجۃ الاسلام ہو گیا ورنہ نہیں۔ بوہرا بھی مجنون کے حکم میں ہے۔^(۲) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ حج کرنے کے بعد مجنون ہوا پھر اچھا ہوا تو اس جنون کا حج پر کوئی اثر نہیں یعنی اب اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں، اگر احرام کے وقت اچھا تھا پھر مجنون ہو گیا اور اسی حالت میں افعال ادا کیے پھر برسوں کے بعد ہوش میں آیا تو حج فرض ادا ہو گیا۔^(۳) (منک)

⑤ آزاد ہونا

باندی غلام پر حج فرض نہیں اگر چہ مدبر یا مکاتب یا ام ولد^(۴) ہوں۔ اگرچہ اُن کے مالک نے حج کرنے کی اجازت دیدی ہو اگرچہ وہ مکہ ہی میں ہوں۔^(۵)

مسئلہ ۱۱ غلام نے اپنے مولیٰ کے ساتھ حج کیا تو یہ حج نفل ہو حجۃ الاسلام نہ ہو۔ آزاد ہونے کے بعد اگر شرائط پائے جائیں تو پھر کرنا ہوگا اور اگر مولیٰ کے ساتھ حج کو جاتا تھا، راستہ میں اس نے آزاد کر دیا تو اگر احرام سے پہلے آزاد ہوا، اب احرام باندھ کر حج کیا تو حجۃ الاسلام ادا ہو گیا اور احرام باندھنے کے بعد آزاد ہوا تو حجۃ الاسلام نہ ہوگا، اگرچہ نیا احرام باندھ کر حج

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷.

و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی قولہم یقدم حق العبد علی حق الشرع، ج ۳، ص ۵۳۵.

③..... "باب المناسک" للسندی و "المسلك المتقسط فی المنسک المتوسط" للقاری، (باب شرائط الحج)، ص ۳۹.

④..... مدبر: یعنی وہ غلام جس کی نسبت مولیٰ نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔

مکاتب: یعنی وہ غلام جس کا آقا مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہہ دے کہ اتنا ادا کر دے تو آزاد ہے اور غلام اسے قبول بھی کر لے۔

ام ولد: یعنی وہ لونڈی جس کے بچہ پیدا ہوا اور مولیٰ نے اقرار کیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔

نوٹ: تفصیلی معلومات کے لئے دیکھیں: بہار شریعت حصہ ۹، مدبر، مکاتب اور ام ولد کا بیان۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷.

کیا ہو۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

⑥ تندرست ہو

کہ حج کو جاسکے، اعضا سلامت ہوں، آنکھیاں ہوں، اپاہج اور فالج والے اور جس کے پاؤں کٹے ہوں اور بوڑھے پر کہ سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو حج فرض نہیں۔ یوں اندھے پر بھی واجب نہیں اگرچہ ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا اُسے ملے۔ ان سب پر یہ بھی واجب نہیں کہ کسی کو بھیج کر اپنی طرف سے حج کرا دیں یا وصیت کر جائیں اور اگر تکلیف اٹھا کر حج کر لیا تو صحیح ہو گیا اور حجۃ الاسلام ادا ہوا یعنی اس کے بعد اگر اعضا درست ہو گئے تو اب دوبارہ حج فرض نہ ہوگا وہی پہلا حج کافی ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۲ اگر پہلے تندرست تھا اور دیگر شرائط بھی پائے جاتے تھے اور حج نہ کیا پھر اپاہج وغیرہ ہو گیا کہ حج نہیں کر سکتا تو اس پر وہ حج فرض باقی ہے۔ خود نہ کر سکے تو حج بدل کرائے۔⁽³⁾ (عالمگیری وغیرہ)

⑦ سفر خرچ کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو

خواہ سواری اس کی ملک ہو یا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ کرایہ پر لے سکے۔

مسئلہ ۱۳ کسی نے حج کے لیے اس کو اتنا مال مباح کر دیا کہ حج کر لے تو حج فرض نہ ہوا کہ اباحت سے ملک نہیں ہوتی اور فرض ہونے کے لیے ملک درکار ہے، خواہ مباح کرنے والے کا اس پر احسان ہو جیسے غیر لوگ یا نہ ہو جیسے ماں، باپ اولاد۔ یوں اگر عاریہ⁽⁴⁾ سواری مل جائے گی جب بھی فرض نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۴ کسی نے حج کے لیے مال ہبہ کیا تو قبول کرنا اس پر واجب نہیں۔ دینے والا اجنبی ہو یا ماں، باپ، اولاد وغیرہ مگر قبول کر لے گا تو حج واجب ہو جائے گا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۵ سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ چیزیں اُس کی حاجت سے فاضل ہوں یعنی مکان و

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۸، وغیرہ.

③..... المرجع السابق.

④..... عاریہ یعنی عارضی طور پر دی ہوئی چیز۔

⑤..... المرجع السابق، ص ۲۱۷.

⑥..... المرجع السابق.

لباس و خادم اور سواری کا جانور اور پیشہ کے اوزار اور خانہ داری کے سامان اور دین سے اتنا زائد ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور وہاں سے سواری پر واپس آئے اور جانے سے واپسی تک عیال کا نفقہ اور مکان کی مرمت کے لیے کافی مال چھوڑ جائے اور جانے آنے میں اپنے نفقہ اور گھراہل و عیال کے نفقہ میں قدر متوسط کا اعتبار ہے نہ کمی ہو نہ اسراف۔ عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اُس پر واجب ہے، یہ ضروری نہیں کہ آنے کے بعد بھی وہاں اور یہاں کے خرچ کے بعد کچھ باقی بچے۔⁽¹⁾
(درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ سواری سے مراد اس قسم کی سواری ہے جو عرفاً اور عادتاً اُس شخص کے حال کے موافق ہو، مثلاً اگر متمول⁽²⁾ آرام پسند ہو تو اُس کے لیے شگد ف⁽³⁾ درکار ہوگا۔ یوہیں تو شہ میں اُس کے مناسب غذائیں چاہیے، معمولی کھانا میسر آنا فرض ہونے کے لیے کافی نہیں، جب کہ وہ اچھی غذا کا عادی ہے۔⁽⁴⁾ (منک)

مسئلہ ۱۷ جو لوگ حج کو جاتے ہیں، وہ دوست احباب کے لیے تحفہ لایا کرتے ہیں یہ ضروریات میں نہیں یعنی اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ جو ضروریات بتائے گئے اُن کے لیے اور آنے جانے کے اخراجات کے لیے کافی ہے مگر کچھ بچے گا نہیں کہ احباب وغیرہ کے لیے تحفہ لائے جب بھی حج فرض ہے، اس کی وجہ سے حج نہ کرنا حرام ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۸ جس کی بسر اوقات تجارت پر ہے اور اتنی حیثیت ہوگئی کہ اس میں سے اپنے جانے آنے کا خرچ اور واپسی تک بال بچوں کی خوراک نکال لے تو اتنا باقی رہے گا، جس سے اپنی تجارت بقدر اپنی گزر کے کر سکے تو حج فرض ہے ورنہ نہیں اور اگر وہ کاشتکار ہے تو ان سب اخراجات کے بعد اتنا بچے کہ کھیتی کے سامان ہل بیل وغیرہ کے لیے کافی ہو تو حج فرض ہے اور پیشہ والوں کے لیے ان کے پیشہ کے سامان کے لائق بچنا ضروری ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۹ سواری میں یہ بھی شرط ہے کہ خاص اُس کے لیے ہو اگر دو شخصوں میں مشترک ہے کہ باری باری دونوں تھوڑی تھوڑی دور سوار ہوتے ہیں تو یہ سواری پر قدرت نہیں اور حج فرض نہیں۔ یوہیں اگر اتنی قدرت ہے کہ ایک منزل کے لیے

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷.

②..... بالدار ③..... شگد ف: یعنی دو چار پائیاں جو اونٹ کے دونوں طرف لگاتے ہیں، ہر ایک میں ایک شخص بیٹھتا ہے۔

④..... "باب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب شرائط الحج)، ص ۴۶، ۴۷.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بعمال حرام، ج ۳، ص ۵۲۸.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۸.

مثلاً کرایہ پر جانور لے پھر ایک منزل پیدل چلے علیٰ ہذا القیاس (1) تو یہ سواری پر قدرت نہیں۔ (2) (عالمگیری)
 آجکل جو شگد ف اور شبری کا رواج ہے کہ ایک شخص ایک طرف سوار ہوتا ہے اور دوسرا دوسری طرف اگر یوں دو شخصوں
 میں مشترک ہو تو حج فرض ہوگا کہ سواری پر قدرت پائی گئی اور پیدل چلنا نہ پڑا۔ (3) (منک)

مسئلہ ۲۰ مکہ معظمہ یا مکہ معظمہ سے تین دن سے کم کی راہ والوں کے لیے سواری شرط نہیں، اگر پیدل چل سکتے ہوں
 تو ان پر حج فرض ہے اگرچہ سواری پر قادر نہ ہوں اور اگر پیدل نہ چل سکیں تو ان کے لیے بھی سواری پر قدرت شرط ہے۔ (4)
 (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱ میقات سے باہر کارہنے والا جب میقات تک پہنچ جائے اور پیدل چل سکتا ہو تو سواری اُس کے لیے شرط
 نہیں، لہذا اگر فقیر ہو جب بھی اُسے حج فرض کی نیت کرنی چاہیے نفل کی نیت کرے گا تو اُس پر دو بارہ حج کرنا فرض ہوگا اور مطلق
 حج کی نیت کی یعنی فرض یا نفل کچھ معین نہ کیا تو فرض ادا ہو گیا۔ (5) (منک، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۲ اس کی ضرورت نہیں کہ محمل وغیرہ آرام کی سواریوں کا کرایہ اس کے پاس ہو، بلکہ اگر کجاوے پر بیٹھنے کا
 کرایہ پاس ہے تو حج فرض ہے، ہاں اگر کجاوے پر بیٹھ نہ سکتا ہو تو محمل وغیرہ کے کرایہ سے قدرت ثابت ہوگی۔ (6) (ردالمحتار،
 ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳ مکہ اور مکہ سے قریب والوں کو سواری کی ضرورت ہو تو خچر یا گدھے کے کرایہ پر قادر ہونے سے بھی
 سواری پر قدرت ہو جائے گی اگر اس پر سوار ہو سکیں بخلاف دور والوں کے کہ ان کے لیے اونٹ کا کرایہ ضروری ہے کہ دور والوں
 کے لیے خچر وغیرہ سوار ہونے اور سامان لادنے کے لیے کافی نہیں اور یہ فرق ہر جگہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ (7) (ردالمحتار)

①..... اور اسی پر قیاس کر لیجئے۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷۔

③..... "مناسک ملا علی قاری"، باب شرائط الحج، ص ۴۱۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷۔

و "ردالمحتار"، کتاب الحج، فیمن حج بمال حرام، ج ۳، ص ۵۲۵۔

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بمال حرام، ج ۳، ص ۵۲۵۔

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بمال حرام، ج ۳، ص ۵۲۵۔

⑦..... "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بمال حرام، ج ۳، ص ۵۲۶۔

مسئلہ ۲۳ پیدل کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے: ”جو پیدل حج کرے، اُس کے لیے ہر قدم پر سات سو نیکیاں ہیں۔“ (۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۵ فقیر نے پیدل حج کیا پھر مالدار ہو گیا تو اُس پر دوسرا حج فرض نہیں۔ (۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ اتنا مال ہے کہ اس سے حج کر سکتا ہے مگر اُس مال سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح نہ کرے بلکہ حج کرے کہ حج فرض ہے یعنی جب حج کا زمانہ آ گیا ہو اور اگر پہلے نکاح میں خرچ کر ڈالا اور مجرور رہنے (۳) میں خوفِ معصیت تھا تو حرج نہیں۔ (۴) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۷ رہنے کا مکان اور خدمت کا غلام اور پہننے کے کپڑے اور برتنے کے اسباب ہیں تو حج فرض نہیں یعنی لازم نہیں کہ انھیں بیچ کر حج کرے اور اگر مکان ہے مگر اس میں رہتا نہیں غلام ہے مگر اس سے خدمت نہیں لیتا تو بیچ کر حج کرے اور اگر اس کے پاس نہ مکان ہے نہ غلام وغیرہ اور روپیہ ہے جس سے حج کر سکتا ہے مگر مکان وغیرہ خریدنے کا ارادہ ہے اور خریدنے کے بعد حج کے لائق نہ بنے گا تو فرض ہے کہ حج کرے اور باتوں میں اٹھانا گناہ ہے یعنی اس وقت کہ اُس شہر والے حج کو جا رہے ہوں اور اگر پہلے مکان وغیرہ خریدنے میں اٹھا دیا تو حرج نہیں۔ (۵) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ کپڑے جنھیں استعمال میں نہیں لاتا انھیں بیچ ڈالے تو حج کر سکتا ہے تو بیچے اور حج کرے اور اگر مکان بڑا ہے جس کے ایک حصہ میں رہتا ہے باقی فاضل پڑا ہے تو یہ ضرور نہیں کہ فاضل کو بیچ کر حج کرے۔ (۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۹ جس مکان میں رہتا ہے اگر اُس سے بیچ کر اُس سے کم حیثیت کا خرید لے تو اتنا روپیہ بچے گا کہ حج کر لے تو بیچنا ضرور نہیں مگر ایسا کرے تو افضل ہے، لہذا مکان بیچ کر حج کرنا اور کرایہ کے مکان میں گزر کرنا تو بدرجہ اولیٰ ضرور نہیں۔ (۷)

① ”ردالمحتار“، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بمال حرام، ج ۳، ص ۵۲۶.

② ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷.

③ یعنی شادی نہ کرنے۔

④ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷.

و ”الدرالمختار“، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۲۸.

⑤ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷.

⑥ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۷-۲۱۸.

⑦ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۸.

(عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳۰ جس کے پاس سال بھر کے خرچ کاغذ ہو تو یہ لازم نہیں کہ بیچ کر حج کو جائے اور اس سے زائد ہے تو اگر زائد کے بیچنے میں حج کا سامان ہو سکتا ہے تو فرض ہے ورنہ نہیں۔^(۱) (منک)

مسئلہ ۳۱ دینی کتابیں اگر اہل علم کے پاس ہیں جو اسکے کام میں رہتی ہیں تو انھیں بیچ کر حج کرنا ضروری نہیں اور بے علم کے پاس ہوں اور اتنی ہیں کہ بیچے تو حج کر سکے گا تو اس پر حج فرض ہے۔ یوہیں طب اور ریاضی وغیرہ کی کتابیں اگر چہ کام میں رہتی ہوں اگر اتنی ہوں کہ بیچ کر حج کر سکتا ہے تو حج فرض ہے۔^(۲) (عالمگیری، ردالمحتار)

۸ وقت

یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائے جائیں اور اگر دُور کارہنے والا ہو تو جس وقت وہاں کے لوگ جاتے ہوں اس وقت شرائط پائے جائیں اور اگر شرائط ایسے وقت پائے گئے کہ اب نہیں پہنچے گا تو فرض نہ ہوا۔ یوہیں اگر عادت کے موافق سفر کرے تو نہیں پہنچے گا اور تیزی اور رَواری^(۳) کر کے جائے تو پہنچ جائے گا جب بھی فرض نہیں اور یہ بھی ضرور ہے کہ نمازیں پڑھ سکے، اگر اتنا وقت ہے کہ نمازیں وقت میں پڑھے گا تو نہ پہنچے گا اور نہ پڑھے تو پہنچ جائے گا تو فرض نہیں۔^(۴) (ردالمحتار)

وجوبِ ادا کے شرائط

یہاں تک وجوب کے شرائط کا بیان ہوا اور شرائطِ ادا کہ وہ پائے جائیں تو خود حج کو جانا ضروری ہے اور سب نہ پائے جائیں تو خود جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کرا سکتا ہے یا وصیت کر جائے مگر اس میں یہ بھی ضرور ہے کہ حج کرانے کے بعد آخر عمر تک خود قادر نہ ہو ورنہ خود بھی کرنا ضرور ہوگا۔ وہ شرائط یہ ہیں:

① راستہ میں امن ہونا یعنی اگر غالب گمانِ سلامتی ہو تو جانا واجب اور غالب گمان یہ ہو کہ ڈاکے وغیرہ سے جان ضائع ہو جائے گی تو جانا ضرور نہیں، جانے کے زمانے میں امن ہونا شرط ہے پہلے کی بدامنی قابلِ لحاظ نہیں۔^(۵)

① "باب المناسک" للسندي، "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط" للقاري، (باب شرائط الحج)، ص ۴۵.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۸.

و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ج ۳، ص ۵۲۸.

③ یعنی جلدی۔

④ "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج ۳، ص ۵۳۴.

⑤ المرجع السابق، ص ۵۳۰. و "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول، ج ۱، ص ۲۱۸.

(ردالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ اگر بدامنی کے زمانے میں انتقال ہو گیا اور وجوب کی شرطیں پائی جاتی تھیں تو حج بدل کی وصیت ضروری ہے اور امن قائم ہونے کے بعد انتقال ہوا تو بطریق اولیٰ وصیت واجب ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۳ اگر امن کے لیے کچھ رشوت دینا پڑے جب بھی جانا واجب ہے اور یہ اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے مجبور ہے لہذا اس دینے والے پر مواخذہ نہیں۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۴ راستہ میں چوگٹی وغیرہ لیتے ہوں تو یہ امن کے منافی نہیں اور نہ جانے کے لیے عذر نہیں۔^(۳) (درمختار) یو ہیں ینکہ کہ آج کل حجاج کو لگائے جاتے ہیں یہ بھی عذر نہیں۔

② عورت کو مکہ تک جانے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہو تو اُس کے ہمراہ شوہر یا محرم ہونا شرط ہے، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بوڑھیا اور تین دن سے کم کی راہ ہو تو بغیر محرم اور شوہر کے بھی جاسکتی ہے۔^(۴)

محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اُس عورت کا نکاح حرام ہے، خواہ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو، جیسے باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ یا دودھ کے رشتہ سے نکاح کی حرمت ہو، جیسے رضاعی بھائی، باپ، بیٹا وغیرہ یا سسرالی رشتہ سے حرمت آئی، جیسے خسر، شوہر کا بیٹا وغیرہ۔

شوہر یا محرم جس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اُس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے۔ مجنون یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں

① "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی قولہم یقدم حق العبد علی حق الشرع، ج ۳، ص ۵۳۰.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی قولہم یقدم حق العبد علی حق الشرع، ج ۳، ص ۵۳۰.

③ "الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۳۱.

④ یہ ظاہر الروایہ ہے۔ مگر ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری "المسلك المتقسط فی المنسک المتوسط" صفحہ 57 پر تحریر فرماتے ہیں:

"امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ سے عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے ایک دن کا سفر کرنے کی کراہیت بھی مروی ہے۔ فتنہ و فساد کے

زمانے کی وجہ سے اسی قول (ایک دن) پر فتویٰ دینا چاہیے۔" ("المسلك المتقسط"، ص ۵۷. "ردالمحتار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۳۳)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے ساتھ لیے سفر کو جانا حرام ہے، اس میں کچھ حج کی

خصوصیت نہیں، کہیں ایک دن کے راستہ پر بغیر شوہر یا محرم جائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ (فتاویٰ رضویہ، کتاب الحج، ج ۱۰، ص ۶۵۷)

"بہار شریعت" حصہ 4، نماز مسافر کا بیان، صفحہ 101 پر ہے کہ "عورت کو بغیر محرم کے تین دن یا زیادہ کی راہ جانا، ناجائز ہے بلکہ ایک دن

کی راہ جانا بھی۔" (عالمگیری وغیرہ) لہذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔

جاسکتی آزاد یا مسلمان ہونا شرط نہیں، البتہ مجوسی جس کے اعتقاد میں محارم سے نکاح جائز ہے اُس کے ہمراہ سفر نہیں کر سکتی۔ مراہق و مراہقہ یعنی لڑکا اور لڑکی جو بالغ ہونے کے قریب ہوں بالغ کے حکم میں ہیں یعنی مراہق کے ساتھ جاسکتی ہے اور مراہقہ کو بھی بغیر محرم یا شوہر کے سفر کی ممانعت ہے۔⁽¹⁾ (جوہرہ، عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳۵ عورت کا غلام اس کا محرم نہیں کہ اُس کے ساتھ نکاح کی حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں کہ اگر آزاد کر دے تو اُس سے نکاح کر سکتی ہے۔⁽²⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۳۶ باندیوں کو بغیر محرم کے سفر جائز ہے۔⁽³⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۳۷ اگر چہ زنا سے بھی حرمت نکاح ثابت ہوتی ہے، مثلاً جس عورت سے معاذ اللہ زنا کیا اُس کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، مگر اُس لڑکی کو اُس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۸ عورت بغیر محرم یا شوہر کے حج کو گئی تو گنہگار ہوئی، مگر حج کرے گی تو حج ہو جائے گا یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔⁽⁵⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۳۹ عورت کے نہ شوہر ہے، نہ محرم تو اس پر یہ واجب نہیں کہ حج کے جانے کے لیے نکاح کر لے اور جب محرم ہے تو حج فرض کے لیے محرم کے ساتھ جائے اگر چہ شوہر اجازت نہ دیتا ہو۔ نفل اور منت کا حج ہو تو شوہر کو منع کرنے کا اختیار ہے۔⁽⁶⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۴۰ محرم کے ساتھ جائے تو اس کا نفقہ عورت کے ذمہ ہے، لہذا اب یہ شرط ہے کہ اپنے اور اُس کے دونوں کے نفقہ پر قادر ہو۔⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

① "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، ص ۱۹۳. و "الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۳۱.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیتہ... إلخ، ج ۱، ص ۲۱۸-۲۱۹.

② "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، ص ۱۹۳.

③ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، ص ۱۹۳. ہکذا فی الجوہرۃ النیرۃ لکن فی شرح اللباب والفتویٰ: علیٰ أنہ یکرہ

فی زماننا. (انظر: "ردالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۳۲).

④ "ردالمختار"، کتاب الحج، مطلب فی قولہم یقدم حق العبد علی حق الشرع، ج ۳، ص ۵۳۱.

⑤ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، ص ۱۹۳.

⑥ المرجع السابق.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحج، مطلب فی قولہم یقدم حق العبد علی حق الشرع، ج ۳، ص ۵۳۲.

- ③ جانے کے زمانے میں عورت عدت میں نہ ہو، وہ عدت وقات کی ہو یا طلاق کی، بائن کی ہو یا رجعی کی۔⁽¹⁾
- ④ قید میں نہ ہو مگر جب کسی حق کی وجہ سے قید میں ہو اور اُس کے ادا کرنے پر قادر ہو تو یہ عذر نہیں اور بادشاہ اگر حج کے جانے سے روکتا ہو تو یہ عذر ہے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

صحت ادا کے شرائط

صحت ادا کے لیے نو شرطیں ہیں کہ وہ نہ پائی جائیں تو حج صحیح نہیں:

- ① اسلام، کافر نے حج کیا تو نہ ہوا۔
- ② احرام، بغیر احرام حج نہیں ہو سکتا۔
- ③ زمان یعنی حج کے لیے جو زمانہ مقرر ہے اُس سے قبل افعال حج نہیں ہو سکتے، مثلاً طوافِ قدوم و سعی کہ حج کے مہینوں سے قبل نہیں ہو سکتے اور وقوفِ عرفہ نویں کے زوال سے قبل یا دسویں کی صبح ہونے کے بعد نہیں ہو سکتا اور طواف زیارت دسویں سے قبل نہیں ہو سکتا۔
- ④ مکان، طواف کی جگہ مسجد الحرام شریف ہے اور وقوف کے لیے عرفات و مزدلفہ، کنکری مارنے کے لیے منیٰ، قربانی کے لیے حرم، یعنی جس فعل کے لیے جو جگہ مقرر ہے وہ وہیں ہوگا۔
- ⑤ تمیز۔
- ⑥ عقل، جس میں تمیز نہ ہو جیسے ناسمجھ بچہ یا جس میں عقل نہ ہو جیسے مجنون۔ یہ خود وہ افعال نہیں کر سکتے جن میں نیت کی ضرورت ہے، مثلاً احرام یا طواف، بلکہ ان کی طرف سے کوئی اور کرے اور جس فعل میں نیت شرط نہیں، جیسے وقوفِ عرفہ وہ یہ خود کر سکتے ہیں۔
- ⑦ فرائض حج کا بجالانا مگر جب کہ عذر ہو۔
- ⑧ احرام کے بعد اور وقوف سے پہلے جماع نہ ہونا اگر ہوگا حج باطل ہو جائے گا۔
- ⑨ جس سال احرام باندھا اسی سال حج کرنا، لہذا اگر اُس سال حج فوت ہو گیا تو عمرہ کر کے احرام کھول دے اور سال آئندہ جدید احرام سے حج کرے اور اگر احرام نہ کھولا بلکہ اسی احرام سے حج کیا تو حج نہ ہوا۔

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بمال حرام، ج ۳، ص ۵۳۴۔

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی قولہم یقدم حق العبد علی حق الشرع، ج ۳، ص ۵۲۴۔

حج فرض ادا ہونے کے شرائط

حج فرض ادا ہونے کے لیے نو شرطیں ہیں:

- ① اسلام۔
- ② مرتے وقت تک اسلام ہی پر رہنا۔
- ③ عاقل۔
- ④ بالغ ہونا۔
- ⑤ آزاد ہونا۔
- ⑥ اگر قادر ہو تو خود ادا کرنا۔
- ⑦ نفل کی نیت نہ ہونا۔
- ⑧ دوسرے کی طرف سے حج کرنے کی نیت نہ ہونا۔
- ⑨ فاسد نہ کرنا۔^(۱) ان میں بہت باتوں کی تفصیل مذکور ہو چکی بعض کی آئندہ آئے گی۔

حج کے فرائض

مسئلہ ۴۱ حج میں یہ چیزیں فرض ہیں:

- ① احرام، کہ یہ شرط ہے۔
- ② وقوف عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے دسویں کی صبح صادق سے پیشتر تک کسی وقت عرفات میں ٹھہرنا۔
- ③ طواف زیارت کا اکثر حصہ، یعنی چار پھیرے پچھلی دونوں چیزیں یعنی وقوف و طواف رکن ہیں۔
- ④ نیت۔
- ⑤ ترتیب یعنی پہلے احرام باندھنا پھر وقوف پھر طواف۔
- ⑥ ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا، یعنی وقوف اُس وقت ہونا جو مذکور ہو اس کے بعد طواف اس کا وقت وقوف کے بعد سے آخر عمر تک ہے۔

①....."لباب المناسک" (باب شرائط الحج) ص ۶۲.

⑦ مکان یعنی وقوف زمین عرفات میں ہونا سوا بطنِ عنہ کے اور طواف کا مکان مسجد الحرام شریف ہے۔ (1)

(درمختار، ردالمحتار)

حج کے واجبات

حج کے واجبات یہ ہیں:

(۱) میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے بغیر احرام نہ گزرنا اور اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو جائز ہے۔

(۲) صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا اس کو سعی کہتے ہیں۔

(۳) سعی کو صفا سے شروع کرنا اور اگر مروہ سے شروع کی تو پہلا پھیرا شمار نہ کیا جائے، اُس کا اعادہ کرے۔

(۴) اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا، سعی کا طواف معتد بہ کے بعد یعنی کم سے کم چار پھیروں کے بعد ہونا۔

(۵) دن میں وقوف کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا ہو یا بعد

میں، غرض غروب تک وقوف میں مشغول رہے اور اگر رات میں وقوف کیا تو اس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں مگر وہ اُس واجب کا تارک ہو کہ دن میں غروب تک وقوف کرتا۔

(۶) وقوف میں رات کا کچھ جز آجانا۔

(۷) عرفات سے واپسی میں امام کی متابعت کرنا یعنی جب تک امام وہاں سے نہ نکلے یہ بھی نہ چلے، ہاں اگر امام نے

وقت سے تاخیر کی تو اُسے امام کے پہلے چلا جانا جائز ہے اور اگر بھیڑ وغیرہ کسی ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد ٹھہر گیا ساتھ نہ گیا جب بھی جائز ہے۔

(۸) مزدلفہ میں ٹھہرنا۔

(۹) مغرب و عشا کی نماز کا وقت عشا میں مزدلفہ میں آ کر پڑھنا۔

(۱۰) تینوں جمروں پر دسویں، گیارہویں، بارہویں تینوں دن کنکریاں مارنا یعنی دسویں کو صرف جمرۃ العقبہ پر اور

گیارہویں بارہویں کو تینوں پر رمی کرنا۔

(۱۱) جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا۔

(۱۲) ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا۔

(۱۳) سر مونڈانا یا بال کتر وانا۔ (۱۴) اور اُس کا ایامِ نحر اور (۱۵) حرم شریف میں ہونا اگر چہ منیٰ میں نہ ہو۔

(۱۶) قرآن اور تمتع والے کو قربانی کرنا اور

(۱۷) اس قربانی کا حرم اور ایامِ نحر میں ہونا۔

(۱۸) طوافِ افاضہ کا اکثر حصہ ایامِ نحر میں ہونا۔ عرفات سے واپسی کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اُس کا نام طوافِ

افاضہ ہے اور اُسے طوافِ زیارت بھی کہتے ہیں۔ طوافِ زیارت کے اکثر حصہ سے جتنا زائد ہے یعنی تین پھیرے ایامِ نحر کے غیر میں بھی ہو سکتا ہے۔

(۱۹) طوافِ حطیم کے باہر سے ہونا۔

(۲۰) دہنی طرف سے طواف کرنا یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب ہو۔

(۲۱) عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا، یہاں تک کہ اگر گھسٹتے ہوئے طواف کرنے کی منت مانی جب بھی

طواف میں پاؤں سے چلنا لازم ہے اور طوافِ نفل اگر گھسٹتے ہوئے شروع کیا تو ہو جائے گا مگر افضل یہ ہے کہ چل کر طواف کرے۔

(۲۲) طواف کرنے میں نجاستِ حکمیہ سے پاک ہونا، یعنی جنب^(۱) و بے وضو نہ ہونا، اگر بے وضو یا جنابت میں طواف

کیا تو اعادہ کرے۔

(۲۳) طواف کرتے وقت ستر چھپا ہونا یعنی اگر ایک عضو کی چوتھائی یا اس سے زیادہ حصہ کھلا رہا تو دم واجب ہوگا اور

چند جگہ سے کھلا رہا تو جمع کریں گے، غرض نماز میں ستر کھلنے سے جہاں نماز فاسد ہوتی ہے یہاں دم واجب ہوگا۔

(۲۴) طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا، نہ پڑھی تو دم واجب نہیں۔

(۲۵) کنکریاں پھینکنے اور ذبح اور سر منڈانے اور طواف میں ترتیب یعنی پہلے کنکریاں پھینکنے پھر غیر مفرد قربانی کرے

پھر سر منڈائے پھر طواف کرے۔

(۲۶) طوافِ صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا۔ اگر حج کرنے والی حیض یا

نفاس سے ہے اور طہارت سے پہلے قافلہ روانہ ہو جائے گا تو اس پر طوافِ رخصت نہیں۔

①..... یعنی جس پر جماع یا احتلام یا شہوت کے ساتھ منیٰ خارج ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو۔

(۲۷) وقوف عرفہ کے بعد سرمنڈانے تک جماع نہ ہونا۔

(۲۸) احرام کے ممنوعات، مثلاً سلا کپڑا پہننے اور مونھ یا سر چھپانے سے بچنا۔^(۱)

مسئلہ ۳۲ واجب کے ترک سے دم لازم آتا ہے خواہ قصد ترک کیا ہو یا سہواً خطا کے طور پر ہو یا نسیان کے، وہ شخص اس کا واجب ہونا جانتا ہو یا نہیں، ہاں اگر قصد کرے اور جانتا بھی ہے تو گنہگار بھی ہے مگر واجب کے ترک سے حج باطل نہ ہوگا، البتہ بعض واجب کا اس حکم سے استثناء ہے کہ ترک پر دم لازم نہیں، مثلاً طواف کے بعد کی دونوں رکعتیں یا کسی عذر کی وجہ سے سر نہ منڈانا یا مغرب کی نماز کا عشا تک مؤخر نہ کرنا یا کسی واجب کا ترک، ایسے عذر سے ہو جس کو شرع نے معتبر رکھا ہو یعنی وہاں اجازت دی ہو اور کفارہ ساقط کر دیا ہو۔

حج کی سنتیں

- ① طوافِ قدوم یعنی میقات کے باہر سے آنے والا مکہ معظمہ میں حاضر ہو کر سب میں پہلا جو طواف کرے اُسے طوافِ قدوم کہتے ہیں۔ طوافِ قدوم مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے، متمتع کے لیے نہیں۔
- ② طواف کا حجرِ اسود سے شروع کرنا۔
- ③ طوافِ قدوم یا طوافِ فرض میں رمل کرنا۔
- ④ صفا و مروہ کے درمیان جو دو میل اخضر ہیں، اُن کے درمیان دوڑنا۔
- ⑤ امامِ کاملہ میں ساتویں گوا اور
- ⑥ عرفات میں نویں گوا اور
- ⑦ منیٰ میں گیارہویں کو خطبہ پڑھنا۔
- ⑧ آٹھویں کی فجر کے بعد مکہ سے روانہ ہونا کہ منیٰ میں پانچ نمازیں پڑھ لی جائیں۔
- ⑨ نویں رات منیٰ میں گزارنا۔
- ⑩ آفتاب نکلنے کے بعد منیٰ سے عرفات کو روانہ ہونا۔
- ⑪ وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا۔

①..... "لباب المناسک" للسندي، (فصل فی واجباتہ) ص ۶۸-۷۳۔

و"الفتاویٰ الرضویة"، ج ۱۰ ص ۷۸۹-۷۹۱، وغیرہ۔

۱۲) عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات کو رہنا اور

۱۳) آفتاب نکلنے سے پہلے یہاں سے منیٰ کو چلا جانا۔

۱۴) دس اور گیارہ کے بعد جو دونوں راتیں ہیں اُن کو منیٰ میں گزارنا اور اگر تیرہویں کو بھی منیٰ میں رہا تو بارہویں کے بعد

کی رات کو بھی منیٰ میں رہے۔

۱۵) ایلح یعنی وادی جھب میں اترنا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو اور ان کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں، جن کا ذکر اثنائے

بیان میں آئے گا۔ نیز حج کے مستحبات و مکروہات کا بیان بھی موقع موقع سے آئے گا۔

اب حرمین طہین کی روانگی کا قصد کرو اور آداب سفر و مقدمات حج جو لکھے جاتے ہیں اُن پر عمل کرو۔

آدابِ سفر و مقدماتِ حج کا بیان

(۱) جس کا قرض آتایا امانت پاس ہو ادا کر دے، جن کے مال ناحق لیے ہوں واپس دے یا معاف کرا لے، پتہ نہ چلے

تو اتنا مال فقیروں کو دیدے۔

(۲) نماز، روزہ، زکاۃ جتنی عبادات ذمہ پر ہوں ادا کرے اور تائب ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔

(۳) جس کی بے اجازت سفر مکروہ ہے جیسے ماں، باپ، شوہر اُسے رضامند کرے، جس کا اس پر قرض آتا ہے اُس

وقت نہ دے سکے تو اُس سے بھی اجازت لے، پھر حج فرض کسی کے اجازت نہ دینے سے روک نہیں سکتا، اجازت میں کوشش

کرے نہ ملے جب بھی چلا جائے۔

(۴) اس سفر سے مقصود صرف اللہ (عزوجل) و رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہوں، برباد و سماع و فخر سے جدا رہے۔

(۵) عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابل اطمینان نہ ہو، جس سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے سفر حرام ہے،

اگر کرے گی حج ہو جائے گا مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔

(۶) توشہ مال حلال سے لے ورنہ قبول حج کی امید نہیں اگرچہ فرض اتر جائے گا، اگر اپنے مال میں کچھ شہبہ ہو تو قرض

لے کر حج کو جائے اور وہ قرض اپنے مال سے ادا کر دے۔

(۷) حاجت سے زیادہ توشہ لے کہ رفیقوں کی مدد اور فقیروں پر تصدق کرتا چلے، یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔

(۸) عالم کتب فقہ بقدر کفایت ساتھ لے اور بے علم کسی عالم کے ساتھ جائے۔ یہ بھی نہ ملے تو کم از کم یہ رسالہ ہمراہ ہو۔

(۹) آئینہ، سرمہ، کنگھا، مسواک ساتھ رکھے کہ سنت ہے۔

(۱۰) اکیلا سفر نہ کرے کہ منع ہے۔ رفیق دیندار صالح ہو کہ بددین کی ہمراہی سے اکیلا بہتر، رفیق اجنبی کنبہ والے سے بہتر ہے۔

(۱۱) حدیث میں ہے، ”جب تین آدمی سفر کو جائیں اپنے میں ایک کو سردار بنا لیں۔“ (۱) اس میں کاموں کا انتظام رہتا ہے، سردار اُسے بنائیں جو خوش خلق عاقل دیندار ہو، سردار کو چاہیے کہ رفیقوں کے آرام کو اپنی آسائش پر مقدم رکھے۔

(۱۲) چلتے وقت سب عزیزوں دوستوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائے اور اب اُن پر لازم کہ دل سے معاف کر دیں۔ حدیث میں ہے: ”جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت لائے واجب ہے کہ قبول کر لے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا۔“ (۲)

(۱۳) وقت رخصت سب سے دعا کرائے کہ برکت پائے گا کہ دوسروں کی دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے اور یہ نہیں معلوم کہ کس کی دعا مقبول ہو۔ لہذا سب سے دعا کرائے اور وہ لوگ حاجی یا کسی کو رخصت کریں تو وقت رخصت یہ دعا پڑھیں:

اَسْتُوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ . (۳)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اور اگر چاہے اس پر اتنا اضافہ کرے۔

وَعَفَّرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ زُوِّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوَىٰ وَجَنَّكَ الرِّدْيَ . (۴)

(۱۴) اُن سب کے دین، جان، مال، اولاد، تندرستی، عافیت خدا کو سونپے۔

(۱۵) لباس سفر پہن کر گھر میں چار رکعت نفل الْحَمْدُ و قُلُّ سے پڑھ کر باہر نکلے۔ وہ رکعتیں واپس آنے تک اُس

کے اہل و مال کی نگہبانی کریں گی۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَنْتَشَرْتُ وَاَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اَعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ بِقَتْبِي

وَاَنْتَ رِجَائِي اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِي مَا اَهْمَنِي وَمَا لَا اَهْتَمُّ بِهِ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي عَزَّ جَارَكَ وَلَا اِلَهَ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ

زُوِّدْنِي التَّقْوَىٰ وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَجِّهْنِي اِلَى الْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون... إلخ، الحديث: ۲۶۰۸، ج ۳، ص ۵۱.

②..... ”المستدرک“، كتاب البر والصلة، باب بروا آباکم تبر ابناءکم بالحديث ۷۳۴۰، ج ۵، ص ۲۱۳. و فتاویٰ رضویہ، ج ۱۰، ص ۷۲۶.

③..... ترجمہ: اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین اور تیری امانت کو اور تیرے عمل کے خاتمہ کو۔ ۱۲

④..... ترجمہ: اور تیرے گناہ کو بخش دے اور تیرے لئے خیر میسر کرے، تو جہاں ہو اور تقویٰ کو تیرا توشہ کرے اور تجھے ہلاکت سے بچائے۔ ۱۲

وَكَاِبَةُ الْمُتَقَلَّبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَالِدِ . (1)

(۱۶) گھر سے نکلنے کے پہلے اور بعد کچھ صدقہ کرے۔

(۱۷) جدھر سفر کو جائے جمعرات یا ہفتہ یا پیر کا دن ہو اور صبح کا وقت مبارک ہے اور اہلِ جُمُعہ کو روزِ جُمُعہ قبلِ جُمُعہ سفر اچھا

نہیں۔

(۱۸) دروازہ سے باہر نکلتے ہی یہ دعا پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نُّزَلَّ اَوْ

نُزَلَّ اَوْ نُضِلَّ اَوْ نُضَلَّ اَوْ نُظْلِمَ اَوْ نُظْلَمَ اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يَجْهَلَ عَلَيْنَا اَحَدٌ . (2)

اور درود شریف کی کثرت کرے۔

(۱۹) سب سے رخصت کے بعد اپنی مسجد سے رخصت ہو، وقتِ کراہت نہ ہو تو اس میں دو رکعت نفل پڑھے۔

(۲۰) ضروریات سفر اپنے ساتھ لے اور سمجھدار اور واقف کار سے مشورہ بھی لے، پہننے کے کپڑے وافر ہوں اور متوسط

الحال شخص کو چاہیے کہ موٹے اور مضبوط کپڑے لے اور بہتر یہ کہ ان کو رنگ لے اور اگر خیال ہو کہ جاڑوں کا زمانہ آجائے گا تو کچھ

گرم کپڑے بھی ساتھ رکھے اور جاڑوں کا موسم ہو اور خیال ہو کہ واپسی تک گرمی آجائے گی تو کچھ گرمیوں کے کپڑے بھی لے

لے۔ بچھانے کے واسطے اگر چھوٹا سا روئی کا گدا بھی ہو تو بہت اچھا ہے کہ جہاز میں بلکہ اُونٹ پر بچھانے کے لیے بہت آرام دیتا

ہے بلکہ وہاں پہنچ کر بھی اس کی حاجت پڑتی ہے۔ کیونکہ ہندوستانی آدمی عموماً چار پائیوں پر سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ چٹائی

①..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تیری مدد سے میں نکلا اور تیری طرف متوجہ ہوا اور تیرے ساتھ میں نے اعتصام کیا اور تجھی پر توکل کیا، اے اللہ

(عزوجل)! تو میرا اعتماد ہے اور تو میری امید ہے۔ اے اللہ! تو میری کفایت کر اُس چیز سے جو مجھے فکر میں ڈالے اور اُس سے جس کی میں فکر نہیں کرتا اور

اُس سے جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تیری پناہ لینے والا باعزت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

اللہ! تقویٰ کو میرا زادِ راہ کر اور میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے خیر کی طرف متوجہ کر جدھر میں توجہ کروں۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا

ہوں سفر کی تکلیف سے اور واپسی کی برائی سے اور آرام کے بعد تکلیف سے اور اہل و مال و اولاد میں بُری بات دیکھنے سے۔ ۱۲

②..... ترجمہ: اللہ (عزوجل) کے نام کے ساتھ اور اللہ (عزوجل) کی مدد سے اور اللہ (عزوجل) پر توکل کیا میں نے اور گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت

نہیں مگر اللہ (عزوجل) سے، اے اللہ! ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ لغزش کریں یا ہمیں کوئی لغزش دے یا گمراہ ہوں یا گمراہ کیے

جائیں یا ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے یا جہالت کریں یا ہم پر کوئی جہالت کرے۔ ۱۲

وغیرہ پر سونے میں تکلیف ہوتی ہے اور گدے کی وجہ سے کچھ تلافی ہو جائے گی اور صابون بھی ساتھ لے جائے کہ اکثر اپنے ہاتھ سے کپڑے دھونے پڑتے ہیں کہ وہاں دھوبی میسر نہیں آتے۔

اور ایک دیسی کمنل بھی ہونا چاہیے کہ یہ اونٹ کے سفر میں بہت کام دیتا ہے جہاں چاہو بچھا لو بلکہ بعض مرتبہ جہاز پر بھی کام دیتا ہے اور شہد ف پڑانے کے لیے بوری کا ناٹ لے لیا جائے، چاقو اور ستلی اور سوا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور کچھ تھوڑی سی دوائیں بھی رکھ لے کہ اکثر حجاج کو ضرورت پڑتی ہے، مثلاً کھانسی، بخار، زکام، پچیش، بد ہضمی کہ ان سے کم لوگ بچتے ہیں۔ لہذا گل بنفشہ، خطمی، گاؤ زبان، ملیٹھی کہ یہ بخار، زکام، کھانسی میں کام دیں گی، پچیش کے لیے چاروں تخم یا کم از کم اسپغول ہو اور بد ہضمی کے لیے آلوائے بخارا، نمک سلیمانی ہو اور کوئی پورن بھی ساتھ ہو کہ اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً بادیان، پودینہ خشک، ہلبیلہ سیاہ، نمک سیاہ کہ انھیں کا پورن بنا لے کافی ہوگا، اور عرق کافور و پیپر منٹ ہو تو یہ بہت امراض میں کام دیتے ہیں۔

دوائیں ضرور ہوں کہ ان کی اکثر ضرورت پڑتی ہے اور میسر نہیں آتیں اگر تم کو خود ضرورت نہ ہوئی اور جس کو ضرورت پڑی اور تم نے دیدی وہ اُس کم پڑسی کی حالت میں تمہارے لیے کتنی دعائیں دے گا

اور برتنوں کی قسم سے اپنی حیثیت کے موافق ساتھ رکھے، ایک دیگھی ایسی جس میں کم از کم دو آدمیوں کا کھانا پک جائے یہ تو ضروری ہے کیونکہ اگر تنہا بھی ہے جب بھی بد کو کھانا دینا ہوگا اور اگر چند قسم کے کھانے کھانا چاہتا ہو تو اسی انداز سے پکانے کے برتن ساتھ ہوں اور پیالے رکابیاں بھی اسی انداز سے ہوں اور ہر شخص کو ایک مشکیزہ بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اولاً تو جہاز پر بھی پانی لینے میں آسانی ہوگی، دوم اونٹ پر بغیر اس کے کام نہیں چل سکتا کیونکہ پانی صرف منزل پر ملتا ہے پھر درمیان میں ملنا دشوار ہے بلکہ نہیں ملتا، اگر مشکیزہ ساتھ ہو تو اس میں پانی لے کر اونٹ پر رکھ لو گے کہ پینے کے بھی کام آئے گا اور وضو و طہارت کے لیے بھی اگر تمہارے پاس خود نہ ہو تو کس سے مانگو گے اور شاید ہی کوئی دے الا مَا شَاءَ اللہ .

اور ڈول رستی بھی ساتھ ہو کیونکہ بعض منزلوں پر بعض وقت خود بھرنا پڑتا ہے اور اکثر جگہ پانی بیچنے والے آجاتے ہیں اور جہاز کا نل بعض مرتبہ بند ہو جاتا ہے اس وقت اگر میٹھا پانی حاجت سے زیادہ نہ ہو تو وضو وغیرہ دیگر ضروریات میں سمندر سے پانی نکال کر کام چلا سکتے ہو۔

کچھ تھوڑے سے پھٹے پرانے کپڑے بھی ساتھ رکھو کہ جہاز پر استنجائے کھانے میں کام دیں گے۔

لوہے کا پو لھا بھی ساتھ رکھو کہ جہاز پر اس کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئلے والا پو لھا ہو تو بمبئی سے حسب

ضرورت کو نکلے بھی خرید لو اور لکڑی والا پلو لھا ہو تو لکڑی لے جانے کی حاجت نہیں۔ اس لیے کہ لکڑی جہاز والے کی طرف سے ضرورت کے لائق ملا کرتی ہے مگر اس صورت میں کلہاڑی کی حاجت پڑے گی کیونکہ جہاز پر موٹی موٹی لکڑیاں ملتی ہیں۔ انھیں چیرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور بمبئی سے کچھ لیمو ضرور لے لو کہ جہاز پر اکثر متلی آتی ہے۔ اُس وقت اس سے بہت تسکین ہوتی ہے، اگر جہاز پر سوار ہونے سے پہلے معمولی تللیں لے لی جائے تو چکر کم آئے گا۔

اور مٹی یا پتھر کی کوئی چیز بھی ہو کہ اگر تیمم کرنا پڑے تو کام دے کہ جہاز میں کس چیز پر تیمم کرو گے اور کچھ نہ ہو تو مٹی کا کوئی برتن ہی ہو جس پر روغن نہ کیا ہو کہ وہ اور کام میں بھی آئے گا اور اُس پر تیمم بھی ہو سکے گا۔ بعض حجاج کپڑے پر جس پر غبار کا نام بھی نہیں ہوتا تیمم کر لیا کرتے ہیں نہ یہ تیمم ہوا نہ اس تیمم سے نماز جائز۔

ایک اوگالداں ہونا چاہیے کہ جہاز میں اگر قے کی ضرورت محسوس ہو تو کام دے گا ورنہ کہاں قے کریں گے اور اس کے علاوہ تھوکنے کے لیے بھی کام دے گا۔ اس کے لیے بمبئی میں خاص اسی مطلب کے اوگالداں ٹین کے ملتے ہیں وہاں سے خرید لے اور ایک پیشاب کا برتن بھی ہو اس کی ضرورت بعض مرتبہ جہاز پر بھی پڑتی ہے۔ مثلاً چکر آتا ہے پاخانہ تک جانا دشوار ہے یہ ہوگا تو جہاں ہے وہیں پردہ کر کے فراغت کر سکے گا اور اونٹ پر شب میں بعض مرتبہ اترنے میں خطرہ ہوتا ہے یہ ہوگا تو اس کام کے لیے اترنے کی حاجت نہ ہوگی اس کے لیے بمبئی میں ٹین کا برتن جو خاص اسی کام کے لیے ہوتا ہے خرید لے۔ چائے بھی تھوڑی سا تھوڑی ساتھ ہو تو آرام دے گی کہ جہاز پر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ سمندر کی مرطوب ہوا کے اثر کو دفع کرتی ہے نیز بدو بہت شوق سے پیتے ہیں، اگر تم انھیں چائے پلاؤ گے تو تم سے بہت خوش رہیں گے اور آرام پہنچائیں گے۔ اس کی پیالیاں تام چینی کی زیادہ مناسب ہیں کہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں بلکہ کھانے پینے کے برتن بھی اسی کے ہوں تو بہتر ہے۔

تھوڑی موم بتیاں بھی ہوں کہ جہاز پر رات میں پاخانہ پیشاب کو جانے میں آرام دیں گی۔ پانی رکھنے کے لیے ٹین کے پیپے ہونے چاہیے کہ جہاز پر کام دیں گے اور منزل پر بھی۔ اچار چینی اگر ساتھ ہوں تو نہایت بہتر کہ ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اسباب رکھنے کے لیے ایک چیز کا بڑا صندوق ہونا چاہیے اور اس میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض مرتبہ جہاز میں مسافروں کی کثرت ہوتی ہے اور جگہ نہیں ملتی اگر یہ ہوگا تو تیسرے درجے کے مسافر کو بیٹھنے بلکہ تھوڑی تکلیف کے ساتھ اس پر لیٹ رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ اپنے صندوق اور بوری اور دیگر اسباب پر نام لکھ لو کہ اگر دوسرے کے سامان میں مل جائیں تو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔

احرام کے کپڑے یعنی تہبند اور چادر یہیں سے یا بمبئی سے لے لے کیونکہ احرام جہاز ہی پر باندھنا ہوگا اور بہتر یہ کہ دو

جوڑے ہوں کہ اگر میلا ہوا تو بدل سکیں گے۔ مستورات ساتھ ہوں تو اُن کے احرام کی حالت میں مونہ چھپانے کو کھجور کے سٹکے جو خاص اسی کام کے لیے بنتے ہیں بمبئی سے خرید لے کہ احرام میں عورتوں کو کسی ایسی چیز سے مونہ چھپانا جو چہرہ سے چپٹی ہو حرام ہے۔ کفن بھی ساتھ ہو کہ موت کا وقت معلوم نہیں یا اتنا تو ہوگا کہ وہ کپڑا اس زمین پاک پر پہنچ جائے گا اور اسے زمزم میں غوطہ دے لو گے اور گرمی کا موسم ہو تو پنکھا بھی ساتھ ہو۔

اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ کھانے کے لیے کیا لے جائے کیونکہ اس میں ہر شخص کی مختلف حالت ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہم کس طرح بسر کر سکتے ہیں پھر بھی اس کے متعلق بعض خاص باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ آٹا زیادہ نہ لے کیونکہ سمندر کی ہوا سے بہت جلد خراب ہو جاتا ہے اور اس میں سوئڈیاں پڑ جاتی ہیں صرف اتنا لے کہ جہاز پر کام دیدے یا کچھ زائد بلکہ گیہوں لے لے کہ اس کو جدہ یا مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ میں جہاں چاہے پسا سکتا ہے اور چاول ضرور ساتھ لے کہ اکثر کھجوری پکانی پڑتی ہے اور آلو بھی ہوں کہ متواتر دالِ وقت سے کھائی جاتی ہے اور استطاعت ہو تو بکرے، مرغیاں، انڈے ساتھ رکھ لے۔

جہاز پر بعض مرتبہ گوشت مل جاتا ہے مگر اس میں خیال کر لے کہ کسی کافر یا مُرتد کا ذبح کیا ہوا تو نہیں۔^(۱) مسالے پے ہوئے ہوں اور پیاز لہسن بھی ہوں، بڑیاں بھی ہوں تو بہتر ہے، مدینہ طیبہ کے راستے میں کئی منزلیں ایسی آتی ہیں جہاں دال نہیں گلتی، اس کے متعلق بھی کچھ انتظام کر لے، نیز مدینہ طیبہ جانے کے لیے مکہ معظمہ سے بھٹنے ہوئے چنے لے لے یا یہیں سے لیتا جائے کہ بعض مرتبہ اتنا موقع نہیں ملتا کہ دوسرے وقت کے لیے کھانا پکایا جائے ایسے وقت کام دیں گے۔ گھی حسبِ حیثیت زیادہ لے کہ بدوؤں کو زیادہ گھی دینا پڑتا ہے اور زیادہ گھی سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ مسور کی دال ضرور لے کہ جلد گلتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہی موقع ہوتا ہے کہ جلد کھانا تیار ہو جائے۔

(۲۱) خوشی خوشی گھر سے جائے اور ذکرِ الہی بکثرت کرے اور ہر وقت خوفِ خدا دل میں رکھے، غضب سے بچے،

لوگوں کی بات برداشت کرے، اطمینان و وقار کو ہاتھ سے نہ دے، بیکار باتوں میں نہ پڑے۔

①..... فتاویٰ عالمگیری میں ہے: مُرتد کا ذبیحہ مُردار ہے اگرچہ بسمِ اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ (عالمگیری ج ۲ ص ۲۵۵) اور اگر مسلمان کا ذبح کردہ گوشت ذبح سے لیکر کھانے تک ایک لمحے کیلئے بھی مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو کر اگر مُرتد یا غیر کتابی کافر کے قبضے میں گیا تو اس کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”اگر وقتِ ذبح سے وقتِ خریداری تک وہ گوشت مسلمان کی نگرانی میں رہے، بیچ میں کسی وقت مسلمان کی نگاہ سے غائب نہ ہو اور یوں اطمینان کافی حاصل ہو کہ یہ مسلمان کا ذبیحہ ہے، تو اس کا خریدنا، جائز اور کھانا حلال ہوگا۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۰ ص ۲۸۲)

(۲۲) گھر سے نکلے تو یہ خیال کرے جیسے دنیا سے جا رہا ہے۔ چلتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وُغْشَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ .
واپسی تک مال و اہل و عیال محفوظ رہیں گے۔

(۲۳) اسی وقت آیۃ الکرسی اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ سے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تک تَنْمِث کے سوا پانچ

سورتیں سب مع بسم اللہ پڑھے پھر آخر میں ایک بار بسم اللہ شریف پڑھ لے، راستہ بھر آرام سے رہے گا۔

(۲۴) نیز اس وقت ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾^(۱) ایک بار پڑھ لے، بالخیر

واپس آئیگا۔

(۲۵) ریل وغیرہ جس سواری پر سوار ہو، بسم اللہ تین بار کہے پھر اللہ اکبر اور الْحَمْدُ لِلَّهِ اور سُبْحَانَ اللَّهِ ہر ایک

تین تین بار، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایک بار پھر کہے:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾^(۲) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۰﴾^(۲) اُس کے شر

سے بچے۔

(۲۶) جب دریا میں سوار ہو یہ کہے:

﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمَرْسَهَا﴾^(۳) إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرُوا الْاَرْضَ

جَبِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۰﴾^(۳) ڈوبنے سے محفوظ

رہے گا۔

①..... پ ۲۰، القصص: ۸۵۔

ترجمہ: بے شک جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا تجھے واپسی کی جگہ کی طرف واپس کرنے والا ہے۔ ۱۲۔

②..... پ ۲۵، الزخرف: ۱۳-۱۴۔

ترجمہ: پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کیا اور ہم اس کو فرمانبردار نہیں بنا سکتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ۱۲۔

③..... اس دعا میں پہلی آیت سورہ ہود (آیت: ۴۱) کی ہے، جب کہ دوسری آیت سورہ زمر (آیت: ۶۷) کی ہے۔

ترجمہ: اللہ (عزوجل) کے نام کی مدد سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور انھوں نے اللہ (عزوجل) کی قدر


جیسی چاہیے نہ کی اور زمین پوری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہے اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں، پاک اور برتر ہے اُس سے جسے

اُس کا شریک بتاتے ہیں۔ ۱۲۔

(۲۷) جہاز پر سوار ہونے میں کوشش کرے کہ پہلے سوار ہو جائے کیونکہ جو پہلے پہنچ گیا اچھی اور کشادہ جگہ لے سکتا ہے اور جو جگہ یہ لے گا پھر اس کو کوئی ہٹانہ سکے گا اور اترنے میں جلدی نہ کرے کہ اس میں بعض مرتبہ کوئی سامان رہ جاتا ہے۔

(۲۸) تیسرے درجہ میں سفر کرنے والا جہاز پر بچھانے کو چٹائی ضرور لے لے ورنہ بستر اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ چند ہمراہی ہوں تو بعض نیچے کے کمرہ میں جگہ لیں اور بعض اوپر کے، کہ اگر گرمی معلوم ہوئی تو نیچے والے اوپر کے درجہ میں آ کر بیٹھ سکیں گے اور سردی معلوم ہوئی تو یہ ان کے پاس چلے جائیں گے۔

(۲۹) جب بمبئی سے روانہ ہوں گے قبلہ کی سمت بدلتی رہے گی اس کے لیے ایک نقشہ دیا جاتا ہے، اس سے سمت قبلہ معلوم کر سکو گے۔ قطب نما پاس رکھا جائے، جدھر وہ قطب بتائے اسی طرف اس دائرہ کا خط شمال کر دیا جائے پھر جس سمت کو قبلہ لکھا ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔



(۳۰) جدہ میں جہاز کنارہ پر نہیں کھڑا ہوتا جیسے بمبئی میں گودی بنی ہے وہاں نہیں ہے بلکہ وہاں کشتیوں پر سوار ہو کر کنارے پہنچتے ہیں، یہ بات ضرور خیال میں رکھے کہ جس کشتی میں اپنا سامان ہو اسی میں خود بھی بیٹھے اگر ایسا نہ کیا بلکہ سامان کسی میں اتر اور اپنے آپ دوسری پر بیٹھا تو سامان ضائع ہو جانے کا خوف ہے یا کم از کم تلاش کرنے میں دقت ہوگی، کشتی والے بطور انعام کچھ مانگتے ہیں انھیں دیدیا جائے۔

(۳۱) اب یہاں سے سامان کی حفاظت میں پوری کوشش کرے، ہر کام میں نہایت چستی و ہوشیاری رکھے۔ کشتی سے

اُترنے کے بعد چوگی خانہ میں جسے جُزک کہتے ہیں سامان کی تفتیش ہوتی ہے اس میں فقط یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز تجارت کی غرض سے تو نہیں لایا ہے۔ اگر تجارتی سامان پائیں گے اُس کی چوگی لیں گے اور تجارتی سامان نہ ہو تو چاہے کتنی ہی کھانے پینے اور دیگر ضرورت کی چیزیں ہوں اُن سے کچھ تعرض⁽¹⁾ نہ کریں گے۔

(۳۲) مکہ معظمہ میں جتنے معلم ہیں اُن سب کے جدہ میں وکیل رہتے ہیں جب تم کشتی سے اُترو گے پھانک پر حکومت کا آدمی ہوگا کشتی کا کرایہ جو مقرر ہے وصول کر لے گا اور وہ تم سے پوچھے گا معلم کون ہے جس معلم کا نام لو گے اس کا وکیل تمہیں اپنے ساتھ لے گا اور وہ تمہارے سامان کو اُٹھوا کر اپنے یہاں یا کسی کرایہ کے مکان میں لے جائے گا اس وقت تمہیں چاہیے کہ اپنے سامان کے ساتھ خود جاؤ اور اگر تم کئی شخص ہو اور سامان زیادہ ہے تو بعض یہاں سامان کی نگرانی کریں بعض سامان کی گاڑی کے ساتھ جائیں۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ سامان گاڑی سے گر جاتا ہے اور گاڑی والے خیال بھی نہیں کرتے اس میں ان کا کیا نقصان ہے کوئی ضرورت کی چیز گر گئی تو تمہیں کو تکلیف ہوگی۔

(۳۳) جدہ میں پانی اکثر اچھا نہیں ملتا کچھ خفیف کھاری ہوتا ہے، پانی خریدو تو چکھ لیا کرو۔

(۳۴) مکہ معظمہ کے لیے اونٹ کا کرایہ کرنا اسی وکیل کا کام ہے اور اُس زمانہ میں حکومت کی طرف سے کرایہ مقرر ہو جاتا ہے جس سے کمی بیشی نہیں ہوتی۔ شcdf، شبری جس کی تمہیں خواہش ہو اُس کے موافق وکیل اونٹ کرایہ کر دے گا اور کرایہ پیشگی ادا کرنا ہوگا اور اسی اونٹ کے کرایہ میں دریا کے کنارے سے مکان تک اسباب لانے کی مزدوری اور مکان کا کرایہ اور وکیل کا مختانہ سب کچھ جوڑ لیا جاتا ہے تمہیں کسی چیز کے دینے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم پیدل جانا چاہو گے تو یہ تمام مصارف تم سے وکیل وصول کرے گا۔

(۳۵) شبری کی پوری قیمت لے لی جاتی ہے۔ اب وہ تمہاری ہوگی مکہ معظمہ پہنچ کر جو چاہو کرو اگر وہ مضبوط ہے تو مدینہ طیبہ کے سفر میں بھی کام دے گی۔ شcdf کا کرایہ لیا جاتا ہے کہ مکہ معظمہ پہنچ کر اب تمہیں اس سے سروکار نہیں ہاں اگر تم چاہو تو جدہ میں شcdf خرید بھی سکتے ہو جو پورے سفر میں تمہیں کام دے گا پھر جدہ پہنچ کر تھوڑے داموں پر فروخت بھی ہو سکتا ہے۔ شcdf میں زیادہ آرام ہے کہ آدمی سو بھی سکتا ہے اور شبری میں بیٹھا رہنا پڑتا ہے مگر اس میں سامان زیادہ رکھا جاسکتا ہے اور شcdf میں بہت کم۔

(۳۶) اگر اسباب زیادہ ہو تو مکہ معظمہ تک اس کے لیے الگ اونٹ کر لو اور جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہوں چاہو تو

① یہ اس زمانہ میں تھا اب اس زمانہ حکومت نجد یہ میں ایسا نہیں۔

یہیں جدہ ہی میں وکیل کے سپرد کر دو جب تم آؤ گے وکیل وہ چیز تمہارے حوالہ کر دے گا اور اس کا کرایہ مثلاً فی بوری یا فی صندوق آٹھ آنے یا کم و بیش کے حساب سے لے لے گا اگرچہ تمہاری واپسی چار پانچ مہینے کے بعد ہو۔

(۳۷) اگر جہاز کا ٹکٹ واپسی کا ہے تو اُسے با احتیاط رکھو اور اُس کا نمبر بھی لکھ لو کہ شاید ٹکٹ ضائع ہو جائے تو نمبر سے کام چل جائے گا اگرچہ دقت ہوگی اور تم کو اطمینان ہو تو ٹکٹ وکیل کے پاس رکھ سکتے ہو۔

(۳۸) کرایہ کے اونٹ وغیرہ پر جو کچھ بار کرو اُس کے مالک کو دکھا لو اور اس سے زیادہ بے اس کی اجازت کے کچھ نہ رکھو۔

(۳۹) جانور کے ساتھ نرمی کرو، طاقت سے زیادہ کام نہ لو، بے سبب نہ مارو، نہ کبھی مونہ پر مارو، حتی الوسع اس پر نہ سوؤ کہ سوتے کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے کسی سے بات وغیرہ کرنے کو کچھ دیر ٹھہرنا ہو تو اتر لو اگر ممکن ہو۔

(۴۰) صبح و شام اتر کر کچھ دُور پیادہ چل لینے میں دینی و دنیوی بہت فائدے ہیں۔

(۴۱) بدوؤں اور سب عربوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ سختی کریں ادب سے تحمل کرے اس پر

شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خصوصاً اہل حرمین، خصوصاً اہل مدینہ، اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کرے، نہ دل میں کدورت لائے، اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے۔

اے مکہ حمال عیب خویش تنید طعنہ بر عیب دیگران مکنید (۱)

(۴۲) جو عربی نہیں جانتا اُسے بعض شہ خُو جمال وغیرہم گالیاں بلکہ مغالطات تک دیتے ہیں ایسا اتفاق ہو تو شہید ہ

کو محض ناشنیدہ (۲) کر دیا جائے اور قلب پر بھی میل نہ لایا جائے۔ یو ہیں عوام اہل مکہ کہ سخت خُو و شہ مزاج ہیں اُن کی سختی پر نرمی لازم ہے۔

(۴۳) جمال یعنی اونٹ والوں کو یہاں کے سے کرایہ والے نہ سمجھے بلکہ اپنا مخدوم جانے اور کھانے پینے میں اُن سے

بُخل نہ کرے کہ وہ ایسوں ہی سے ناراض ہوتے ہیں اور تھوڑی بات میں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور امید سے زیادہ کام آتے ہیں۔

(۴۴) قبول حج کے لیے تین شرطیں ہیں:

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (۳)

①..... یعنی جو شخص اپنا عیب اٹھائے ہے، وہ دوسروں کے عیب پر طعنہ نہ دے۔

②..... یعنی سنی کو ان سنی

③..... پ ۲، البقرة: ۱۹۷۔

حج میں نہ فحش بات ہو، نہ ہماری نافرمانی، نہ کسی سے جھگڑا لڑائی۔

تو ان باتوں سے نہایت ہی دُور رہنا چاہیے، جب غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی معصیت کا خیال ہو فوراً سر جھکا کر قلب کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرے اور دو ایک بار لاحول شریف پڑھے، یہ بات جاتی رہے گی یہی نہیں کہ اسی کی طرف سے ابتدا ہو یا اس کے رُفقا (1) ہی کے ساتھ جدال بلکہ بعض اوقات امتحانِ راہِ چلتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ بے سبب اُلجھتے بلکہ سب و شتم و لعن و طعن کو تیار ہوتے ہیں، اسے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، مبادا (2) ایک دو کلمے میں ساری محنت اور روپیہ برباد ہو جائے۔

(۳۵) کمزور اور عورتوں کو اونٹ پر چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی جدہ میں لے لی جائے تو چڑھنے اُترنے میں آسانی ہوگی۔ جدہ سے مکہ معظمہ دو دن کا راستہ ہے صرف ایک منزل راستہ میں پڑتی ہے جس کو بحرہ کہتے ہیں، اب جب یہاں سے روانہ ہو تو ان تمام باتوں پر لحاظ رکھو جو لکھی جا چکیں اور جو آئندہ بیان ہوں گی۔

(۳۶) اونٹ پر عموماً دو شخص سوار ہوتے ہیں۔ شقدف اور شبری میں دونوں طرف بوجھ برابر رہنا ضرور ہے اگر ایک جانب کا آدمی ہلکا ہو تو اُدھر اسباب رکھ کر وزن برابر کر لیں۔ یوں بھی وزن برابر نہ ہو تو ہلکا آدمی اپنے شقدف یا شبری میں کنارہ بیرونی سے قریب ہو جائے اور بھاری آدمی اونٹ کی پیٹھ سے نزدیک ہو جائے۔

(۳۷) بعض مرتبہ کسی جانب کا پلہ جھک جاتا ہے اس کا خیال رکھو جب ایسا ہو تو فوراً اس طرح بیٹھ جاؤ کہ درست ہو جائے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے اونٹ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور شبری ہو تو گرنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس کے درست کرنے کو اونٹ والا میزان میزان کہہ کر تمہیں متنبہ کرے گا۔ تمہیں چاہیے کہ فوراً درست کر لو ورنہ اونٹ والا ناراض ہوگا۔

(۳۸) راہ میں کہیں چڑھائی آتی ہے کہیں اُتار، جب چڑھائی ہو خوب آگے اونٹ کی گردن کے قریب دونوں آدمی ہو جائیں اور جب اُتار ہو خوب پیچھے دُم کے نزدیک ہو جائیں۔ جب راہ ہموار آئے پھر بیچ میں ہو جائیں یہ نشیب و فراز کبھی آدمی کے سوتے میں آتے ہیں یا اُسے اس طرف التفات نہیں ہوتا، اس وقت جمال جگاتا اور متنبہ کرتا ہے اول اول یا گدّ ام گدّ ام کہے تو آگے کو سرک کر بیٹھ جاؤ اور اگر وراء وراء کہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اور بعض بدو ایک آدھ لفظ ہندی سیکھے ہوئے فیشو فیشو کہتے ہیں یعنی پیچھے پیچھے اور کبھی غلطی سے آگے کہنا ہوتا ہے اور فیشو کہتے ہیں۔ دیکھ کر صحیح بات پر فوراً عمل کیا جائے اور اُس جگانے پر ناراض نہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو تو معاذ اللہ گر جانے کا احتمال ہے۔

①..... رفیق کی جمع۔ ساتھی۔ دوست۔

②..... یعنی ایسا نہ ہو۔ خدا نہ کرے۔

(۴۹) جب منزل پر پہنچو تو اترنے میں تاخیر مت کرو کہ دیر کرنے میں اونٹ والے ناراض ہوتے اور پریشان کرتے ہیں اور روانگی کے وقت بالکل تیار رہو۔ تمام ضروریات سے پہلے ہی فارغ ہو لو۔

(۵۰) اترنے اور چڑھنے کے وقت خصوصیت کے ساتھ بہت ہوشیاری اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے کہ ان دو وقتوں میں سامان کے ضائع ہونے اور چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس وقت بعض دفعہ چور بھی آجاتے ہیں جن کو وہاں کی زبان میں حرامی کہتے ہیں۔

(۵۱) منزلوں پر سودا بیچنے والے اور پانی لے کر بکثرت بدو آجاتے ہیں ان سے بھی احتیاط رکھو کہ بعض ان میں کے موقع پا کر کوئی چیز اٹھالے جاتے ہیں۔

(۵۲) جس منزل میں اترے، وہاں یہ دعا پڑھ لے:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اللَّهُمَّ أَعْطِنَا خَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَانْكَفِنَا شَرَّ هَذَا الْمَنْزِلِ وَشَرَّ مَا فِيهِ اللَّهُمَّ أَنْزِلْنِي مَنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ط (۱) ہر نقصان سے بچے گا اور بہتر یہ ہے کہ وہاں دو رکعت نماز پڑھے۔

(۵۳) منزل میں راستہ سے بچ کر اترے کہ وہاں سانپ وغیرہ موزیوں کا گزر ہوتا ہے۔

(۵۴) جب منزل سے کوچ کرے دو رکعت نماز پڑھ کر روانہ ہو۔ حدیث میں ہے، ”روزِ قیامت وہ منزل اُس کے حق میں اس امر کی گواہی دے گی۔“ (۲)

نیز انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی منزل میں اترتے دو رکعت نماز پڑھ کر وہاں سے رخصت ہوتے۔“ (۳)

(۵۵) راستہ پر پیشاب وغیرہ باعثِ لعنت ہے۔

(۵۶) منزل میں متفرق ہو کر نہ اتریں بلکہ ایک جگہ رہیں۔

(۵۷) اکثر رات کو قافلہ چلتا رہتا ہے اس حالت میں اگر سوؤ تو غافل ہو کر نہ سوؤ، بلکہ بہتر یہ ہے کہ دونوں آدمیوں

①..... ترجمہ: اللہ کے کلماتِ تامہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا الہی تو ہم کو اس منزل کی خیر عطا کر اور اس کی خیر جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے ہمیں بچا۔ الہی تو ہم کو برکت والی منزل میں اتار اور تو بہتر اتارنے والا ہے۔ ۱۴

②.....

③..... ”المستدرک“، کتاب المناسک، کان لاینزل منزلاً الا ودعہ برکتین، الحدیث: ۱۶۷۷، ج ۲، ص ۹۲۔

میں جو ایک اونٹ پر سوار ہیں باری باری سے ایک سوئے ایک جاگتا رہے کہ ایسے وقت کہ دونوں غافل سو جائیں بعض مرتبہ چوری ہو جاتی ہے۔ شبری کے نیچے سے چور بوری کاٹ لے جاتے ہیں اور شقذ بھی بغل کی جانب سے چاک کر کے مال نکال لے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر موقع اور ہر محل پر ہوشیاری رکھو اور اللہ عز و جل پر اعتماد، پھر ان شاء اللہ العزیز الجلیل نہایت امن و امان کے ساتھ رہو گے۔

(۵۸) راستہ میں قضائے حاجت کے لیے دُور نہ جاؤ کہ خطرہ سے خالی نہیں اور ایک چھتری اپنے ساتھ ضرور رکھو اگر چہ سردی کا زمانہ ہو کہ قضائے حاجت کے وقت اس سے فی الجملہ پردہ ہو جائے گا اور بہتر یہ کہ تین چار لکڑیاں جن کے نیچے لوہا لگا ہو اور ایک موٹی بڑی چادر ساتھ رکھو کہ منزل پر لکڑیاں گاڑ کر چادر سے گھیر دو گے تو نہایت پردہ کے ساتھ رفع ضرورت کر سکو گے اور عورتیں ساتھ ہوں تو ایسا انتظام ضرور ہے کہ خوف کی وجہ سے وہ دُور نہ جاسکیں گی اور نزدیک میں سخت بے پردگی ہوگی۔

(۵۹) مکہ معظمہ سے جب مدینہ طیبہ کے لیے اونٹ کرایہ کریں تو ایک معلم کے جتنے حجاج ہیں وہ سب متفق ہو کر یہ شرط کر لیں کہ نماز کے اوقات میں قافلہ ٹھہرانا ہوگا، اس صورت میں نماز جماعت کے ساتھ آسانی ادا کر سکیں گے کہ جب یہ شرط ہوگی تو اونٹ والوں کو وقت نماز میں قافلہ روکنا پڑے گا اور اگر کسی وجہ سے نہ روک سکیں گے تو چند بدو حجاج کی حفاظت کریں گے کہ یہ باطمینان نماز ادا کر لیں پھر وہ اونٹ تک پہنچادیں گے۔

اور اگر شرط نہ کی تو صرف مغرب کے لیے قافلہ روکیں گے باقی نمازوں کے لیے نہیں اور اس صورت میں یہ کرے کہ نماز پڑھنے کے وقت اونٹ سے کچھ آگے نکل جائے اور نماز ادا کر کے پھر شامل ہو جائے اور قافلہ سے دُور نہ ہو کہ اکثر خطرہ ہوتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ سنت یا فرض پڑھنے تک قافلہ سب آگے نکل گیا تو باقی کے لیے پھر آگے بڑھ جائے ورنہ قافلہ سے زیادہ فاصلہ ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرض و وتر اور صبح کی سنت سواری پر جائز نہیں۔ اُن کو اتر کر پڑھے باقی سنتیں یا نفل اونٹ کی پیٹھ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔

تنبیہ: خبردار! خبردار! نماز ہرگز نہ ترک کرنا کہ یہ ہمیشہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس حالت میں اور سخت تر کہ جن کے دربار میں جاتے ہو راستہ میں انہیں کی نافرمانی کرتے چلو، تو بتاؤ کہ تم نے اُن کو راضی کیا یا ناراض۔ میں نے خود بہت سے حجاج کو دیکھا ہے کہ نماز کی طرف بالکل التفات نہیں کرتے، تھوڑی تکلیف پر نماز چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ شرعِ مطہر نے جب تک آدمی ہوش میں ہے نماز ساقط نہیں کی۔

(۶۰) سفرِ مدینہ طیبہ میں بعض مرتبہ قافلہ نہ ٹھہرنے کے باعث بجبوری ظہر و عصر ملا کر پڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے لازم

ہے کہ ظہر کے فرضوں سے فارغ ہونے سے پہلے ارادہ کر لے کہ اسی وقت عصر پڑھوں گا اور فرض ظہر کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھے یہاں تک کہ بیچ میں ظہر کی سنتیں بھی نہ ہوں اسی طرح مغرب کے بعد عشا بھی انھیں شرطوں سے جائز ہے اور اگر ایسا موقع ہو کہ عصر کے وقت ظہر یا عشا کے وقت مغرب پڑھنی ہو تو صرف اتنی شرط ہے کہ ظہر و مغرب کے وقت میں وقت نکلنے سے پہلے ارادہ کر لے کہ ان کو عصر و عشا کے ساتھ پڑھوں گا۔

(۶۱) جب وہ بستی نظر پڑے جس میں ٹھہرنا یا جانا چاہتا ہے یہ کہے:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيْطَانِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرْيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. (۱) یا صرف پچھلی دعا پڑھے، ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔

(۶۲) جس شہر میں جائے وہاں کے سنی عالموں اور باشرع فقیروں کے پاس ادب سے حاضر ہو، مزارات کی زیارت کرے، فضول سیر و تماشے میں وقت نہ کھوئے۔

(۶۳) جس عالم کی خدمت میں جائے وہ مکان میں ہو تو آواز نہ دے باہر آنے کا انتظار کرے، اُس کے حضور بے ضرورت کلام نہ کرے، بے اجازت لیے مسئلہ نہ پوچھے، اُس کی کوئی بات اپنی نظر میں خلاف شرع معلوم ہو تو اعتراض نہ کرے اور دل میں نیک گمان رکھے مگر یہ سنی عالم کے لیے ہے، بد مذہب کے سایہ سے بھاگے۔

(۶۴) ذکرِ خدا سے دل بہلائے کہ فرشتہ ساتھ رہے گا، نہ کہ شعر و لغویات سے کہ شیطان ساتھ ہوگا۔

(۶۵) رات کو زیادہ چلے کہ سفر جلد طے ہوتا ہے۔

(۶۶) ہر سفر خصوصاً سفرِ حج میں اپنے اور اپنے عزیزوں، دوستوں کے لیے دعا سے غافل نہ رہے کہ مسافر کی دعا قبول ہے۔

(۶۷) جب کسی مشکل میں مدد کی ضرورت ہو تین بار کہے:

يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعِينُونِي (۲) اے اللہ (عزوجل) کے نیک بندو! میری مدد کرو۔

①..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! ساتوں آسمانوں کے رب اور ان کے جن کو آسمانوں نے سایہ کیا اور ساتوں زمینوں کے رب اور ان کے جن کو زمینوں نے اٹھایا اور شیطانوں کے رب اور ان کے جن کو انھوں نے گمراہ کیا اور ہواؤں کے رب اور ان کے جن کو ہواؤں نے اڑایا۔ اے اللہ (عزوجل)! ہم تجھ سے اس بستی کی اور بستی والوں کی اور جو کچھ اس میں ہے اُن کی بھلائی کا سوال کرتے اور اس بستی کے اور بستی والوں کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اُس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ۱۲

②..... انظر: "مجمع الزوائد"، كتاب الاذكار، الحديث: ۱۷۱۰۳، ۱۷۱۰۴، ص ۱۸۸، ج ۱۰.

غیب سے مدد ہوگی یہ حکم حدیث میں ہے۔

(۶۸) جب سواری کا جانور بھاگ جائے اور پکڑ نہ سکو یہی پڑھو فوراً کھڑا ہو جائے گا۔

(۶۹) جب جانور شوخی کرے یہ دعا پڑھے:

﴿ أَفَعَيَّرِدِينِ اللَّهُ يَبْغُونَ وَلَةَ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ

يُرْجَعُونَ ﴾ (۱)

(۷۰) يَا صَمَدُ ۱۳۳ بار روز پڑھے، بھوک پیاس سے بچے گا۔

(۷۱) اگر دشمن یا رہزن کا ڈر ہو **لَا يَلْفُ** پڑھے، ہر بلا سے امان ہے۔

(۷۲) جب رات کی تاریکی پریشان کرنے والی آئے، یہ دعا پڑھے:

يَا أَرْضُ ارْتَبِي وَرَبُّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا

دَبَّ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنَ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنَ الْوَالِدِ وَمَا

وَلَدَهُ. (۲)

(۷۳) جب کہیں دشمنوں سے خوف ہو، یہ پڑھ لے:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. (۳)

(۷۴) جب غم و پریشانی لاحق ہو، یہ دعا پڑھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ

① پ ۳، آل عمران: ۸۳.

ترجمہ: کیا اللہ (عزوجل) کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کرتے ہیں اور اسی کے فرماں بردار ہیں، خوشی اور ناخوشی سے وہ جو آسمانوں اور زمین

میں ہیں اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ ۱۲

② ترجمہ: اے زمین میرا اور تیرا پروردگار اللہ (عزوجل) ہے، اللہ (عزوجل) کی پناہ مانگتا ہوں تیرے شر سے اور اُس کے جو تجھ میں

پیدا کی اور جو تجھ پر چلی اور اللہ (عزوجل) کی پناہ شیر اور کالے اور سانپ اور بچھو اور اس شہر کے بسنے والے سے اور شیطان اور اس کی اولاد

سے۔ ۱۲

③ ترجمہ: اے اللہ! (عزوجل) میں تجھ کو ان کے سینوں کے مقابل کرتا ہوں اور اُن کی بُرائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ۱۲

وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ . (1) اور ایسے وقت لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ط اور حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کی کثرت کرے۔

(۷۵) اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ کہے:

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ اِجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَ ضَالَّتِي . (2)
ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے گی۔

(۷۶) ہر بلندی پر چڑھتے اللہ اکبر کہے اور ڈھال میں اترتے سبحان اللہ۔

(۷۷) سوتے وقت ایک بار آیۃ الکرسی ہمیشہ پڑھے کہ چور اور شیطان سے امان ہے۔

(۷۸) نمازیں دونوں سرکاروں میں وقت شروع ہوتے ہی ہوتی ہیں، معاشرے وقت پر فوراً اذان اور تھوڑی دیر بعد تکبیر و جماعت ہو جاتی ہے، جو شخص کچھ فاصلہ پر ٹھہرا ہوا تہی گنجائش نہیں پاتا کہ اذان سن کر وضو کرے پھر حاضر ہو کر جماعت یا پہلی رکعت مل سکے اور وہاں کی بڑی برکت یہی طواف و زیارت اور نمازوں کی تکبیر اول ہے۔ لہذا اوقات پہچان رکھیں، اذان سے پہلے وضو طیار رہے، اذان سننے ہی فوراً چل دیں تو تکبیر اول ملے گی اور اگر صرف اول چاہیں، جس کا ثواب بے نہایت ہے جب تو اذان سے پہلے حاضر ہو جانا لازم ہے۔

(۷۹) واپسی میں بھی وہی طریقے ملحوظ رکھے، جو یہاں تک بیان ہوئے۔

(۸۰) مکان پر آنے کی تاریخ و وقت سے پیشتر اطلاع دیدے، بے اطلاع ہرگز نہ جائے خصوصاً رات میں۔

(۸۱) لوگوں کو چاہیے کہ حاجی کا استقبال کریں اور اس کے گھر پہنچنے سے قبل دعا کرائیں کہ حاجی جب تک اپنے گھر میں قدم نہیں رکھتا اس کی دعا قبول ہے۔

(۸۲) سب سے پہلے اپنی مسجد میں آ کر دو رکعت نفل پڑھے۔

(۸۳) دو رکعت گھر میں آ کر پڑھے پھر سب سے بکشادہ پیشانی ملے۔

①..... ترجمہ: اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمت والا علم والا ہے۔ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑے عرش کا مالک ہے۔ اللہ

(عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور بزرگ عرش کا مالک ہے۔ ۱۲

②..... ترجمہ: اے لوگوں کو اُس دن جمع کرنے والے جس میں شک نہیں، بے شک اللہ (عزوجل) وعدہ کا خلاف نہیں کرتا، میرے اور میری گئی

چیز کے درمیان جمع کر دے۔ ۱۲

(۸۴) عزیزوں دوستوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لائے اور حاجی کا تحفہ تبرکاتِ حرمین شریفین سے زیادہ کیا ہے اور دوسرا تحفہ دعا کا کہ مکان میں پہنچنے سے پہلے استقبال کرنے والوں اور سب مسلمانوں کے لیے کرے۔^(۱)

میقات کا بیان

میقات اُس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے جانے والے کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں اگرچہ تجارت وغیرہ کسی اور غرض سے جاتا ہو۔^(۲) (عامہ کتب)

مسئلہ ۱ - میقات پانچ ہیں:

① **ذوالحلیفہ**: یہ مدینہ طیبہ کی میقات ہے۔ اس زمانہ میں اس جگہ کا نام ایبار علی ہے۔ ہندوستانی یا اور ملک والے حج سے پہلے اگر مدینہ طیبہ کو جائیں اور وہاں سے پھر مکہ معظمہ کو تو وہ بھی ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں۔

② **ذاتِ عرق**: یہ عراق والوں کی میقات ہے۔

③ **جحفہ**: یہ شامیوں کی میقات ہے مگر جحفہ اب بالکل معدوم سا ہو گیا ہے وہاں آبادی نہ رہی، صرف بعض نشان پائے جاتے ہیں اس کے جاننے والے اب کم ہوں گے، لہذا اہل شام رابغ سے احرام باندھتے ہیں کہ جحفہ رابغ کے قریب ہے۔

④ **قرن**: یہ نجد^(۳) والوں کی میقات ہے، یہ جگہ طائف کے قریب ہے۔

⑤ **یلملم**: اہل یمن کے لیے۔

مسئلہ ۲ - یہ میقاتیں اُن کے لیے بھی ہیں جن کا ذکر ہوا اور انکے علاوہ جو شخص جس میقات سے گزرے اُس کے لیے وہی میقات ہے اور اگر میقات سے نہ گزرا تو جب میقات کے محاذی آئے اس وقت احرام باندھ لے، مثلاً ہندیوں کی میقات کوہِ یلملم کی محاذات ہے اور محاذات میں آنا اُسے خود معلوم نہ ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھ کر معلوم کرے اور اگر کوئی ایسا نہ ملے جس سے دریافت کرے تو تحریر کرے اگر کسی طرح محاذات کا علم نہ ہو تو مکہ معظمہ جب دو منزل باقی رہے

① انظر: "الفتاوی الرضویة"، ج ۹ ص ۷۲۶-۷۳۱، وغیرہ.

② "الهدایة"، کتاب الحج، ج ۱، ص ۱۳۳-۱۳۴، وغیرہ.

③ یعنی موجودہ ریاض۔

احرام باندھ لے۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ جو شخص دو میقاتوں سے گزرا، مثلاً شامی کہ مدینہ منورہ کی راہ سے ذوالحلیفہ آیا اور وہاں سے جحفہ کو تو افضل یہ ہے کہ پہلی میقات پر احرام باندھے اور دوسری پر باندھا جب بھی حرج نہیں۔ یوں اگر میقات سے نہ گزرا اور محاذات میں دو میقاتیں پڑتی ہیں تو جس میقات کی محاذات پہلے ہو، وہاں احرام باندھنا افضل ہے۔⁽²⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۴ مکہ معظمہ جانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ میقات کے اندر کسی اور جگہ مثلاً جدہ جانا چاہتا ہے تو اسے احرام کی ضرورت نہیں پھر وہاں سے اگر مکہ معظمہ جانا چاہے تو بغیر احرام جاسکتا ہے، لہذا جو شخص حرم میں بغیر احرام جانا چاہتا ہے وہ یہ حیلہ کر سکتا ہے بشرطیکہ واقعی اس کا ارادہ پہلے مثلاً جدہ جانے کا ہو۔ نیز مکہ معظمہ حج اور عمرہ کے ارادہ سے نہ جاتا ہو، مثلاً تجارت کے لیے جدہ جاتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ہے اور اگر پہلے ہی سے مکہ معظمہ کا ارادہ ہے تو اب بغیر احرام نہیں جاسکتا۔ جو شخص دوسرے کی طرف سے حج بدل کو جاتا ہو اسے یہ حیلہ جائز نہیں۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ میقات سے پیشتر احرام باندھنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے بشرطیکہ حج کے مہینوں میں ہو اور شوال سے پہلے ہو تو منع ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ جو لوگ میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں مگر حرم سے باہر ہیں ان کے احرام کی جگہ حل یعنی بیرون حرم ہے، حرم سے باہر جہاں چاہیں احرام باندھیں اور بہتر یہ کہ گھر سے احرام باندھیں اور یہ لوگ اگر حج یا عمرہ کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو بغیر احرام مکہ معظمہ جاسکتے ہیں۔⁽⁵⁾ (عامہ کتب)

مسئلہ ۷ حرم کے رہنے والے حج کا احرام حرم سے باندھیں اور بہتر یہ کہ مسجد الحرام شریف میں احرام باندھیں اور عمرہ کا بیرون حرم سے اور بہتر یہ کہ متعمیم سے ہو۔⁽⁶⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۸ مکہ والے اگر کسی کام سے بیرون حرم جائیں تو انھیں واپسی کے لیے احرام کی حاجت نہیں اور میقات سے

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثانی فی المواقیت، ج ۱، ص ۲۲۱.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی المواقیت، ج ۳، ص ۵۴۸-۵۵۱.

② "الفتاویٰ الہندیۃ" المرجع السابق. و "الدرالمختار کتاب الحج، مطلب فی المواقیت، ج ۳، ص ۵۵۰.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی المواقیت، ج ۳، ص ۵۵۲.

④ المرجع السابق.

⑤ "الہدایۃ"، کتاب الحج، ج ۱، ص ۱۳۴، وغیرہ.

⑥ "الدرالمختار کتاب الحج، مطلب فی المواقیت، ج ۳، ص ۵۵۴، وغیرہ.

باہر جائیں تو اب بغیر احرام واپس آنا نہیں جائز نہیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

احرام کا بیان

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزُودُوا قِانَ خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ يَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ ۗ﴾⁽²⁾

حج کے چند مہینے معلوم ہیں، جس نے ان میں حج (اپنے اوپر) لازم کیا (احرام باندھا) تو نہ فحش ہے، نہ فسق، نہ جھگڑنا حج میں اور جو کچھ بھلائی کرو اللہ (عزوجل) اسے جانتا ہے اور توشہ لو، بے شک سب سے اچھا توشہ تقویٰ ہے اور مجھی سے ڈرو، اے عقل والو!

اور فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ ۖ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ ۗ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَا آقَابِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَ ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ﴾⁽³⁾

اے ایمان والو! عقود پورے کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے، سوا ان کے جن کا تم پر بیان ہوگا مگر حالت احرام میں شکار کا قصد نہ کرو، بیشک اللہ (عزوجل) جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ (عزوجل) کے شعائر اور ماہِ حرام اور حرم کی قربانی اور جن جانوروں کے گلوں میں ہار ڈالے گئے (قربانی کی علامت کے لیے) ان کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ ان لوگوں کی جو خانہ کعبہ کا قصد اپنے رب کے فضل اور رضا طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں اور جب احرام کھولو، اُس وقت شکار کر سکتے ہو۔

حدیث ۱ صحیحین میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احرام کے لیے

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثانی فی المواقیت، ج ۱، ص ۲۲۱.

و"ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی المواقیت، ج ۳، ص ۵۵۴.

② پ ۲، البقرة: ۱۹۷.

③ پ ۶، المائدة: ۱-۲.

احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے لیے طواف سے پہلے خوشبو لگاتی جس میں مشک تھی، اُس کی چمک حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی مانگ میں احرام کی حالت میں گویا میں اب دیکھ رہی ہوں۔⁽¹⁾

حدیث ۲ — ابو داؤد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے غسل فرمایا۔⁽²⁾

حدیث ۳ — صحیح مسلم شریف میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں ہم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ حج کو نکلے، اپنی آواز حج کے ساتھ خوب بلند کرتے۔⁽³⁾

حدیث ۴ — ترمذی وابن ماجہ و بیہقی کہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دہنے بائیں جو پتھر یا درخت یا ڈھیلا ختم زمین تک ہے لبیک کہتا ہے۔“⁽⁴⁾

حدیث ۵ و ۶ — ابن ماجہ وابن خزمیہ وابن حبان و حاکم زید بن خالد جہنی سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ”جبریل نے آکر مجھ سے یہ کہا کہ اپنے اصحاب کو حکم فرمادیجئے کہ لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں کہ یہ حج کا شعار ہے۔“⁽⁵⁾ اسی کے مثل سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔

حدیث ۷ — طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ لبیک کہنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اُسے بشارت دی جاتی ہے، عرض کی گئی جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ فرمایا: ہاں۔⁽⁶⁾

حدیث ۸ — امام احمد وابن ماجہ جابر بن عبد اللہ اور طبرانی و بیہقی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”محرم جب آفتاب ڈوبنے تک لبیک کہتا ہے تو آفتاب ڈوبنے کے ساتھ اُس کے گناہ غائب ہو

① ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب استحباب الطیب، قبیل الاحرام فی البدن... إلخ، الحدیث: ۳۳ - (۱۱۸۹) - ۴۵۰ -

(۱۱۹۰)، (۱۱۹۱)، ص ۶۰۷، ۶۰۹.

② ”جامع الترمذی“، أبواب الحج، باب ماجاء فی الإغتسال عند الاحرام، الحدیث: ۸۳۱، ج ۲، ص ۲۲۸.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب جواز التمتع فی الحج والقران، الحدیث: ۱۲۴۷، ص ۶۵۴.

④ ”جامع الترمذی“، أبواب الحج، باب ماجاء فی فضل التلبیة و النحر، الحدیث: ۸۲۹، ج ۲، ص ۲۲۶.

⑤ ”سنن ابن ماجہ“، أبواب المناسک، باب رفع الصوت بالتلبیة، الحدیث: ۲۹۲۳، ج ۳، ص ۴۲۳.

⑥ ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۷۷۷۹، ج ۵، ص ۴۱۰.

جاتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے جیسا اُس دن کہ پیدا ہوا۔“ (1)

حدیث ۹ ترمذی وابن ماجہ وابن خزیمہ امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ کسی نے رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہ حج کے افضل اعمال کیا ہیں؟ فرمایا: ”بلند آواز سے لبیک کہنا اور قربانی کرنا۔“ (2)

حدیث ۱۰ امام شافعی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لبیک سے

فارغ ہوتے تو اللہ (عزوجل) سے اُس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے اور دوزخ سے پناہ مانگتے۔ (3)

حدیث ۱۱ ابو داؤد وابن ماجہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

فرماتے سنا کہ: ”جو مسجد اقصیٰ سے مسجد الحرام تک حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر آیا اُس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یا

اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔“ (4)

احرام کے احکام

① یہ تو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ہندیوں کے لیے میقات (جہاں سے احرام باندھنے کا حکم ہے) کوہ یکنم کی محاذات ہے۔ یہ جگہ کامران سے نکل کر سمندر میں آتی ہے، جب جدہ دو تین منزل رہ جاتا ہے جہاز والے اطلاع دیدیتے ہیں، پہلے سے احرام کا سامان طیارہ رکھیں۔

② جب وہ جگہ قریب آئے، مسواک کریں اور وضو کریں اور خوب مل کر نہائیں، نہ نہائیں تو صرف وضو کریں یہاں تک کہ حیض و نفاس والی اور بچے بھی نہائیں اور باطہارت احرام باندھیں یہاں تک کہ اگر غسل کیا پھر بے وضو ہو گیا اور احرام باندھ کر وضو کیا تو فضیلت کا ثواب نہیں اور پانی ضرر کرے تو اُس کی جگہ تیمم نہیں، ہاں اگر نماز احرام کے لیے تیمم کرے تو ہو سکتا ہے۔

③ مرد چاہیں تو سر مونڈ لیں کہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے گی ورنہ کنگھا کر کے خوشبو دار تیل ڈالیں۔

④ غسل سے پہلے ناخن کتریں، خط بنوائیں، موائے بغل و زپر ناف دُور کریں بلکہ پیچھے کے بھی کہ ڈھیلا لیتے وقت بالوں کے ٹوٹنے اُکھڑنے کا قصہ نہ رہے۔

① ”سنن ابن ماجہ“، ابواب المناسک، باب الظلال للمحرم، الحدیث: ۲۹۲۵، ج ۳، ص ۴۲۴۔

② ”جامع الترمذی“، ابواب الحج، باب ماجاء فی فضل التلبیة و النحر، الحدیث: ۸۲۸، ج ۲، ص ۲۲۶۔

③ ”المسند“ للإمام الشافعی، کتاب المناسک، ص ۱۲۳۔

④ ”سنن أبي داود“، کتاب المناسک، باب فی المواقیف، الحدیث: ۱۷۴۱، ج ۲، ص ۲۰۱۔

⑤ بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگائیں کہ سنت ہے، اگر خوشبو ایسی ہے کہ اُس کا جرم (1) باقی رہے گا جیسے مشک وغیرہ تو کپڑوں میں نہ لگائیں۔

⑥ مرد سلعے کپڑے اور موزے اُتار دیں ایک چادر نئی یا ڈھلی اوڑھیں اور ایسا ہی ایک تہبند باندھیں یہ کپڑے سفید اور نئے بہتر ہیں اور اگر ایک ہی کپڑا پہنا جس سے سارا ستر چھپ گیا جب بھی جائز ہے۔ بعض عوام یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت سے چادر داہنی بغل کے نیچے کر کے دونوں پلو بائیں مونڈھے پر ڈال دیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس طرح چادر اوڑھنا طواف کے وقت ہے اور طواف کے علاوہ باقی وقتوں میں عادت کے موافق چادر اوڑھی جائے یعنی دونوں مونڈھے اور پیٹھ اور سینہ سب چھپا رہے۔

⑦ جب وہ جگہ آئے اور وقت مکروہ نہ ہو تو دو رکعت بہ نیت احرام پڑھیں، پہلی میں فاتحہ کے بعد قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھے۔

⑧ حج تین طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ نراج کرے، اُسے افراد کہتے ہیں اور حاجی کو مفرد۔ اس میں بعد سلام یوں کہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى . (2)

دوسرا یہ کہ یہاں سے نرے عمرے کی نیت کرے، مکہ معظمہ میں حج کا احرام باندھے اسے تمتع کہتے ہیں اور حاجی کو تمتع۔ اس میں یہاں بعد سلام یوں کہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى .

تیسرا یہ کہ حج و عمرہ دونوں کی یہیں سے نیت کرے اور یہ سب سے افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اور حاجی کو قارن۔ اس میں بعد سلام یوں کہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى .

اور تینوں صورتوں میں اس نیت کے بعد لبیک باواز کہے لبیک یہ ہے:

①..... جرم: یعنی تہ۔

②..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل) میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اُسے تو میرے لیے میسر کر اور اُسے مجھ سے قبول کر، میں نے حج کی نیت کی اور خاص اللہ (عزوجل) کے لیے میں نے احرام باندھا (بعد والی دونوں نیتوں کا بھی ترجمہ یہی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ حج کی جگہ دوسری میں عمرہ ہے اور تیسری میں حج و عمرہ دونوں) ۱۲۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ط لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ط إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ط
لَا شَرِيكَ لَكَ ط (1)

جہاں جہاں وقف کی علامتیں بنی ہیں وہاں وقف کرے۔ لبیک تین بار کہے اور درود شریف پڑھے پھر دعا مانگے۔
ایک دعا یہاں پر یہ منقول ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ . (2)

اور یہ دعا بھی بزرگوں سے منقول ہے:

اللَّهُمَّ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشْرِي وَعَظْمِي وَدَمِي مِنَ النِّسَاءِ وَالطَّيِّبِ وَكُلِّ شَيْءٍ حَرَمْتَهُ عَلَيَّ
الْمُحْرَمِ ابْتِغَى بِذَلِكَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ لَبَّيْكَ وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
الصَّالِحُ لَبَّيْكَ ذَا النُّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ لَبَّيْكَ مَرَّغُوبًا وَمَرَّهُوبًا إِلَيْكَ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْخَلْقِ لَبَّيْكَ
لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعْبُدًا وَرِقًّا لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ وَالْحَصَى لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مِنْ عَبْدٍ
أَبَقَ إِلَيْكَ . لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ فَرَاغِ الْكُرُوبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَنَا عَبْدُكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى آدَاءِ فَرَضِ الْحَجِّ وَتَقَبُّلِهِ مِنِّي وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَكَ وَآمَنُوا بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعُوا
أَمْرَكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيَتْ عَنْهُمْ وَأَرْضِيَتْهُمْ وَقَبِلْتَهُمْ . (3)

①..... ترجمہ: میں تیرے پاس حاضر ہوا، اے اللہ (عزوجل)! میں تیرے حضور حاضر ہوا، تیرے حضور حاضر ہوا، تیرا کوئی شریک نہیں میں تیرے
حضور حاضر ہوا پیشک تعریف اور نعمت اور ملک تیرے ہی لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ۱۲

②..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! میں تیری رضا اور جنت کا سائل ہوں اور تیرے غضب اور جہنم سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ ۱۲

③..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تیرے لیے احرام باندھا، میرے بال اور بشرہ نے اور میری ہڈی اور میرے خون نے عورتوں اور خوشبو سے اور
ہر اس چیز سے جس کو تو نے محرم پر حرام کیا اس سے میں تیرے وجہ کریم کا طالب ہوں، میں تیرے حضور حاضر ہوا اور کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور
رغبت و عمل صالح تیری طرف ہے، میں تیرے حضور حاضر ہوا اے نعمت اور اچھے فضل والے! میں تیرے حضور حاضر ہوا تیری طرف رغبت کرتا ہوا اور
ڈرتا ہوا، تیرے حضور حاضر ہوا اے مخلوق کے معبود! بار بار حاضر ہوں حق سمجھ کر عبادت اور بندگی جان کر خاک اور کنکریوں کی گنتی کے موافق، لبیک
بار بار حاضر ہوں اے بلند یوں والے! بار بار حاضر ہے بھاگے ہوئے غلام کی تیرے حضور، لبیک لبیک اے تختیوں کے ڈور کرنے والے! لبیک
لبیک میں تیرا بندہ ہوں۔ لبیک لبیک اے گناہوں کے بخشنے والے! لبیک اے اللہ (عزوجل)! حج فرض کے ادا کرنے پر میری مدد کرو اور اس کو میری
طرف سے قبول کرو اور مجھ کو ان لوگوں میں کر جنہوں نے تیری بات قبول کی اور تیرے وعدہ پر ایمان لائے اور تیرے امر کا اتباع کیا اور مجھ کو اپنے اس
وند میں کر دے جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو نے راضی کیا اور جن کو تو نے مقبول بنایا۔ ۱۲

اور لبیک کی کثرت کریں، جب شروع کریں تین بار کہیں۔

مسئلہ ۱ لبیک کے الفاظ جو مذکور ہوئے اُن میں کمی نہ کی جائے، زیادہ کر سکتے ہیں بلکہ بہتر ہے مگر زیادتی آخر میں ہو درمیان میں نہ ہو۔^(۱) (جوہرہ)

مسئلہ ۲ جو شخص بلند آواز سے لبیک کہہ رہا ہے تو اُس کو اس حالت میں سلام نہ کیا جائے کہ مکروہ ہے اور اگر کر لیا تو ختم کر کے جواب دے، ہاں اگر جانتا ہو کہ ختم کرنے کے بعد جواب کا موقع نہ ملے گا تو اس وقت جواب دے سکتا ہے۔^(۲) (منک)

مسئلہ ۳ احرام کے لیے ایک مرتبہ زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے اور اگر اس کی جگہ سُبْحَانَ اللَّهِ، يَا الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یا کوئی اور ذکر الہی کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا مگر سنت لبیک کہنا ہے۔^(۳) (عالمگیری وغیرہ) گونگا ہو تو اُسے چاہیے کہ ہونٹ کو جنبش دے۔

مسئلہ ۴ احرام کے لیے نیت شرط ہے اگر بغیر نیت لبیک کہا احرام نہ ہوا۔ یوہن تہا نیت بھی کافی نہیں جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ ہو۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ احرام کے وقت لبیک کہے تو اس کے ساتھ ہی نیت بھی ہو یہ بارہا معلوم ہو چکا ہے کہ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ نہ ہو تو احرام ہی نہ ہوا اور بہتر یہ کہ زبان سے بھی کہے، مثلاً قرآن میں لَبَّيْكَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ اور تمتع میں لَبَّيْكَ بِالْعُمْرَةِ اور افراد میں لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ کہے۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ دوسرے کی طرف سے حج کو گیا تو اُس کی طرف سے حج کرنے کی نیت کرے اور بہتر یہ کہ لبیک میں یوں کہے لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ یعنی فلاں کی جگہ اُس کا نام لے اور اگر نام نہ لیا مگر دل میں ارادہ ہے جب بھی حرج نہیں۔^(۶) (منک)

مسئلہ ۷ سونے والے یا مریض یا بیہوش کی طرف سے کسی اور نے احرام باندھا تو وہ مُحْرَمٌ ہو گیا جس کی طرف سے

① "الجوهرة النيرة"، كتاب الحج، ص ۱۹۵.

② "باب المناسك" و "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط"، (باب الاحرام)، ص ۱۰۲.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث في الاحرام، ج ۱، ص ۲۲۲، وغیره.

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث في الاحرام، ج ۱، ص ۲۲۲.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الحج، فصل في الاحرام، ج ۳، ص ۵۶۰.

⑥ "المسلك المتقسط"، (باب الاحرام)، ص ۱۰۱.

احرام باندھا گیا محرم کے احکام اس پر جاری ہوں گے، کسی ممنوع کا ارتکاب کیا تو کفارہ وغیرہ اسی پر لازم آئے گا، اس پر نہیں جس نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا اور احرام باندھنے والا خود بھی محرم ہے اور جرم کیا تو ایک ہی جزا واجب ہوگی دو نہیں کہ اس کا ایک ہی احرام ہے۔ مریض اور سونے والے کی طرف سے احرام باندھنے میں یہ ضرور ہے کہ احرام باندھنے کا انھوں نے حکم دیا ہو اور بیہوش میں اس کی ضرورت نہیں۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ تمام افعال حج ادا کرنے تک بے ہوش رہا اور احرام کے وقت ہوش میں تھا اور اپنے آپ احرام باندھا تھا تو اُس کے ساتھ والے تمام مقامات میں لے جائیں اور اگر احرام کے وقت بھی بے ہوش تھا انھیں لوگوں نے احرام باندھ دیا تھا تو لے جانا بہتر ہے ضرور نہیں۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ احرام کے بعد مجنون ہوا تو حج صحیح ہے اور جرم کرے گا تو جزا لازم۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ ناسمجھ بچہ نے خود احرام باندھا یا افعال حج ادا کیے تو حج نہ ہوا بلکہ اس کا ولی اُس کی طرف سے بجا لائے مگر طواف کے بعد کی دو رکعتیں کہ بچہ کی طرف سے ولی نہ پڑھے گا، اس کے ساتھ باپ اور بھائی دونوں ہوں تو باپ ارکان ادا کرے سمجھ وال بچہ خود افعال حج ادا کرے، رمی وغیرہ بعض باتیں چھوڑ دیں تو ان پر کفارہ وغیرہ لازم نہیں۔ یوہیں ناسمجھ بچہ کی طرف سے اس کے ولی نے احرام باندھا اور بچہ نے کوئی ممنوع کام کیا تو باپ پر بھی کچھ لازم نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، ردالمحتار، منسک)

مسئلہ ۱۱ بچہ کی طرف سے احرام باندھا تو اُس کے سلعے ہوئے کپڑے اتار لینے چاہیے، چادر اور تہبند پہنائیں اور اُن تمام باتوں سے بچائیں جو محرم کے لیے ناجائز ہیں اور حج کو فاسد کر دیا تو قضا واجب نہیں اگرچہ وہ بچہ سمجھ وال ہو۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ بلیک کہتے وقت نیت قرآن کی ہے تو قرآن ہے اور افراد کی ہے تو افراد، اگرچہ زبان سے نہ کہا ہو۔ حج کے

① "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی مضاعفة الصلاة بمكة ج ۳، ص ۶۲۶.

② "الدرالمختار"، و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی مضاعفة الصلاة بمكة ج ۳، ص ۶۲۶.

③ "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی مضاعفة الصلاة بمكة ج ۳، ص ۶۲۸.

④ المرجع السابق، و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المناسک، فصل فی المتفرقات، ج ۱، ص ۲۳۶.

و "المسلك المتقسط"، (باب الاحرام، فصل فی احرام الصبی)، ص ۱۱۲.

⑤ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المناسک، فصل فی المتفرقات، ج ۱، ص ۲۳۶.

ارادہ سے گیا اور احرام کے وقت نیت حاضر نہ رہی تو حج ہے اور اگر نیت کچھ نہ تھی تو جب تک طواف نہ کیا ہو اسے اختیار ہے حج کا احرام قرار دے یا عمرے کا اور طواف کا ایک پھیرا بھی کر چکا تو یہ احرام عمرہ کا ہو گیا۔ یوں طواف سے پہلے جماع کیا یا روک دیا گیا (جس کو احصار کہتے ہیں) تو عمرہ قرار دیا جائے یعنی قضا میں عمرہ کرنا کافی ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ جس نے حجۃ الاسلام نہ کیا ہو اور حج کا احرام باندھا، فرض و نفل کی نیت نہ کی تو حجۃ الاسلام ادا ہو گیا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ دو حج کا احرام باندھا تو دو حج واجب ہو گئے اور دو عمرے کا تو دو عمرے۔ احرام باندھا اور حج یا عمرہ کسی خاص کو معین نہ کیا پھر حج کا احرام باندھا تو پہلا عمرہ ہے اور دوسرا عمرہ کا باندھا تو پہلا حج ہے اور اگر دوسرے احرام میں بھی کچھ نیت نہ کی تو قرآن ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ لبیک میں حج کہا اور نیت عمرہ کی ہے یا عمرہ کہا اور نیت حج کی ہے، تو جو نیت ہے وہ ہے لفظ کا اعتبار نہیں اور لبیک میں حج کہا اور نیت دونوں کی ہے تو قرآن ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ احرام باندھا اور یاد نہیں کہ کس کا باندھا تھا تو دونوں واجب ہیں یعنی قرآن کے افعال بجالائے کہ پہلے عمرہ کرے پھر حج مگر قرآن کی قربانی اس کے ذمہ نہیں۔ اگر دو چیزوں کا احرام باندھا اور یاد نہیں کہ دونوں حج ہیں یا عمرے یا حج و عمرہ تو قرآن ہے اور قربانی واجب۔ حج کا احرام باندھا اور یہ نیت نہیں کہ کس سال کرے گا تو اس سال کا مراد لیا جائے گا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ منت و نفل یا فرض و نفل کا احرام باندھا تو نفل ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ اگر یہ نیت کی کہ فلاں نے جس کا احرام باندھا اسی چیز کا میرا احرام ہے اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ اُس نے کس چیز کا احرام باندھا ہے تو اُس کا بھی وہی ہے اور معلوم نہ ہوا تو طواف کے پہلے پھیرے سے پیشتر جو چاہے معین کر لے اور

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثالث فی الاحرام، وما یتصل بذالک مسائل، ج ۱، ص ۲۲۳.

② المرجع السابق.

③ المرجع السابق.

④ المرجع السابق.

⑤ المرجع السابق.

⑥ المرجع السابق.

طواف کا ایک پھیرا کر لیا تو عمرہ کا ہو گیا۔ یوں طواف سے پہلے جماع کیا یا روک دیا گیا یا وقوفِ عرفہ کا وقت نہ ملا تو عمرہ کا ہے۔^(۱) (منک)

مسئلہ ۱۹ حج بدل یا منت یا نفل کی نیت کی تو جو نیت کی وہی ہے اگرچہ اُس نے اب تک حج فرض نہ کیا ہو اور اگر ایک ہی حج میں فرض و نفل دونوں کی نیت کی تو فرض ادا ہوگا اور اگر یہ گمان کر کے احرام باندھا کہ یہ حج مجھ پر لازم ہے یعنی فرض ہے یا منت، بعد کو ظاہر ہوا کہ لازم نہ تھا تو اس حج کو پورا کرنا ضروری ہو گیا۔ فاسد کرے گا تو قضا لازم ہوگی، بخلاف نماز کہ فرض سمجھ کر شروع کی تھی بعد کو معلوم ہوا کہ فرض پڑھ چکا ہے تو پوری کرنا ضرور نہیں فاسد کرے گا تو قضا نہیں۔^(۲) (منک)

مسئلہ ۲۰ لبیک کہنے کے علاوہ ایک دوسری صورت بھی احرام کی ہے اگرچہ لبیک نہ کہنا اہل سنت ہے وہ یہ کہ بَدَنہ (یعنی اونٹ یا گائے) کے گلے میں ہار ڈال کر حج یا عمرہ یا دونوں یا دونوں میں ایک غیر معین کے ارادے سے ہانکتا ہوا لے چلا تو محرم ہو گیا اگرچہ لبیک نہ کہے، خواہ وہ بَدَنہ نفل کا ہو یا نذر کا یا شکار کا بدلہ یا کچھ اور۔ اگر دوسرے کے ہاتھ بَدَنہ بھیجا پھر خود گیا تو جب تک راستہ میں اُسے پانہ لے محرم نہ ہوگا، لہذا اگر میقات تک نہ پایا تو لبیک کے ساتھ احرام باندھنا ضرور ہے۔ ہاں اگر تمتع یا قرآن کا جانور ہے تو پالینا شرط نہیں مگر اس میں یہ ضرور ہے کہ حج کے مہینوں میں تمتع یا قرآن کا بَدَنہ بھیجا ہو اور انھیں مہینوں میں خود بھی چلا ہو پیشتر سے بھیجنا کام نہ دے گا اور اگر بکری کو ہار پہنا کر بھیجا لے چلایا اونٹ گائے کو ہار نہ پہنایا بلکہ نشانی کے لیے کوہان چیر دیا یا جھول اڑھا دیا تو محرم نہ ہوا۔^(۳) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۱ چند شخص بَدَنہ میں شریک ہیں، اُسے لیے جاتے ہیں سب کے حکم سے ایک نے اُسے ہار پہنایا، سب محرم ہو گئے اور بغیر اُن کے حکم سے اُس نے پہنایا تو یہ محرم ہوا وہ نہ ہوئے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ ہار پہنانے کے معنی یہ ہیں کہ اُون یا بال کی رسی میں کوئی چیز باندھ کر اُس کے گلے میں لٹکا دیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حرم شریف میں قربانی کے لیے ہے تاکہ اُس سے کوئی تعرض نہ کرے اور راستے میں تھک گیا اور ذبح کر دیا تو اُسے مالدار شخص نہ کھائے۔^(۵) (ردالمحتار)

① "المسلك المتقسط"، (باب الاحرام)، ص ۱۰۷. ② المرجع السابق.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثالث فی الاحرام، ومما يتصل بذلك مسائل، ج ۱، ص ۲۲۲.

و"الدرالمختار"، کتاب الحج، فصل فی الاحرام، ج ۳، ص ۵۶۴-۵۶۶.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثالث فی الاحرام، ومما يتصل بذلك مسائل، ج ۱، ص ۲۲۲.

⑤ "ردالمختار"، کتاب الحج، مطلب فیما یصیر بہ محرماً، ج ۳، ص ۵۶۴.

اس صورت میں بھی سنت یہی ہے کہ بدنہ کو ہار پہنانے سے پیشتر لبیک کہے۔ (۱) (مسک)

مسئلہ ۲۳

وہ باتیں جو احرام میں حرام ہیں

① یہ احرام تھا اس کے ہوتے ہی یہ کام حرام ہو گئے:

(۱) عورت سے صحبت۔

(۲) بوسہ۔ (۳) مساس۔ (۴) گلے لگانا۔ (۵) اُس کی اندام نہانی پر نگاہ جب کہ یہ چاروں باتیں بشہوت ہوں۔

(۶) عورتوں کے سامنے اس کام کا نام لینا۔

(۷) فحش۔ (۸) گناہ ہمیشہ حرام تھے اب اور سخت حرام ہو گئے۔

(۹) کسی سے دنیوی لڑائی جھگڑا۔

(۱۰) جنگل کا شکار۔ (۱۱) اُس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا۔ (۱۲) یا کسی طرح بتانا۔ (۱۳) بندوق یا بارود یا اُس

کے ذبح کرنے کو ٹھہری دینا۔ (۱۴) اس کے انڈے توڑنا۔ (۱۵) پَر اُکھیڑنا۔ (۱۶) پاؤں یا بازو توڑنا۔ (۱۷) اُس کا دودھ

دوہنا۔ (۱۸) اُس کا گوشت۔ یا (۱۹) انڈے پکانا، بھوننا۔ (۲۰) بیچنا۔ (۲۱) خریدنا۔ (۲۲) کھانا۔

(۲۳) اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا کتروانا۔

(۲۴) سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا۔

(۲۵) مونھ، یا (۲۶) سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا۔

(۲۷) بستہ یا کپڑے کی فچی یا گٹھری سر پر رکھنا۔

(۲۸) عمامہ باندھنا۔

(۲۹) بُرقع (۳۰) دستا نے پہننا۔

(۳۱) موزے یا بُجراہیں وغیرہ جو وسط قدم کو چھپائے (جہاں عربی جوتے کا تسمہ ہوتا ہے) پہننا اگر جوتیاں نہ ہوں تو

موزے کاٹ کر پہنیں کہ وہ تسمہ کی جگہ نہ چھپے۔

(۳۲) سلا کپڑا پہننا۔

(۳۳) خوشبو بالوں، یا (۳۴) بدن، یا (۳۵) کپڑوں میں لگانا۔

- (۳۶) ملا گیری یا کسم، کیسر غرض کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جب کہ ابھی خوشبودے رہے ہوں۔
 (۳۷) خالص خوشبو مشک، عنبر، زعفران، جاوتری، لونگ، الاچھی، دارچینی، زنجبیل وغیرہ کھانا۔
 (۳۸) ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو جیسے مشک، عنبر، زعفران۔
 (۳۹) سر یا داڑھی کو عظمیٰ یا کسی خوشبودار یا ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مرجائیں۔
 (۴۰) دسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا۔

(۴۱) گوند وغیرہ سے بال جمانا۔

(۴۲) زیتون، یا (۴۳) تیل کا تیل اگر چہ بے خوشبو ہو بالوں یا بدن میں لگانا۔

(۴۴) کسی کا سروٹنڈنا اگر چہ اُس کا احرام نہ ہو۔

(۴۵) بھوں مارنا۔ (۴۶) پھینکنا۔ (۴۷) کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا۔ (۴۸) کپڑا اس کے مارنے کو

دھونا۔ یا (۴۹) دھوپ میں ڈالنا۔ (۵۰) بالوں میں پارہ وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا غرض بھوں کے ہلاک پر کسی طرح باعث ہونا۔^(۱)

احرام کے مکروہات

⑤ احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں:

- (۱) بدن کا میل چھڑانا۔
- (۲) بال یا بدن گھلی یا صابون وغیرہ بے خوشبو کی چیز سے دھونا۔
- (۳) کنگھی کرنا۔ (۴) اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے یا بھوں کے گرنے کا اندیشہ ہو۔
- (۵) انگر کھا کر تاجعہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا۔
- (۶) خوشبو کی دھونی دیا ہوا کپڑا کہ ابھی خوشبودے رہا ہو پہننا اور ڈھنا۔
- (۷) قصداً خوشبو سوگھنا اگر چہ خوشبودار پھل یا پتا ہو جیسے لیموں، نارنگی، پودینہ، عطر دانہ۔
- (۸) عطر فروش کی دوکان پر اس غرض سے بیٹھنا کہ خوشبو سے دماغ معطر ہوگا۔
- (۹) سر، یا (۱۰) مونہ پر پٹی باندھنا۔

① "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۱۰، ص ۷۳۲، وغیرہ۔

(۱۱) غلافِ کعبہ معظمہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا مونہ سے لگے۔

(۱۲) ناک وغیرہ مونہ کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا۔

(۱۳) کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو نہ بوزائل ہو گئی ہو۔

(۱۴) بے سلا کپڑا فرافو کیا ہو یا پوند لگا ہوا پہننا۔

(۱۵) تکیہ پر مونہ رکھ کر اوندھا لیٹنا۔

(۱۶) مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھو نا جب کہ ہاتھ میں لگ نہ جائے ورنہ حرام ہے۔

(۱۷) بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا اگرچہ بے سلا کپڑے میں لپیٹ کر۔

(۱۸) بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا۔

(۱۹) سنگار کرنا۔

(۲۰) چادر اوڑھ کر اس کے آنچلوں میں گرہ دے لینا جیسے گانتی باندھتے ہیں اس طرح یا کسی اور طرح پر جب کہ سر کھلا

ہو ورنہ حرام ہے۔

(۲۱) یوہیں تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا۔

(۲۲) تہبند باندھ کر کمر بند یا رسی سے کسنا۔^(۱)

یہ باتیں احرام میں جائز ہیں

① یہ باتیں احرام میں جائز ہیں:

(۱) انگر کھا کر تہ پُغھ لیٹ کر اوپر سے اس طرح ڈال لینا کہ سر اور مونہ نہ چھپے۔

(۲) ان چیزوں یا پاجامہ کا تہبند باندھ لینا۔

(۳) چادر کے آنچلوں کو تہبند میں گھرسنا۔

(۴) ہسیانی، یا (۵) پٹی، یا (۶) تھیار باندھنا۔

(۷) بے میل چھڑائے حمام کرنا۔

(۸) پانی میں غوطہ لگانا۔

① "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۱۰، ص ۷۳۳، وغیرہ۔

(۹) کپڑے دھونا جب کہ جوں مارنے کی غرض سے نہ ہو۔

(۱۰) مسواک کرنا۔

(۱۱) کسی چیز کے سایہ میں بیٹھنا۔

(۱۲) چھتری لگانا۔

(۱۳) انگٹھی پہننا۔

(۱۴) بے خوشبو کا سر نہ لگانا۔

(۱۵) داڑھا اکھاڑنا۔

(۱۶) ٹوٹے ہوئے ناخن کو جدا کر دینا۔

(۱۷) ذیل یا پھنسی توڑ دینا۔

(۱۸) ختنہ کرنا۔

(۱۹) فصد۔

(۲۰) بغیر بال مونڈے کھچنے کرنا۔

(۲۱) آنکھ میں جو بال نکلے اُسے جدا کرنا۔

(۲۲) سر یا بدن اس طرح آہستہ کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے۔

(۲۳) احرام سے پہلے جو خوشبو لگائی اُس کا لگا رہنا۔

(۲۴) پالتو جانور اونٹ گائے بکری مرغی وغیرہ ذبح کرنا۔ (۲۵) لپکانا۔ (۲۶) کھانا۔ (۲۷) اس کا دودھ دوہنا۔ (۲۸)

اس کے انڈے توڑنا کھوننا کھانا۔

(۲۹) جس جانور کو غیر مُحَرَّم نے شکار کیا اور کسی مُحَرَّم نے اُس کے شکار یا ذبح میں کسی طرح کی مدد نہ کی ہو اُس کا کھانا

بشرطیکہ وہ جانور نہ حرم کا ہو نہ حرم میں ذبح کیا گیا ہو۔

(۳۰) کھانے کے لیے مچھلی کا شکار کرنا۔

(۳۱) دوا کے لیے کسی دریائی جانور کا مارنا، دوا یا غذا کے لیے نہ ہونے کی تفریح کے لیے ہو جس طرح لوگوں میں رائج ہے

تو شکار دریا کا ہو یا جنگل کا خود ہی حرام ہے اور احرام میں سخت تر حرام۔

(۳۲) بیرونِ حرم کی گھاس اُکھاڑنا، یا

(۳۳) درخت کاٹنا۔

(۳۴) چیل، (۳۵) کوا، (۳۶) چوہا، (۳۷) گرگٹ، (۳۸) چھکلی، (۳۹) سانپ، (۴۰) بچھو، (۴۱) کھٹل، (۴۲) مچھر،

(۴۳) پٹو، (۴۴) مکھی وغیرہ خبیث و موزی جانوروں کا مارنا اگرچہ حرم میں ہو۔

(۴۵) مونھ اور سر کے سوا کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا۔

(۴۶) سر، یا (۴۷) گال کے نیچے تکیہ رکھنا۔

(۴۸) سر، یا (۴۹) ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا۔

(۵۰) کان کپڑے سے چھپانا۔

(۵۱) ٹھوڑی سے نیچے داڑھی پر کپڑا آنا۔

(۵۲) سر پر سنی یا بوری اٹھانا۔

(۵۳) جس کھانے کے پکنے میں مشک وغیرہ پڑے ہوں اگرچہ خوشبو دیں۔ یا (۵۴) بے پکائے جس میں کوئی خوشبو

ڈالی اور وہ نہیں دیتی اُس کا کھانا پینا۔

(۵۵) گھی یا چربی یا کڑوا تیل یا ناریل یا بادام کدو، کا ہو کا تیل کہ بسا یا نہ ہو بالوں یا بدن میں لگانا۔

(۵۶) خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جب کہ اُن کی خوشبو جاتی رہی ہو مگر کسم، کیمس کارنگ مرد کو ویسے ہی حرام ہے۔

(۵۷) دین کے لیے جھگڑنا بلکہ حسبِ حاجت فرض و واجب ہے۔

(۵۸) جوتا پہننا جو پاؤں کے اُس جوڑ کو نہ چھپائے۔

(۵۹) بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ گلے میں ڈالنا۔

(۶۰) آئینہ دیکھنا۔

(۶۱) ایسی خوشبو کا چھونا جس میں فی الحال مہک نہیں جیسے اگر، لوبان، صندل، یا (۶۲) اس کا آنچل میں باندھنا۔

(۶۳) نکاح کرنا۔^(۱)

①..... "الفتاویٰ الرضویة"، ص ۷۳۴، وغیرہ۔

احرام میں مرد و عورت کے فرق

۱۲) ان مسائل مذکورہ میں مرد و عورت برابر ہیں، مگر عورت کو چند باتیں جائز ہیں:

سر چھپانا بلکہ نامحرم کے سامنے اور نماز میں فرض ہے تو سر پر بستر بقیچہ اٹھانا بدرجہ اولیٰ۔ یوہیں گوند وغیرہ سے بال جمانا، سر وغیرہ پر پٹی خواہ بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا اگرچہ سی کر، غلاف کعبہ کے اندریوں داخل ہونا کہ سر پر رہے مونہ پر نہ آئے، دستانے، موزے، سلے کپڑے پہننا، عورت اتنی آواز سے لبیک نہ کہے کہ نامحرم سنے، ہاں اتنی آواز ہر پڑھنے میں ہمیشہ سب کو ضرور ہے کہ اپنے کان تک آواز آئے۔

متنبیہ: احرام میں مونہ چھپانا عورت کو بھی حرام ہے، نامحرم کے آگے کوئی پنکھا وغیرہ مونہ سے بچا ہوا سامنے رکھے۔

۱۳) جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں وہ اگر کسی عذر سے یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے ہر طرح دینا آئے گا اگرچہ بے قصد ہوں یا سہواً یا جبراً یا سوتے میں۔

۱۴) طوافِ قدم کے سوا وقت احرام سے رمی جمرہ تک جس کا ذکر آئے گا اکثر اوقات لبیک کی بے شمار کثرت رکھے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، وضو بے وضو ہر حال میں خصوصاً چڑھائی پر چڑھتے اترتے، دو قافلوں کے ملتے، صبح شام، پچھلی رات، پانچوں نمازوں کے بعد، غرض یہ کہ ہر حالت کے بدلنے پر مرد با آواز کہیں مگر نہ اتنی بلند کہ اپنے آپ یا دوسرے کو تکلیف ہو اور عورتیں پست آواز سے مگر نہ اتنی پست کہ خود بھی نہ سُنیں۔

داخلی حرم محترم و مکہ مکرمہ و مسجد الحرام

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۶﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۷﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن
دُورَيْتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَأَيُّنَا مَنَّا سَكَنًا وَتُبَّ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾﴾^(۱)

اور جب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار! اس شہر کو امن والا کر دے اور اس کے اہل میں سے جو اللہ (عزوجل) اور پچھلے دن

پر ایمان لائے انھیں پھلوں سے روزی دے۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا اُسے بھی کچھ برتنے کو دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف مضطر کروں گا اور بُرا ٹھکانا ہے وہ۔ اور جب ابراہیم و اسمعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کرتے ہوئے کہتے تھے اے پروردگار! تو ہم سے (اس کام کو) قبول فرما، بیشک تو ہی ہے سُننے والا، جاننے والا اور ہمیں تو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری ذریت سے ایک گروہ کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہمارے عبادت کے طریقے ہم کو دکھا اور ہم پر رجوع فرما بیشک تو ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔

اور فرماتا ہے:

﴿ اَوْلَمَ تُمْكِنُ لَكُمْ حَرَمًا اِمْنًا يُجَنَّبِيْ اِلَيْهِ سَمَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْلَمُوْنَ ﴿ (1)

کیا ہم نے اُن کو امن والے حرم میں قدرت نہ دی کہ وہاں ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری جانب سے رزق ہیں مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

اور فرماتا ہے:

﴿ اِنَّمَا اَمَدْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ؕ وَاَمَدْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ (2)

مجھے تو یہی حکم ہوا کہ اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں، جس نے اسے حرم کیا اور اسی کے لیے ہر شے ہے اور مجھے حکم ہوا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔

خلافت ۲۰۱ صحیح بخاری صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح

مکہ کے دن یہ ارشاد فرمایا: ”اس شہر کو اللہ (عزوجل) نے حرم (بزرگ) کر دیا ہے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا تو وہ روز قیامت تک کے لیے اللہ (عزوجل) کے کیے سے حرم ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں قتال حلال نہ ہوا اور میرے لیے صرف تھوڑے سے وقت میں حلال ہوا، اب پھر وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، نہ یہاں کا کانٹے والا درخت کا ٹاٹا جائے نہ اس کا شکار بھگایا جائے اور نہ یہاں کا پڑا ہوا مال کوئی اٹھائے مگر جو اعلان کرنا چاہتا ہو (اُسے اٹھانا، جائز ہے) اور نہ یہاں کی ترگھاس کاٹی جائے۔“ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اگر اذخر (ایک قسم کی گھاس ہے کہ اُس

① پ ۲۰، القصص: ۵۷.

② پ ۲۰، النمل: ۹۱.

کے کاٹنے کی اجازت دیجیے) کہ یہ لوہاروں اور گھر کے بنانے میں کام آتی ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اس کی اجازت دیدی۔“ (1) اسی کی مثل ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔

حدیث ۳ ابن ماجہ عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک اس حرمت کی پوری تعظیم کرتی رہے گی اور جب لوگ اسے ضائع کر دیں گے ہلاک ہو جائیں گے۔“ (2)

حدیث ۴ طبرانی اوسط میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کعبہ کے لیے زبان اور ہونٹ ہیں، اُس نے شکایت کی کہ اے رب! میرے پاس آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہیں۔ اللہ عزوجل نے وحی کی کہ: ”میں خشوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے آدمیوں کو پیدا کروں گا جو تیری طرف ایسے مائل ہوں گے جیسے کبوتری اپنے انڈے کی طرف مائل ہوتی ہے۔“ (3)

حدیث ۵ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لاتے تو ذی طوئی میں رات گزارتے، جب صبح ہوتی غسل کرتے اور نماز پڑھتے اور دن میں داخل مکہ ہوتے اور جب مکہ سے تشریف لے جاتے تو صبح تک ذی طوئی میں قیام فرماتے۔ (4)

داخلی حرم کے احکام

- ① جب حرم مکہ کے متصل پہنچے سر جھکائے آنکھیں شرم گناہ سے نیچی کیے خشوع و خضوع سے داخل ہو اور ہو سکے تو پیادہ ننگے پاؤں اور لبیک و دعا کی کثرت رکھے اور بہتر یہ کہ دن میں نہا کر داخل ہو، حیض و نفاس والی عورت کو بھی نہانا مستحب ہے۔
- ② مکہ معظمہ کے گردا گرد کئی کوس تک حرم کا جنگل ہے، ہر طرف اُس کی حدیں بنی ہوئی ہیں، ان حدوں کے اندر ترگھاس اُکھیڑنا، خورد و پیڑ کاٹنا، وہاں کے وحشی جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر سخت دھوپ ہو اور ایک ہی پیڑ ہے اُس کے سایہ میں ہرن بیٹھا ہے تو جائز نہیں کہ اپنے بیٹھنے کے لیے اسے اٹھائے اور اگر وحشی جانور بیرون حرم کا اُس کے ہاتھ میں

① ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب تحریم مکة و تحریم صیلاھا... إلخ، الحدیث: ۱۳۵۳، ص ۷۰۶.

② ”سنن ابن ماجہ“، أبواب المناسک، باب فضل مکة، الحدیث: ۳۱۱۰، ج ۳، ص ۵۱۹.

③ ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۶۰۶۶، ج ۴، ص ۳۰۵.

④ ”مشکاة المصابیح“، کتاب المناسک، باب دخول مکة... إلخ، الحدیث: ۲۵۶۱، ج ۲، ص ۸۶.

تھا اُسے لیے ہوئے حرم میں داخل ہوا اب وہ جانور حرم کا ہو گیا فرض ہے کہ فوراً فوراً چھوڑ دے۔ مکہ معظمہ میں جنگلی کبوتر (1) بکثرت ہیں ہر مکان میں رہتے ہیں، خبردار ہرگز ہرگز نہ اڑائے، نہ ڈرائے، نہ کوئی ایذا پہنچائے بعض ادھر ادھر کے لوگ جو مکہ میں بے کبوتروں کا ادب نہیں کرتے، ان کی ریس نہ کرے مگر برا انھیں بھی نہ کہے کہ جب وہاں کے جانور کا ادب ہے تو مسلمان انسان کا کیا کہنا! یہ باتیں جو حرم کے متعلق بیان کی گئیں احرام کے ساتھ خاص نہیں احرام ہو یا نہ ہو بہر حال یہ باتیں حرام ہیں۔

③ جب مکہ معظمہ نظر پڑے ٹھہر کر یہ دُعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي بِهَا قَرَارًا وَاِرْزُقْنِي فِيهَا رِزْقًا حَلَالًا . (2)

اور درود شریف کی کثرت کرے اور افضل یہ ہے کہ نہا کر داخل ہو اور مد فونین جنت المَعْلَى کے لیے فاتحہ پڑھے اور مکہ معظمہ میں داخل ہوتے وقت یہ دُعا پڑھے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ جِئْتُكَ هَارِبًا مِنْكَ إِلَيْكَ لِأُوَدِّيَ فَرَايَضَكَ وَأَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَالْتِمَسَ رِضْوَانَكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّينَ إِلَيْكَ الْخَائِفِينَ عِقُوبَتَكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُقْبَلَنِي الْيَوْمَ بِعَفْوِكَ وَتُدْخِلَنِي فِي رَحْمَتِكَ وَتَتَجَاوَزَ عَنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَتُعِينَنِي عَلَى آدَاءِ فَرَائِضِكَ اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنْ عَذَابِكَ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي فِيهَا وَأَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط (3)

④ جب مدعی میں پہنچے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کعبہ معظمہ نظر آتا تھا جب کہ درمیان میں عمارتیں حائل نہ تھیں، یہ عظیم اجابت و قبول کا وقت ہے یہاں ٹھہرے اور صدق دل سے اپنے اور تمام عزیزوں، دوستوں، مسلمانوں کے لیے مغفرت و عافیت مانگے اور جنت ہلا حساب کی دُعا کرے اور درود شریف کی کثرت اس موقع پر نہایت اہم ہے۔ اس مقام پر تین بار اللہ اکبر، اور تین مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے اور یہ پڑھے:

- ① ترجمہ: کہا جاتا ہے کہ یہ کبوتر اس مبارک جوڑے کی نسل سے ہیں، جس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت غار ثور میں اٹھ دئیے تھے، اللہ عزوجل نے اس خدمت کے صلہ میں ان کو اپنے حرم پاک میں جگہ بخش۔ ۱۲
- ② ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو مجھے اس میں برقرار رکھ اور مجھے اس میں حلال روزی دے۔ ۱۴
- ③ ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور یہ شہر تیرا شہر ہے میں تیرے پاس تیرے عذاب سے بھاگ کر حاضر ہوا کہ تیرے فرائض کو ادا کروں اور تیری رحمت کو طلب کروں اور تیری رضا کو تلاش کروں، میں تجھ سے اس طرح سوال کرتا ہوں جیسے مضطر اور تیرے عذاب سے ڈرنے والے سوال کرتے ہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ آج تو اپنے عفو کے ساتھ مجھ کو قبول کر اور اپنی رحمت میں مجھے داخل کر اور اپنی مغفرت کے ساتھ مجھ سے درگزر فرما اور فرائض کی ادا پر میری اعانت کر۔ اے اللہ (عزوجل)! مجھ کو اپنے عذاب سے نجات دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اس میں مجھے داخل کر اور شیطان مردود سے مجھے پناہ میں رکھ۔ ۱۴

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط (1)

اور یہ دعا بھی پڑھے: اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ زِدِّيْتِكَ هَذَا تَعْظِيْمًا وَتَشْرِيفًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ تَعْظِيْمِهِ وَتَشْرِيفِهِ مِنْ حَجَّةٍ وَاَعْتَمَرَهُ تَعْظِيْمًا وَتَشْرِيفًا وَمَهَابَةً ط (2)

اور یہ دعائے جامع کم از کم تین بار اس جگہ پڑھیں:

اَللّٰهُمَّ هَذَا بَيْتُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِعَبِيْدِكَ اَمَّجِدْ عَلَيَّ اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْهُ نَصْرًا (3) عَزِيْزًا. اٰمِيْنَ. (4)

مسئلہ ۱ جب مکہ معظمہ میں پہنچ جائے تو سب سے پہلے مسجد الحرام میں جائے۔ کھانے پینے، کپڑے بدلنے، مکان کرایہ لینے وغیرہ دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہو، ہاں اگر عذر ہو مثلاً سامان کو چھوڑتا ہے تو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو محفوظ جگہ رکھوانے یا اور کسی ضروری کام میں مشغول ہوا تو حرج نہیں اور اگر چند شخص ہوں تو بعض اسباب اُتروانے میں مشغول ہوں اور بعض مسجد الحرام شریف کو چلے جائیں۔ (5) (نک)

⑤ ذکرِ خدا اور رسول اور اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے فلاحِ دارین کرتا ہوا اور لبیک کہتا ہوا باب السلام تک

①..... ترجمہ: اے رب! تو دنیا میں ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا، اے اللہ (عزوجل)! میں اس خیر میں سے سوال کرتا ہوں، جس کا تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا اور تیری پناہ مانگتا ہوں اُن چیزوں کے شر سے جن سے تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ۱۲

②..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب کی تصدیق کی اور تیرے عہد کو پورا کیا اور تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اے اللہ (عزوجل)! تو اپنے اس گھر کی تعظیم و شرافت و ہیبت زیادہ کر اور اس کی تعظیم و تشریف سے اس شخص کی عظمت و شرافت و ہیبت زیادہ کر جس نے اس کا حج و عمرہ کیا۔ ۱۲

③..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! یہ تیرا گھر ہے اور میں تیرا بندہ ہوں غفور و عافیت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں، دین و دنیا و آخرت میں میرے لیے اور میرے والدین اور تمام مومنین و مومنات کے لیے اور تیرے حقیر بندہ امجد علی کے لیے، الہی! تو اس کی قوی مدد کر۔ آمین۔ ۱۲

④..... (اور اب جب کہ صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ وصال فرما چکے یوں دعا کرے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ مَغْفِرَةً).

⑤..... "المسلک المتقسط"، (باب دخول مکة)، ص ۱۲۷.

پہنچے اور اس آستانہ پاک کو بوسہ دیکر پہلے داہنا پاؤں رکھ کر داخل ہو اور یہ کہے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَ سُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. (1)

یہ دعا خوب یاد رکھے، جب کبھی مسجد الحرام شریف یا اور کسی مسجد میں داخل ہو، اسی طرح داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لیا کرے
اور اس وقت خصوصیت کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اتنا اور ملائے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالنِّبْيُكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيْنًا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا دَارَ السَّلَامِ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَرَمُكَ وَمَوْضِعُ أَمْنِكَ فَحَرِّمْ لِحْمِي
وَبَشْرِي وَدَمِي وَمُعْيِي وَعِظَامِي عَلَى النَّارِ. (2)

اور جب کسی مسجد سے باہر آئے پہلے بائیں قدم باہر رکھے اور وہی دعا پڑھے مگر اخیر میں رَحْمَتِكَ کی جگہ فَضْلِكَ
کہے اور اتنا اور بڑھائے:

وَسَهِّلْ لِي أَبْوَابَ رِزْقِكَ. (3) اس کی برکات دین و دنیا میں بے شمار ہیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ -

① جب کعبہ معظمہ نظر پڑے تین بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہے اور درود شریف اور یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا وَمَهَابَةً اللَّهُمَّ أَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِلَا
حِسَابٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتُقِيلَ عَثْرَتِي وَتَضَعَ وَزْرِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَرَايُوكَ وَعَلَى كُلِّ مَزُورٍ حَقٌّ وَأَنْتَ خَيْرُ مَزُورٍ فَاسْأَلُكَ أَنْ تَرْحَمَنِي

①..... ترجمہ: میں خدائے عظیم کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے وجہ کریم کی اور قدیم سلطنت کی مردود شیطان سے، اللہ (عزوجل) کے نام کی مدد سے
سب خوبیاں اللہ (عزوجل) کے لیے اور رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر سلام، اے اللہ (عزوجل)! درود بھیج ہمارے آقا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
اور ان کی آل اور بیبیوں پر۔ الہی! میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ۱۲

②..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو سلام ہے اور تجھی سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹی ہے، اے ہمارے رب! ہم کو سلامتی کے
ساتھ زندہ رکھ دار السلام (جنت) میں داخل کر، اے ہمارے رب! تو برکت والا اور بلند ہے، اے جلال و بزرگی والے! الہی یہ تیرا حرم ہے اور تیری
امن کی جگہ ہے میرے گوشت اور پوست اور خون اور مغز اور ہڈیوں کو جہنم پر حرام کر دے۔ ۱۲

③..... ترجمہ: اور میرے لیے اپنے رزق کے دروازے آسان کر دے۔ ۱۲

وَتَفُكُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ. (1)

طواف وسی صفا و مروہ و عمرہ کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝﴾ (2)

اور یاد کرو جب کہ ہم نے کعبہ کو لوگوں کا مرجع اور امن کیا اور مقام ابراہیم سے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور ہم نے ابراہیم و اسمعیل کی طرف عہد کیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔

اور فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَبِيبٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۝ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُتَوْفَّؤا دُرُوبَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۝﴾ (3)

اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو پناہ دی خانہ کعبہ کی جگہ میں یوں کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے لوگ تیرے پاس پیدل آئیں گے اور لاغر اونٹنیوں پر کہ ہر راہ بعید سے آئیں گی تاکہ اپنے نفع کی جگہ میں حاضر ہوں اور اللہ (عزوجل)

①..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو اپنے اس گھر کی عظمت و شرافت و بزرگی و نکوئی و ہیبت زیادہ کر، اے اللہ (عزوجل)! ہم کو جنت میں بلا حساب داخل کر۔ الہی! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم کر اور میری لغزش دور کر اور اپنی رحمت سے میرے گناہ دفع کر، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ الہی! میں تیرا بندہ اور تیرا ازرا ہوں اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہوتا ہے اور تو سب سے بہتر زیارت کیا ہوا ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم کر اور میری گردن جہنم سے آزاد کر۔ ۱۲

②..... پ ۱، البقرہ: ۱۲۵.

③..... پ ۱۷، الحج: ۲۶-۳۰.

کے نام کو یاد کریں معلوم دنوں میں اس پر کہ انھیں چوپائے جانور عطا کیے تو ان میں سے کھاؤ اور نا امید فقیر کو کھلاؤ پھر اپنے میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر (کعبہ) کا طواف کریں بات یہ ہے اور جو اللہ (عزوجل) کے حرمت کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔

اور فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاةَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾﴾ (1)

بیشک صفا و مروہ اللہ (عزوجل) کی نشانیوں سے ہیں جس نے کعبہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر اس میں گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے اور جس نے زیادہ خیر کیا تو اللہ (عزوجل) بدلا دینے والا، علم والا ہے۔

حدیث ۱ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ میں تشریف لائے، سب کاموں سے پہلے وضو کر کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ (2)

حدیث ۲ صحیح مسلم شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین پھیروں میں رمل کیا اور چار پھیرے چل کر کیے (3) اور ایک روایت میں ہے پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ (4)

حدیث ۳ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو حجر اسود کے پاس آ کر اسے بوسہ دیا پھر دہنے ہاتھ کو چلے اور تین پھیروں میں رمل کیا۔ (5)

حدیث ۴ صحیح مسلم میں ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے دست مبارک میں چھڑی تھی اُس چھڑی کو حجر اسود سے لگا کر بوسہ دیتے۔ (6)

① پ ۲، البقرہ: ۱۵۸.

② "صحیح البخاری"، کتاب الحج، باب من طاف بالبيت... إلخ، الحدیث: ۱۶۱۴، ج ۱، ص ۵۴۱.

③ "صحیح مسلم"، کتاب الحج، باب استحباب الرمل فی الطواف... إلخ، الحدیث: ۱۲۶۲، ص ۶۵۹.

④ "صحیح مسلم"، کتاب الحج، باب استحباب الرمل فی الطواف... إلخ، الحدیث: ۱۲۶۱، ص ۶۵۸.

⑤ "مشکاة المصابیح" کتاب المناسک، باب دخول مكة... إلخ، الحدیث: ۲۵۶۶، ج ۲، ص ۸۶.

⑥ "صحیح مسلم"، کتاب الحج، باب جواز الطواف علی بغير وغيره... إلخ، الحدیث: ۱۲۷۵، ص ۶۶۳.

حدیث ۵ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حجرِ اسود کی طرف متوجہ ہوئے، اُسے بوسہ دیا پھر طواف کیا پھر صفا کے پاس آئے اور اس پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا پھر ہاتھ اٹھا کر ذکر الہی میں مشغول رہے، جب تک خُدا نے چاہا اور دُعا کی۔^(۱)

حدیث ۶ امام احمد نے عبید بن عمیر سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ حجرِ اسود و رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہیں؟ جواب دیا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ: ان کو بوسہ دینا خطاؤں کو گرا دیتا ہے اور میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو فرماتے سنا جس نے سات پھیرے طواف کیا اس طرح کہ اس کے آداب کو ملحوظ رکھا اور دو رکعت نماز پڑھی تو یہ گردن آزاد کرنیکی مثل ہے اور میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو فرماتے سنا کہ طواف میں ہر قدم کہ اٹھاتا اور رکھتا ہے اس پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اور دس درجے بلند کیے جاتے ہیں۔^(۲) اسی کے قریب قریب ترمذی و حاکم و ابن خزیمہ وغیرہم نے بھی روایت کی۔

حدیث ۷ طبرانی کبیر میں محمد بن منکدر سے راوی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو بیت اللہ کا سات پھیرے طواف کرے اور اُس میں کوئی لغو بات نہ کرے تو ایسا ہے جیسے گردن آزاد کی۔“^(۳)

حدیث ۸ اصہبانی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہتے ہیں: جس نے کامل وضو کیا پھر حجرِ اسود کے پاس بوسہ دینے کو آیا وہ رحمت میں داخل ہوا، پھر جب بوسہ دیا اور یہ پڑھا بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ . اُسے رحمت نے ڈھانک لیا پھر جب بیت اللہ کا طواف کیا تو ہر قدم کے بدلے ستر ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ستر ہزار گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ستر ہزار درجے بلند کیے جائیں گے اور اپنے گھر والوں میں ستر کی شفاعت کرے گا پھر جب مقام ابراہیم پر آیا اور وہاں دو رکعت نماز ایمان کی وجہ سے اور طلبِ ثواب کے لیے پڑھی تو اس کے لیے اولادِ اسمعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائیگا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا۔^(۴)

حدیث ۹ بیہقی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”بیت الحرام کے حج

① ”سنن أبي داود“، كتاب المناسك، باب في رفع اليد إذا رأى البيت، الحديث: ۱۸۷۲، ج ۲، ص ۲۵۵.

② ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ۴۴۶۲، ج ۲، ص ۲۰۲.

③ ”المعجم الكبير“، الحديث: ۸۴۵، ج ۲۰، ص ۳۶۰.

④ ”الترغيب و الترهيب“، كتاب الحج، الترغيب في الطواف... إلخ، الحديث: ۱۱، ج ۲، ص ۱۲۴.

کرنے والوں پر ہر روز اللہ تعالیٰ ایک سو بیس رحمت نازل فرماتا ہے، ساٹھ طواف کرنے والوں کے لیے اور چالیس نماز پڑھنے والوں کے لیے اور بیس نظر کرنے والوں کے لیے۔“ (1)

حدیث ۱۰ ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رُكْنَ يَمَانِيٍّ پُرْسْتَرَفْرَشْتِے موکل ہیں، جو یہ دعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . وہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور جو سات پھیرے طواف کرے اور یہ پڑھتا رہے: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اُس کے دس گناہ مٹا دیے جائیں گے اور دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس درجے بلند کیے جائیں گے اور جس نے طواف میں یہی کلام پڑھے، وہ رحمت میں اپنے پاؤں سے چل رہا ہے جیسے کوئی پانی میں پاؤں سے چلتا ہے۔“ (2)

حدیث ۱۱ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے پچاس مرتبہ طواف کیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا۔“ (3)

حدیث ۱۲ ترمذی و نسائی و دارمی انھیں سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی مثل ہے، فرق یہ کہ تم اس میں کلام کرتے ہو تو جو کلام کرے خیر کے سوا ہرگز کوئی بات نہ کہے۔“ (4)

حدیث ۱۳ امام احمد و ترمذی انھیں سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”حجرِ اسود جب جنت سے نازل ہوا دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اُسے سیاہ کر دیا۔“ (5)

حدیث ۱۴ ترمذی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ: ”حجرِ اسود و مقامِ ابراہیم جنت کے یا قوت ہیں، اللہ (عزوجل) نے ان کے نور کو مٹا دیا اور اگر نہ مٹاتا تو جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب کو روشن کر دیتے۔“ (6)

① ”الترغیب و الترهیب“، کتاب الحج، الترغیب فی الطواف ... إلخ، الحدیث: ۶، ج ۲، ص ۱۲۳.

② ”سنن ابن ماجہ“، أبواب المناسک، باب فضل الطواف، الحدیث: ۲۹۵۷، ج ۳، ص ۴۳۹.

③ ”جامع الترمذی“، أبواب الحج، باب ماجاء فی فضل الطواف، الحدیث: ۸۶۷، ج ۲، ص ۲۴۴.

④ ”جامع الترمذی“، أبواب الحج، باب ماجاء فی الکلام فی الطواف، الحدیث: ۹۶۲، ج ۲، ص ۲۸۶.

⑤ ”جامع الترمذی“، أبواب الحج، باب ماجاء فی فضل الحجر الاسود و الرکن و المقام، الحدیث: ۸۷۸، ج ۲، ص ۲۴۸.


⑥ ”جامع الترمذی“، أبواب الحج، باب ماجاء فی فضل الحجر الاسود و الرکن و المقام، الحدیث: ۸۷۹، ج ۲، ص ۲۴۸.

حدیث ۱۵

ترمذی وابن ماجہ و دارمی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”واللہ! حجرِ اسود کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اُسے بوسہ دیا ہے اُس کے لیے شہادت دے گا۔“ (۱)

بیان احکام

مسجد الحرام شریف میں داخل ہونے تک کے احکام معلوم ہو چکے اب کہ مسجد الحرام شریف میں داخل ہوا اگر جماعت قائم ہو یا نماز فرض یا وتر یا نماز جنازہ یا سنت مؤکدہ کے فوت کا خوف ہو تو پہلے اُن کو ادا کرے، ورنہ سب کاموں سے پہلے طواف میں مشغول ہو۔ کعبہ شمع ہے اور تو پروانہ، دیکھتا نہیں کہ پروانہ شمع کے گرد کس طرح قربان ہوتا ہے تو بھی اس شمع پر قربان ہونے کے لیے مستعد ہو جا۔ پہلے اس مقامِ کریم کا نقشہ دیکھیے کہ جو بات کہی جائے اچھی طرح ذہن میں آجائے۔



①..... "جامع الترمذی"، أبواب الحج، باب ماجاء فی الحجر الاسود، الحدیث: ۹۶۳، ج ۲، ص ۲۸۶.

②..... بہار شریعت کے نسخوں میں اس مقام پر صفا، مروہ کا نقشہ جنوب کی طرف بنا ہوا تھا جو کہ کتابت کی غلطی ہے اصل میں یہ نقشہ مشرق کی طرف ہے لہذا ہم نے یہاں پر نقشہ درست کر دیا۔... علمیہ

مسجد الحرام ایک گول وسیع احاطہ ہے، جس کے کنارے کنارے بکثرت دالان اور آنے جانے کے دروازے ہیں اور بیچ میں مطاف (طواف کرنے کی جگہ)۔

مطاف ایک گول دائرہ ہے جس میں سنگ مرمر بچھا ہے، اس کے بیچ میں کعبہ معظمہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد الحرام اسی قدر تھی۔ اسی کی حد پر باب السکام شرقی قدیم دروازہ واقع ہے۔

رکن مکان کا گوشہ جہاں اُس کی دو دیواریں ملتی ہیں، جسے زاویہ کہتے ہیں۔ اس طرح ا ح۔ ح ب دونوں دیواریں مقام ح پر ملی ہیں یہ رکن و زاویہ ہے، کعبہ معظمہ کے چار رکن ہیں۔

رکنِ اسود جنوب و شرق (1) کے گوشہ میں اسی میں زمین سے اونچا سنگ اسود شریف نصب ہے۔

رکنِ عراقی شرق و شمال کے گوشہ میں۔ دروازہ کعبہ انھیں دو رکنوں کے بیچ کی شرقی دیوار میں زمین سے بہت بلند ہے۔

ملتزم اسی شرقی دیوار کا وہ ٹکڑا جو رکن اسود سے دروازہ کعبہ تک ہے۔

رکنِ شامی اوتر (2) اور پچھتم (3) کے گوشہ میں۔

میزابِ رحمت سونے کا پرنا لہ کہ رکن عراقی و شامی کی بیچ کی شمالی دیوار پر چھت میں نصب ہے۔

حطیم بھی اسی شمالی دیوار کی طرف ہے۔ یہ زمین (4) کعبہ معظمہ ہی کی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں جب قریش نے کعبہ

از سر نو تعمیر کیا، کمی خرچ کے باعث اتنی زمین کعبہ معظمہ سے باہر چھوڑ دی۔ اس کے گردا گرد ایک قوسی انداز کی چھوٹی سی دیوار کھینچ

دی اور دونوں طرف آمد و رفت کا دروازہ ہے اور یہ مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے اس میں داخل ہونا کعبہ معظمہ ہی میں داخل ہونا ہے

جو بھلا اللہ تعالیٰ بے تکلف نصیب ہوتا ہے۔

رکنِ یمانی پچھتم اور دکھن (5) کے گوشہ میں۔

مستجاب رکنِ یمانی و شامی کے بیچ کی غربی دیوار کا وہ ٹکڑا جو ملتزم کے مقابل ہے۔

مستجاب رکنِ یمانی و رکنِ اسود کے بیچ میں جو دیوار جنوبی ہے، یہاں ستر ہزار فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں

اس لیے اس کا نام مستجاب رکھا گیا۔

1..... جنوب اور مشرق۔ 2..... شمال۔

3..... مغرب۔ وہ سمت جدھر سورج ڈوبتا ہے۔

4..... جنوباً شمالاً چھ ہاتھ کعبہ کی زمین ہے اور بعض کہتے ہیں سات ہاتھ اور بعض کا خیال ہے کہ سارا حطیم۔ ۱۲

5..... جنوب کی سمت۔

مقامِ ابراہیم دروازہ کعبہ کے سامنے ایک قبہ میں وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کعبہ بنایا تھا، ان کے قدمِ پاک کا اس پر نشان ^(۱) ہو گیا جو اب تک موجود ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے **اَيْتُ بَيْتِ اللّٰهِ** کی کھلی نشانیاں فرمایا۔

زَمَّ زَم شریف کا قبہ مقامِ ابراہیم سے جنوب کو مسجد شریف ہی میں واقع ہے اور اس قبہ کے اندر زَم زَم کا کوآں ہے۔
بابُ الصفا مسجد شریف کے جنوبی دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس سے نکل کر سامنے کوہِ صفا ہے۔
صفا کعبہ معظمہ سے جنوب کو ہے یہاں زمانہ قدیم میں ایک پہاڑی تھی کہ زمین میں چھپ گئی ہے۔ اب وہاں قبلہ رُخ ایک دالان سا بنا ہے اور چڑھنے کی سیڑھیاں۔

مروہ دوسری پہاڑی صفا سے پورب کو تھی یہاں بھی اب قبلہ رُخ دالان سا ہے اور سیڑھیاں، صفا سے مروہ تک جو فاصلہ ہے اب یہاں بازار ہے۔ صفا سے چلتے ہوئے دہنے ہاتھ کو دکانیں اور بائیں ہاتھ کو احاطہ مسجد الحرام ہے۔
میلینِ اخضرین اس فاصلہ کے وسط میں جو صفا سے مروہ تک ہے دیوار حرم شریف میں دو سبز میل نصب ہیں جیسے میل کے شروع میں پتھر لگا ہوتا ہے۔

مسعے وہ فاصلہ کہ ان دونوں میلوں کے بیچ میں ہے۔ یہ سب صورتیں رسالہ میں بار بار دیکھ کر خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ وہاں پہنچ کر پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ ناواقف آدمی اندھے کی طرح کام کرتا ہے اور جو سمجھ لیا وہ اٹھیا رہا ہے، اب اپنے رب عزوجل کا نام پاک لے کر طواف کیجئے۔

طواف کا طریقہ اور دعائیں

(۱) جب حجرِ اسود کے قریب پہنچے تو یہ دعا پڑھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (۲)

① ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمِ پاک کے نشان میں بے قدرے، بے ادب لوگ کلام کرتے ہیں یہ معجزہ ابراہیمی ہزاروں برس سے محفوظ ہے اس سے بھی انکار کر دیں۔ ۱۲

② اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندہ کی مدد کی اور تنہا اسی نے کفار کی جماعتوں کو شکست دی، اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ۱۲

(۲) شروع طواف سے پہلے مرداضطباع کر لے یعنی چادر کو دہنی بغل کے نیچے سے نکالے کہ دہنا موٹھا کھلا رہے اور دونوں کنارے بائیں موٹھے پر ڈال دے۔

(۳) اب کعبہ کی طرف منہ کر کے حجرِ اسود کی دہنی طرف رکنِ یمانی کی جانب سنگِ اسود کے قریب یوں کھڑا ہو کہ تمام پتھر اپنے دہنے ہاتھ کو رہے پھر طواف کی نیت کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي . (۱)

(۴) اس نیت کے بعد کعبہ کو منہ کئے اپنی دہنی جانب چلو، جب سنگِ اسود کے مقابل ہو (اور یہ بات ادنیٰ حرکت میں حاصل ہو جائے گی) کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں حجرِ اسود کی طرف رہیں اور کہو بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ ط اور نیت کے وقت ہاتھ نہ اٹھاؤ جیسے بعض مطوف کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔

(۵) میسر ہو سکے تو حجرِ اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دو کہ آواز نہ پیدا ہو، تین بار ایسا ہی کرو یہ نصیب ہو تو کمالِ سعادت ہے۔ یقیناً تمہارے محبوب و مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا اور رُوئے اقدس اس پر رکھا۔ زہے خوش نصیبی کہ تمہارا منہ وہاں تک پہنچے اور ہجوم کے سبب نہ ہو سکے تو نہ اوروں کو ایذا دو، نہ آپ دو بگچلو بلکہ اس کے عوض ہاتھ سے چھو کر اسے چوم لو اور ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی سے چھو کر اسے چوم لو اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھوں سے اُس کی طرف اشارہ کر کے انھیں بوسہ دے لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ رکھنے کی جگہ پر نگا ہیں پڑ رہی ہیں یہی کیا کم ہے اور حجر کو بوسہ دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔ استلام کے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَطَهِّرْ لِي قَلْبِي وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ . (2)

حدیث میں ہے، ”روزِ قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اُس کا بوسہ دیا اور استلام کیا اُس کے لیے گواہی دے گا۔“

(۶) اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِّقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى

① اے اللہ (عزوجل)! میں تیرے عزت والے گھر کا طواف کرنا چاہتا ہوں اس کو تو میرے لیے آسان کر اور اس کو مجھ سے قبول کر۔ ۱۲

② الہی! تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کو پاک کر اور میرے سینہ کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی۔ ۱۲

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَنْتُ
بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالْحَبِيبِ وَالطَّاغُوتِ . (1)

کہتے ہوئے دروازہ کعبہ کی طرف بڑھو، جب حجر مبارک کے سامنے سے گزر جاؤ سیدھے ہولو۔ خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر لے کر یوں چلو کہ کسی کو ایذا نہ دو۔

(۷) پہلے تین پھیروں میں مرد رمل کرتا چلے یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتا، شانے ہلاتا جیسے قوی و بہادر لوگ چلتے ہیں، نہ گودتا نہ دوڑتا، جہاں زیادہ ہجوم ہو جائے اور رمل میں اپنی یا دوسرے کی ایذا ہو تو اتنی دیر رمل ترک کرے مگر رمل کی خاطر رُکے نہیں بلکہ طواف میں مشغول رہے پھر جب موقع مل جائے، تو جتنی دیر تک کے لیے ملے رمل کے ساتھ طواف کرے۔
(۸) طواف میں جس قدر خانہ کعبہ سے نزدیک ہو بہتر ہے مگر نہ اتنا کہ پشتہ دیوار پر جسم لگے یا کپڑا اور نزدیکی میں کثرت ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو دُوری بہتر ہے۔

(۹) جب ملتزم کے سامنے آئے یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ هَذَا الْبَيْتُ بَيْنَكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْأَمْنُ أَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَأَجِرْنِي
مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ قِنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (2)
اور جب رُکنِ عراقی کے سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّكِّ وَالشَّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ
فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ . (3)

① اے اللہ (عزوجل)! تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ (عزوجل) پر میں ایمان لایا اور بت اور شیطان سے میں نے انکار کیا۔ ۱۲

② اے اللہ (عزوجل)! یہ گھر تیرا گھر ہے اور حرم تیرا حرم ہے اور امن تیری ہی امن ہے اور جہنم سے تیری پناہ مانگنے والے کی یہ جگہ ہے تو مجھ کو جہنم سے پناہ دے۔ اے اللہ (عزوجل)! جو تو نے مجھ کو دیا مجھے اس پر قانع کر دے اور میرے لیے اس میں برکت دے اور ہر غائب پر خیر کے ساتھ تو خلیفہ ہو جا۔ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ۱۳

③ اے اللہ (عزوجل)! میں تیری پناہ مانگتا ہوں شک اور شرک اور اختلاف و نفاق سے اور مال و اولاد میں واپس ہو کر بُری بات دیکھنے سے۔ ۱۴

اور جب میزابِ رحمت کے سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ أَظْلِنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ وَلَا بَاقِيَ إِلَّا وَجْهَكَ وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيئَةً لَا أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا (1)

اور جب رُکنِ شامی کے سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مُشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ أَخْرِجْنِي مِنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ. (2)

(۱۰) جب رُکنِ یمانی کے پاس آؤ تو اسے دونوں ہاتھ یاد ہننے سے تبرکاً چھوؤ، نہ صرف بائیں سے اور چاہو تو اُسے

بوسہ بھی دو اور نہ ہو سکے تو یہاں لکڑی سے چھونایا اشارہ کر کے ہاتھ چومنا نہیں اور یہ دعا پڑھو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور رُکنِ شامی یا عراقی کو چھونایا بوسہ دینا کچھ نہیں۔

(۱۱) جب اس سے بڑھو تو یہ مُستجاب ہے جہاں ستر ہزار فرشتے دعا پڑھتے ہیں کہیں گے وہی دعائے جامع پڑھو، یا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . یا اپنے اور سب احباب و مسلمین اور اس

حقیر ذلیل کی نیت سے صرف درود شریف پڑھے کہ یہ کافی و وافی ہے۔ دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ اختیار کرے کہ محمد رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے وعدہ سے تمام دعاؤں سے بہتر و افضل ہے یعنی یہاں اور تمام مواقع میں اپنے لیے دعا کے بدلے حضور

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایسا کرے گا تو اللہ (عزوجل) تیرے سب کام بنادے

گا اور تیرے گناہ معاف فرمادے گا۔“ (3)

(۱۲) طواف میں دعا یا درود شریف پڑھنے کے لیے رکوع نہیں بلکہ چلتے میں پڑھو۔

(۱۳) دُعا و درود چلا چلا کر نہ پڑھو جیسے مطوف پڑھایا کرتے ہیں بلکہ آہستہ پڑھو اس قدر کہ اپنے کان تک آواز آئے۔

①.....! تو مجھ کو اپنے عرش کے سایہ میں رکھ، جس دن تیرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں اور تیری ذات کے سوا کوئی باقی نہیں اور اپنے نبی محمد

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض سے مجھے خوش گوار پانی پلا کہ اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ ۱۲

②.....! اے اللہ (عزوجل)! تو اس کوچ مبرور کر اور سعی مشکور کر اور گناہ کو بخش دے اور اُس کو وہ تجارت کر دے جو ہلاک نہ ہو، اے سینوں کی باتیں

جاننے والے مجھ کو تارکیوں سے نور کی طرف نکال۔ ۱۲

③.....”جامع الترمذی“، ابواب صفة القيامة، ۲۳۔ باب، الحديث: ۲۴۶۵، ج ۴، ص ۲۰۷.

(۱۴) اب جو چاروں طرف گھوم کر حجرِ اسود کے پاس پہنچا، یہ ایک پھیرا ہوا اور اس وقت بھی حجرِ اسود کو بوسہ دے یا وہی طریقے برتے بلکہ ہر پھیرے کے ختم پر یہ کرے۔ یوہیں سات پھیرے کرے مگر باقی پھیروں میں نیت کرنا نہیں کہ نیت تو شروع میں ہو چکی اور رمل صرف اگلے تین پھیروں میں ہے، باقی چار میں آہستہ بغیر شانہ ہلائے معمولی چال چلے۔

(۱۵) جب ساتوں پھیرے پورے ہو جائیں آخر میں پھر حجرِ اسود کو بوسہ دے یا وہی طریقے ہاتھ یا لکڑی کے برتے اس طواف کو طوافِ قدوم کہتے ہیں یعنی حاضری دربار کا مجرا۔ یہ باہر والوں کے لیے مسنون ہے یعنی ان کے لیے جو میقات کے باہر سے آئے ہیں، مکہ والوں یا میقات کے اندر کے رہنے والوں کے لیے یہ طواف نہیں ہاں اگر مکہ والا میقات سے باہر گیا تو اسے بھی طوافِ قدوم مسنون ہے۔

طواف کے مسائل

مسئلہ ۱ طواف میں نیت فرض ہے، بغیر نیت طواف نہیں مگر یہ شرط نہیں کہ کسی معین طواف کی نیت کرے بلکہ ہر طواف مطلق نیت طواف سے ادا ہو جاتا ہے بلکہ جس طواف کو کسی وقت میں معین کر دیا گیا ہے، اگر اس وقت کسی دوسرے طواف کی نیت سے کیا تو یہ دوسرا نہ ہوگا بلکہ وہ ہوگا جو معین ہے۔ مثلاً عمرہ کا احرام باندھ کر باہر سے آیا اور طواف کیا تو یہ عمرہ کا طواف ہے اگرچہ نیت میں یہ نہ ہو۔ یوہیں حج کا احرام باندھ کر باہر والا آیا اور طواف کیا تو طوافِ قدوم ہے یا قرآن کا احرام باندھ کر آیا اور دو طواف کیے تو پہلا عمرہ کا ہے، دوسرا طوافِ قدوم یا دسویں تاریخ کو طواف کیا تو طوافِ زیارت ہے، اگرچہ ان سب میں نیت کسی اور کی ہو۔^(۱) (منک)

مسئلہ ۲ یہ طریقہ طواف کا جو مذکور ہوا اگر کسی نے اس کے خلاف طواف کیا مثلاً بائیں طرف سے شروع کیا کہ کعبہ معظمہ طواف کرنے میں سیدھے ہاتھ کور ہایا کعبہ معظمہ کو مونہ یا پیٹھ کر کے آڑا آڑا طواف کیا یا حجرِ اسود سے شروع نہ کیا تو جب تک مکہ معظمہ میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے اور اگر اعادہ نہ کیا اور وہاں سے چلا آیا تو دم واجب ہے۔ یوہیں حطیم کے اندر سے طواف کرنا ناجائز ہے لہذا اس کا بھی اعادہ کرے۔ چاہیے تو یہ کہ پورے ہی طواف کا اعادہ کرے اور اگر صرف حطیم کا سات بار طواف کر لیا کہ رکنِ عراقی سے رکنِ شامی تک حطیم کے باہر باہر گیا اور واپس آیا، یوہیں سات بار کر لیا تو بھی کافی ہے اور اس صورت میں افضل یہ ہے کہ حطیم کے باہر باہر واپس آئے اور اندر سے واپس ہو جب بھی جائز ہے۔^(۲) (ردالمحتار، رد المحتار)

① "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط"، (انواع الاطوفة و احكامها)، ص ۱۴۵.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في دخول مكة، ج ۳، ص ۵۷۹.

مسئلہ ۳ طواف سات پھیروں پر ختم ہو گیا، اب اگر آٹھواں پھیرا جان بوجھ کر قصداً شروع کر دیا تو یہ ایک جدید طواف شروع ہوا، اسے بھی اب سات پھیروں کے ختم کرے۔ یوں اگر محض وہم و وسوسہ کی بنا پر آٹھواں پھیرا شروع کیا کہ شاید ابھی چھ ہی ہوئے ہوں جب بھی اسے سات پھیروں کے ختم کرے۔ ہاں اگر اس آٹھویں کو ساتواں گمان کیا بعد میں معلوم ہوا کہ سات ہو چکے ہیں تو اسی پر ختم کر دے سات پورے کرنے کی ضرورت نہیں۔^(۱) (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴ طواف کے پھیروں میں شک واقع ہوا کہ کتنے ہوئے تو اگر طواف فرض یا واجب ہے تو اب سے سات پھیروں کرے اور اگر کسی ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اتنے پھیروں ہوئے تو اُس کے قول پر عمل کر لینا بہتر ہے اور دو عادل نے بتایا تو ان کے کہے پر ضرور عمل کرے اور اگر طواف فرض یا واجب نہیں ہے تو غالب گمان پر عمل کرے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ طوافِ کعبہ معظمہ مسجد الحرام شریف کے اندر ہوگا اگر مسجد کے باہر سے طواف کیا نہ ہو۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ جو ایسا بیمار ہے کہ خود طواف نہیں کر سکتا اور سو رہا ہے اُس کے ہمراہیوں نے طواف کرایا، اگر سونے سے پہلے حکم دیا تھا تو صحیح ہے ورنہ نہیں۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ مریض نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مزدور لا کر مجھے طواف کرا دو پھر سو گیا، اگر فوراً مزدور لا کر طواف کرا دیا تو ہو گیا اور اگر دوسرے کام میں لگ گئے، دیر میں مزدور لائے اور سوتے میں طواف کرایا تو نہ ہو مگر مزدوری بہر حال لازم ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ مریض کو طواف کرایا اور اپنے طواف کی بھی نیت ہے تو دونوں کے طواف ہو گئے اگرچہ دونوں کے دو قسم کے طواف ہوں۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ طواف کرتے کرتے نمازِ جنازہ یا نمازِ فرض یا نیا وضو کرنے کے لیے چلا گیا تو واپس آ کر اسی پہلے طواف پر بتا کرے یعنی جتنے پھیروں رہ گئے ہوں انہیں کر لے طواف پورا ہو جائے گا، سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں اور سرے

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج ۳، ص ۵۸۱.

② "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج ۳، ص ۵۸۲.

③ "الدرالمختار"، کتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج ۳، ص ۵۸۲.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، فصل في المتفرقات، ج ۱، ص ۲۳۶.

⑤ المرجع السابق.

⑥ المرجع السابق.

سے کیا جب بھی حرج نہیں اور اس صورت میں اس پہلے کو پورا کرنا ضرور نہیں اور بنا کی صورت میں جہاں سے چھوڑا تھا، وہیں سے شروع کرے حجرِ اسود سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب اس وقت ہے جب کہ پہلے چار پھیرے سے کم کیے تھے اور اگر چار پھیرے یا زیادہ کیے تھے تو بنا ہی کرے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ طواف کر رہا تھا کہ جماعت قائم ہوئی اور جانتا ہے کہ پھیرا پورا کرے گا تو رکعت جاتی رہے گی، یا جنازہ آ گیا ہے انتظار نہ ہوگا تو وہیں سے چھوڑ کر نماز میں شریک ہو جائے اور بلا ضرورت چھوڑ کر چلا جانا مکروہ ہے مگر طواف باطل نہ ہوگا یعنی آ کر پورا کرے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ معذور طواف کر رہا ہے چار پھیروں کے بعد وقت نماز جاتا رہا تو اب اسے حکم ہے کہ وضو کر کے طواف کرے کیونکہ وقت نماز خارج ہونے سے معذور کا وضو جاتا رہتا ہے اور بغیر وضو طواف حرام اب وضو کرنے کے بعد جو باقی ہے پورا کرے اور چار پھیروں سے پہلے وقت ختم ہو گیا جب بھی وضو کر کے باقی کو پورا کرے اور اس صورت میں افضل یہ ہے کہ سرے سے کرے۔⁽³⁾ (منک)

مسئلہ ۱۲ رَمَل صرف تین پہلے پھیروں میں سنت ہے ساتوں میں کرنا مکروہ لہذا اگر پہلے میں نہ کیا تو صرف دوسرے اور تیسرے میں کرے اور پہلے تین میں نہ کیا تو باقی چار میں نہ کرے، اگر بھیڑ کی وجہ سے رَمَل کا موقع نہ ملے تو رَمَل کی خاطر نہ رکے، بلا رَمَل طواف کر لے اور جہاں جہاں موقع ہاتھ آئے اتنی دور رمل کر لے اور اگر ابھی شروع نہیں کیا ہے اور جانتا ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے رَمَل نہ کر سکے گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ ٹھہرنے سے موقع مل جائے گا تو انتظار کرے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ رَمَل اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی ہو، لہذا اگر طوافِ قدوم کے بعد کی سعی طوافِ زیارت تک مؤخر کرے تو طوافِ قدوم میں رَمَل نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ طواف کے ساتوں پھیروں میں اضطباع سنت ہے اور طواف کے بعد اضطباع نہ کرے، یہاں تک کہ طواف کے بعد کی نماز میں اگر اضطباع کیا تو مکروہ ہے اور اضطباع صرف اسی طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہو اور اگر طواف

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج ۳، ص ۵۸۲.

② "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج ۳، ص ۵۸۲.

③ "المسلك المتقسط"، (انواع الاطوفة و احكامها، فصل في مسائل شتى)، ص ۱۶۷.

④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج ۳، ص ۵۸۳.

⑤ "الفتاوى الهندية"، کتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۶.

کے بعد سعی نہ ہو تو اضطباع بھی نہیں۔^(۱) (منک)

میں نے بعض مطوف کو دیکھا کہ حجاج کو وقتِ احرام سے ہدایت کرتے ہیں کہ اضطباع کیے رہیں، یہاں تک کہ نمازِ احرام میں اضطباع کیے ہوئے تھے حالانکہ نماز میں مونڈھا کھلا رہنا مکروہ ہے۔

مسئلہ ۱۵ طواف کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ ایسی باتوں سے پرہیز رکھے جنہیں شرعِ مطہر پسند نہیں کرتی۔ امرداد اور عورتوں کی طرف بُری نگاہ نہ کرے، کسی میں اگر کچھ عیب ہو یا وہ خراب حالت میں ہو تو نظرِ حقارت سے اُسے نہ دیکھے بلکہ اُسے بھی نظرِ حقارت سے نہ دیکھے، جو اپنی نادانی کے سبب ارکانِ ٹھیک ادا نہیں کرتا بلکہ ایسے کو نہایت نرمی کے ساتھ سمجھا دے۔

نمازِ طواف

(۱۶) طواف کے بعد مقامِ ابراہیم میں آ کر آیہ کریمہ ﴿وَإِخْذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ﴾^(۲) پڑھ کر دو رکعت طواف پڑھے اور یہ نماز واجب ہے پہلی میں **قُلْ يَا دُوسِرِي** میں **قُلْ هُوَ اللَّهُ** پڑھے بشرطیکہ وقتِ کراہت مثلاً طلوعِ صبح سے بلندی آفتاب تک یا دوپہر یا نمازِ عصر کے بعد غروب تک نہ ہو، ورنہ وقتِ کراہت نکل جانے پر پڑھے۔ حدیث میں ہے: ”جو مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں محشور ہوگا۔“^(۳) یہ دو رکعتیں پڑھ کر دعا مانگے۔ یہاں حدیث میں ایک دعا ارشاد ہوئی، جس کے فائدوں کی عظمت اس کا لکھنا ہی چاہتی ہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبَلْ مَعْذِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاسِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضَى مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.^(۴)

① المسلك المتقسط، (فصل في صفة الشروع في الطواف)، ص ۱۲۹.

② پ ۱، البقرہ: ۱۲۵، ترجمہ: اور مقامِ ابراہیم سے نماز کی جگہ بناؤ۔

③ ”الشفاء“، الباب الرابع في حكم الصلاة عليه، فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الجزء ۲، ص ۹۳.

④ اے اللہ (عزوجل)! تو میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تو میری معذرت کو قبول کر اور تو میری حاجت کو جانتا ہے، میرا سوال مجھ کو عطا کر اور جو کچھ میرے نفس میں ہے تو اسے جانتا ہے تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ (عزوجل)! میں تجھ سے اُس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے قلب میں سرایت کر جائے اور یقین صادق مانگتا ہوں تاکہ میں جان لوں کہ مجھے وہی پہنچے گا جو تو نے میرے لیے لکھا ہے اور جو کچھ تو نے میری قسمت میں کیا ہے اُس پر راضی رہوں، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان! ۱۲۔

حدیث میں ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا، غم دور کروں گا، محتاجی اُس سے نکال لوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا، دنیا ناپا رو مجبور اُس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ اُسے نہ چاہے۔“ (1)

اس مقام پر بعض اور دعائیں مذکور ہیں مثلاً اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا بَلَدُكَ الْحَرَامُ وَ مَسْجِدُكَ الْحَرَامُ وَ بَيْتُكَ الْحَرَامُ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ اَمَّتِكَ اَتَيْتُكَ بِذُنُوبٍ كَثِيْرَةٍ وَ خَطَايَا جُمَّةٍ وَ اَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ وَ هٰذَا مَقَامُ الْعَالِيْدِ بِكَ مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا وَ اعْفِرْ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. (2)

مسئلہ ۱۶ اگر بھیڑ کی وجہ سے مقامِ ابراہیم میں نماز نہ پڑھ سکے تو مسجد شریف میں کسی اور جگہ پڑھ لے اور مسجد الحرام کے علاوہ کہیں اور پڑھی جب بھی ہو جائے گی۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ مقامِ ابراہیم کے بعد اس نماز کے لیے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے پھر حطیم میں میزابِ رحمت کے نیچے اس کے بعد حطیم میں کسی اور جگہ پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ میں پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ پھر حرمِ مکہ کے اندر جہاں بھی ہو۔ (4) (لباب)

مسئلہ ۱۸ سنت یہ ہے کہ وقتِ کراہت نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو اور اگر نہ پڑھی تو عمر بھر میں جب پڑھے گا، ادا ہی ہے قضا نہیں مگر یہ کیا کہ سنت فوت ہوئی۔ (5) (نسک)

مسئلہ ۱۹ فرض نماز ان رکعتوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ (6) (عالمگیری)

ملتزم سے لیٹنا

(۱۷) نماز و دعا سے فارغ ہو کر ملتزم کے پاس جائے اور قریب حجر اُس سے لپٹے اور اپنا سینہ اور پیٹ اور کبھی دہنا

- ① ”المسلك المتقسط“، ص ۱۳۸. ”تاریخ دمشق“ لابن عساکر، ج ۷، ص ۴۳۱. ”الفتاویٰ الرضویة“، ج ۱۰، ص ۷۴۱.
- ② اے اللہ (عزوجل)! یہ تیرا عزت والا شہر ہے اور تیری عزت والی مسجد ہے اور تیرا عزت والا گھر ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندہ اور تیری باندی کا بیٹا ہوں بہت سے گناہوں اور بڑی خطاؤں اور بُرے اعمال کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوا ہوں اور جنہم سے تیری پناہ مانگنے والے کی یہ جگہ ہے۔ اے اللہ (عزوجل)! تو ہمیں عافیت دے اور ہم سے معاف کر اور ہم کو بخش دے، بیشک تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ۱۲
- ③ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب المناسک، الباب الخامس، فی کیفیۃ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۶.
- ④ ”لباب المناسک“ للسندي، ص ۱۵۶.
- ⑤ ”المسلك المتقسط“، (فصل فی رکعتی الطواف)، ص ۱۵۵.
- ⑥ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۶.

رخسارہ اور کبھی بایاں اور کبھی رخسار اس پر رکھے اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار پر پھیلانے یا داہنا ہاتھ دروازہ کعبہ اور بایاں حجرِ اسود کی طرف پھیلانے، یہاں کی دعا یہ ہے:

يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لَا تَنْزِلْ عَلَيَّ نِعْمَةً أَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ . (1)

حدیث میں فرمایا: ”جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں۔“ (2)

نہایت خضوع و خشوع و عاجزی و انکسار کے ساتھ دعا کرے اور درود شریف بھی پڑھے اور اس مقام کی ایک دعا یہ بھی ہے:

إِلٰهِي وَقَفْتُ بِبَابِكَ وَالتَّزَمْتُ بِأَعْتَابِكَ أَرْجُو رَحْمَتَكَ وَأَخْشَى عِقَابَكَ اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَجَسَدِي عَلَى النَّارِ اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجِهِي عَنِ السُّجُودِ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجِهِي عَنْ مَسْأَلَةِ غَيْرِكَ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ رِقَابَنَا وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ

يَا كَرِيمُ يَا غَفَّارُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الْعَتِيقِ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَأَعِزَّنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَانْكُفْنَا كُلَّ سُوءٍ وَقِنَعْنَا بِمَا رَزَقْتَنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَكْرَمِ وَفِدِكَ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعْمَانِكَ وَأَفْضَلُ صَلَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ أَنْبِيَائِكَ وَجَمِيعِ رُسُلِكَ وَأَصْفِيَانِكَ وَعَلَى إِلٰهِ وَصْحِهِ وَأَوْلِيَائِكَ . (3)

①..... اے قدرت والے! اے بزرگ! تو نے مجھے جو نعمت دی، اس کو مجھ سے زائل نہ کر۔ ۱۲

②..... ”الفتاویٰ الرضویة“، ج ۱۰، ص ۷۴۲.

③..... الہی! میں تیرے دروازہ پر کھڑا ہوں اور تیرے آستانہ سے چپٹا ہوں تیری رحمت کا امیدوار اور تیرے عذاب سے ڈرنے والا، اے اللہ (عزوجل)! میرے بال اور جسم کو جہنم پر حرام کر دے، اے اللہ (عزوجل)! جس طرح تو نے میرے چہرہ کو اپنے غیر کے لیے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھا اسی طرح اس سے محفوظ رکھ کہ تیرے غیر سے سوال کروں، اے اللہ (عزوجل)! اے اس آزاد گھر کے مالک! تو ہماری گردنوں کو اور ہمارے باپ، دادا اور ہماری ماؤں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔

اے کریم! اے بخشنے والے! اے غالب! اے جبار! اے رب! تو ہم سے قبول کر، بیشک تو سننے والا، جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول کر بیشک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ (عزوجل)! اے اس آزاد گھر کے مالک! ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر اور شیطان مردود سے ہم کو پناہ دے اور ہر بُرائی سے ہماری کفایت کر اور جو کچھ تو نے دیا اُس پر قانع کر اور جو دیا اس میں برکت دے اور اپنے عزت والے وفد میں ہم کو کر دے، الہی! تیرے ہی لیے حمد ہے تیری نعمتوں پر اور افضل دُرود انبیا کے سردار پر اور تیرے تمام رسولوں اور برگزیدہ لوگوں پر اور اُن کی آل و اصحاب اور تیرے اولیاء پر۔ ۱۳

مسئلہ ۲۰

ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہے اور جس کے بعد سعی نہ ہو اس میں نماز سے پہلے ملتزم سے لپٹے پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑھے۔^(۱) (منک)

زَمِ زَمِ کی حاضری

(۱۸) پھر زم زم پر آؤ اور ہو سکے تو خود ایک ڈول کھینچو، ورنہ بھرنے والوں سے لے لو اور کعبہ کو مونہ کر کے تین سانسوں میں پیٹ بھر کر جتنا پیا جائے کھڑے ہو کر پیو، ہر بار بِسْمِ اللّٰهِ سے شروع کرو اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ پر ختم اور ہر بار کعبہ معظمہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، باقی بدن پر ڈال لو یا مونہ اور سر اور بدن پر اس سے مسح کر لو اور پیتے وقت دعا کرو کہ قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”زم زم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔“^(۲) اس وقت کی دعا یہ ہے:

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَلًا وَشِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ .^(۳)

یا وہی دعائے جامع پڑھو اور حاضری مکہ معظمہ تک تو بارہا پینا نصیب ہوگا، کبھی قیامت کی پیاس سے بچنے کو پیو، کبھی عذاب قبر سے محفوظی کو، کبھی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑھانے کو، کبھی وسعت رزق، کبھی شفا کے امراض، کبھی حصول علم وغیرہا خاص خاص مرادوں کے لیے پیو۔

(۱۹) وہاں جب پیو پیٹ بھر کر پیو۔ حدیث میں ہے: ”ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زم زم کو کھ بھر

نہیں پیتے۔“^(۴)

(۲۰) چاہے زم زم کے اندر نظر بھی کرو کہ بحکم حدیث دافعِ نفاق ہے۔^(۵)

صفا و مروہ کی سعی

(۲۱) اب اگر کوئی عذر تکان وغیرہ کا نہ ہو تو ابھی، ورنہ آرام لے کر صفا مروہ میں سعی کے لیے پھر حجرِ اسود کے پاس آؤ اور اسی طرح تکبیر وغیرہ کہہ کر چومو اور نہ ہو سکے تو اس کی طرف مونہ کر کے اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اور

① ”المسلك المتقسط“، (فصل في صفة الشروع في الطواف)، ص ۱۳۸.

② ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الناسک، باب الشرب من زم زم، الحدیث: ۳۰۶۲، ج ۳، ص ۴۹۰.

③ اے اللہ (عزوجل)! میں تجھ سے علم نافع اور کشادہ رزق اور عمل مقبول اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ ۱۳

④ ”سنن ابن ماجہ“، کتاب المناسک، باب الشرب من زم زم، الحدیث: ۳۰۶۱، ج ۳، ص ۴۸۹.

⑤ ”الفتاویٰ الرضویة“، ج ۱۰، ص ۷۴۲.

درود پڑھتے ہوئے فوراً بابِ صفا سے جانبِ صفا روانہ ہو، دروازہ مسجد سے بائیں پاؤں پہلے نکالو اور دہنا پہلے جوتے میں ڈالو اور یہ ادب ہر مسجد سے آتے ہوئے ہمیشہ ملحوظ رکھو اور وہی دعا پڑھو، جو مسجد سے نکلنے وقت پڑھنے کے لیے مذکور ہو چکی ہے۔

مسئلہ ۲۱ بغیر عذر اس وقت سعی نہ کرنا مکروہ ہے کہ خلاف سنت ہے۔

مسئلہ ۲۲ جب طواف کے بعد سعی کرنی ہو تو واپس آ کر حجرِ اسود کا استلام کر کے سعی کو جائے اور سعی نہ کرنی ہو تو استلام کی ضرورت نہیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ سعی کے لیے بابِ صفا سے جانا مستحب ہے اور یہی آسان بھی ہے اور اگر کسی دوسرے دروازہ سے جائے گا جب بھی سعی ادا ہو جائے گی۔

(۲۲) ذکر و درود میں مشغول صفا کی سیڑھیوں پر اتنا چڑھو کہ کعبہ معظمہ نظر آئے اور یہ بات یہاں پہلی ہی سیڑھی پر چڑھنے سے حاصل ہے یعنی اگر مکان اور دیواریں درمیان میں نہ ہوتیں تو کعبہ معظمہ یہاں سے نظر آتا، اس سے اوپر چڑھنے کی حاجت نہیں بلکہ مذہبِ اہل سنت و جماعت کے خلاف اور بد مذہبوں اور جاہلوں کا فعل ہے کہ بالکل اوپر کی سیڑھی تک چڑھ جاتے ہیں اور سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے یہ پڑھو:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿۵﴾^(۲)

پھر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک دعا کی طرح پھیلے ہوئے اٹھاؤ اور اتنی دیر تک ٹھہرو جتنی دیر میں مفصل کی کوئی سورت یا سورہ بقرہ کی پچیس آیتوں کی تلاوت کی جائے اور تسبیح و تہلیل و تکبیر و درود پڑھو اور اپنے لیے اور اپنے دوستوں اور دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کرو کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں بھی دعائے جامع پڑھو اور یہ پڑھو:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَلْهَمَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس، في كيفية اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۶.

②..... میں اس سے شروع کرتا ہوں جس کو اللہ (عزوجل) نے پہلے ذکر کیا۔ "بے شک صفا و مروہ اللہ (عزوجل) کی نشانیوں سے ہیں جس نے حج یا عمرہ کیا اس پر ان کے طواف میں گناہ نہیں اور جو شخص نیک کام کرے تو بیشک اللہ (عزوجل) بدلہ دینے والا، جاننے والا ہے۔" ۱۳

الْأَحْزَابِ وَحَدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ^ط يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ
اللَّهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَوْفَّقَانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَفَّقْنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَأَعِزَّنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ^ط اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُولَكَ وَأَنْبِيَاءَ نِكَ وَمَلَائِكَتِكَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ
اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي الْيُسْرَى وَجَنِّبْنِي الْعُسْرَى اللَّهُمَّ أَحْيِنِي عَلَى سُنَّةِ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَفَّقْنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاعْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيمَانًا كَامِلًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَنَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَدِينًا قَيِّمًا
وَنَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَنَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْأَلُكَ الشُّكْرَ
عَلَى الْعَافِيَةِ وَنَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ
ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ. (1)

①..... حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے کہ اس نے ہم کو ہدایت کی، حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے کہ اس نے ہم کو دیا، حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے کہ اس نے ہم کو الہام کیا، حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جس نے ہم کو اس کی ہدایت کی اور اگر اللہ (عزوجل) ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے مُلک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ خود زندہ ہے مرتا نہیں، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اپنے بندہ کی مدد کی اور اپنے لشکر کو غالب کیا اور کافروں کی جماعتوں کو تباہ اس نے شکست دی۔ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر بُرا مانیں۔

اللہ (عزوجل) کی پاکی ہے شام و صبح اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں اور تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، الہی! تو نے جس طرح مجھے اسلام کی طرف ہدایت کی، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اسے مجھ سے جُدا نہ کرنا یہاں تک کہ مجھے اسلام پر موت دے، اللہ (عزوجل) کے لیے پاکی ہے اور اللہ (عزوجل) کے لیے حمد ہے اور اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ (عزوجل) بہت بڑا ہے، اور گناہ سے پھرنا اور نیکی کی طاقت نہیں مگر اللہ (عزوجل) کی مدد سے جو بڑے بزرگ ہے۔ الہی! تو مجھ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ اور ان کی ملت پر وفات دے اور فتنہ کی گمراہیوں سے بچا، الہی! تو مجھ کو ان لوگوں =

دعا میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، نہ اس طرح جیسا بعض جاہل ہتھیلیاں کعبہ معظمہ کی طرف کرتے ہیں اور اکثر مطوف ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، یوہیں تین بار کرتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے بلکہ ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جب تک دعا مانگے اٹھائے رہے، جب ختم ہو جائے ہاتھ چھوڑ دے پھر سعی کی نیت کرے، اس کی نیت یوں ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي .

(۲۳) پھر صفا سے اتر کر مروہ کو چلے ذکر و درود برابر جاری رکھے، جب پہلا میل آئے (اور یہ صفا سے تھوڑے ہی فاصلہ پر ہے کہ بائیں ہاتھ کو بزرنگ کا میل مسجد شریف کی دیوار سے متصل ہے) یہاں سے مرد دوڑنا شروع کریں (مگر نہ حد سے زائد، نہ کسی کو ایذا دیتے) یہاں تک کہ دوسرے سبز میل سے نکل جائیں۔ یہاں کی دعا یہ ہے:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ ط وَتَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ط اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مُبْرُورًا وَسَعْيًا مُشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ط رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (۱)

(۲۴) دوسرے میل سے نکل کر آہستہ ہو لو اور یہ دعا بار بار پڑھتے ہوئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . مروہ تک پہنچو یہاں پہلی سیڑھی پر چڑھنے بلکہ اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے مروہ پر چڑھنا ہو گیا لہذا بالکل دیوار سے متصل نہ ہو جائے کہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے یہاں بھی اگر چہ عمارتیں بن جانے سے کعبہ نظر نہیں آتا مگر کعبہ کی طرف مونہہ کر کے جیسا صفا پر

میں کر جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اور تیرے رسول و انبیاء و ملائکہ اور نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں۔ الہی! میرے لیے آسانی میسر کر اور مجھے سختی سے بچا، الہی! اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر مجھ کو زندہ رکھ اور مسلمان مار اور نیکیوں کے ساتھ ملا اور جنت النعیم کا وارث کر اور قیامت کے دن میری خطا بخش دے۔ الہی! تجھ سے ایمان کامل اور قلب خاشع کا ہم سوال کرتے ہیں اور ہم تجھ سے علم نافع اور یقین صادق اور دین مستقیم کا سوال کرتے ہیں اور ہر بلا سے غصو عافیت کا سوال کرتے ہیں اور پوری عافیت اور عافیت کی ہمیشگی اور عافیت پر شکر کا سوال کرتے ہیں اور آدمیوں سے بے نیازی کا سوال کرتے ہیں۔ الہی! تو درود و سلام و برکت نازل کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر بقدر شمار تیری مخلوق اور تیری رضا اور ہموزن تیرے عرش کے اور بقدر درازی تیرے کلمات کے جب تک ذکر کرنے والے تیرا ذکر کرتے رہیں اور جب تک غافل تیرے ذکر سے غافل رہیں۔ ۱۲۔

①..... اے پروردگار! بخش اور رحم کر اور درگزر کر اُس سے جسے تو جانتا ہے اور تو اسے جانتا ہے جسے ہم نہیں جانتے، بیشک تو عزت و کرم والا ہے۔ اے اللہ (عزوجل)! تو اسے حج مبرور کر اور سعی مشکور کر اور گناہ بخش، اے اللہ (عزوجل)! مجھ کو اور میرے والدین اور جمع مؤمنین و مومنات کو بخش دے، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے! اے رب! تو ہم سے قبول کر، بیشک تو سننے والا، جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول کر، بیشک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے رب! تو ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہم کو عذابِ جہنم سے بچا۔ ۱۲۔

کیا تھا تسبیح و تکبیر و حمد و ثنا و درود و دعا یہاں بھی کر دینا ایک پھیرا ہوا۔

(۲۵) پھر یہاں سے صفا کو ذکر و درود اور دعا میں پڑھتے ہوئے جاؤ، جب سبز میل کے پاس پہنچو اسی طرح دوڑو اور دونوں میلوں سے گزر کر آہستہ ہولو پھر آؤ پھر جاؤ یہاں تک کہ ساتواں پھیرا مروہ پر ختم ہو اور ہر پھیرے میں اسی طرح کرو اس کا نام سعی ہے۔ دونوں میلوں کے درمیان اگر دوڑ کر نہ چلا یا صفا سے مروہ تک دوڑ کر گیا تو برا کیا کہ سنت ترک ہوئی، مگر دم یا صدقہ واجب نہیں اور سعی میں اضطباع نہیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے میلین کے درمیان دوڑنے سے عاجز رہے تو کچھ ٹھہر جائے کہ بھٹکم ہو جائے اور دوڑنے کا موقع مل جائے اور اگر کچھ ٹھہرنے سے ہجوم کم نہ ہوگا تو دوڑنے والوں کی طرح چلے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے جانور پر سوار ہو کر سعی کرتا ہے تو اس درمیان میں جانور کو تیز چلائے مگر اس کا خیال رہے کہ کسی کو ایذا نہ ہو کہ یہ حرام ہے۔

مسئلہ ۲۴ اگر مروہ سے سعی شروع کی تو پہلا پھیرا کہ مروہ سے صفا کو ہوا شمار نہ کیا جائے گا، اب کہ صفا سے مروہ کو جائے گا یہ پہلا پھیرا ہوا۔^(۱) (در مختار، عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ جو شخص احرام سے پہلے بیہوش ہو گیا ہے اور اس کے ساتھیوں نے اس کی طرف سے احرام باندھا ہے تو اس کی طرف سے اس کے ساتھی نیلہ سعی کر سکتے ہیں۔^(۲) (منک)

مسئلہ ۲۶ سعی کے لیے شرط یہ ہے کہ پورے طواف یا طواف کے اکثر حصہ کے بعد ہو، لہذا اگر طواف سے پہلے یا طواف کے تین پھیرے کے بعد سعی کی تو نہ ہوئی اور سعی کے قبل احرام ہونا بھی شرط ہے، خواہ حج کا احرام ہو یا عمرہ کا، احرام سے قبل سعی نہیں ہو سکتی اور حج کی سعی اگر وقف عرفہ کے قبل کرے تو وقت سعی میں بھی احرام ہونا شرط ہے اور وقف عرفہ کے بعد ہو تو سنت یہ ہے کہ احرام کھول چکا ہو اور عمرہ کی سعی میں احرام واجب ہے یعنی اگر طواف کے بعد سر مونڈ لیا پھر سعی کی تو سعی ہو گئی مگر چونکہ واجب ترک ہوا لہذا دم واجب ہے۔^(۳) (لباب)

مسئلہ ۲۷ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں، حیض والی عورت اور جنب بھی سعی کر سکتا ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ سعی میں پیدل چلنا واجب ہے جب کہ عذر نہ ہو، لہذا اگر سواری یا ڈولی وغیرہ پر سعی کی یا پاؤں سے نہ چلا بلکہ گھسٹتا ہوا گیا تو حالت عذر میں معاف ہے اور بغیر عذر ایسا کیا تو دم واجب ہے۔^(۵) (لباب)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۷.

② "المسئلۃ المتقسط"، (باب سعی بین صفا و المروۃ، فصل فی شرائط صحۃ سعی)، ص ۱۷۴.

③ "لباب المناسک"، ص ۱۷۴.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۷.

⑤ "لباب المناسک"، (باب سعی بین صفا و المروۃ، فصل فی واجباتہ)، ص ۱۷۸.

مسئلہ ۲۹ سعی میں ستر عورت سنت ہے یعنی اگرچہ ستر کا چھپانا فرض ہے مگر اس حالت میں فرض کے علاوہ سنت بھی ہے کہ اگر ستر کھلا رہا تو اس کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں مگر ایک گناہ فرض کے ترک کا ہوا، دوسرا ترک سنت کا۔^(۱) (منسک)

ایک ضروری نصیحت

بعض عورتوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ نہایت بے باکی سے سعی کرتی ہیں کہ ان کی کلائیاں اور گلا گھلا رہتا ہے اور یہ خیال نہیں کہ مکہ معظمہ میں معصیت کرنا نہایت سخت بات ہے کہ یہاں جس طرح ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے۔ یوہیں ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر بلکہ یہاں تو یہاں کعبہ معظمہ کے سامنے بھی وہ اسی حالت سے رہتی ہیں بلکہ اسی حالت میں طواف کرتے دیکھا، حالانکہ طواف میں ستر کا چھپانا علاوہ اسی فرض دائمی کے واجب بھی ہے تو ایک فرض دوسرے واجب کے ترک سے دو گناہ کیے۔

وہ بھی کہاں بیٹ اللہ کے سامنے اور خاص طواف کی حالت میں بلکہ بعض عورتیں طواف کرنے میں خصوصاً حجرِ اسود کو بوسہ دینے میں مردوں میں گھس جاتی ہیں اور ان کا بدن مردوں کے بدن سے مس ہوتا رہتا ہے مگر ان کو اس کی کچھ پروا نہیں حالانکہ طواف یا بوسہ حجرِ اسود وغیرہما ثواب کے لیے کیا جاتا ہے مگر وہ عورتیں ثواب کے بدلے گناہ مول لیتی ہیں لہذا ان امور کی طرف حجاج کو خصوصیت کیساتھ توجہ کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ جو عورتیں ہوں انھیں بتا کید ایسی حرکات سے منع کرنا چاہیے۔

مسئلہ ۳۰ مستحب یہ ہے کہ با وضو سعی کرے اور کپڑا بھی پاک ہو اور بدن بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو اور سعی شروع کرتے وقت نیت کر لے۔

مسئلہ ۳۱ مکروہ وقت نہ ہو تو سعی کے بعد دو رکعت نماز مسجد شریف میں جا کر پڑھنا بہتر ہے۔^(۲) (در مختار)

امام احمد و ابن ماجہ و ابن حبان، مطلب بن ابی و داؤد سے راوی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سعی سے فارغ ہوئے تو حجر کے سامنے تشریف لاکر حاشیہ مطاف میں دو رکعت نماز پڑھی۔^(۳)

مسئلہ ۳۲ سعی کے ساتوں پھیرے پے در پے کرے، اگر متفرق طور پر کیے تو اعادہ کرے اور اب سے سات پھیرے کرے کہ پے در پے نہ ہونے سے سنت ترک ہوگئی، ہاں اگر سعی کرتے میں جماعت قائم ہوئی یا جنازہ آیا تو سعی چھوڑ کر نماز میں مشغول ہو، بعد نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے پوری کر لے۔^(۴) (عالمگیری)

① "المسلك المتقسط"، (باب سعی بین صفا و المروة، فصل فی سنہ)، ص ۱۷۹.

② "الدر المختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۸۹.

③ "المسند" للإمام احمد، الحدیث: ۲۷۳۱۳، ج ۱۰، ص ۳۵۴.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۷.

مسئلہ ۳۳ سعی کی حالت میں فضول و بیکار باتیں سخت نازیبا ہیں کہ یہ تو ویسے بھی نہ چاہیے نہ کہ اس وقت کہ عبادت میں مشغول ہو، واضح ہو کہ عمرہ صرف انہیں افعال طوافِ وسعی کا نام ہے۔ قرآن و تمتع والے کے لیے یہی عمرہ ہو گیا اور افراد والے کے لیے یہ طوافِ طوافِ قدوم یعنی حاضری دربار کا مجرا۔

مسئلہ ۳۴ حج کرنے والا مکہ میں جانے سے پہلے عرفات میں پہنچا تو طوافِ قدوم ساقط ہو گیا مگر برآ کیا کہ سنت فوت ہوئی اور دم وغیرہ واجب نہیں۔^(۱) (جوہرہ، ردالمحتار)

(۲۶) قارن یعنی جس نے قرآن کیا ہے اس کے بعد طوافِ قدوم کی نیت سے ایک طوافِ وسعی اور بجالائے۔

(۲۷) قارن اور مفرد یعنی جس نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، لبیک کہتے ہوئے مکہ میں ٹھہریں۔ اُن کی لبیک دسویں تاریخِ رمیِ جمرہ کے وقت ختم ہوگی اور اسی وقت احرام سے نکلیں گے جس کا ذکر ان شاء اللہ تعالیٰ آتا ہے مگر تمتع یعنی جس نے تمتع کیا ہے وہ اور مُتَعَمِّر یعنی زرا عمرہ کرنے والا شروع طوافِ کعبہ معظّمہ سے سنگِ اسود شریف کا پہلا بوسہ لیتے ہی لبیک چھوڑ دیں اور طوافِ وسعی مذکور کے بعد حلق کریں یعنی سارا سر مونڈا دیں یا تقصیر یعنی بال کتروائیں اور احرام سے باہر آئیں۔

سر مونڈانا یا بال کتروانا

عورتوں کو بال مونڈانا احرام ہے، وہ صرف ایک پورے برابر بال کتروائیں اور مردوں کو اختیار ہے کہ حلق کریں یا تقصیر اور بہتر حلق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حلق کرایا^(۲) اور سر مونڈانے والوں کے لیے دعائے رحمت تین بار فرمائی اور کتروانے والوں کے لیے ایک بار^(۳) اور اگر تمتع منیٰ کی قربانی کے لیے جانور ساتھ لے گیا ہے تو عمرہ کے بعد احرام کھولنا اُسے جائز نہیں، بلکہ قارن کی طرح احرام میں رہے اور لبیک کہا کرے یہاں تک کہ دسویں کی رمی کے ساتھ لبیک چھوڑے پھر قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر ہو۔ پھر تمتع چاہے تو آٹھویں ذی الحجہ تک بے احرام رہے، مگر افضل یہ ہے کہ جلد حج کا احرام باندھ لے، اگر یہ خیال نہ ہو کہ دن زیادہ ہیں احرام کی قیدیں نہ نبھیں گی۔

(۲۸) تشبیہ: طوافِ قدوم میں اضطباع و زمل اور اس کے بعد صفا، مروہ میں سعی ضرور نہیں مگر اب نہ کرے گا تو طوافِ زیارت میں کہ حج کا طواف فرض ہے، جس کا ذکر ان شاء اللہ آتا ہے یہ سب کام کرنے ہوں گے اور اس وقت ہجوم بہت ہوتا ہے، عجب نہیں کہ طواف میں زمل اور مسعی میں دوڑنا نہ ہو سکے اور اُس وقت ہو چکا تو اس طواف میں ان چیزوں کی حاجت نہ

① "الحوہرۃ النیرۃ"، الجزء الاول، کتاب الحج، ص ۲۰۹۔ و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحنایات، ج ۳، ص ۶۶۵۔

② "صحیح البخاری"، کتاب المغازی، باب حجۃ الوداع، الحدیث: ۴۴۱۰، ج ۳، ص ۱۴۲۔

③ "صحیح البخاری"، کتاب الحج، باب الحلق و التقصیر عند الاحلال، الحدیث: ۱۷۲۸، ج ۱، ص ۵۷۴۔

ہوگی لہذا ہم نے ان کو مطلقاً ترکیب میں داخل کر دیا۔

(۲۹) مُفرد و قَارِن توجح کے رَمَل و سَعی سے طوافِ قدم میں فارغ ہو لیے مگر مُتَمَتِّع نے جو طوافِ وسعی کیے وہ عمرہ کے تھے، حج کے رَمَل و سَعی اس سے ادا نہ ہوئے اور اُس پر طوافِ قدم ہے نہیں کہ قَارِن کی طرح اس میں یہ امور کر کے فراغت پالے لہذا اگر وہ بھی پہلے سے فارغ ہو لینا چاہے، تو جب حج کا احرام باندھے اس کے بعد ایک نفل طواف میں رَمَل و سَعی کر لے اب اسے بھی طوافِ زیارت میں ان امور کی حاجت نہ ہوگی۔

ایامِ اقامت میں کیا کریں

(۳۰) اب یہ سب حجاج (قَارِن، مُتَمَتِّع، مُفرد کوئی ہو) کہ منیٰ کے جانے کے لیے مکہ معظمہ میں آٹھویں تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، ایامِ اقامت میں جس قدر ہو سکے نوافل بغیر اضطباع و رَمَل و سَعی کرتے رہیں کہ باہر والوں کے لیے یہ سب سے بہتر عبادت ہے اور ہر سات پھیروں پر مقامِ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام میں دو رکعت نماز پڑھیں۔

(۳۱) زیادہ احتیاط یہ ہے کہ عورتوں کو طواف کے لیے شب کے دس گیارہ بجے جب ہجوم کم ہو لے جائیں۔ یوہیں صفا و مردہ کے درمیان سَعی کے لیے بھی۔

(۳۲) عورتیں نماز فرود گاہ^(۱) ہی میں پڑھیں۔ نمازوں کے لیے جو دونوں مسجدِ کریم میں حاضر ہوتی ہیں جہالت ہے کہ مقصود ثواب ہے اور خود حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”عورت کو میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنا ہے۔“^(۲) ہاں عورتیں مکہ معظمہ میں روزانہ ایک بار رات میں طواف کر لیا کریں اور مدینہ طیبہ میں صبح و شام صلوٰۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتی رہیں۔

(۳۳) اب یا منیٰ سے واپسی کے بعد جب کبھی رات و دن میں جتنی بار کعبہ معظمہ پر نظر پڑے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تین بار کہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دُرُود بھیجیں اور دعا کریں کہ وقت قبول ہے۔

طواف میں یہ باتیں حرام ہیں

(۳۴) طواف اگرچہ نفل ہو اس میں یہ باتیں حرام ہیں:

① بے وضو طواف کرنا۔

①..... یعنی قیام گاہ۔

②.....

- ② کوئی عضو جو ستر میں داخل ہے اس کا چہارم کھلا ہونا مثلاً ران یا آزاد عورت کا کان یا کلائی۔
- ③ بے مجبوری سواری پر یا کسی کی گود میں یا کندھوں پر طواف کرنا۔
- ④ بلا عذر بیٹھ کر سر کنایا گھٹنوں چلنا۔
- ⑤ کعبہ کو دہنے ہاتھ پر لے کر الٹا طواف کرنا۔
- ⑥ طواف میں حطیم کے اندر ہو کر گزرتا۔
- ⑦ سات پھیروں سے کم کرنا۔^(۱)

طواف میں یہ ۱۵ باتیں مکروہ ہیں

(۳۵) یہ باتیں طواف میں مکروہ ہیں:

- ① فضول بات کرنا۔
- ② بیچنا۔
- ③ خریدنا۔
- ④ حمد و نعت و منقبت کے سوا کوئی شعر پڑھنا۔
- ⑤ ذکر یا دعایا تلاوت یا کوئی کلام بلند آواز سے کرنا۔
- ⑥ ناپاک کپڑے میں طواف کرنا۔
- ⑦ زمل، یا ⑧ اضطباع، یا ⑨ بوسہ سنگِ اسود جہاں جہاں ان کا حکم ہے ترک کرنا۔
- ⑩ طواف کے پھیروں میں زیادہ فصل دینا یعنی کچھ پھیرے کر لیے پھر دیر تک ٹھہر گئے یا اور کسی کام میں لگ گئے باقی پھیرے بعد کو کیے مگر وضو جاتا رہے تو کر آئے یا جماعت قائم ہوئی اور اُس نے ابھی نماز نہ پڑھی تو شریک ہو جائے بلکہ جنازہ کی نماز میں بھی طواف چھوڑ کر مل سکتا ہے باقی جہاں سے چھوڑا تھا آ کر پورا کر لے۔ یوہیں پیشاب پاخانہ کی ضرورت ہو تو چلا جائے وضو کر کے باقی پورا کرے۔

⑪ ایک طواف کے بعد جب تک اس کی رکعتیں نہ پڑھ لے دوسرا طواف شروع کر دینا مگر جب کہ کراہت نماز کا وقت ہو جیسے صبح صادق سے بلندی آفتاب تک یا نماز عصر پڑھنے کے بعد سے غروب آفتاب تک کہ اس میں متعدد طواف بے فصل

① "الفتاویٰ الرضویۃ"، ج ۱۰، ص ۷۴۴، وغیرہ.

نماز جائز ہیں۔ وقت کراہت نکل جائے تو ہر طواف کے لیے دو رکعت ادا کرے اور اگر بھول کر ایک طواف کے بعد بغیر نماز پڑھے دوسرا طواف شروع کر دیا تو اگر ابھی ایک پھیرا پورا نہ کیا ہو تو چھوڑ کر نماز پڑھے اور پورا پھیرا کر لیا ہے تو اس طواف کو پورا کر کے نماز پڑھے۔

۱۲) خطبہ امام کے وقت طواف کرنا۔

۱۳) جماعت فرض کے وقت کرنا، ہاں اگر خود پہلی جماعت میں پڑھ چکا ہے تو باقی جماعتوں کے وقت طواف کرنے میں حرج نہیں اور نمازیوں کے سامنے گزر بھی سکتا ہے کہ طواف بھی نماز ہی کی مثل ہے۔

۱۴) طواف میں کچھ کھانا۔

۱۵) پیشاب پاخانہ یارتح کے تقاضے میں طواف کرنا۔^(۱)

یہ باتیں طواف و سعی دونوں میں جائز ہیں

(۳۶) یہ باتیں طواف و سعی دونوں میں مباح ہیں:

① سلام کرنا۔

② جواب دینا۔

③ حاجت کے لیے کلام کرنا۔

④ فتویٰ پوچھنا۔

⑤ فتویٰ دینا۔

⑥ پانی پینا۔

⑦ حمد و نعت و منقبت کے اشعار آہستہ پڑھنا اور سعی میں کھانا بھی کھا سکتا ہے۔^(۲)

سعی میں یہ باتیں مکروہ ہیں

(۳۷) سعی میں یہ باتیں مکروہ ہیں:

① "الفتاویٰ الرضویۃ"، ج ۱۰، ص ۷۴۴، وغیرہ۔

② "الفتاویٰ الرضویۃ"، ج ۱۰، ص ۷۴۵، وغیرہ۔

- ① بے حاجت اس کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ دینا مگر جماعت قائم ہو تو چلا جائے۔ یوہیں شرکت جنازہ یا قضائے حاجت یا تجدید وضو کو جانا اگر چہ سعی میں وضو ضرور نہیں۔
- ② خرید و فروخت۔
- ③ فضول کلام۔
- ④ صفایا مروہ پر نہ چڑھنا۔
- ⑤ مرد کا مسعے میں بلا عذر نہ دوڑنا۔
- ⑥ طواف کے بعد بہت تاخیر کر کے سعی کرنا۔
- ⑦ ستر عورت نہ ہونا۔
- ⑧ پریشان نظری یعنی ادھر ادھر فضول دیکھنا سعی میں بھی مکروہ ہے اور طواف میں اور زیادہ مکروہ۔⁽¹⁾

طواف و سعی کے مسائل میں مرد و عورت کے فرق

- (۳۸) طواف و سعی کے سب مسائل میں عورتیں بھی شریک ہیں مگر ① اضطباع، ② رمل، ③ مسعے میں دوڑنا، یہ تینوں باتیں عورتوں کے لیے نہیں۔ ④ مزاحمت کے ساتھ بوسہ سنگِ اسود یا ⑤ رکنِ یمانی کو چھونا یا ⑥ کعبہ سے قریب ہونا یا ⑦ زمزم کے اندر نظر کرنا یا ⑧ خود پانی بھرنے کی کوشش کرنا، یہ باتیں اگر یوں ہو سکیں کہ نامحرم سے بدن نہ چھوئے تو خیر، ورنہ الگ تھلگ رہنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔⁽²⁾

منیٰ کی روانگی اور عرفہ کا وقوف

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿لَمَّا آفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۳۹﴾﴾⁽³⁾

پھر تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ واپس ہوئے (یعنی عرفات سے) اور اللہ (عزوجل) سے مغفرت مانگو، بیشک اللہ (عزوجل) بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔

① "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۱۰، ص ۷۴۵، وغیرہ.

② "الفتاویٰ الرضویة"، ج ۱۰، ص ۷۴۵، وغیرہ.

③ پ ۲، البقرہ: ۱۹۹.

حدیث ۱ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں اُم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ قریش اور جو لوگ اُن کے طریقے پر تھے مزدلفہ میں وقوف کرتے اور تمام عرب عرفات میں وقوف کرتے جب اسلام آیا، اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ: ”عرفات میں جا کر وقوف کریں پھر وہاں سے واپس ہوں۔“ (1)

حدیث ۲ صحیح مسلم شریف میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حجۃ الوداع شریف کی حدیث مروی، اسی میں ہے کہ یوم الترویہ (آٹھویں ذی الحجہ) کو لوگ منیٰ کو روانہ ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منیٰ میں ظہر و عصر و مغرب و عشا و فجر کی نمازیں پڑھیں پھر تھوڑا توقف کیا یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہوا۔

اور حکم فرمایا کہ نمرہ (2) میں ایک قبہ نصب کیا جائے، اس کے بعد حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یہاں سے روانہ ہوئے اور قریش کا یہ گمان تھا کہ مزدلفہ میں وقوف فرمائیں گے جیسا کہ جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچے یہاں نمرہ میں قبہ نصب ہو چکا تھا، اس میں تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ جب آفتاب ڈھل گیا سواری تیار کی گئی پھر بطن وادی میں تشریف لائے اور خطبہ پڑھا پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان و اقامت کہی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے نماز ظہر پڑھی پھر اقامت ہوئی اور عصر کی نماز پڑھی اور دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہ پڑھا پھر موقف میں تشریف لائے اور وقوف کیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ (3)

حدیث ۳ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”میں نے یہاں وقوف کیا اور پورا عرفات جائے وقوف ہے اور میں نے اس جگہ وقوف کیا اور پورا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے۔“ (4)

حدیث ۴ مسلم و نسائی و ابن ماجہ و رزین اُم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے۔“ (5)

حدیث ۵ ترمذی میں بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: عرفہ کی

① ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب فی الوقوف... إلخ، الحدیث: ۱۲۱۹، ص ۶۳۸.

② عرفات میں ایک مقام ہے۔ ۱۲

③ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۱۴۷- (۱۲۱۸)، ص ۶۳۴.

④ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب ماجاء ان عرفۃ کلھا موقف، الحدیث: ۱۴۹- (۱۲۱۸)، ص ۶۳۸.

⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب فضل یوم عرفۃ، الحدیث: ۱۳۴۸، ص ۷۰۳.

سب سے بہتر دعا اور وہ جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء نے کی یہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (1)

حدیث ۶ امام مالک مرسلہ بن علی بن عبد اللہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عرفہ سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ صغیر و ذلیل و حقیر اور غیظ میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ (عزوجل) کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے۔“ (2)

حدیث ۷ ابن ماجہ و بیہقی عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی اور وہ دعا مقبول ہوئی، فرمایا: ”میں نے انھیں بخش دیا سو حقوق العباد کے کہ مظلوم کے لیے ظالم سے مواخذہ کروں گا۔“ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے عرض کی، اے رب! اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کر دے اور ظالم کی مغفرت فرما دے۔ اُس دن یہ دعا مقبول نہ ہوئی پھر مژدلفہ میں صبح کے وقت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اسی دعا کا اعادہ کیا اُس وقت یہ دعا مقبول ہوئی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔

صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، ہمارے ماں باپ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر قربان اس وقت تبسم فرمانے کا کیا سبب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ: ”دشمن خدا ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل نے میری دعا قبول کی اور میری امت کی بخشش فرمائی تو اپنے سر پر خاک اُڑانے لگا اور او ویلا کرنے لگا، اُس کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر مجھے ہنسی آئی۔“ (3)

حدیث ۸ ابو یعلیٰ و بزار و ابن خزيمة و ابن حبان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ذی الحجہ کے دس دنوں سے کوئی دن اللہ (عزوجل) کے نزدیک افضل نہیں۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یہ افضل ہیں یا اتنے دنوں میں اللہ (عزوجل) کی راہ میں جہاد کرنا؟ ارشاد فرمایا: اللہ (عزوجل) کی راہ میں اس تعداد میں جہاد کرنے سے بھی یہ افضل ہیں اور اللہ (عزوجل) کے نزدیک عرفہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں۔“

عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلّی فرماتا ہے اور زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں پر مہابات کرتا، ان سے فرماتا ہے: ”میرے بندوں کو دیکھو کہ پراگندہ سرگرد آلودہ دھوپ کھاتے ہوئے دُور دُور سے میری رحمت کے

① ”جامع الترمذی“، کتاب الدعوات، باب فی دعاء یوم عرفہ، الحدیث: ۳۵۹۶، ج ۵، ص ۳۳۸.

② ”الموطأ“ للإمام مالک، کتاب الحج، باب جامع الحج، الحدیث: ۹۸۲، ج ۱، ص ۳۸۶.

③ ”سنن ابن ماجہ“، أبواب المناسک، باب الدعاء بعرفہ، الحدیث: ۳۰۱۳، ج ۳، ص ۴۶۶.

امیدوار حاضر ہوئے تو عرفہ سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے کسی دن میں دیکھے نہ گئے۔“ (1) اور بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے، کہ اللہ عزوجل ملائکہ سے فرماتا ہے: ”میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، ان میں فلاں و فلاں حرام کرنے والے ہیں، اللہ عزوجل فرماتا ہے: میں نے سب کو بخش دیا۔“ (2)

حدیث ۹ امام احمد و طبرانی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے، اُس کی مغفرت ہو جائے گی۔“ (3)

حدیث ۱۰ بیہقی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان عرفہ کے دن پچھلے پہر کو موقف میں وقوف کرے پھر توبہ کرے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور توبہ اَرْتَابًا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے اور پھر توبہ بار بار یہ درود پڑھے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ. اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کو کیا ثواب دیا جائے جس نے میری تسبیح و تہلیل کی اور تکبیر و تعظیم کی مجھے پہچانا اور میری ثنا کی اور میرے نبی پر درود بھیجا۔ اے میرے فرشتو! گواہ رہو کہ میں نے اُسے بخش دیا اور اس کی شفاعت خود اس کے حق میں قبول کی اور اگر میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو اُس کی شفاعت جو یہاں ہیں سب کے حق میں قبول کروں۔“ (4)

حدیث ۱۱ بیہقی ابوسلیمان دارانی سے راوی، کہ امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے وقوف کے بارے میں سوال ہوا کہ اس پہاڑ میں کیوں مقرر ہوا، حرم میں کیوں نہ ہوا؟ فرمایا: کعبہ بیت اللہ ہے اور حرم اُس کا دروازہ تو جب لوگ اُس کی زیارت کے قصد سے آئے دروازے پر کھڑے کیے گئے کہ تضرع کریں۔ عرض کی، یا امیر المؤمنین! پھر وقوفِ مُزَدَلِفَہ کا کیا سبب ہے؟ فرمایا کہ جب انہیں آنے کی اجازت ملی تو اب اس دوسری ڈیوڑھی پر روکے گئے پھر جب تضرع زیادہ ہوا تو حکم ہوا کہ منیٰ میں قربانی کریں پھر جب اپنے میل کچیل اُتار چکے اور قربانیاں کر چکے اور گناہوں سے پاک ہو چکے تو اب باطہارت زیارت کی انہیں اجازت ملی۔

① ”مسند أبي يعلى“، الحديث: ۲۰۸۶، ج ۲، ص ۲۹۹.

② ”الترغيب و الترهيب“، كتاب الحج، الترغيب في الوقوف بعرفة... إلخ، الحديث: ۱، ج ۲، ص ۱۲۸.

③ ”شعب الإيمان“، باب في المناسك، فضل الوقوف بعرفات... إلخ، الحديث: ۴۰۷۱، ج ۳، ص ۴۶۱.

④ ”شعب الإيمان“، باب في المناسك، فضل الوقوف بعرفات... إلخ، الحديث: ۴۰۷۴، ج ۳، ص ۴۶۳.

عرض کی گئی، یا امیر المؤمنین! ایام تشریق میں روزے کیوں حرام ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ (عزوجل) کے زوار و مہمان ہیں اور مہمان کو بغیر اجازت میزبان روزہ رکھنا جائز نہیں۔ عرض کی گئی، یا امیر المؤمنین! غلاف کعبہ سے لپٹنا کس لیے ہے؟ فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے دوسرے کا گناہ کیا ہے وہ اس کے کپڑوں سے لپٹتا اور عاجزی کرتا ہے کہ یہ اُسے بخش دے۔ (1)

جب وقوف کے ثواب سے آگاہ ہوئے تو اب گناہوں سے پاک صاف ہونے کا وقت قریب آیا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہدایات پر عمل کرو۔

(1) ساتویں تاریخ: مسجد حرام میں بعد ظہر امام خطبہ پڑھے گا اُسے سُنو، اس خطبہ میں منیٰ جانے اور عرفات میں نماز اور وقوف اور وہاں سے واپس ہونے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔

(2) یوم الترویہ میں کہ آٹھویں تاریخ کا نام ہے جس نے احرام نہ باندھا ہو باندھ لے اور ایک نفل طواف میں رمل وسیعی کر لے جیسا کہ اوپر گزرا اور احرام کے متعلق جو آداب پیشتر بیان کیے گئے، مثلاً غسل کرنا، خوشبو لگانا وہ یہاں بھی ملحوظ رکھے اور نہادھو کر مسجد الحرام شریف میں آئے اور طواف کرے، اس کے بعد طواف کی نماز بدستور ادا کرے، پھر دو رکعت سنت احرام کی نیت سے پڑھے، اس کے بعد حج کی نیت کرے اور لبیک کہے۔

(3) جب آفتاب نکل آئے منیٰ کو چلو۔ اگر آفتاب نکلنے کے پہلے ہی چلا گیا جب بھی جائز ہے مگر بعد میں بہتر ہے اور زوال کے بعد بھی جاسکتا ہے مگر ظہر کی نماز منیٰ میں پڑھے اور ہو سکے تو پیادہ جاؤ کہ جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی، یہ نیکیاں تخمیناً اٹھتر کھرب چالیس ارب آتی ہیں اور اللہ کا فضل اس نبی کے صدقہ میں اس اُمت پر بے شمار ہے۔ جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔

(4) راستے بھر لبیک و دعا و درود و ثنا کی کثرت کرو۔

(5) جب منیٰ نظر آئے یہ دعا پڑھو:

اللَّهُمَّ هِدِيْ مِنِّيْ فَاْمُنُّنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلَيَّ اَوْلِيَا نِكَ . (2)

(6) یہاں رات کو ٹھہرو۔ آج ظہر سے نویں کی صبح تک پانچ نمازیں یہیں مسجد خیف میں پڑھو، آج کل بعض مطوفوں نے یہ نکالی ہے کہ آٹھویں کو منیٰ میں نہیں ٹھہرتے سیدھے عرفات پہنچتے ہیں، ان کی نہ مانے اور اس سنت عظیمہ کو ہرگز نہ چھوڑے۔

①..... "شعب الإيمان"، باب فی المناسک، فضل الوقوف بعرفات... إلخ، الحدیث: ۴۰۸۴، ج ۳، ص ۴۶۸.

و"الترغیب و الترہیب"، کتاب الحج، الترغیب فی الوقوف بعرفہ... إلخ، الحدیث: ۱۶، ج ۲، ص ۱۳۳.

②..... اُمّی یہ منیٰ ہے مجھ پر تو وہ احسان کر جو اپنے اولیا پر تو نے کیا۔ ۱۲

قافلہ کے اصرار سے ان کو بھی مجبور ہونا پڑے گا۔ شبِ عرفہ منیٰ میں ذکر و عبادت سے جاگ کر صبح کرو۔ سونے کے بہت دن پڑے ہیں اور نہ ہو تو کم از کم عشا و صبحِ جماعتِ اولیٰ سے پڑھو کہ شبِ بیداری کا ثواب ملے گا اور با وضو سوؤ کہ رُوحِ عرش تک بلند ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیہقی و طبرانی وغیرہما نے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جو شخص عرفہ کی رات میں یہ دعائیں ہزار مرتبہ پڑھے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا پائے گا جب کہ گناہ یا قطعِ رحم کا سوال نہ کرے۔“

سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مَوْطِنُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ
سُبْحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْقَبْرِ قَضَاؤُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي
الْهَوَاءِ رُوحُهُ سُبْحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ سُبْحَانَ الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ سُبْحَانَ الَّذِي لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَا مِنْهُ إِلَّا
إِلَيْهِ. (1)

(۸) صبح: مستحب وقت نماز پڑھ کر لیبیک و ذکر و درود شریف میں مشغول رہو یہاں تک کہ آفتاب کوہِ شہیر پر کہ مسجد خیف شریف کے سامنے ہے چمکے۔ اب عرفات کو چلو دل کو خیالِ غیر سے پاک کرنے میں کوشش کرو کہ آج وہ دن ہے کہ کچھ کاج قبول کریں گے اور کچھ کو ان کے صدقہ میں بخش دیں گے۔ محروم وہ جو آج محروم رہا، وسوسے آئیں تو اُن سے لڑائی نہ باندھو کہ یوں بھی دشمن کا مطلب حاصل ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم اور خیال میں لگ جاؤ، لڑائی باندھی جب بھی تو اور خیال میں پڑے بلکہ وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ کرو، یہ سمجھ لو کہ کوئی اور وجود ہے جو ایسے خیالات لا رہا ہے مجھے اپنے رب سے کام ہے، یوں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مردود نا کام واپس جائے گا۔

مسئلہ ۱ اگر عرفہ کی رات مکہ میں گزاری اور نویں کو فجر پڑھ کر منیٰ ہوتا ہوا عرفات میں پہنچا تو حج ہو جائے گا مگر یہ کیا کہ سنت کو ترک کیا۔ یوہیں اگر رات کو منیٰ میں رہا مگر صبح صادق ہونے سے پہلے یا نمازِ فجر سے پہلے یا آفتاب نکلنے سے پہلے عرفات کو چلا گیا تو یہ کیا اور اگر آٹھویں کو جمعہ کا دن ہے جب بھی زوال سے پہلے منیٰ کو جاسکتا ہے کہ اس پر جمعہ فرض نہیں اور جمعہ کا خیال ہو تو منیٰ میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، جب کہ امیر مکہ وہاں ہو یا اس کے حکم سے قائم کیا جائے۔

①..... "المسلك المتقسط"، (فصل في الرواح من منى الى عرفات)، ص ۱۹۰.

ترجمہ: پاک ہے وہ جس کا عرش بلندی میں ہے، پاک ہے وہ جس کی حکومت زمین میں ہے، پاک ہے وہ کہ دریا میں اس کا راستہ ہے، پاک ہے وہ کہ آگ میں اسی کی سلطنت ہے، پاک ہے وہ کہ جنت میں اُس کی رحمت ہے، پاک ہے وہ کہ قبر میں اُس کا حکم ہے، پاک ہے وہ کہ ہوا میں جو رحیم ہیں اسی کی ملک ہیں، پاک ہے وہ جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ جس نے زمین کو پست کیا، پاک ہے وہ کہ اُس کے عذاب سے پناہ و نجات کی کوئی جگہ نہیں، مگر اسی کی طرف۔ ۱۲

(۹) راستے بھر ذکر و درود میں بسر کرو، بے ضرورت کچھ بات نہ کرو، لبیک کی بے شمار بار بار کثرت کرتے چلو اور منیٰ

سے نکل کر یہ دعا پڑھو:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَلِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَرَدْتُ فَاجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَحَاجَتِي مَبْرُورًا وَأَرْحَمِنِي وَلَا تُخَيِّبْنِي وَبَارِكْ لِي فِي سَفَرِي وَأَقْضِ بَعْرَفَاتِ حَاجَتِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا أَقْرَبَ غَدْوَةٍ غَدَوْتُهَا مِنْ رِضْوَانِكَ وَأَبْعَدَهَا مِنْ سَخَطِكَ، اللَّهُمَّ إِلَيْكَ غَدَوْتُ وَعَلَيْكَ
اعْتَمَدْتُ وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ تَبَاهِي بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَفْضَلُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. (۱)

(۱۰) جب نگاہِ جبلِ رحمت پر پڑے ان امور میں اور زیادہ کوشش کرو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وقت قبول ہے۔

(۱۱) عرفات میں اُس پہاڑ کے پاس یا جہاں جگہ ملے شارعِ عام سے بچ کر اُترو۔

(۱۲) آج کے ہجوم میں کہ لاکھوں آدمی، ہزاروں ڈیرے خیمے ہوتے ہیں۔ اپنے ڈیرے سے جا کر واپسی میں اُس کا

ملنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے پہچان کا نشان اس پر قائم کر دو کہ دُور سے نظر آئے۔

(۱۳) مستورات ساتھ ہوں تو اُن کے بُرقع پر بھی کوئی کپڑا خاص علامت چمکتے رنگ کا لگا دو کہ دُور سے دیکھ کر تمیز

کر سکو اور دل مشوش نہ رہے۔

(۱۴) دو پہر تک زیادہ وقت اللہ (عزوجل) کے حضور زاری اور خالص نیت سے حسب طاقت صدقہ و خیرات و ذکر و

لبیک و درود و دعا و استغفار و کلمہ توحید میں مشغول رہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”سب میں بہتر وہ چیز

جو آج کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی یہ ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ط يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ط

① اے اللہ (عزوجل)! میں تیری طرف متوجہ ہوا اور تجھ پر میں نے توکل کیا اور تیرے وجہ کریم کا ارادہ کیا، میرے گناہ بخش اور میرے حج کو مبرور کر اور

مجھ پر رحم کر اور مجھے ٹوٹے میں نہ ڈال اور میرے لیے میرے سفر میں برکت دے اور عرفات میں میری حاجت پوری کر، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔

اے اللہ (عزوجل)! میرا چلنا اپنی خوشنودی سے قریب کر اور اپنی ناخوشی سے دُور کر۔ الہی! میں تیری طرف چلا اور تجھی پر اعتماد کیا اور تیری ذات کا ارادہ کیا تو

مجھ کو اُن میں سے کر جن کے ساتھ قیامت کے دن تو مباحات کرے گا، جو مجھ سے بہتر و افضل ہیں۔ الہی! میں تجھ سے عفو و عافیت کا سوال کرتا ہوں اور اس

عافیت کا جو دنیا و آخرت میں ہمیشہ رہنے والی ہے اور اللہ (عزوجل) درود بھیجے بہترین مخلوق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اُن کی آل و اصحاب سب پر۔ ۱۳

بِيَدِهِ الْخَيْرُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (1)

اور چاہے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہے:

لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا نَعْرِفُ رَبًّا سِوَاهُ ۖ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصُّدْرِ وَتَشْتِيَةِ الْأَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلُجُّ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلُجُّ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهْبُّ بِهِ الرِّيحُ وَشَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ اللَّهُمَّ هَذَا مَقَامُ الْمُسْتَجِيرِ الْعَائِدِ مِنَ النَّارِ أَجْرُنِي مِنَ النَّارِ بِعَفْوِكَ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِذْ هَدَيْتَنِي الْإِسْلَامَ فَلَا تَنْزَعُهُ عَنِّي حَتَّى تَقْبِضَنِي وَأَنَا عَلَيْهِ . (2)

(۱۵) دوپہر سے پہلے کھانے پینے وغیرہ ضروریات سے فارغ ہولے کہ دل کسی طرف لگانہ رہے۔ آج کے دن جیسے حاجی کو روزہ مناسب نہیں کہ دُعا میں ضعف ہوگا۔ یوہیں پیٹ بھر کھانا سخت زہر اور غفلت و کسل کا باعث ہے، تین روٹی کی بھوک والا ایک ہی کھائے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ کے لیے یہی حکم دیا ہے اور خود دنیا سے تشریف لے گئے اور جو کی روٹی کبھی پیٹ بھر نہ کھائی، حالانکہ اللہ (عزوجل) کے حکم سے تمام جہاں اختیار میں تھا اور ہے۔ انوار و برکات لینا چاہو تو نہ صرف آج بلکہ حرمین شریفین میں جب تک حاضر رہو تہائی پیٹ سے زیادہ ہرگز نہ کھاؤ۔ مانو گے تو اس کا فائدہ اور نہ مانو گے تو اس کا نقصان آنکھوں دیکھ لو گے۔ ہفتہ بھر اس پر عمل کر تو دیکھو اگلی حالت سے فرق نہ پاؤ جیسی کہنا جی بچے تو کھانے پینے کے بہت سے دن ہیں یہاں تو نور و ذوق کے لیے جگہ خالی رکھو۔

اندروں از طعام خالی دار تادرو نور معرفت بینی

ع ”بھرا برتن دوبارہ کیا بھرے گا۔“

①..... ”لباب المناسک“ للسندي، (باب الوقوف بعرفات و احكامه)، ص ۱۹۱۔

②..... اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اُس کے سوا کسی کو رب نہیں جانتے، اے اللہ (عزوجل)! تو میرے دل میں نور کر اور میرے کان اور نگاہ میں نور کر، اے اللہ (عزوجل)! میرے سینہ کو کھول دے اور میرے امر کو آسان کر اور تیری پناہ مانگتا ہوں سینہ کے وسوسوں اور کام کی پراگندگی اور عذابِ قبر سے، اے اللہ (عزوجل)! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اُس کے شر سے جو رات میں داخل ہوتی ہے اور دن میں داخل ہوتی ہے اور اُس کے شر سے جس کے ساتھ ہوا چلتی ہے اور شر سے آفاتِ زمانہ کے۔ اے اللہ (عزوجل)! یہ امن کے طالب اور جہنم سے پناہ مانگنے والے کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اپنے غمخو کے ساتھ مجھ کو جہنم سے بچا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ اے اللہ (عزوجل)! جب تو نے اسلام کی طرف مجھے ہدایت کی تو اس کو مجھ سے جُدا نہ کرنا یہاں تک کہ مجھے اسی اسلام پر وفات دینا۔ ۱۲

(۱۶) جب دوپہر قریب آئے نہاؤ کہ سنت مؤکدہ ہے اور نہ ہو سکے تو صرف وضو۔

عرفات میں ظہر و عصر کی نماز

(۱۷) دوپہر ڈھلتے ہی بلکہ اس سے پہلے کہ امام کے قریب جگہ ملے مسجد نمبرہ جاؤ۔ سنئیں پڑھ کر خطبہ سن کر امام کے ساتھ ظہر پڑھو اس کے بعد بے توقف عصر کی تکبیر ہوگی معاً جماعت سے عصر پڑھو، بیچ میں سلام و کلام تو کیا معنی، سنتیں بھی نہ پڑھو اور بعد عصر بھی نفل نہیں، یہ ظہر و عصر ملا کر پڑھنا جہی جائز ہے کہ نماز یا تو سلطان پڑھائے یا وہ جو حج میں اُس کا نائب ہو کر آتا ہے جس نے ظہر اکیلے یا اپنی خاص جماعت سے پڑھی اُسے وقت سے پہلے عصر پڑھنا جائز نہیں اور جس حکمت کے لیے شرع نے یہاں ظہر کے ساتھ عصر ملانے کا حکم فرمایا ہے یعنی غروب آفتاب تک دُعا کے لیے وقت خالی ملنا وہ جاتی رہے گی۔

مسئلہ ۱ ملا کر دونوں نمازیں جو یہاں ایک وقت میں پڑھنے کا حکم ہے اس میں پوری جماعت ملنا شرط نہیں بلکہ مثلاً ظہر کے آخر میں شریک ہو اور سلام کے بعد جب اپنی پوری کرنے لگا، اتنے میں امام عصر کی نماز ختم کرنے کے قریب ہو یا یہ سلام کے بعد عصر کی جماعت میں شامل ہو واجب بھی ہوگی۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲ ملا کر پڑھنے میں یہ بھی شرط ہے کہ دونوں نمازوں میں با احرام ہو، اگر ظہر پڑھنے کے بعد احرام باندھا تو عصر ملا کر نہیں پڑھ سکتا۔ نیز یہ شرط ہے کہ وہ احرام حج کا ہو اگر ظہر میں عمرہ کا تھا عصر میں حج کا ہو واجب بھی نہیں ملا سکتا۔^(۲) (درمختار، عالمگیری)

عرفہ کا وقوف

(۱۸) خیال کرو جب شرع کو یہ وقت دُعا کے لیے فارغ کرنے کا اس قدر اہتمام ہے کہ عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا حکم دیا تو اُس وقت اور کام میں مشغولی کس قدر بیہودہ ہے۔ بعض احمقوں کو دیکھا ہے کہ امام تو نماز میں ہے یا نماز پڑھ کر موقف کو گیا اور وہ کھانے، پینے، تھے، چائے اُڑانے میں ہیں۔ خبردار! ایسا نہ کرو۔ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہی فوراً موقف (یعنی وہ جگہ کہ نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک وہاں کھڑے ہو کر ذکر و دعا کا حکم ہے اُس جگہ کو) روانہ ہو جاؤ اور ممکن ہو تو

①..... "ردالمحتار" کتاب الحج، مطلب فی شروط الجمع، ج ۳، ص ۵۹۴.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۹۵.

و "الفتاویٰ الہندیۃ" کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیت اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۸.

اُونٹ پر کہ سنت بھی ہے اور ہجوم میں دبے کچلنے سے محافظت بھی۔

(۱۹) بعض مطوف اس مجمع میں جانے سے منع کرتے اور طرح طرح ڈراتے ہیں اُن کی نہ سُو کہ وہ خاص نزولِ رحمتِ عام کی جگہ ہے۔ ہاں عورتیں اور کمزور مرد یہیں سے کھڑے ہوئے دعا میں شامل ہوں کہ بطنِ عمرہ (۱) کے سوا یہ سارا میدان موقف ہے اور یہ لوگ بھی یہی تصور کریں کہ ہم اُس مجمع میں حاضر ہیں، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ نہ سمجھیں۔ اُس مجمع میں یقیناً بکثرت اولیا بلکہ الیاس و خضر علیہما السلام دونی بھی موجود ہیں، یہ تصور کریں کہ انور و برکات جو مجمع میں اُن پر اتر رہے ہیں اُن کا صدقہ ہم بھکاریوں کو بھی پہنچتا ہے۔ یوں الگ ہو کر بھی شامل رہیں گے اور جس سے ہو سکے تو وہاں کی حاضری چھوڑنے کی چیز نہیں۔

(۲۰) افضل یہ ہے کہ امام سے نزدیک جبلِ رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے، رُو بقبلہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جب کہ ان فضائل کے حصول میں دقت یا کسی کو اذیت نہ ہو ورنہ جہاں اور جس طرح ہو سکے وقوف کرے امام کی دہنی جانب اور بائیں رُو و رُو سے افضل ہے۔ یہ وقوف ہی حج کی جان اور اُس کا بزار کن ہے، وقوف کے لیے کھڑا رہنا افضل ہے شرط یا واجب نہیں، بیٹھارہا جب بھی وقوف ہو گیا وقوف میں نیت اور رُو بقبلہ ہونا افضل ہے۔

وقوف کی سنتیں

وقوف میں یہ امور سنت ہیں:

- ① غسل۔
- ② دونوں خطبوں کی حاضری۔
- ③ دونوں نمازیں ملا کر پڑھنا۔
- ④ بے روزہ ہونا۔
- ⑤ با وضو ہونا۔
- ⑥ نمازوں کے بعد فوراً وقوف کرنا۔

(۲۱) بعض جاہل یہ کرتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر رومال ہلاتے رہتے ہیں اس سے بچو اور اُن کی طرف بھی بُرا خیال نہ کرو، یہ وقت اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں، اپنے عیبوں پر شرمساری اور گریہ و زاری کا ہے۔

①..... بطنِ عمرہ عرفات میں حرم کے نالوں میں سے ایک نالہ ہے مسجدِ نمروہ کے پتھم کی طرف یعنی کعبہ معظمہ کی طرف وہاں وقوف ناجائز ہے۔ ۱۲

وقوف کے آداب

(۲۲) اب وہ کہ یہاں ہیں اور وہ کہ ڈیروں میں ہیں سب ہمہ تن صدقِ دل سے اپنے کریم مہربان رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور میدانِ قیامت میں حسابِ اعمال کے لیے اس کے حضورِ حاضری کا تصور کریں۔ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ لرزتے کانپتے ڈرتے امید کرتے آنکھیں بند کیے گردن جھکائے، دست دعا آسمان کی طرف سر سے اونچا پھیلائے تکبیر و تہلیل و تسبیح و لبیک و حمد و ذکر و دعا و توبہ و استغفار میں ڈوب جائے، کوشش کرے کہ ایک قطرہ آنسوؤں کا ٹپکے کہ دلیلِ اجابت و سعادت ہے، ورنہ رونے کا سامنہ بنائے کہ اچھوں کی صورت بھی اچھی۔ اثنائے دعا و ذکر میں لبیک کی بار بار تکرار کرے۔

آج کے دن دعائیں بہت منقول ہیں اور دعائے جامع کہ اوپر گزری کافی ہے چند بار اُسے کہہ لو اور سب سے بہتر یہ کہ سارا وقت درود و ذکر و تلاوت قرآن میں گزار دو کہ بوعده حدیث دعا والوں سے زیادہ پاؤ گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑو، غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کرو، اپنے گناہ اور اس کی قہاری یاد کر کے بید کی طرح لرزو اور یقین جانو کہ اس کی مار سے اسی کے پاس پناہ ہے۔ اُس سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے اس کے دَر کے سوا کہیں ٹھکانا نہیں لہذا اُن شفیعوں کا دامن پکڑے، اُس کے عذاب سے اُسی کی پناہ مانگو اور اسی حالت میں رہو کہ کبھی اُس کے غضب کی یاد سے جی کا نپا جاتا ہے اور کبھی اُس کی رحمت عام کی امید سے مڑجھایا دل نہال ہو جاتا ہے۔

یوہیں تضرع و زاری میں رہو یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جائے اور رات کا ایک لطیف جُز آجائے، اس سے پہلے کوچ منع ہے۔ بعض جلد باز دن ہی سے چل دیتے ہیں، اُن کا ساتھ نہ دو۔ غروب تک ٹھہرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو عصر کو ظہر سے ملا کر کیوں پڑھنے کا حکم ہوتا اور کیا معلوم کہ رحمتِ الہی کس وقت توجہ فرمائے، اگر تمہارے چل دینے کے بعد اُتری تو معاذ اللہ کیسا خسارہ ہے اور اگر غروب سے پہلے حدودِ عرفات سے نکل گئے جب تو پورا جُرم ہے۔ بعض مطوف یہاں یوں ڈراتے ہیں کہ رات میں خطرہ ہے یہ دو ایک کے لیے ٹھیک ہے اور جب سارا قافلہ ٹھہرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ اندیشہ نہیں۔ اس مقام پر پڑھنے کے لیے بعض دعائیں لکھی جاتی ہیں: **اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ**. تین بار پھر کلمہ توحید، اس کے بعد

اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى وَنَقِّنِي بِالتَّقْوَى وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى . (1) تین بار
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ
لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَالْيَك مَابِي وَلَكَ رَبِّ تَرَاتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

① اے اللہ (عزوجل)! مجھ کو ہدایت کے ساتھ رہنمائی کر اور پاک کر اور پرہیزگاری کے ساتھ گناہ سے محفوظ رکھ اور دنیا و آخرت میں میری

مغفرت فرما۔ ۱۲

الْقَبْرِ وَ وَسُوسَةِ الصُّدْرِ وَ شَتَاتِ الْأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدَى وَ زَيِّنَا بِالتَّقْوَى وَ اغْفِرْ لَنَا فِي الْأَخِرَةِ وَ الْأُولَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا مُبَارَكًا.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالذُّعَاءِ وَ قَضَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ بِالْإِجَابَةِ وَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَ لَا تُنْكُ عَهْدَكَ اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا وَ يَسِّرْهُ لَنَا وَ مَا كَرِهْتَ مِنْ شَرٍّ فَكْرِهْهُ إِلَيْنَا وَ جَنِّبْنَاهُ وَ لَا تَنْزِعْ مِنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى مَكَانِي وَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَ تَعْلَمُ سِرِّي وَ عَلَانِيَتِي وَ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَعِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُسْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُسْكِينِ وَ ابْتِهَالُ إِلَيْكَ ابْتِهَالُ الْمَذْنِبِ الدَّلِيلِ وَ أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الْمُضْطَرِّ دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَ فَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ وَ نَحَلَ لَكَ جَسَدُهُ وَ رَغِمَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا وَ كُنْ بِي رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَ خَيْرَ الْمُعْطِينَ. (1)

اور یہ بھی کی روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر مذکور ہو چکی اس میں جو دعائیں ہیں انھیں بھی پڑھیں یعنی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ

①..... اے اللہ (عزوجل)! اس کو حج مبرور کر اور گناہ بخش دے، الہی! تیرے لیے حمد ہے جیسی ہم کہتے ہیں اور اس سے بہتر جس کو ہم کہیں، اے اللہ (عزوجل)! میری نماز و عبادت اور میرا جینا اور مرنا تیرے ہی لیے ہے اور تیری طرف میری واپسی ہے اور اے پروردگار! تو ہی میرا وارث ہے، اے اللہ (عزوجل)! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذابِ قبر اور سینہ کے وسوسے اور کام کی پراگندگی سے، الہی! میں سوال کرتا ہوں اُس چیز کی خیر کا جس کو ہوا لاتی ہے اور اُس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے ہوا لاتی ہے، الہی! ہدایت کی طرف ہم کو رہنمائی کر اور تقویٰ سے ہم کو مزین کر اور آخرت و دنیا میں ہم کو بخش دے، الہی! میں رزق پاکیزہ و مبارک کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔

الہی! تو نے دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا ذمہ تو نے خود لیا اور بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور اپنے عہد کو نہیں توڑتا، الہی! جو اچھی باتیں تجھے محبوب ہیں انھیں ہماری محبوب کر دے اور ہمارے لیے میسر کر اور جو بُری باتیں تجھے ناپسند ہیں انھیں ہماری ناپسند کر اور ہم کو اُن سے بچا اور اسلام کی طرف تو نے ہم کو ہدایت فرمائی تو اُس کو ہم سے جدا نہ کر، الہی! تو میرے مکان کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میرے پوشیدہ و ظاہر کو جانتا ہے میرے کام میں سے کوئی شے تجھ پر مخفی نہیں، میں نامراد محتاج فریاد کرنے والا، پناہ چاہنے والا، خوفناک ڈرنے والا اپنے گناہ کا مقرر و معترف ہوں، مسکین کی طرح تجھ سے سوال کرتا ہوں اور گنہگار ذلیل کی طرح تجھ سے عاجزی کرتا ہوں اور ڈرنے والے مضطر کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں، اُس کی مثل دعا جس کی گردن تیرے لیے جھک گئی اور آنکھیں جاری اور بدن لاغر اور ناک خاک میں ملی ہے، اے پروردگار! تو اپنی دعا سے مجھے بد بخت نہ کر اور مجھ پر بہت مہربان اور مہربان ہو جا، اے بہتر سوال کیے گئے اور اے بہتر دینے والے! ۱۲۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ . سو بار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

حَمِيدٌ مُّجِيدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ . سو بار

ابن ابی شیبہ وغیرہ امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ”میری اور

انبیاء کی دُعا عرفہ کے دن یہ ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي قَلْبِي نُورًا .

اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصُّدْرِ وَتَشْتِيتِ الْأَمْرِ

وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهْبُتُ بِهِ الرِّيحُ

وَشَرِّ بَوَاقِي الدَّهْرِ . (۱)

اس مقام پر پڑھنے کی بہت دعائیں کتابوں میں مذکور ہیں مگر اتنی ہی میں کفایت ہے اور درود شریف و تلاوت قرآن

مجید سب دُعاؤں سے زیادہ مفید۔

(۲۳) ایک ادب واجب الحفظ اس روز کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدوں پر بھروسہ کر کے یقین کرے کہ آج

میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اب کوشش کروں کہ آئندہ گناہ نہ ہوں اور جو داغ

اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے میری پیشانی سے دھویا ہے پھر نہ لگے۔

وقوف کے مکروہات

(۲۴) یہاں یہ باتیں مکروہ ہیں:

① غروب آفتاب سے پہلے وقوف چھوڑ کر روانگی جب کہ غروب تک حدودِ عرفات سے باہر نہ ہو جائے ورنہ حرام ہے۔

① "المسلك المتقسط"، (باب الوقوف بعرفات و أحكامه)، ص ۲۰۱ .

"المصنف" لابن ابی شیبہ، کتاب الحج، ما يقال عشية عرفة... إلخ، ج ۴، ص ۴۷۳ .

ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں سینہ کے دوسوں اور کام کی پراگندگی اور

عذابِ قبر سے، اے اللہ (عزوجل)! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اُس کی برائی سے جو رات میں داخل ہوتی ہے اور اُس کی بُرائی سے جو دن میں داخل

ہوتی ہے اور اُس کی برائی سے جسے ہوا اُڑلاتی ہے اور آفاتِ دہر کی بُرائی سے۔ ۱۳

- ② نماز عصر و ظہر ملانے کے بعد موقف کو جانے میں دیر۔
- ③ اُس وقت سے غروب تک کھانے پینے، یا
- ④ توجہ بخدا کے سوا کسی کام میں مشغول ہونا۔
- ⑤ کوئی دنیوی بات کرنا۔
- ⑥ غروب پر یقین ہو جانے کے بعد روانگی میں دیر کرنا۔
- ⑦ مغرب یا عشاء عرافات میں پڑھنا۔⁽¹⁾

تنبیہ: موقف میں چھتری لگانے یا کسی طرح سایہ چاہنے سے حتی المقدور بچو ہاں جو مجبور ہے معذور ہے۔

ضروری نصیحت

تنبیہ ضروری ضروری اشد ضروری..... بدنگاہی ہمیشہ حرام ہے نہ کہ احرام میں، نہ کہ موقف یا مسجد الحرام میں، نہ کہ کعبہ معظمہ کے سامنے، نہ کہ طواف بیت الحرام میں۔ یہ تمہارے بہت امتحان کا موقع ہے عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں مونہ نہ چھپاؤ اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی طرف نگاہ نہ کرو، یقین جانو کہ یہ بڑے غیرت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں اور اس وقت تم اور وہ خاص دربار میں حاضر ہو۔ بلا تشبیہ شیر کا بچہ اس کی بغل میں ہو اس وقت کون اس کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہے تو اللہ (عزوجل) واحد قہار کی کنیریں کہ اُس کے خاص دربار میں حاضر ہیں اُن پر بدنگاہی کس قدر سخت ہوگی ﴿وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی﴾⁽²⁾۔

ہاں ہاں ہوشیار! ایمان بچائے ہوئے قلب و نگاہ سنبھالے ہوئے حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادہ پر پکڑا جاتا اور ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ٹھہرتا ہے، الہی خیر کی توفیق دے۔ آمین۔

وقوف کے مسائل

مسئلہ ۱ وقوف کا وقت نویں ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے دسویں کی طلوع فجر تک ہے۔ اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت وقوف کیا تو حج نہ ملا مگر ایک صورت میں وہ یہ کہ ذی الحجہ کا ہلال دکھائی نہ دیا، ذیقعدہ کے تیس دن پورے کر کے ذی الحجہ کا مہینہ شروع کیا اور اس حساب سے آج نویں ہے، بعد کو ثابت ہوا کہ انتیس کا چاند ہوا تو اس حساب سے دسویں ہوگی اور وقوف

①..... "الفتاویٰ الرضویۃ"، ج ۱۰، ص ۷۴۹، وغیرہ۔

②..... پ ۱۴، النحل: ۶۰۔

دسویں تاریخ کو ہو مگر ضرورتاً یہ جائز مانا جائے گا اور اگر دھوکا ہو کہ آٹھویں کو نوٹیں سمجھ کر وقوف کیا پھر معلوم ہوا تو یہ وقوف صحیح نہ ہوا۔⁽¹⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲ - اگر گواہوں نے رات کے وقت گواہی دی کہ نوٹیں تاریخ آج تھی اور یہ دسویں رات ہے تو اگر اس رات میں سب لوگوں یا اکثر کے ساتھ امام وقوف کر سکتا ہے، تو وقوف لازم ہے وقوف نہ کریں تو حج فوت ہو جائے گا اور اگر اتنا وقت باقی نہ ہو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ امام وقوف کرے اگرچہ خود امام اور جو تھوڑے لوگ جلدی کر کے جائیں تو صبح سے پیشتر وہاں پہنچ جائیں گے مگر جو لوگ پیدل ہیں اور جن کے ساتھ بال بچے ہیں اور جن کے پاس اسباب زیادہ ہے ان کو وقوف نہ ملے گا، تو اس شہادت کے موافق عمل نہ کرے بلکہ دوسرے دن بعد زوال تمام حجاج کے ساتھ وقوف کرے۔⁽²⁾ (منک)

مسئلہ ۳ - جن لوگوں نے ذی الحجہ کے چاند کی گواہی دی اور ان کی گواہی قبول نہ ہوئی وہ لوگ اگر امام سے ایک دن پہلے وقوف کریں گے، تو ان کا حج نہ ہوگا بلکہ ان پر بھی ضرور ہے کہ اسی دن وقوف کریں، جس دن امام وقوف کرے اگرچہ ان کے حساب سے اب دسویں تاریخ ہے۔⁽³⁾ (منک)

مسئلہ ۴ - تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی وقوف ہو جاتا ہے خواہ اُسے معلوم ہو کہ یہ عرفات ہے یا معلوم نہ ہو، با وضو ہو یا بے وضو، جنب ہو یا حیض و نفاس والی عورت، سوتا ہو یا بیدار ہو، ہوش میں ہو یا جنون و بے ہوشی میں یہاں تک کہ عرفات سے ہو کر جو گزر گیا اُسے حج مل گیا یعنی اب اُس کا حج فاسد نہ ہوگا جب کہ یہ سب احرام سے ہوں۔ بے ہوشی میں احرام کی صورت یہ ہے کہ پہلے ہوش میں تھا اور اسی وقت احرام باندھ لیا تھا اور اگر احرام باندھنے سے پہلے بے ہوش ہو گیا اور اُس کے ساتھیوں میں سے کسی نے یا کسی اور نے اُس کی طرف سے احرام باندھ دیا اگرچہ اس احرام باندھنے والے نے خود اپنی طرف سے بھی احرام باندھا ہو کہ اُس کا احرام اس کے منافی نہیں تو اس صورت میں بھی وہ محرم ہو گیا دوسرے کے احرام باندھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اُس کے کپڑے اتار کر تہ بند باندھ دے بلکہ یہ کہ اُس کی طرف سے نیت کرے اور لبیک کہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، جوہرہ)

مسئلہ ۵ - جس کا حج فوت ہو گیا یعنی اُسے وقوف نہ ملا تو اب حج کے باقی افعال ساقط ہو گئے اور اُس کا احرام عمرہ کی

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیتہ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۹، وغیرہ.

② "لباب المناسک" و "المسلک المتقسط"، (باب الوقوف بعرفات و احکامہ، فصل فی اشتباہ یوم عرفہ)، ص ۲۱۲.

③ "لباب المناسک"، (باب الوقوف بعرفات و احکامہ، فصل فی اشتباہ یوم عرفہ)، ص ۲۱۲.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیتہ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۹.

والجوہرۃ النیرۃ کتاب الحج، الجزء الأول، ص ۲۰۹.

طرف منتقل ہو گیا لہذا عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے اور آئندہ سال قضا کرے۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار)

۶

آفتاب ڈوبنے سے پہلے ازدحام کے خوف سے حدودِ عرفات سے باہر ہو گیا اُس پر دم واجب ہے، پھر اگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے واپس آیا اور ٹھہرا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا تو دم معاف ہو گیا اور اگر ڈوبنے کے بعد واپس آیا تو ساقط نہ ہو اور اگر سواری پر تھا اور جانور اُسے لے کر بھاگ گیا جب بھی دم واجب ہے۔ یوں اگر اُس کا اونٹ بھاگ گیا یہ اُس کے پیچھے چل دیا۔⁽²⁾ (منک)

۷

مُحْرَم نے نمازِ عشا نہیں پڑھی ہے اور وقت صرف اتنا باقی ہے کہ چار رکعت پڑھے مگر پڑھتا ہے تو وقوفِ عرفہ جاتا رہے گا تو نماز چھوڑے اور عرفات کو جائے۔⁽³⁾ (جوہرہ) اور بہتر یہ کہ چلتے میں پڑھ لے بعد کو اعادہ کرے۔⁽⁴⁾ (منک)

مزدلفہ کی روانگی اور اس کا وقوف

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ

قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿۱۱﴾⁽⁵⁾

جب عرفات سے تم واپس ہو تو مشعرِ حرام (مزدلفہ) کے نزدیک، اللہ (عزوجل) کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو جیسے اُس نے تمہیں بتایا اور بیشک اس سے پہلے تم گمراہوں سے تھے۔

خبریت ۱

صحیح مسلم شریف میں جا بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے یہاں مغرب و عشا کی نماز پڑھی پھر لیٹے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی، جب صبح ہو گئی اُس وقت اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر قسواء پر سوار ہو کر مشعرِ حرام میں آئے اور قبلہ کی جانب منھ کر کے دعا و تکبیر و تہلیل و توحید میں مشغول رہے اور وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اُجالا ہو گیا اور طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے روانہ ہوئے۔⁽⁶⁾

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیت اداء الحج، ج ۱، ص ۲۲۹.

② "لیاب المناسک"، (باب الوقوف بعرفات و أحكامہ، فصل فی الدفع قبل الغروب)، ص ۲۱۰.

③ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، الجزء الأول، ص ۲۰۹.

④

⑤ پ ۲، البقرہ: ۱۹۸.

⑥ "صحیح مسلم"، کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۱۲۱۸، ص ۶۳۴.

حدیث ۲

بیہقی محمد بن قیس بن مخرمہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ:

”اہل جاہلیت عرفات سے اس وقت روانہ ہوتے تھے جب آفتاب منہ کے سامنے ہوتا غروب سے پہلے اور مزدلفہ سے بعد طلوع آفتاب روانہ ہوتے جب آفتاب چہرے کے سامنے ہوتا اور ہم عرفات سے نہ جائیں گے جب تک آفتاب ڈوب نہ جائے اور مزدلفہ سے طلوع کے قبل روانہ ہوں گے ہمارا طریقہ بہت پرستوں اور مشرکوں کے طریقہ کے خلاف ہے۔“ (۱)

(۱) جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے فوراً مزدلفہ کو چلو اور امام کے ساتھ جانا افضل ہے مگر وہ دیر کرے تو اس کا

انتظار نہ کرو۔

(۲) راستے بھر ڈرو رو دو دعا لیک و زاری و بکا میں مصروف رہو۔ اس وقت کی بعض دعائیں یہ ہیں:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَقْضْتُ وَ فِي رَحْمَتِكَ رَغِبْتُ وَ مِنْ سَخَطِكَ رَهَبْتُ وَ مِنْ عَذَابِكَ أَشْفَقْتُ فَاقْبَلْ
نُسُكِي وَ اعْظِمْ اجْرِي وَ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَ ارْحَمْ تَضْرُعِي وَ اسْتَجِبْ دُعَائِي وَ اعْطِنِي سُؤْلِي اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا
اخْرَ عَهْدِنَا مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ الشَّرِيفِ الْعَظِيمِ وَ ارْزُقْنَا الْعُودَ إِلَيْهِ مَرَاتٍ كَثِيرَةً بِلُطْفِكَ الْعَمِيمِ . (2)

(۳) راستہ میں جہاں گنجائش پاؤ اور اپنی یاد دوسرے کی ایذا کا احتمال نہ ہوا تھی دیر اتنی دور تیز چلو پیدل ہو خواہ

سوار۔

(۴) جب مزدلفہ نظر آئے بشرط قدرت پیدل ہو لینا بہتر ہے اور نہا کر داخل ہونا افضل، مزدلفہ میں داخل ہوتے

وقت یہ دعا پڑھو:

اللَّهُمَّ هَذَا جَمْعُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِي جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّكْنِ
وَ الْمَقَامِ وَ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي
وَ تَرْحَمَنِي وَ تَجْمَعَ عَلَيَّ الْهُدَى أَمْرِي وَ تَجْعَلَ لِي الْقُوَى زَادِي وَ ذُخْرِي وَ الْآخِرَةَ مَا بِي وَ هَبْ لِي رِضَاكَ عَنِّي
فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا مَنْ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ أَعْطِنِي الْخَيْرَ كُلَّهُ وَ اصْرِفْ عَنِّي الشَّرَّ كُلَّهُ اللَّهُمَّ

①..... "معرفة السنن والآثار"، كتاب المناسك، باب الاختيار في الدفع من مزدلفة، الحديث: ۳۰۴۵، ج ۴، ص ۱۱۷.

②..... اے اللہ (عزوجل)! میں تیری طرف واپس ہوا اور تیری رحمت میں رغبت کی اور تیری ناخوشی سے ڈرا اور تیرے عذاب سے خوف کیا تو میری عبادت قبول کر اور میرا عظیم کر اور میری توبہ قبول کر اور میری عاجزی پر رحم کر اور مجھے میرا سوال عطا کر۔ اے اللہ (عزوجل)! اس شریف بزرگ جگہ میں میری یہ حاضری آخری حاضری نہ کر اور تو اپنی مہربانی سے یہاں بہت مرتبہ آنا نصیب کر۔ ۱۲

حَرَمٌ لَحْمِيٌّ وَعَظْمِيٌّ وَشَحْمِيٌّ وَشَعْرِيٌّ وَسَائِرَ جَوَارِحِيٍّ عَلَى النَّارِ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ ط (1)

مُزْدَلِفَةُ مِیں مغرب و عشا کی نماز

(۵) وہاں پہنچ کر حتی الامکان جبل قزح کے پاس راستہ سے بچ کر اتر دو اور نہ جہاں جگہ ملے۔

(۶) غالباً وہاں پہنچتے پہنچتے شفق ڈوب جائے گی مغرب کا وقت نکل جائے گا۔ اونٹ کھولنے، اسباب اتارنے سے

پہلے امام کے ساتھ مغرب و عشا پڑھو اور اگر وقت مغرب کا باقی بھی رہے جب بھی ابھی مغرب ہرگز نہ پڑھو، نہ عرفات میں پڑھو نہ راہ میں کہ اس دن یہاں نماز مغرب و وقت مغرب میں پڑھنا گناہ ہے اور اگر پڑھ لو گے عشا کے وقت پھر پڑھنی ہوگی۔ غرض یہاں پہنچ کر مغرب و وقت عشا میں بہ نیت ادا، نہ بہ نیت قضا حتی الامکان امام کے ساتھ پڑھو۔ مغرب کا سلام پھیرتے ہی معاً عشا کی جماعت ہوگی عشا کے فرض پڑھ لو اس کے بعد مغرب و عشا کی سنتیں اور وتر پڑھو اور اگر امام کے ساتھ جماعت نہ مل سکے تو اپنی جماعت کر لو اور نہ ہو سکے تو تنہا پڑھو۔

مسئلہ ۱۔ یہ مغرب و وقت عشا میں پڑھنی اسی کے لیے خاص ہے جو مزدلفہ کو آئے اور اگر عرفات ہی میں رات کو رہ گیا یا مزدلفہ کے سوا دوسرے راستہ سے واپس ہوا تو اسے مغرب کی نماز اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہے۔ (۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۔ اگر مزدلفہ کے آنے والے نے مغرب کی نماز راستہ میں پڑھی یا مزدلفہ پہنچ کر عشا کا وقت آنے سے پہلے پڑھ لی، تو اسے حکم یہ ہے کہ اعادہ کرے مگر نہ کیا اور فجر طلوع ہوگئی تو وہ نماز اب صحیح ہوگئی۔ (۳) (درمختار)

مسئلہ ۳۔ اگر مزدلفہ میں مغرب سے پہلے عشا پڑھی تو مغرب پڑھ کر عشا کا اعادہ کرے اور اگر طلوع فجر تک اعادہ نہ کیا تو اب صحیح ہوگئی خواہ وہ شخص صاحب ترتیب ہو یا نہ ہو۔ (۴) (درمختار، طحطاوی)

① اے اللہ (عزوجل)! یہ جمع (مزدلفہ) ہے میں تجھ سے تمام خیر کے مجموعہ کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ (عزوجل)! مشعر حرام کے رب اور رکن و مقام کے رب اور عزت والے شہر اور عزت والی مسجد کے رب! میں تجھ سے بوسیلہ تیرے وجہ کریم کے نور کے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور ہدایت پر میرے کام کو جمع کر دے اور تقویٰ کو میرا توشہ اور ذخیرہ کر اور آخرت میرا مرجع کر اور دنیا اور آخرت میں تو مجھ سے راضی رہ۔ اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے! مجھ کو ہر قسم کی خیر عطا کر اور ہر قسم کی بُرائی سے بچا، اے اللہ (عزوجل)! میرے گوشت اور ہڈی اور چربی اور بال اور تمام اعضا کو جہنم پر حرام کر دے، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان!۔ ۱۳

② "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی الرفع من عرفات، ج ۳، ص ۶۰۱۔

③ "الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۶۰۱۔

④ المرجع السابق، ص ۶۰۲۔ "حاشیة الطحطاوی علی الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۱، ص ۵۰۴۔

مسئلہ ۳ اگر راستہ میں اتنی دیر ہوگئی کہ طلوع فجر کا اندیشہ ہے تو اب راستہ ہی میں دونوں نمازیں پڑھ لے مزدلفہ پہنچنے کا انتظار نہ کرے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۵ عرفات میں ظہر و عصر کے لیے ایک اذان اور دو اقامتیں ہیں اور مزدلفہ میں مغرب و عشا کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۶ دونوں نمازوں کے درمیان میں سنت و نوافل نہ پڑھے۔ مغرب کی سنتیں بھی بعد عشا پڑھے اگر درمیان میں سنتیں پڑھیں یا کوئی اور کام کیا تو ایک اقامت اور کہی جائے یعنی عشا کے لیے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ طلوع فجر کے بعد مزدلفہ میں آیا تو سنت ترک ہوئی مگر دم وغیرہ اس پر واجب نہیں۔^(۴) (عالمگیری)

(۷) نمازوں کے بعد باقی رات ذکر و لبیک و درود و دعا و زاری میں گزارو کہ یہ بہت افضل جگہ اور بہت افضل رات ہے۔ بعض علما نے اس رات کو شب قدر سے بھی افضل کہا۔ زندگی ہے تو سونے کو اور بہت راتیں ملیں گی اور یہاں یہ رات خدا جانے دوبارہ کے ملے اور نہ ہو سکے تو باطہارت سو رہو کہ فضول باتوں سے سونا بہتر اور اتنے پہلے اٹھ بیٹھو کہ صبح چمکنے سے پہلے ضروریات و طہارت سے فارغ ہو لو، آج نماز صبح بہت اندھیرے سے پڑھی جائے گی، کوشش کرو کہ جماعت امام بلکہ پہلی تکبیر فوت نہ ہو کہ عشا و صبح جماعت سے پڑھنے والا بھی پوری شب بیداری کا ثواب پاتا ہے۔

(۸) اب دربار اعظم کی دوسری حاضری کا وقت آیا، ہاں ہاں کرم کے دروازے کھولے گئے ہیں، کل عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔

مزدلفہ کا وقوف

مشعر الحرام میں یعنی خاص پہاڑی پر اور نہ ملے تو اس کے دامن میں اور یہ بھی نہ ہو سکے تو وادی محسر^(۵) کے سوا جہاں گنجائش پاؤ وقوف کرو اور تمام باتیں کہ وقوف عرفات میں مذکور ہوئیں ملحوظ رکھو یعنی لبیک کی کثرت کرو اور ذکر و درود دعا میں

① "الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۶۰۲.

② "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحج، مطلب في الرفع من عرفات، ج ۳، ص ۶۰۰.

③ "ردالمختار"، کتاب الحج، مطلب في الرفع من عرفات، ج ۳، ص ۶۰۰.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج ۱، ص ۲۳۱.

⑤ کہ اس میں وقوف جائز نہیں۔ ۱۴

مشغول رہو یہاں کے لیے بعض دعائیں یہ ہیں:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَاسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَأِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَقْضِيَ عَنِّي الْمَغْرَمَ وَأَنْ تَعْفُو عَنِّي مَظَالِمَ الْعِبَادِ وَأَنْ تُرْضِيَ عَنِّي الْخُصُومَ وَالْغُرَمَاءَ وَأَصْحَابَ الْحُقُوقِ اللَّهُمَّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَرَزَقَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَزَقَهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَمِنْ غَلْبَةِ الْعَدُوِّ وَمِنْ بَوَارِ لَأَيْمٍ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الدِّينِ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْغَرِّ الْمُحَجَّلِينَ الْوَفْدِ الْمُتَقَبَّلِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْجَمْعِ أَنْ تَجْمَعَ لِي جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَنْ تُصَلِّحَ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَأَنْ تَصْرِفَ عَنِّي السُّوءَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرُكَ وَلَا يَجُودُ بِهِ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَيَّ بِطَبِيهِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَيَّ رِجْلَيْنِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَيَّ أَرْبَعِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَكَ كَأَنِّي أُرَاكَ أَبَدًا حَتَّى أَلْقَكَ وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تَشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ وَخِرْلِي مِنْ قَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِي قَدْرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ وَاجْعَلْ غِنَايَ فِي نَفْسِي وَمَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصْرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ ظَلَمَنِي وَأَرِنِي فِيهِ ثَارِي وَأَقِرْ بِذَلِكَ عَيْنِي. (1)

① اے اللہ (عزوجل)! میری خطا اور جہل اور زیادتی اور جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب کو بخش دے، اے اللہ (عزوجل)! میرے تمام گناہ معاف کر دے کوشش سے جس کو میں نے کیا یا بلا کوشش اور خطا سے کیا یا قصد سے اور یہ سب میں نے کیے، اے اللہ (عزوجل)! تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر اور عاجزی و سستی سے اور تیری پناہ غم و حزن سے اور تیری پناہ بزدلی و بخل اور دین کی گرائی اور مردوں کے غلبہ سے اور سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے تاوان ادا کر دے اور حقوق العباد مجھ سے معاف کر اور خصوم و غرما اور حق داروں کو راضی کر دے، اے اللہ (عزوجل)! میرے نفس کو تقویٰ دے اور اس کو پاک کر تو بہتر پاک کرنے والا ہے تو اس کا ولی و مولیٰ ہے، اے اللہ (عزوجل)! تیری پناہ غلبہ دین اور غلبہ دشمن سے اور اس ہلاکت سے جو ملامت میں ڈالنے والی ہے اور سچ دجال کے فتنہ سے۔

اے اللہ (عزوجل)! مجھے ان لوگوں میں کر جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور بُرائی کر کے استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ (عزوجل)! ہم کو اپنے نیک بندوں میں کر جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہیں جو مقبول و فائدہ مند ہیں، اے اللہ (عزوجل)! اس مزدلفہ میں میرے لیے ہر خیر کو جمع کر دے اور میری ہر حالت کو درست کر دے اور ہر بُرائی کو مجھ سے پھیر دے کہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، =

مسئلہ ۸ - وقوف مزدلفہ کا وقت طلوع فجر سے اوجالا ہونے تک ہے۔ اس درمیان میں وقوف نہ کیا تو فوت ہو گیا اور اگر اس وقت میں یہاں سے ہو کر گزر گیا تو وقوف ہو گیا اور وقوف عرفات میں جو باتیں تھیں وہ یہاں بھی ہیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ - طلوع فجر سے پہلے جو یہاں سے چلا گیا اُس پر دم واجب ہے مگر جب بیمار ہو یا عورت یا کمزور کہ ازدحام میں ضرر کا اندیشہ ہے اس وجہ سے پہلے چلا گیا تو اُس پر کچھ نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ - نماز سے قبل مگر طلوع فجر کے بعد یہاں سے چلا گیا یا طلوع آفتاب کے بعد گیا تو بُرا کیا مگر اس پر دم وغیرہ واجب نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

منیٰ کے اعمال اور حج کے بقیہ افعال

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا كُنْتُمْ يُبَاءُكُمْ أَوْ أَشِدَّ ذِكْرًا ۚ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ۚ وَمِنهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ۚ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۗ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ الْاِثْمُ وَاللَّهُ وَاقِعُ الْعَقُوبِ ۗ أَعْلَمُوا أَنَّكُمُ الْيَوْمَ تُحْشَرُونَ ۗ ﴾^(۴)

= اے اللہ (عزوجل)! تیری پناہ اس کے شر سے جو پیٹ پر چلتا ہے اور دو پاؤں اور چار پاؤں پر چلنے والے کے شر سے، اے اللہ (عزوجل)! تو مجھ کو ایسا کر دے کہ ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہوں گویا تجھ کو دیکھتا ہوں یہاں تک کہ تجھ سے ملوں اور تقوے کے ساتھ مجھ کو بہرہ مند کر اور گناہ کر کے بد بخت نہ بنوں اور اپنی قضا میرے لیے بہتر کر اور جو تو نے مقدر کیا ہے اُس میں برکت دے، یہاں تک کہ جو تو نے مؤخر کیا ہے اس کی جلدی کو پسند نہ کروں اور جو تو نے جلد کر دیا، اس کی تاخیر کو دوست نہ رکھوں اور میری تو نگری میرے نفس میں کر اور کان، آنکھ سے مجھ کو متمتع کر اور اُن کو میرا وارث کر اور جو مجھ پر ظلم کرے، اُن پر مجھے فتح مند کر اور اس میں میرا بدلہ دکھا دے اور اس سے میری آنکھ ٹھنڈی کر۔ ۱۳

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۳۰.

② المرجع السابق، ص ۲۳۱.

③ المرجع السابق.

④ ۲، البقرة: ۲۰۰-۲۰۳.

پھر جب حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ (عزوجل) کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اُس کے لیے کچھ حصہ نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کی کمائی سے ان کا حصہ ہے اور اللہ (عزوجل) جلد حساب کرنے والا ہے اور اللہ (عزوجل) کی یاد کرو گئے ہوئے دنوں میں تو جو جلدی کر کے دوزخ میں چلا جائے اُس پر کچھ گناہ نہیں اور جو رہ جائے تو اُس پر کچھ گناہ نہیں پر ہیزگار کے لیے اور اللہ (عزوجل) سے ڈرو اور جان لو کہ تم کو اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

حدیث ۱ صحیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزدلفہ سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ بطنِ محسر میں پہنچے اور یہاں جانور کو تیز کر دیا پھر وہاں سے بیچ والے راستہ سے چلے جو جَمْرہٴ کُعبیٰ کو گیا ہے جب اس جمرہ کے پاس پہنچے تو اُس پر سات کنکریاں ماریں، ہر کنکری پر تکبیر کہتے اور بطنِ وادی سے رَمی کی پھر منخر میں آ کر تریٹھ اونٹ اپنے دستِ مبارک سے نحر فرمائے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دید یا بقیہ کو انھوں نے نحر کیا اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اپنی قربانی میں انھیں شریک کر لیا۔ پھر حکم فرمایا: کہ ”ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا ہانڈی میں ڈال کر پکایا جائے۔“ دونوں صاحبوں نے اس گوشت میں سے کھایا اور شور بایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی۔^(۱)

حدیث ۲ ترمذی شریف میں انھیں سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزدلفہ سے سکون کے ساتھ روانہ ہوئے اور لوگوں کو حکم فرمایا کہ: اطمینان کے ساتھ چلیں اور وادیِ محسر میں سواری کو تیز کر دیا اور لوگوں سے فرمایا کہ: چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے رَمی کریں اور یہ فرمایا کہ: شاید اس سال کے بعد اب میں تمہیں نہ دیکھوں گا۔^(۲)

حدیث ۳ صحیحین میں انھیں سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یومِ النحر (دسویں تاریخ) میں چاشت کے وقت رَمی کی اور اس کے بعد کے دنوں میں آفتاب ڈھلنے کے بعد۔^(۳)

حدیث ۴ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جَمْرہٴ کُعبیٰ کے پاس پہنچے تو کعبہ معظمہ کو

①..... "صحیح مسلم"، کتاب الحج، باب حجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۱۲۱۸، ص ۶۳۴.

②..... "جامع الترمذی"، أبواب الحج، باب ماجاء فی الافاضة من عرفات، الحدیث: ۸۸۷، ج ۲، ص ۲۵۳.

③..... "صحیح مسلم"، کتاب الحج، باب بیان وقت استحباب الرمی، الحدیث: ۳۱۴- (۱۲۹۹)، ص ۶۷۶.

بائیں جانب کیا اور منی کو دہنی طرف اور سات کنکریاں ماریں، ہر کنکری پر تکبیر کہی پھر فرمایا کہ: ”اسی طرح انھوں نے رمی کی جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔“ (1)

حدیث ۵ — امام مالک نافع سے راوی، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پہلے جمروں کے پاس دیر تک ٹھہرتے تکبیر و تسبیح و حمد و دعا کرتے اور حجرہ عقبہ کے پاس نہ ٹھہرتے۔ (2)

حدیث ۶ — طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رمی جمار میں کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا: ”تو اپنے رب کے نزدیک اس کا ثواب اُس وقت پائے گا کہ تجھے اس کی زیادہ حاجت ہوگی۔“ (3)

حدیث ۷ — ابن خزیمہ و حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام مناسک میں آئے، حجرہ عقبہ کے پاس شیطان سامنے آیا، اُسے سات کنکریاں ماریں یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا پھر حجرہ ثانیہ کے پاس آیا پھر اسے سات کنکریاں ماریں یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا، پھر تیسرے حجرہ کے پاس آیا تو اُسے سات کنکریاں ماریں یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا۔“ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کہ تم شیطان کو رجم کرتے اور ملت ابراہیم کا اتباع کرتے ہو۔ (4)

حدیث ۸ — بزار انھیں سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جمروں کی رمی کرنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔“ (5)

حدیث ۹ — طبرانی و حاکم ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یہ جمروں پر جو کنکریاں ہر سال ماری جاتی ہیں، ہمارا گمان ہے کہ کم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ: ”جو قبول ہوتی ہیں اٹھالی جاتی ہیں، ایسا نہ ہوتا تو پہاڑوں کی مثل تم دیکھتے۔“ (6)

① ”صحیح البخاری“، کتاب الحج، باب رمی الجمار بسبع حصیات، الحدیث: ۱۷۴۸، ۱۷۵۰، ج ۱، ص ۵۷۸، ۵۷۹.

② ”الموطأ“ للإمام مالک، کتاب الحج، باب رمی الجمار، الحدیث: ۹۴۷ ج ۱، ص ۳۷۲.

③ ”المعجم الأوسط“، باب العین، الحدیث: ۴۱۴۷، ج ۳، ص ۱۵۰.

④ ”المستدرک“ للحاکم، کتاب المناسک، باب رمی الجمار و مقدار الحصی، الحدیث: ۱۷۵۶، ج ۲، ص ۱۲۲.

⑤ ”الترغیب و الترہیب“، کتاب الحج، الترغیب فی رمی الجمار... إلخ، الحدیث: ۳، ج ۲، ص ۱۳۴.

⑥ ”المعجم الأوسط“، باب الالف، الحدیث: ۱۷۵۰، ج ۱، ص ۴۷۴.

حدیث ۱۲۱۰ صحیح مسلم میں اُمّ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سر موٹانے والوں کے لیے تین بار دُعا کی اور کترانے والوں کے لیے ایک بار۔^(۱) اس کے مثل ابو ہریرہ و مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی۔

حدیث ۱۳ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”بال موٹانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔“^(۲)

حدیث ۱۴ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سر موٹانے میں جو بال زمین پر گرے گا، وہ تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔“^(۳)

(۱) جب طلوع آفتاب میں دو رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے، امام کے ساتھ منیٰ کو چلو اور یہاں سے سات چھوٹی چھوٹی کنکریاں کھجور کی گٹھلی برابر کی پاک جگہ سے اٹھا کر تین بار دھولو، کسی پتھر کو توڑ کر کنکریاں نہ بناؤ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں دن جمروں پر مارنے کے لیے یہیں سے کنکریاں لے لو یا سب کسی اور جگہ سے لو مگر نہ نجس جگہ کی ہوں، نہ مسجد کی، نہ جمرہ کے پاس کی۔

(۲) راستہ میں پھر بدستور ذکر کرو، دُعا دُروود و کثرت لبیک میں مشغول رہو اور یہ دُعا پڑھو:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَفْضْتُ وَمِنْ عَذَابِكَ أَشْفَقْتُ وَإِلَيْكَ رَجَعْتُ وَمِنْكَ رَهْبْتُ فَأَقْبَلْ نُسُكِي وَعَظْمِي

أَجْرِي وَارْحَمْ تَضْرُعِي وَأَقْبَلْ تَوْبَتِي وَاسْتَجِبْ دُعَائِي .^(۴)

(۳) جب وادی محسر^(۵) پہنچو پانچ سو پینتالیس ہاتھ بہت جلد تیزی کے ساتھ چل کر نکل جاؤ مگر نہ وہ تیزی جس

سے کسی کو ایذا ہو اور اس عرصہ میں یہ دُعا پڑھتے جاؤ:

① ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب تفضیل الحلق علی التقصیر... إلخ، الحدیث: ۱۳۰۳، ص ۶۷۷.

② ”الترغیب و الترهیب“، کتاب الحج، الترغیب فی حلق الرأس بمنی، الحدیث: ۳، ج ۲، ص ۱۳۵.

③ ”الترغیب و الترهیب“، کتاب الحج، الترغیب فی حلق الرأس بمنی، الحدیث: ۳، ج ۲، ص ۱۳۵.

④ اے اللہ (عزوجل)! میں تیری طرف واپس ہوا اور تیرے عذاب سے ڈرا اور تیری طرف رجوع کی اور تجھ سے خوف کیا تو میری عبادت

قبول کرو اور میرا اجر زیادہ کرو اور میری عاجزی پر رحم کرو اور میری توبہ قبول کرو اور میری دُعا مستجاب کرو۔ ۱۴

⑤ یہ منیٰ و مزدلفہ کے بیچ میں ایک نالہ ہے دونوں کی حدود سے خارج مزدلفہ سے منیٰ کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کو جو پہاڑ پڑتا ہے اس کی چوٹی

سے شروع ہو کر ۵۴۵ ہاتھ تک ہے یہاں اصحاب قیل آ کر ٹھہرے اور ان پر عذاب ابابیل اترا تھا لہذا اس جگہ سے جلد گزرنا اور عذاب الہی سے پناہ

مانگنا چاہیے۔

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ . (۱)
(۴) جب منی نظر آئے وہی دعا پڑھو جو مکہ سے آتے منی کو دیکھ کر پڑھی تھی۔

جمرة العقبہ کی رمی

(۵) جب منی پہنچو سب کاموں سے پہلے جمرة العقبہ (۲) کو جاؤ جو ادھر سے پچھلا جمرة ہے اور مکہ معظمہ سے پہلا، نالے کے وسط میں سواری پر جمرة سے کم از کم پانچ ہاتھ ہٹے ہوئے یوں کھڑے ہو کہ منی دہنے ہاتھ پر اور کعبہ بائیں ہاتھ کو اور جمرة کی طرف موٹھ ہوسات کنکریاں جدا جدا چٹکی میں لے کر سیدھا ہاتھ خوب اٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو ہر ایک پر
بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطٰنِ رِضًا لِّلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُورًا وَسَعْيًا مَّشْكُورًا
وَذَنْبًا مَّغْفُورًا . (۳) کہہ کر مارو۔ (۴) بہتر یہ ہے کہ کنکریاں جمرة تک پہنچیں ورنہ تین ہاتھ کے فاصلہ تک گریں۔ اس سے زیادہ فاصلہ پر گری تو وہ کنکری شمار میں نہ آئے گی، پہلی کنکری سے بیک موقوف کر دو، اللہ اکبر کے بدلے سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہا جب بھی حرج نہیں۔

(۶) جب سات پوری ہو جائیں وہاں نہ ٹھہرو، فوراً ذکر و دعا کرتے پلٹ آؤ۔

رمی کے مسائل

مسئلہ ۱ سات سے کم جائز نہیں، اگر صرف تین ماریں یا بالکل نہیں تو دم لازم ہوگا اور اگر چار ماریں تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ دے۔ (۵) (ردالمحتار)

- ① اے اللہ (عزوجل)!! اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کر اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر اور اس سے پہلے ہم کو عافیت دے۔ ۱۲
- ② منی اور مکہ کے بیچ میں تین جگہ ستون بنے ہیں ان کو جمرة کہتے ہیں پہلا جو منی سے قریب ہے جمرة اولی کہلاتا ہے اور بیچ کا جمرة وسطی اور اخیر کا کہ مکہ معظمہ سے قریب ہے جمرة العقبہ۔ ۱۲
- ③ اللہ (عزوجل) کے نام سے، اللہ (عزوجل) بہت بڑا ہے، شیطان کے ذلیل کرنے کے لیے، اللہ (عزوجل) کی رضا کے لیے، اے اللہ (عزوجل)!! اسکو حج مبرور کر اور سعی مشکور کر اور گناہ بخش دے۔ ۱۲
- ④ یا صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارو۔ ۱۲ منہ
- ⑤ ”ردالمحتار“، کتاب الحج، مطلب فی رمی الجمرة العقبی، ج ۳، ص ۶۰۸۔

مسئلہ ۲ کنکری مارنے میں پے در پے ہونا شرط نہیں مگر وقفہ خلاف سنت ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکیں تو یہ ساتوں ایک کے قائم مقام ہوں۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ کنکریاں زمین کی جنس سے ہوں اور ایسی چیز کی جس سے تیمم جائز ہے کنکر، پتھر، مٹی یہاں تک کہ اگر خاک

پھینکی جب بھی رمی ہو گئی مگر ایک کنکری پھینکنے کے قائم مقام ہوئی۔ موتی، عنبر، مشک وغیرہا سے رمی جائز نہیں۔ یو ہیں جو اہر اور سونے چاندی سے بھی رمی نہیں ہو سکتی کہ یہ تو نچھا اور ہوئی مارنا نہ ہوا، بیگنی سے بھی رمی جائز نہیں۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ جمرہ کے پاس سے کنکریاں اٹھانا مکروہ ہے کہ وہاں وہی کنکریاں رہتی ہیں جو مقبول نہیں ہوتیں اور مردود ہو جاتی ہیں اور جو مقبول ہو جاتی ہیں اٹھالی جاتی ہیں۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ اگر معلوم ہو کہ کنکریاں نجس ہیں تو ان سے رمی کرنا مکروہ ہے اور معلوم نہ ہو تو نہیں مگر دھولینا مستحب ہے۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ اس رمی کا وقت آج کی فجر سے گیارہویں کی فجر تک ہے مگر مسنون یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال تک ہو اور زوال سے غروب تک مباح اور غروب سے فجر تک مکروہ۔ یو ہیں دسویں کی فجر سے طلوع آفتاب تک مکروہ اور اگر کسی عذر کے سبب ہو مثلاً چرواہوں نے رات میں رمی کی تو کراہت نہیں۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

حج کی قربانی

(۷) اب رمی سے فارغ ہو کر قربانی میں مشغول ہو، یہ قربانی وہ نہیں جو بقر عید میں ہوا کرتی ہے کہ وہ تو مسافر پر اصلاً نہیں اور مقیم مالدار پر واجب ہے اگر چہ حج میں ہو بلکہ یہ حج کا شکرانہ ہے۔ قارین اور متمتع پر واجب اگر چہ فقیر ہو اور مفرد کے لیے مستحب اگر چہ غنی ہو۔ جانور کی عمر و اعضا میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں۔

① "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی رمی الجمرۃ العقبی، ج ۳، ص ۶۰۸.

② المرجع السابق، ص ۶۰۷.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی رمی الجمرۃ العقبی، ج ۳، ص ۶۰۸.

④ "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی رمی الجمرۃ العقبی، ج ۳، ص ۶۰۹.

⑤ المرجع السابق، ص ۶۱۰.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی رمی الجمرۃ العقبی، ج ۳، ص ۶۱۰.

مسئلہ ۱

محتاج محض جس کی ملک میں نہ قربانی کے لائق کوئی جانور ہو، نہ اس کے پاس اتنا نقد یا اسباب کہ اسے بیچ کر لے سکے، وہ اگر قرآن یا تمغہ کی نیت کرے گا تو اس پر قربانی کے بدلے دس روزے واجب ہوں گے تین توجج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے نویں ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد، اس بیچ میں جب چاہے رکھ لے۔ ایک ساتھ خواہ جُد اجد اور بہتر یہ ہے کہ ۷۔۸۔۹ کو رکھے اور باقی سات تیر ہوں ذی الحجہ کے بعد جب چاہے رکھے اور بہتر یہ کہ گھر پہنچ کر ہوں۔

(۸) ذبح کرنا آتا ہو تو خود ذبح کرے کہ سنت ہے، ورنہ ذبح کے وقت حاضر رہے۔

(۹) رُو بقبلہ جانور کولنا کر اور خود بھی قبلہ کو منہ کر کے یہ پڑھو:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱)

اس کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ کہتے ہوئے نہایت تیز ٹھہری سے بہت جلد ذبح کر دو کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، زیادہ ہاتھ نہ بڑھاؤ کہ بے سبب کی تکلیف ہے۔

(۱۰) بہتر یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ، ایک پاؤں باندھ لو ذبح کر کے کھول دو۔

(۱۱) اونٹ ہو تو اسے کھڑا کر کے سینہ میں گلے کی انتہا پر تکبیر کہہ کر نیزہ مارو کہ سنت یو ہیں ہے اسے نحر کہتے ہیں اور اس کا ذبح کرنا مکروہ مگر حلال ذبح سے بھی ہو جائے گا اگر ذبح کرے تو گلے پر ایک ہی جگہ اُسے بھی ذبح کرے۔ جاہلوں میں جو مشہور ہے کہ اونٹ تین جگہ ذبح ہوتا ہے غلط و خلاف سنت ہے اور مُفْت کی اذیت و مکروہ ہے۔

(۱۲) جانور جو ذبح کیا جائے جب تک سرد نہ ہو لے اس کی کھال نہ کھینچو، نہ اعضا کاٹو کہ ایذا ہے۔

(۱۳) یہ قربانی کر کے اپنے اور تمام مسلمانوں کے حج و قربانی قبول ہونے کی دعا مانگو۔

① انظر: "سنن أبي داود"، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، الحديث: ۲۷۹۵، ج ۳، ص ۱۲۶.

ترجمہ: "میں نے اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں باطل سے حق کی طرف مائل ہوں اور میں مشرکوں سے نہیں۔"

"پیشک میری نماز و قربانی اور میرا جینا اور میرا امر باللہ (عزوجل) کے لیے ہے، جو تمام جہان کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا

حکم ہوا اور میں مسلمانوں میں ہوں۔" ۱۴

حلق و تقصیر

(۱۳) قربانی کے بعد قبلہ مونہ بیٹھ کر مرد حلق کریں یعنی تمام سر مونڈائیں کہ افضل ہے یا بال کتروائیں کہ رخصت ہے۔ عورتوں کو بال مونڈانا حرام ہے۔ ایک پورہ برابر بال کتروادیں۔ مفرد اگر قربانی کرے تو اُسکے لیے مستحب یہ ہے کہ قربانی کے بعد حلق کرے اور اگر حلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں اور تمتع و قران والے پر قربانی کے بعد حلق کرنا واجب ہے یعنی اگر قربانی سے پہلے سر مونڈائے گا تو دم واجب ہوگا۔

مسئلہ ۱ کتروائیں تو سر میں جتنے بال ہیں ان میں سے چہارم بالوں میں سے کتروانا ضروری ہے، لہذا ایک پورہ سے زیادہ کتروائیں کہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ چہارم بالوں میں سب ایک ایک پورا نہ ترشیں۔

مسئلہ ۲ سر مونڈانے یا بال کتروانے کا وقت ایام نحر ہے یعنی ۱۰، ۱۱، ۱۲ اور افضل پہلا دن یعنی دسویں ذی الحجہ۔^(۱)
(عالمگیری)

مسئلہ ۳ جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آگیا تو اب محرم اپنا یا دوسرے کا سر مونڈ سکتا ہے، اگرچہ یہ دوسرا بھی محرم ہو۔^(۲) (منک)

مسئلہ ۴ جس کے سر پر بال نہ ہوں اُسے اُسترہ پھرانا واجب ہے اور اگر بال ہیں مگر سر میں مٹھدیاں ہیں جن کی وجہ سے مونڈا نہیں سکتا اور بال اتنے بڑے بھی نہیں کہ کتروائے تو اس عذر کے سبب اُس سے مونڈانا اور کتروانا ساقط ہو گیا۔ اُسے بھی مونڈانے والوں، کتروانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو گئیں مگر بہتر یہ ہے کہ ایام نحر کے ختم ہونے تک بدستور رہے۔^(۳)
(عالمگیری)

مسئلہ ۵ اگر وہاں سے کسی گاؤں وغیرہ میں ایسی جگہ چلا گیا کہ نہ حجام ملتا ہے، نہ اُسترہ یا قینچی پاس ہے کہ مونڈالے یا کتروائے تو یہ کوئی عذر نہیں مونڈانا یا کتروانا ضروری ہے۔^(۴) (عالمگیری)

اور یہ بھی ضرور ہے کہ حرم سے باہر مونڈانا یا کتروانا نہ ہو بلکہ حرم کے اندر ہو کہ اس کے لیے یہ جگہ مخصوص ہے، حرم سے

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الخامس، فی کیفیتہ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۳۱.

② "باب المناسک"، (باب مناسک منی، فصل فی الحلق و التقصیر)، ص ۲۳۰.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیتہ اداء الحج، ص ۲۳۱.

④ المرجع السابق.

باہر کرے گا تو دم لازم آئے گا۔⁽¹⁾ (منک)

مسئلہ ۶ اس موقع پر سر موٹانے کے بعد مونچھیں ترشوانا، موئے زیر ناف دُور کرنا مستحب ہے اور داڑھی کے بال نہ لے اور لیے تو دم وغیرہ واجب نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ اگر نہ موٹائے نہ کتروائے تو کوئی چیز جو احرام میں حرام تھی حلال نہ ہوئی اگرچہ طواف بھی کر چکا ہو۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ اگر بارہویں تک حلق و قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا کہ اس کے لیے یہ وقت مقرر ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

(۱۵) حلق ہو یا تقصیر دہنی طرف⁽⁵⁾ سے شروع کرو اور اس وقت اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ کہتے جاؤ اور فارغ ہونے کے بعد بھی کہو اور حلق یا تقصیر کے وقت یہ دعا پڑھو:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَقَضَىٰ عَنَّا نُسُكَنَا اللّٰهُمَّ هَذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ فَاجْعَلْ لِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاْمَحْ عَنِّي بِهَا سَيِّئَةً وَاَرْفَعْ لِي بِهَا دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِي فِي نَفْسِي وَتَقَبَّلْ مِنِّي اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وِلِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا وَاَسِعَ الْمَغْفِرَةَ. اٰمِيْنَ ط. ⁽⁶⁾ اور سب مسلمانوں کی بخشش کی دعا کرو۔

مسئلہ ۹ اگر موٹانے یا کتروانے کے سوا کسی اور طرح سے بال دور کریں مثلاً چوننا ہر تال وغیرہ سے جب بھی جائز

①..... "باب المناسك"، (باب مناسك منى، فصل في الحلق و التقصير)، ص ۲۳۰.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ص ۲۳۲.

③..... المرجع السابق.

④..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الزيارة، ج ۳، ص ۶۱۶.

⑤..... یعنی موٹانے والے کی دہنی جانب یہی حدیث سے ثابت اور امام اعظم نے بھی ایسا ہی کیا لہذا بعض کتابوں میں جو حجام کی دہنی جانب سے شروع کرنے کو بتایا صحیح نہیں۔ ۱۲ منہ

⑥..... حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت کی اور انعام کیا اور ہماری عبادت پوری کر دی، اے اللہ (عزوجل)! یہ میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے میرے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن نور کر اور اس کی وجہ سے میرا گناہ مٹا دے اور جنت میں درجہ بلند کر، الہی! میرے لیے میرے نفس میں برکت کر اور مجھ سے قبول کر، اے اللہ (عزوجل)! مجھ کو اور سر موٹانے والوں اور بال کتروانے والوں کو بخش دے، اے بڑی مغفرت والے! آمین۔ ۱۳

ہے۔ (1) (در مختار)

(۱۶) بالِ ذن کر دیں اور ہمیشہ بدن سے جو چیز بال، ناخن، کھال جدا ہوں ذن کر دیا کریں۔

(۱۷) یہاں حلق یا تقصیر سے پہلے ناخن نہ کتر واؤ، نہ خط بناؤ، ورنہ دم لازم آئے گا۔

(۱۸) اب عورت سے صحبت کرنے، بشہوت اُسے ہاتھ لگانے، بوسہ لینے، شرم گاہ دیکھنے کے سوا جو کچھ احرام نے حرام

کیا تھا سب حلال ہو گیا۔

طوافِ فرض

(۱۹) افضل یہ ہے کہ آج دسویں ہی تاریخِ فرضِ طواف کے لیے جسے طوافِ زیارت و طوافِ افاضہ کہتے ہیں، مکہ

معظمہ میں جاؤ بدستور مذکور پیدل با وضو و ستر عورت طواف کرو مگر اس طواف میں اضطباع نہیں۔

مسئلہ ۱ یہ طواف حج کا دوسرا رکن ہے اس کے سات پھیرے کیے جائیں گے، جن میں چار پھیرے فرض ہیں کہ بغیر

ان کے طواف ہوگا ہی نہیں اور نہ حج ہوگا اور پورے سات کرنا واجب تو اگر چار پھیروں کے بعد جماع کیا تو حج ہو گیا مگر دم

واجب ہوگا کہ واجب ترک ہوا۔ (2) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲ اس طواف کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ پیشتر احرام بندھا ہو اور وقوف کر چکا ہو اور خود کرے اور اگر

کسی اور نے اُسے کندھے پر اٹھا کر طواف کیا تو اُس کا طواف نہ ہو مگر جب کہ یہ مجبور ہو خود نہ کر سکتا ہو مثلاً بیہوش ہے۔ (3)

(جوہرہ، رد المحتار)

مسئلہ ۳ بیہوش کو پیٹھ پر لاد کر یا کسی اور چیز پر اٹھا کر طواف کرایا اور اس میں اپنے طواف کی بھی نیت کر لی تو دونوں

کے طواف ہو گئے اگرچہ دونوں کے دو قسم کے طواف ہوں۔

مسئلہ ۴ اس طواف کا وقت دسویں کی طلوع فجر سے ہے، اس سے قبل نہیں ہو سکتا۔ (4) (جوہرہ)

مسئلہ ۵ اس میں بلکہ مطلق ہر طواف میں نیت شرط ہے، اگر نیت نہ ہو طواف نہ ہو مثلاً دشمن یا درندے سے بھاگ

① "الدرالمختار"، کتاب الحج، مطلب فی رمی جمرة العقبة، ج ۳، ص ۶۱۲.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیت اداء الحج، ج ۱، ص ۲۳۲، وغیرہ.

③ "رد المحتار"، کتاب الحج، مطلب: فی طواف الزيارة، ج ۳، ص ۶۱۴.

④ "الحوہرۃ النیرۃ" کتاب الحج، ص ۲۰۵.

کر پھیرے کیے طواف نہ ہوا بخلاف وقوف عرفہ کہ وہ بغیر نیت بھی ہو جاتا ہے مگر یہ نیت شرط نہیں کہ یہ طواف زیارت ہے۔^(۱) (جوہرہ)

مسئلہ ۶ عید اضحیٰ کی نماز وہاں نہیں پڑھی جائے گی۔^(۲) (ردالمحتار)

(۲۰) قارن ومفرد طواف قدم میں اور متصح بعد احرام حج کسی طواف نفل میں حج کے رمل وسعی دونوں یا صرف سعی کر چکے ہوں تو اس طواف میں رمل وسعی کچھ نہ کریں اور ① اگر اس میں رمل وسعی کچھ نہ کیا ہو یا ② صرف رمل کیا ہو یا ③ جس طواف میں کیے تھے وہ عمرہ کا تھا جیسے قارن ومتصح کا پہلا طواف یا ④ وہ طواف بے طہارت کیا تھا یا ⑤ شوال سے پیشتر کے طواف میں کیے تھے تو ان پانچوں صورتوں میں رمل وسعی دونوں اس طواف فرض میں کریں۔

(۲۱) کمزور اور عورتیں اگر بھیڑ کے سبب دسویں کو نہ جائیں تو اس کے بعد گیارہویں کو افضل ہے اور اس دن یہ بڑا نفع ہے کہ مطاف خالی ملتا ہے گنتی کے بیس تیس آدمی ہوتے ہیں عورتوں کو بھی باطمینان تمام ہر پھیرے میں سنگ اسود کا بوسہ ملتا ہے۔

(۲۲) جو گیارہویں کو نہ جائے بارہویں کو کر لے اس کے بعد بلا عذر تاخیر گناہ ہے، جرمانہ میں ایک قربانی کرنی ہوگی۔ ہاں مثلاً عورت کو حیض یا نفاس آ گیا تو ان کے ختم کے بعد طواف کرے مگر حیض یا نفاس سے اگر ایسے وقت پاک ہوئی کہ نہادھو کر بارہویں تاریخ میں آفتاب ڈوبنے سے پہلے چار پھیرے کر سکتی ہے تو کرنا واجب ہے، نہ کرے گی گنہگار ہوگی۔ یوہیں اگر اتنا وقت اُسے ملا تھا کہ طواف کر لیتی اور نہ کیا اب حیض یا نفاس آ گیا تو گنہگار ہوئی۔^(۳) (ردالمحتار)

(۲۳) بہر حال بعد طواف دو رکعت بدستور پڑھیں، اس طواف کے بعد عورتیں بھی حلال ہو جائیں گی اور حج پورا ہو گیا کہ اس کا دوسرا رکن یہ طواف تھا۔

مسئلہ ۷ اگر یہ طواف نہ کیا تو عورتیں حلال نہ ہوں گی اگرچہ برسیں گزر جائیں۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ بے وضو یا جنابت میں طواف کیا تو احرام سے باہر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد جماع کرنے سے حج فاسد نہ ہوگا اور اگر اُلٹا طواف کیا یعنی کعبہ کی بائیں جانب سے تو عورتیں حلال ہو گئیں مگر جب تک مکہ میں ہے اس طواف کا اعادہ

①..... "الجوهرة النيرة"، كتاب الحج، ص ۲۰۵.

②..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الزيارة، ج ۳، ص ۶۱۷.

③..... "رد المحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الزيارة، ج ۳، ص ۶۱۶.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج ۱، ص ۲۳۲.

کرے اور اگر نجس کپڑا پہن کر طواف کیا تو مکروہ ہو اور بقدر مانع نماز ستر گھلا رہا تو ہو جائے گا مگر دم لازم ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری جوہرہ) (۲۴) دسویں، گیارہویں، بارہویں کی راتیں منی ہی میں بسر کرنا سنت ہے، نہ مزدلفہ میں نہ مکہ میں نہ راہ میں، لہذا جو شخص دس یا گیارہ کو طواف کے لیے گیا واپس آ کر رات منی ہی میں گزارے۔

مسئلہ ۹ - اگر اپنے آپ منی میں رہا اور اسباب وغیرہ مکہ کو بھیج دیا یا مکہ ہی میں چھوڑ کر عرفات کو گیا تو اگر ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو کراہت ہے ورنہ نہیں۔⁽²⁾ (درمختار)

باقی دنوں کی رمی

(۲۵) گیارہویں تاریخ بعد نماز ظہر امام کا خطبہ سن کر پھر رمی کو چلو، ان ایام میں رمی تھرہ اولیٰ سے شروع کرو جو مسجد خیف سے قریب ہے، اس کی رمی کو راہ مکہ کی طرف سے آ کر چڑھائی پر چڑھو کہ یہ جگہ نسبت جمرۃ العقبہ کے بلند ہے، یہاں رُو بقبلہ سات کنکریاں بطور مذکور مار کر تھرہ سے کچھ آگے بڑھ جاؤ اور قبلہ رودعا میں یوں ہاتھ اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں قبلہ کو رہیں۔ حضور قلب سے حمد و درود دعا و استغفار میں کم سے کم بیس آیتیں پڑھنے کی قدر مشغول رہو، ورنہ پون پارہ یا سورہ بقرہ کی مقدار تک۔

(۲۶) پھر تھرہ وسطیٰ پر جا کر ایسا ہی کرو (۲۷) پھر تھرہ العقبہ پر مگر یہاں رمی کر کے نہ ٹھہرو معاہلٹ آؤ، پلٹتے میں دعا کرو۔

(۲۸) بعینہ اسی طرح بارہویں تاریخ بعد زوال تینوں جمرے کی رمی کرو، بعض لوگ دوپہر سے پہلے آج رمی کر کے مکہ معظمہ کو چل دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اصل مذہب کے خلاف اور ایک ضعیف روایت ہے تم اس پر عمل نہ کرو۔

(۲۹) بارہویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اختیار ہے کہ مکہ معظمہ کو روانہ ہو جاؤ مگر بعد غروب چلا جانا معیوب۔ اب ایک دن اور ٹھہرنا اور تیرہویں کو بدستور دوپہر ڈھلے رمی کر کے مکہ جانا ہوگا اور یہی افضل ہے، مگر عام لوگ بارہویں کو چلے جاتے ہیں تو ایک رات دن یہاں اور قیام میں قلیل جماعت کو دقت ہے اور اگر تیرہویں کی صبح ہوگئی تو اب بغیر رمی کیے جانا جائز نہیں، جائے گا تو دم واجب ہوگا۔ دسویں کی رمی کا وقت اوپر مذکور ہوا۔

گیارہویں بارہویں کا وقت آفتاب ڈھلنے⁽³⁾ سے صبح تک ہے مگر رات میں یعنی آفتاب ڈوبنے کے بعد مکروہ ہے اور تیرہویں کی رمی کا وقت صبح سے آفتاب ڈوبنے تک ہے مگر صبح سے آفتاب ڈھلنے تک مکروہ وقت ہے، اس کے بعد غروب آفتاب

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس، ج ۱، ص ۲۳۲۔ و "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، ص ۲۰۶۔

②..... "الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۶۲۱۔

③..... یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے۔

تک مسنون۔ لہذا اگر پہلی تین تاریخوں ۱۰، ۱۱، ۱۲ کی رمی دن میں نہ کی ہو تو رات میں کر لے پھر اگر بغیر عذر ہے تو کراہت ہے، ورنہ کچھ نہیں اور اگر رات میں بھی نہ کی تو قضا ہوگئی، اب دوسرے دن اس کی قضا دے اور اس کے ذمہ کفارہ واجب اور اس قضا کا بھی وقت تیرہویں کے آفتاب ڈوبنے تک ہے، اگر تیرہویں کو آفتاب ڈوب گیا اور رمی نہ کی تو اب رمی نہیں ہو سکتی اور دم واجب۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۔ اگر بالکل رمی نہ کی جب بھی ایک ہی دم واجب ہوگا۔^(۲) (منک)

مسئلہ ۲۔ کنکریاں چاروں دن کے واسطے لی تھیں یعنی ستر اور بارہویں کی رمی کر کے مکہ جانا چاہتا ہے تو اگر اور کو ضرورت ہو اُسے دیدے، ورنہ کسی پاک جگہ ڈال دے۔ جمروں پر پچی ہوئی کنکریاں پھینکنا مکروہ ہے اور دفن کرنے کی بھی حاجت نہیں۔^(۳) (منک)

مسئلہ ۳۔ رمی پیدل بھی جائز ہے اور سوار ہو کر بھی مگر افضل یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے جمروں پر پیدل رمی کرے اور تیسرے کی سواری پر۔^(۴) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۴۔ اگر کنکری کسی شخص کی پیٹھ یا کسی اور چیز پر پڑی اور ہلکی رہ گئی تو اُس کے بدلے کی دوسری مارے اور اگر گر پڑی اور وہاں گری جہاں اُس کی جگہ ہے یعنی جمرہ سے تین ہاتھ کے فاصلہ کے اندر تو جائز ہوگئی۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۔ اگر کنکری کسی شخص پر پڑی اور اُس پر سے جمرہ کو لگی تو اگر معلوم ہو کہ اُس کے دفع کرنے سے جمرہ پر پہنچی تو اس کے بدلے کی دوسری کنکری مارے اور معلوم نہ ہو جب بھی احتیاط یہی ہے کہ دوسری مارے۔ یوہیں اگر شک ہو کہ کنکری اپنی جگہ پر پہنچی یا نہیں تو اعادہ کر لے۔^(۶) (منک)

مسئلہ ۶۔ ترتیب کے خلاف رمی کی تو بہتر یہ ہے کہ اعادہ کر لے اور اگر پہلے جمرہ کی رمی نہ کی اور دوسرے تیسرے کی کی تو پہلے پر مار کر پھر دوسرے اور تیسرے پر مار لینا بہتر ہے اور اگر تین تین کنکریاں ماری ہیں تو پہلے پر چار اور مارے اور دوسرے

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی رمی الحمرات الثلاث، ج ۳، ص ۶۱۹.

②..... "لباب المناسک"، (باب رمی الحمار و أحكامه، فصل رمی الیوم الرابع)، ص ۲۴۴.

③..... "لباب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب رمی الحمار و أحكامه، فصل رمی الیوم الرابع)، ص ۲۴۴.

④..... "الدرالمختار"، کتاب الحج، ج ۳، ص ۶۲۰، وغیرہ.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۳۴.

⑥..... "لباب المناسک"، (باب رمی الحمار و أحكامه، فصل فی الرمی و شرائطہ و واجباتہ)، ص ۲۴۵.

تیسرے پر سات سات اور اگر چار چار ماری ہیں تو ہر ایک پر تین تین اور مارے اور بہتر یہ ہے کہ سرے سے زمی کرے اور اگر یوں کیا کہ ایک ایک کنکری تینوں پر مار آیا پھر ایک ایک، یوہیں سات سات سات کنکریاں پوری کیں تو پہلے جمرہ کی زمی ہوگئی اور دوسرے پر تین اور مارے اور تیسرے پر چھ تو زمی پوری ہوگی۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ جو شخص مریض ہو کہ جمرہ تک سواری پر بھی نہ جاسکتا ہو، وہ دوسرے کو حکم کر دے کہ اس کی طرف سے زمی کرے اور اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی طرف سے سات کنکریاں مارنے کے بعد مریض کی طرف سے زمی کرے یعنی جب کہ خود زمی نہ کر چکا ہو اور اگر یوں کیا کہ ایک کنکری اپنی طرف سے ماری پھر ایک مریض کی طرف سے، یوہیں سات سات بار کیا تو مکروہ ہے اور مریض کے بغیر حکم زمی کر دی تو جائز نہ ہوئی اور اگر مریض میں اتنی طاقت نہیں کہ زمی کرے تو بہتر یہ کہ اس کا ساتھی اس کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر زمی کرائے۔ یوہیں بیہوش یا مجنون یا نابالغ کی طرف سے اس کے ساتھ والے زمی کر دیں اور بہتر یہ کہ ان کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر زمی کرائیں۔⁽²⁾ (منک)

مسئلہ ۸ گن کرائیس کنکریاں لے گیا اور زمی کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ چار بچی ہیں اور یہ یاد نہیں کہ کون سے جمرہ پر کمی کی تو پہلے پر یہ چار کنکریاں مارے اور دونوں پچھلوں پر سات سات اور اگر تین بچی ہیں تو ہر ایک پر ایک ایک اور اگر ایک یاد وہوں جب بھی ہر جمرہ پر ایک ایک۔⁽³⁾ (فتح القدیر)

(۳۰) زمی سے پہلے حلق جائز نہیں۔

(۳۱) گیارہویں بارہویں کی زمی دو پہر سے پہلے اصلاً صحیح نہیں۔

زمی میں بارہ چیزیں مکروہ ہیں

(۳۲) زمی میں یہ چیزیں مکروہ ہیں:

① دسویں کی زمی غروب آفتاب کے بعد کرنا۔

② تیرہویں کی زمی دو پہر سے پہلے کرنا۔

③ زمی میں بڑا پتھر مارنا۔

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۳۴.

② "لباب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب رمي الجمار و أحكامه)، ص ۲۴۷.

③ "فتح القدیر"، کتاب الحج، باب الاحرام، ج ۲، ص ۳۹۱.

- ④ بڑے پتھر کو توڑ کر کنکریاں بنانا۔
- ⑤ مسجد کی کنکریاں مارنا۔
- ⑥ حجرہ کے نیچے جو کنکریاں پڑی ہیں اٹھا کر مارنا کہ یہ مردود کنکریاں ہیں، جو قبول ہوتی ہیں اٹھالی جاتی ہیں کہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں رکھی جائیں گی، ورنہ حجروں کے گرد پہاڑ ہو جاتے۔
- ⑦ ناپاک کنکریاں مارنا۔
- ⑧ سات سے زیادہ مارنا۔
- ⑨ رمی کے لیے جو جہت مذکور ہوئی اس کے خلاف کرنا۔⁽¹⁾
- ⑩ حجرہ سے پانچ ہاتھ سے کم فاصلہ پر کھڑا ہونا زیادہ کا مضائقہ نہیں۔
- ⑪ حجروں میں خلاف ترتیب کرنا۔
- ⑫ مارنے کے بدلے کنکری حجرہ کے پاس ڈال دینا۔

مکہ معظمہ کو روانگی

(۳۳) اخیر دن یعنی بارہویں خواہ تیرہویں کو جب منی سے رخصت ہو کر مکہ معظمہ چلو وادی محصب⁽²⁾ میں کہ جَنَّةُ الْمُعَلَّىٰ کے قریب ہے، سواری سے اتر لویا بے اترے کچھ دیر ٹھہر کر دعا کرو اور افضل یہ ہے کہ عشا تک نمازیں یہیں پڑھو، ایک نیند لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو۔

عمرے

(۳۴) اب تیرہویں کے بعد جب تک مکہ میں ٹھہرو اپنے اور اپنے پیر، استاد، ماں، باپ، خصوصاً حضور پر نور سید عالم

① شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی ذانت بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ”رفیق الحرمین“ میں تحریر فرماتے ہیں: ”لہذا بڑے شیطان کو مارتے وقت کعبہ شریف اُلٹے ہاتھ کی طرف اور منی سیدھے ہاتھ کی طرف ہونا چاہئے باقی دونوں حجروں کو مارتے وقت آپ کا منہ قبلہ کی جانب ہونا چاہئے۔“

② جبکہ المعلیٰ کہ مکہ معظمہ کا قبرستان ہے اس کے پاس ایک پہاڑ ہے اور دوسرا پہاڑ اس پہاڑ کے سامنے مکہ کو جاتے ہوئے دہنے ہاتھ پر نالہ کے پیٹ سے جدا ہے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ کا نالہ وادی محصب ہے جبکہ المعلیٰ محصب میں داخل نہیں ۱۲۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و اہلبیت و حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے جتنے ہو سکیں عمرے کرتے رہو۔ بمعہیم کو کہ مکہ معظمہ سے شمال یعنی مدینہ طیبہ کی طرف تین میل فاصلہ پر ہے، جاؤ وہاں سے عمرہ کا احرام جس طرح اوپر بیان ہوا باندھ کر آؤ اور طواف و سعی حسب دستور کر کے حلق یا تقصیر کر لو عمرہ ہو گیا۔ جو حلق کر چکا اور مثلاً اُسی دن دوسرا عمرہ لایا، وہ سر پر اُسترہ پھر والے کافی ہے۔ یو ہیں وہ جس کے سر پر قدرتی بال نہ ہوں۔

(۳۵) مکہ معظمہ میں کم سے کم ایک ختم قرآن مجید سے محروم نہ رہے۔

مقاماتِ متبرکہ کی زیارت

(۳۶) جَنَّةُ الْمَعْلَىٰ حاضر ہو کر اُمّ المؤمنین خدیجہ الکبریٰ و دیگر مدفونین کی زیارت کرے۔

(۳۷) مکانِ ولادت اقدس حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و مکانِ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و مکانِ ولادتِ

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جبلِ ثور و غارِ حرا و مسجدِ الجن و مسجدِ جبلِ ابی قیس و غیر ہا مکاناتِ متبرکہ کی بھی زیارت سے مشرف ہو۔

(۳۸) حضرت عبدالمطلب کی زیارت کریں اور ابو طالب کی قبر پر نہ جائیں۔ یو ہیں جدہ میں جو لوگوں نے حضرت

اُمّنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار کئی سو ہاتھ بنا رکھا ہے وہاں بھی نہ جائیں کہ بے اصل ہے۔

(۳۹) علما کی خدمت سے برکت حاصل کرو۔

کعبہ معظمہ کی داخلی

(۴۰) کعبہ معظمہ کی داخلی کمالِ سعادت ہے اگر جائز طور پر نصیب ہو۔ محرم میں عام داخلی ہوتی ہے مگر سخت کشمکش

رہتی ہے۔ کمزور مرد کا تو کام ہی نہیں، نہ عورتوں کو ایسے ہجوم میں جرأت کی اجازت، زبردست مرد اگر آپ ایذا سے بچ بھی گیا تو

اوروں کو دھکے دیکر ایذا دے گا اور یہ جائز نہیں، نہ اس طرح کی حاضری میں کچھ ذوق ملے اور خاص داخلی بے لین دین میسر نہیں

اور اس پر لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔ حرام کے ذریعہ ایک مستحب ملا بھی تو وہ بھی حرام ہو گیا، ان مفاسد سے نجات نہ ملے تو

حطیم کی حاضری غنیمت جانے، اوپر گزرا کہ وہ بھی کعبہ ہی کی زمین ہے۔

اور اگر شاید بن پڑے یوں کہ خدام کعبہ سے صاف ٹھہر جائے کہ داخلی کے عوض کچھ نہ دیں گے، اس کے بعد یا قبل

چاہے ہزاروں روپے دیدے تو کمالِ ادب ظاہر و باطن کی رعایت سے آنکھیں نیچی کیے گردن جھکائے، گناہوں پر شرماتے،

جلالِ رب العزّة سے لرزتے کانپتے بسم اللہ کہہ کر پہلے سیدھا پاؤں بڑھا کر داخل ہو اور سامنے کی دیوار تک اتنا بڑھے کہ تین ہاتھ کا

فاصلہ رہے۔ وہاں دو رکعت نفل غیر وقتِ مکروہ میں پڑھے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی ہے پھر دیوار پر خسارہ اور مونہ رکھ کر حمد و دُرد و دُعا میں کوشش کرے۔ یوہیں نگاہ نیچی کیے چاروں گوشوں پر جائے اور دعا کرے اور ستونوں سے چمٹے اور پھر اس دولت کے ملنے اور حج و زیارت کے قبول کی دعا کرے اور یوہیں آنکھیں نیچی کیے واپس آئے اوپر یا ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھے اور بڑے فضل کی امید کرو کہ وہ فرماتا ہے: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾^(۱) ”جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امان میں ہے۔“
والحمد للہ۔

حرمین شریفین کے تبرکات

(۴۱) بچی ہوئی بتی وغیرہ جو یہاں یا مدینہ طیبہ میں خدام دیتے ہیں، ہرگز نہ لے بلکہ اپنے پاس سے بتی وہاں روشن کر کے باقی اٹھالے۔

مسئلہ ۱ غلاف کعبہ معظمہ جو سال بھر بعد بدلا جاتا ہے اور جو اوتارا گیا فقرا پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کو ان فقرا سے خرید سکتے ہیں اور جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس میں سے لینا جائز نہیں بلکہ اگر کوئی ٹکڑا جدا ہو کر گر پڑے تو اسے بھی نہ لے اور لے تو کسی فقیر کو دیدے۔

مسئلہ ۲ کعبہ معظمہ میں خوشبو لگی ہو اسے بھی لینا جائز نہیں اور لی تو واپس کر دے اور خواہش ہو تو اپنے پاس سے خوشبو لے جا کر مس کر لائے۔

طواف رخصت

(۴۲) جب ارادہ رخصت کا ہو طواف وداع بے رمل و سعی و اضطباع بجالائے کہ باہر والوں پر واجب ہے۔ ہاں وقت رخصت عورت حیض یا نفاس سے ہو تو اس پر نہیں، جس نے صرف عمرہ کیا ہے اس پر یہ طواف واجب نہیں پھر بعد طواف بدستور دو رکعت مقام ابراہیم میں پڑھے۔

مسئلہ ۱ سفر کا ارادہ تھا طواف رخصت کر لیا مگر کسی وجہ سے ٹھہر گیا، اگر اقامت کی نیت نہ کی تو وہی طواف کافی ہے مگر مستحب یہ ہے کہ پھر طواف کرے کہ پچھلا کام طواف رہے۔^(۲) (عالمگیری وغیرہ)

① پ ۴، آل عمران: ۹۷.

② ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، ج ۱، ص ۲۳۴، وغیرہ.

مسئلہ ۲ مکہ والے اور میقات کے اندر رہنے والے پر طوافِ رخصت واجب نہیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ باہر والے نے مکہ میں یا مکہ کے آس پاس میقات کے اندر کسی جگہ رہنے کا ارادہ کیا یعنی یہ کہ اب یہیں رہے گا تو اگر بارہویں تاریخ تک یہ نیت کر لی تو اب اس پر یہ طواف واجب نہیں اور اس کے بعد نیت کی تو واجب ہو گیا اور پہلی صورت میں اگر اپنے ارادہ کو توڑ دیا اور وہاں سے رخصت ہوا تو اس وقت بھی واجب نہ ہوگا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ طوافِ رخصت میں نفس طواف کی نیت ضرور ہے، واجب و رخصت نیت میں ہونے کی حاجت نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ نیت نفل کیا واجب ادا ہو گیا۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ حیض والی مکہ معظمہ سے جانے کے قبل پاک ہو گئی تو اس پر یہ طواف واجب ہے اور اگر جانے کے بعد پاک ہوئی تو اسے یہ ضرور نہیں کہ واپس آئے اور واپس آئی تو طواف واجب ہو گیا جب کہ میقات سے باہر نہ ہوئی تھی اور اگر جانے سے پہلے حیض ختم ہو گیا مگر نہ غسل کیا تھا، نہ نماز کا ایک وقت گزرا تھا تو اس پر بھی واپس آنا واجب نہیں۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ جو بغیر طوافِ رخصت کے چلا گیا تو جب تک میقات سے باہر نہ ہو واپس آئے اور میقات سے باہر ہونے کے بعد یاد آیا تو واپس ہونا ضرور نہیں بلکہ دم دیدے اور اگر واپس ہو تو عمرہ کا احرام باندھ کر واپس ہو اور عمرہ سے فارغ ہو کر طوافِ رخصت بجالائے اور اس صورت میں دم واجب نہ ہوگا۔^(۵) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ طوافِ رخصت کے تین پھیرے چھوڑ گیا تو ہر پھیرے کے بدلے صدقہ دے۔^(۶) (عالمگیری)

(۴۳) طوافِ رخصت کے بعد زمزم پر آ کر اسی طرح پانی پیے، بدن پر ڈالے۔

(۴۴) پھر دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر آستانہ پاک کو بوسہ دے اور قبولِ حج و زیارت اور بار بار حاضری کی دعا

مانگے اور وہی دعائے جامع پڑھے یا یہ پڑھے:

السَّائِلُ بِبَابِكَ يَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ وَيَبْتَغِي رَحْمَتَكَ .^(۷)

① "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج ۱، ص ۲۳۴.

② المرجع السابق.

③ "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الصدر، ج ۳، ص ۶۲۲.

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج ۱، ص ۲۳۵.

⑤ المرجع السابق، و"ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الصدر، ج ۳، ص ۶۲۲.

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنایات، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۲۴۶.

⑦ تیرے دروازہ پر سائل تیرے فضل و احسان کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ ۱۴

(۳۵) پھر ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ تھام کر اسی طرح چمٹو، ذکر و رُود و دعا کی کثرت کرو۔ اس وقت یہ دعا پڑھو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اللَّهُمَّ فَكَمَا هَدَيْتَنَا لِهَذَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا وَلَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَأَرْزُقْنِي الْعَوْدَ إِلَيْهِ حَتَّى تَرْضَى بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ط (1)

(۳۶) پھر حجرِ پاک کو بوسہ دو اور جو آنسو رکھتے ہو گراؤ اور یہ پڑھو:

يَا يَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا أُوَدِّعُكَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لِتَشْهَدَ لِي بِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْفَرَجِ الْأَكْبَرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ عَلَى ذَلِكَ وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَكَ الْكِرَامَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ط (2)

(۳۷) پھر اٹنے پاؤں کعبہ کی طرف مونہ کر کے یا سیدھے چلنے میں پھر پھر کر کعبہ کو حسرت سے دیکھتے، اُس کی جدائی پر روتے یا رونے کا مونہ بناتے مسجدِ کریم کے دروازہ سے بائیں پاؤں پہلے بڑھا کر نکلو اور دعائے مذکور پڑھو اور اسکے لیے بہتر بابِ الحدورہ ہے۔

(۳۸) حیض و نفاس والی عورت دروازہ مسجد پر کھڑی ہو کر بے نگاہ حسرت دیکھے اور دعا کرتی پلٹے۔

(۳۹) پھر بقدر قدرت فقراے مکہ معظمہ پر تصدق کر کے متوجہ سرکارِ اعظم مدینہ طیبہ ہو وباللہ التوفیق۔

①..... حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی، اللہ (عزوجل) ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، الہی! جس طرح ہمیں تو نے اس کی ہدایت کی ہے تو قبول فرما اور بیت الحرام میں یہ ہماری آخری حاضری نہ کر اور اس کی طرف پھر لوٹنا ہمیں نصیب کرنا تاکہ تو اپنی رحمت کے سبب راضی ہو جا۔

اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان اور حمد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جو رب ہے تمام جہان کا اور اللہ (عزوجل) درود بھیجے ہمارے سردار محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور ان کی آل و اصحاب سب پر۔ ۱۲

②..... اے زمین میں اللہ (عزوجل) کے یمنین! میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور اللہ (عزوجل) کی گواہی کافی ہے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ (عزوجل) کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ (عزوجل) کے رسول ہیں۔

اور میں تیرے پاس اس شہادت کو امانت رکھتا ہوں کہ تو اللہ (عزوجل) کے نزدیک قیامت کے دن جس دن بڑی گھبراہٹ ہوگی تو میرے لیے اس کی شہادت دے گا، اے اللہ (عزوجل)! میں تجھ کو اور تیرے ملائکہ کو اس پر گواہ کرتا ہوں، اللہ (عزوجل) درود بھیجے ہمارے سردار محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور ان کی آل و اصحاب سب پر۔ ۱۲

قرآن کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (1)

اور اللہ (عزوجل) کے لیے حج و عمرہ کو پورا کرو۔

حدیث ۱ ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ صحیح بن معبد تغلبی سے راوی، کہتے ہیں میں نے حج و عمرہ کا ایک ساتھ احرام

باندھا، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تو نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ (2)

حدیث ۲ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

سنا، حج و عمرہ دونوں کو لہیک میں ذکر فرماتے ہیں۔ (3)

حدیث ۳ امام احمد نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو

جمع فرمایا۔ (4)

مسئلہ ۱ قرآن کے یہ معنی ہیں کہ حج و عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے یا پہلے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور ابھی

طواف کے چار پھیرے نہ کیے تھے کہ حج کو شامل کر لیا یا پہلے حج کا احرام باندھا تھا اس کے ساتھ عمرہ بھی شامل کر لیا، خواہ طواف

قدوم سے پہلے عمرہ شامل کیا یا بعد میں۔ طواف قدوم سے پہلے اساعت ہے کہ خلاف سنت ہے مگر دم واجب نہیں اور طواف

قدوم کے بعد شامل کیا تو واجب ہے کہ عمرہ توڑ دے اور دم دے اور عمرہ کی قضا کرے اور عمرہ نہ توڑا جب بھی دم دینا واجب

ہے۔ (5) (در مختار، رد المحتار)

مسئلہ ۲ قرآن کے لیے شرط یہ ہے کہ عمرہ کے طواف کا اکثر حصہ و قوف عرفہ سے پہلے ہو، لہذا جس نے طواف کے چار

پھیروں سے پہلے و قوف کیا اس کا قرآن باطل ہو گیا۔ (6) (فتح القدير)

1 پ ۲، البقرہ: ۱۹۶۔

2 "سنن أبي داود"، كتاب المناسك، باب في الاقران، الحديث: ۱۷۹۸، ج ۲، ص ۲۲۷۔

3 "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب في الافراد و القران، الحديث: ۱۲۳۲، ص ۶۴۷۔

4 "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي طلحة، الحديث: ۱۶۳۴۶، ج ۵، ص ۵۰۸۔

5 "الدر المختار" و "رد المختار"، كتاب الحج، باب القران، ج ۳، ص ۶۳۳۔

6 "فتح القدير"

مسئلہ ۳ سب سے افضل قرآن ہے پھر تمتع پھر افراد۔^(۱) (ردالمحتار وغیرہ) قرآن کے احرام کا طریقہ احرام کے بیان میں مذکور ہوا۔

مسئلہ ۴ قرآن کا احرام میقات سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور شوال سے پہلے بھی مگر اس کے افعال حج کے مہینوں میں کیے جائیں، شوال سے پہلے افعال نہیں کر سکتے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۵ قرآن میں واجب ہے کہ پہلے سات پھیرے طواف کرے اور ان میں پہلے تین پھیروں میں رمل سنت ہے پھر سعی کرے، اب قرآن کا ایک جُز یعنی عمرہ پورا ہو گیا مگر ابھی حلق نہیں کر سکتا اور کیا بھی تو احرام سے باہر نہ ہوگا اور اس کے جرمانہ میں دو دم لازم ہیں۔ عمرہ پورا کرنے کے بعد طوافِ قدم کرے اور چاہے تو ابھی سعی بھی کر لے، ورنہ طوافِ افاضہ کے بعد سعی کرے۔ اگر ابھی سعی کرے تو طوافِ قدم کے تین پہلے پھیروں میں بھی رمل کرے اور دونوں طوافوں میں اضطباع بھی کرے۔^(۳) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۶ ایک ساتھ دو طواف کیے پھر دو سعی جب بھی جائز ہے مگر خلاف سنت ہے اور دم لازم نہیں، خواہ پہلا طواف عمرہ کی نیت سے اور دوسرا قدم کی نیت سے ہو یا دونوں میں سے کسی میں تعین نہ کی یا اس کے سوا کسی اور طرح کی نیت کی۔ بہر حال پہلا عمرہ کا ہوگا اور دوسرا طوافِ قدم۔^(۴) (درمختار، منک)

مسئلہ ۷ پہلے طواف میں اگر طوافِ حج کی نیت کی، جب بھی عمرہ ہی کا طواف ہے۔^(۵) (جوہرہ) عمرہ سے فارغ ہو کر بدستور محرم رہے اور تمام افعال بجالائے، دسویں کو حلق کے بعد پھر طوافِ افاضہ کے بعد جیسے حج کرنے والے کے لیے چیزیں حلال ہوتی ہیں اُس کے لیے بھی حلال ہوں گی۔

مسئلہ ۸ قارن پر دسویں کی رمی کے بعد قربانی واجب ہے اور یہ قربانی کسی جرمانہ میں نہیں بلکہ اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اسے دو عبادتوں کی توفیق بخشی۔ قارن کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جائے۔^(۶) (عالمگیری،

① "ردالمختار"، کتاب الحج، باب القران، ج ۳، ص ۶۳۱، وغیرہ.

② "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب القران، ج ۳، ص ۶۳۴.

③ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب القران، ج ۳، ص ۶۳۵، وغیرہ.

④ المرجع السابق، و"لباب المناسک" و"المسلك المتقسط"، (باب القران، فصل فی اداء القران)، ص ۲۶۲.

⑤ "الجوهرة النيرة"، کتاب الحج، باب القران، ص ۲۱۰.

⑥ الفتاویٰ الہندیة، کتاب المناسک، الباب السابع فی القران والتمتع، ج ۱، ص ۲۳۸.

و"الدرالمختار"، کتاب الحج، باب القران، ج ۳، ص ۶۳۶، وغیرہما.

درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۹ - اس قربانی کے لیے یہ ضرور ہے کہ حرم میں ہو، بیرون حرم نہیں ہو سکتی اور سنت یہ کہ منیٰ میں ہو اور اس کا وقت دسویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہونے سے بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے مگر یہ ضرور ہے کہ رمی کے بعد ہو، رمی سے پہلے کرے گا تو دم لازم آئے گا اور اگر بارہویں تک نہ کی تو ساقط نہ ہوگی بلکہ جب تک زندہ ہے قربانی اس کے ذمہ ہے۔^(۱) (منک)

مسئلہ ۱۰ - اگر قربانی پر قادر تھا اور ابھی قربانی نہ کی تھی کہ انتقال ہو گیا تو اس کی وصیت کر جانا واجب ہے اور اگر وصیت نہ کی مگر وارثوں نے خود کر دی جب بھی صحیح ہے۔^(۲) (منک)

مسئلہ ۱۱ - قارن کو اگر قربانی میسر نہ آئے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں، نہ اتنا اسباب کہ اُسے بیچ کر جانور خریدے تو دس روزے رکھے۔ ان میں تین تو وہیں یعنی یکم شوال سے ذی الحجہ کی نویں تک احرام باندھنے کے بعد رکھے، خواہ سات، آٹھ، نو، کورکھے یا اس کے پہلے اور بہتر یہ ہے کہ نویں سے پہلے ختم کر دے اور یہ بھی اختیار ہے کہ متفرق طور پر رکھے، تینوں کا پے در پے رکھنا ضرور نہیں اور سات روزے حج کا زمانہ گزرنے کے بعد یعنی تیرہویں کے بعد رکھے، تیرہویں کو یا اس کے پہلے نہیں ہو سکتے۔ ان سات روزوں میں اختیار ہے کہ وہیں رکھے یا مکان واپس آ کر اور بہتر مکان پر واپس ہو کر رکھنا ہے اور ان دسوں روزوں میں رات سے نیت ضرور ہے۔^(۳) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ - اگر پہلے کے تین روزے نویں تک نہیں رکھے تو اب روزے کافی نہیں بلکہ دم واجب ہوگا، دم دے کر احرام سے باہر ہو جائے اور اگر دم دینے پر قادر نہیں تو سر مونڈا کر یا بال کترا کر احرام سے جدا ہو جائے اور دو دم واجب ہیں۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۱۳ - قادر نہ ہونے کی وجہ سے روزے رکھ لیے پھر حلق سے پہلے دسویں کو جانور مل گیا، تو اب وہ روزے کافی نہیں لہذا قربانی کرے اور حلق کے بعد جانور پر قدرت ہوئی تو وہ روزے کافی ہیں، خواہ قربانی کے دنوں میں قدرت پائی گئی

① "لباب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب القران، فصل في هدى القارن و المتمتع)، ص ۲۶۳.

② "لباب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب القران، فصل في هدى القارن و المتمتع)، ص ۲۶۳.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسک، الباب السابع في قران و المتمتع، ج ۱، ص ۲۳۹.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب القران، ج ۳، ص ۶۳۶.

④ "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب القران، ج ۳، ص ۶۳۸.

یا بعد میں۔ یوہیں اگر قربانی کے دنوں میں سر نہ موٹا یا تو اگرچہ حلق سے پہلے جانور پر قادر ہو وہ روزے کافی ہیں۔ (1)
(درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ - قارن نے طوافِ عمرہ کے تین پھیرے کرنے کے بعد وقوفِ عرفہ کیا تو وہ طواف جاتا رہا اور چار پھیرے کے بعد وقوف کیا تو باطل نہ ہوا اگرچہ طوافِ قدم یا نفل کی نیت سے کیے، لہذا یومِ النحر میں طوافِ زیارت سے پہلے اُس کی تکمیل کرے اور پہلی صورت میں چونکہ اُس نے عمرہ توڑ ڈالا، لہذا ایک دم واجب ہوا اور وہ قربانی کہ شکر کے لیے واجب تھی ساقط ہوگئی اور اب قارن نہ رہا اور ایام تشریق کے بعد اس عمرہ کی قضا دے۔ (2) (درمختار)

تمتع کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي السُّجْدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾ (3)

جس نے عمرہ سے حج کی طرف تمتع کیا، اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے پھر جسے قربانی کی قدرت نہ ہو تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور سات واپسی کے بعد، یہ دس پورے ہیں۔ یہ اُس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو اور اللہ (عزوجل) سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ (عزوجل) کا عذاب سخت ہے۔

تمتع اُسے کہتے ہیں کہ حج کے مہینے میں عمرہ کرے پھر اسی سال حج کا احرام باندھے یا پورا عمرہ نہ کیا، صرف چار پھیرے کیے پھر حج کا احرام باندھا۔

مسئلہ ۱ - تمتع کے لیے یہ شرط نہیں کہ میقات سے احرام باندھے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بلکہ اگر میقات کے بعد احرام باندھا جب بھی تمتع ہے، اگرچہ بلا احرام میقات سے گزرنا گناہ اور دم لازم یا پھر میقات کو واپس جائے۔ یوہیں تمتع کے لیے یہ شرط نہیں کہ عمرہ کا احرام حج کے مہینے میں باندھا جائے بلکہ شوال سے پیشتر بھی احرام باندھ سکتے ہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ

1..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب القران، ج ۳، ص ۶۳۸.

2..... "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب القران، ج ۳، ص ۶۳۹.

3..... پ ۲، البقرہ: ۱۹۶.

عمرہ کے تمام افعال یا اکثر طواف حج کے مہینے میں ہو، مثلاً تین پھیرے طواف کے رمضان میں کیے پھر شوال میں باقی چار پھیرے کر لیے پھر اسی سال حج کر لیا تو یہ بھی تمتع ہے اور اگر رمضان میں چار پھیرے کر لیے تھے اور شوال میں تین باقی تو یہ تمتع نہیں اور یہ بھی شرط نہیں کہ جس سال احرام باندھا اسی سال تمتع کر لے مثلاً اس رمضان میں احرام باندھا اور احرام پر قائم رہا، دوسرے سال عمرہ پھر حج کیا تو تمتع ہو گیا۔^(۱) (عالمگیری، ردالمحتار)

تمتع کے شرائط

تمتع کی دس شرطیں ہیں:

① حج کے مہینے میں پورا طواف کرنا یا اکثر حصہ یعنی چار پھیرے۔

② عمرہ کا احرام حج کے احرام سے مقدم ہونا۔

③ حج کے احرام سے پہلے عمرہ کا پورا طواف یا اکثر حصہ کر لیا ہو۔

④ عمرہ فاسد نہ کیا ہو۔

⑤ حج فاسد نہ کیا ہو۔

⑥ الإمام صحیح نہ کیا ہو۔ الإمام صحیح کے یہ معنی ہیں کہ عمرہ کے بعد احرام کھول کر اپنے وطن کو واپس جائے اور وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے پیدائش کا مقام اگرچہ دوسری جگہ ہو، لہذا اگر عمرہ کرنے کے بعد وطن گیا پھر واپس آ کر حج کیا تو تمتع نہ ہو اور اگر عمرہ کرنے سے پیشتر گیا یا عمرہ کر کے بغیر حلق کیے یعنی احرام ہی میں وطن گیا پھر واپس آ کر اسی سال حج کیا تو تمتع ہے۔ یوہیں اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا پھر حج کا احرام باندھ کر وطن گیا تو یہ بھی الإمام صحیح نہیں، لہذا اگر واپس آ کر حج کرے گا تو تمتع ہوگا۔

⑦ حج و عمرہ دونوں ایک ہی سال میں ہوں۔

⑧ مکہ معظمہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، لہذا اگر عمرہ کے بعد پکا ارادہ کر لیا کہ یہیں رہے گا تو تمتع نہیں اور

دو ایک مہینے کا ہو تو ہے۔

⑨ مکہ معظمہ میں حج کا مہینہ آجائے تو بے احرام کے نہ ہو، نہ ایسا ہو کہ احرام ہے مگر چار پھیرے طواف کے اس مہینے

① "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب التمتع، ج ۳، ص ۶۴۰.

و"الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب السابع فی القران والتمتع، ج ۱، ص ۲۴۰.

سے پہلے کر چکا ہے، ہاں اگر میقات سے باہر واپس جائے پھر عمرہ کا احرام باندھ کر آئے تو تمتع ہو سکتا ہے۔
 ① میقات سے باہر کارہنے والا ہو۔ مکہ کارہنے والا تمتع نہیں کر سکتا۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲

تمتع کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا، دوسری یہ کہ نہ لائے۔ جو جانور نہ لایا وہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھے، مکہ معظمہ میں آ کر طواف وسعی کرے اور سر مونڈائے اب عمرہ سے فارغ ہو گیا اور طواف شروع کرتے ہی یعنی سنگِ اَسود کو بوسہ دیتے وقت لبیک ختم کر دے اب مکہ میں بغیر احرام رہے۔ آٹھویں ذی الحجہ کو مسجد الحرام شریف سے حج کا احرام باندھے اور حج کے تمام افعال بجالائے مگر اس کے لیے طوافِ قدم نہیں اور طوافِ زیارت میں یا حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی طوافِ نفل میں رَمَل کرے اور اس کے بعد سعی کرے اور اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد طوافِ قدم کر لیا ہے (اگرچہ اس کے لیے یہ طواف مسنون نہ تھا) اور اس کے بعد سعی کر لی ہے تو اب طوافِ زیارت میں رَمَل نہیں، خواہ طوافِ قدم میں رَمَل کیا ہو یا نہیں اور طوافِ زیارت کے بعد اب سعی بھی نہیں، عمرہ سے فارغ ہو کر حلق بھی ضروری نہیں۔ اُسے یہ بھی اختیار ہے کہ سر نہ مونڈائے بدستور محرم رہے۔

یو ہیں مکہ معظمہ ہی میں رہنا اُسے ضرور نہیں، چاہے وہاں رہے یا وطن کے سوا کہیں اور مگر جہاں رہے وہاں والے جہاں سے احرام باندھتے ہیں یہ بھی وہیں سے احرام باندھے، اگر مکہ مکرمہ میں ہے تو یہاں والوں کی طرح احرام باندھے اور اگر حرم سے باہر اور میقات کے اندر ہے تو محل میں احرام باندھے اور میقات سے بھی باہر ہو گیا تو میقات سے باندھے۔ یہ اُس صورت میں ہے، جب کہ کسی اور غرض سے حرم یا میقات سے باہر جانا ہو اور اگر احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر گیا تو اُس پر دم واجب ہے مگر جب کہ وقوف سے پہلے مکہ میں آ گیا تو ساقط ہو گیا اور مکہ معظمہ میں رہا تو حرم میں احرام باندھے اور بہتر یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں ہو اور اس سے بہتر یہ کہ مسجد حرم میں ہو اور سب سے بہتر یہ کہ حطیم شریف میں ہو۔ یو ہیں آٹھویں کو احرام باندھنا ضرور نہیں، نویں کو بھی ہو سکتا ہے اور آٹھویں سے پہلے بھی بلکہ یہ افضل ہے۔ تمتع کرنے والے پر واجب ہے کہ دسویں تاریخ کو شکرانہ میں قربانی کرے، اس کے بعد سر مونڈائے۔ اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو تو اسی طرح روزے رکھے جو قرآن والے کے لیے ہیں۔⁽²⁾ (جوہرہ، عالمگیری، درمختار)

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب التمتع، ج ۳، ص ۶۴۰، ۶۴۳.

②..... "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، باب التمتع، ص ۲۱۲-۲۱۳.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب السابع فی القران و التمتع، ج ۱، ص ۲۳۸-۲۳۹.

مسئلہ ۳ - اگر اپنے ساتھ جانور لے جائے تو احرام باندھ کر لے چلے اور کھینچ کر لے جانے سے ہانکنا افضل ہے۔ ہاں اگر پیچھے سے ہانکنے سے نہیں چلتا تو آگے سے کھینچے اور اُس کے گلے میں ہار ڈال دے کہ لوگ سمجھیں یہ حرم میں قربانی کو جاتا ہے، اور ہار ڈالنا تھول ڈالنے سے بہتر ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جانور کے کوہان میں دہنی یا بامیں جانب خفیف سا شگاف کر دے کہ گوشت تک نہ پہنچے، اب مکہ معظمہ میں پہنچ کر عمرہ کرے اور عمرہ سے فارغ ہو کر بھی محرم رہے جب تک قربانی نہ کر لے۔ اُسے سر موٹا انا جائز نہیں جب تک قربانی نہ کر لے ورنہ دم لازم آئے گا پھر وہ تمام افعال کرے جو اس کے لیے بتائے گئے کہ جانور نہ لایا تھا اور دسویں تاریخ کو رمی کر کے سر موٹا اے اب دونوں احرام سے ایک ساتھ فارغ ہو گیا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴ - جو جانور لایا اور جو نہ لایا دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر جانور نہ لایا اور عمرہ کے بعد احرام کھول ڈالا اب حج کا احرام باندھا اور کوئی جنایت واقع ہوئی تو جرمانہ مثل مُفرد کے ہے اور وہ احرام باقی تھا تو جرمانہ قارن کی مثل ہے اور جانور لایا ہے تو بہر حال قارن کی مثل ہے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - میقات کے اندر والوں کے لیے قرآن تمتع نہیں، اگر کریں تو دم دیں۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ - جو جانور لایا ہے اُسے روزہ رکھنا کافی نہ ہوگا اگر چہ نادار ہو۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۷ - جانور نہیں لے گیا اور عمرہ کر کے گھر چلا آیا تو یہ المام صحیح ہے اس کا تمتع جاتا رہا، اب حج کرے گا تو مُفرد ہے اور جانور لے گیا ہے اور عمرہ کر کے گھر واپس آیا پھر محرم رہا اور حج کو گیا تو یہ المام صحیح نہیں، لہذا اس کا تمتع باقی ہے۔ یوہیں اگر گھر نہ آیا عمرہ کر کے کہیں اور چلا گیا تو تمتع نہ گیا۔⁽⁵⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۸ - تمتع کرنے والے نے حج یا عمرہ فاسد کر دیا تو اس کی قضا دے اور جرمانہ میں دم اور تمتع کی قربانی اُس کے ذمہ نہیں کہ تمتع رہا ہی نہیں۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۹ - تمتع کے لیے یہ ضرور نہیں کہ حج و عمرہ دونوں ایک ہی کی طرف سے ہوں بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اپنی طرف

① "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحج، باب التمتع، ج ۳، ص ۶۴۵.

② "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب التمتع، ج ۳، ص ۶۴۵.

③ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحج، باب التمتع، ج ۳، ص ۶۴۶.

④ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب التمتع، ج ۳، ص ۶۴۸.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب التمتع، ج ۳، ص ۶۴۸، وغیرہ.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب التمتع، ج ۳، ص ۶۵۰.

سے ہو اور دوسرا کسی اور کی جانب سے یا ایک شخص نے اُسے حج کا حکم دیا اور دوسرے نے عمرہ کا اور دونوں نے تمتع کی اجازت دیدی تو کر سکتا ہے مگر قربانی خود اس کے ذمہ ہے اور اگر نادار ہے تو روزے رکھے۔⁽¹⁾ (منک)

مسئلہ ۱۰ حج کے مہینے میں عمرہ کیا مگر اُسے فاسد کر دیا پھر گھر واپس گیا پھر آ کر عمرہ کی قضا کی اور اسی سال حج کیا تو یہ تمتع ہو گیا اور اگر مکہ ہی میں رہ گیا یا مکہ سے چلا گیا مگر میقات کے اندر رہا یا میقات سے بھی باہر ہو گیا مگر گھر نہ گیا اور آ کر عمرہ کی قضا کی اور اسی سال حج بھی کیا تو ان سب صورتوں میں تمتع نہ ہوا۔⁽²⁾ (جوہرہ)

جرم اور ان کے کفارے کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّمَّا قُتِلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَلِيغًا الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَنْ مَا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ أُجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَيَّارَةِ ۗ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝﴾⁽³⁾

اے ایمان والو! احرام کی حالت میں شکار نہ کرو اور جو تم میں سے قصداً جانور کو قتل کرے گا تو بدلہ دے مثل اُس جانور کے جو قتل ہوا، تم میں سے دو عادل جو حکم کریں وہ بدلا قربانی ہوگی۔ جو کعبہ کو جائے یا کفارہ مسکین کا کھانا یا اس کے برابر روزے تاکہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ اللہ (عزوجل) نے اسے معاف فرما دیا، جو پیشتر ہو چکا اور جو پھر کرے گا تو اللہ (عزوجل) اس سے بدلا لے گا اور اللہ (عزوجل) غالب بدل لینے والا ہے۔ دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا، تمہارے اور مسافروں کے برتنے کے لیے اور خشکی کا شکار تم پر حرام ہے، جب تک تم محرم ہو اور اللہ (عزوجل) سے ڈرو جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذٌ مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ تَصَدَّقَ ۗ﴾⁽⁴⁾

① "المسلك المتقسط"، (باب التمتع، فصل ولا يشترط الصحة التمتع لإحرام العمرة من الميقات)، ص ۲۸۶.

② "الجوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب التمتع، ص ۲۱۶.

③ پ ۷، المعالندہ: ۹۵-۹۶. ④ پ ۲، البقرہ: ۱۹۶.

جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو (اور سر موٹا لے) تو فدیہ دے روزے یا صدقہ یا قربانی۔

صحیحین وغیرہما میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کے پاس تشریف لائے اور یہ حُرُم تھے اور ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں، ارشاد فرمایا: کیا یہ کیڑے تمہیں تکلیف دے رہے ہیں؟ عرض کی، ہاں۔ فرمایا: ”سر موٹا ڈالو اور تین صاع کھانا چھ مسکینوں کو دیدو یا تین روزے رکھو یا قربانی کرو۔“ (1)

تنبیہ: حُرُم اگر بالقصد بلا عذر جرم کرے تو کفارہ بھی واجب ہے اور گنہگار بھی ہوا، لہذا اس صورت میں توبہ واجب کہ محض کفارہ سے پاک نہ ہوگا جب تک توبہ نہ کرے اور اگر نادانستہ یا عذر سے ہے تو کفارہ کافی ہے۔ جرم میں کفارہ بہر حال لازم ہے، یاد سے ہو یا بھول چوک سے، اس کا جرم ہونا جانتا ہو یا معلوم نہ ہو، خوشی سے ہو یا مجبوراً، سوتے میں ہو یا بیداری میں، نشہ یا بے ہوشی میں یا ہوش میں، اُس نے اپنے آپ کیا ہو یا دوسرے نے اُس کے حکم سے کیا۔

تنبیہ: اس بیان میں جہاں دَم کہیں گے اس سے مراد ایک بکری یا بھیڑ ہوگی اور بدنہ اونٹ یا گائے یہ سب جانور انہیں شرائط کے ہوں جو قربانی میں ہیں اور صدقہ سے مراد انگریزی روپے سے ایک سو کچھ پتر روپے آٹھ آنہ بھر گیہوں کہ تنور روپے کے سیر سے پونے دو سیر اٹھنی بھرا پر ہوئے یا اس کے دُونے ہو یا کجور یا ان کی قیمت۔

مسئلہ ۱ جہاں دَم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اُسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دَم کے بدلے چھ مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے یا دونوں وقت پیٹ بھر کھلائے یا تین روزے رکھ لے، اگر چھ صدقے ایک مسکین کو دیدیے یا تین یا سات مسکین پر تقسیم کر دیے تو کفارہ ادا نہ ہوگا بلکہ شرط یہ ہے کہ چھ مسکینوں کو دے اور افضل یہ ہے کہ حرم کے مسکین ہوں اور اگر اس میں صدقہ کا حکم ہے اور بمجبوری کیا تو اختیار ہوگا کہ صدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔ کفارہ اس لیے ہے کہ بھول چوک سے یا سوتے میں یا مجبوری سے جرم ہوں تو کفارہ سے پاک ہو جائیں، نہ اس لیے کہ جان بوجھ کر بلا عذر جرم کرو اور کہو کہ کفارہ دیدیں گے، دینا تو جب بھی آئے گا مگر قصداً حکم الہی کی مخالفت سخت تر ہے۔

مسئلہ ۲ جہاں ایک دَم یا صدقہ ہے، قارن پر دو ہیں۔ (2) (عامہ کتب)

مسئلہ ۳ کفارہ کی قربانی یا قارن و متمتع کے شکرانہ کی غیر حرم میں نہیں ہو سکتی۔ غیر حرم میں کی تو ادا نہ ہوئی، ہاں جرم

1 ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب جواز حلق الرأس... إلخ، الحدیث: ۸۳۔ (۱۲۰۱)، ص ۶۱۸۔

2 ”الہدایۃ“، کتاب الحج، باب الحنایات، فصل فی جزاء الصید، ج ۱، ص ۱۷۱۔

غیر اختیاری میں اگر اس کا گوشت چھ مسکینوں پر تصدق کیا اور ہر مسکین کو ایک صدقہ کی قیمت کا پہنچا تو ادا ہو گیا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - شکرانہ کی قربانی سے آپ کھائے، غنی کو کھلائے، مساکین کو دے اور کفارہ کی صرف محتاجوں کا حق ہے۔

مسئلہ ۵ - اگر کفارے کے روزے رکھے تو اس میں شرط یہ ہے کہ رات سے یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کر لے اور

یہ بھی نیت کہ فلاں کفارہ کا روزہ ہے، مطلق روزہ کی نیت یا نفل یا کوئی اور نیت کی تو کفارہ ادا نہ ہو اور پے در پے ہونا یا حرم میں یا حرام میں رکھنا ضرور نہیں۔⁽²⁾ (منک) اب احکام سنئے:

(۱) خوشبو اور تیل لگانا

مسئلہ ۶ - خوشبو اگر بہت سی لگائی جسے دیکھ کر لوگ بہت بتائیں اگرچہ عضو کے تھوڑے حصہ پر یا کسی بڑے عضو جیسے سر،

مونہ، ران، پنڈلی کو پورا سان دیا اگرچہ خوشبو تھوڑی ہے تو ان دونوں صورتوں میں دم ہے اور اگر تھوڑی سی خوشبو عضو کے تھوڑے سے حصہ میں لگائی تو صدقہ ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ - کپڑے یا بچھونے پر خوشبو ملنی تو خود خوشبو کی مقدار دیکھی جائے گی، زیادہ ہے تو دم اور کم ہے تو صدقہ۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ - خوشبو سونگھی پھل ہو یا پھول جیسے لیمو، نارنگی، گلاب، جمیلی، بیلی، بُو ہی وغیرہ کے پھول تو کچھ کفارہ نہیں اگرچہ محرم کو خوشبو سونگھنا مکروہ ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - احرام سے پہلے بدن پر خوشبو لگائی تھی، احرام کے بعد پھیل کر اور اعضا کو لگی تو کفارہ نہیں۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ - محرم نے دوسرے کے بدن پر خوشبو لگائی مگر اس طرح کہ اس کے ہاتھ وغیرہ کسی عضو میں خوشبو نہ لگی یا اس کو سلا ہوا کپڑا پہنایا تو کچھ کفارہ نہیں مگر جب کہ محرم کو خوشبو لگائی یا سلا ہوا کپڑا پہنایا تو گنہگار ہو اور جس کو لگائی یا پہنایا اس پر کفارہ

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۲۴۴.

② "المسئل المتقسط"، (باب فی جزاء الجنایات و کفاراتہا، فصل فی احکام الصیام فی باب الاحرام)، ص ۴۰۱-۴۰۳.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۰-۲۴۱.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۱.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۳.

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۳.

واجب ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ تھوڑی سی خوشبو بدن کے متفرق حصوں میں لگائی اگر جمع کرنے سے پورے بڑے عضو کی مقدار کو پہنچ جائے

تو دم ہے ورنہ صدقہ اور زیادہ خوشبو متفرق جگہ لگائی تو بہر حال دم ہے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ ایک جلسہ میں کتنے ہی اعضا پر خوشبو لگائے بلکہ سارے بدن پر بھی لگائے تو ایک ہی جرم ہے اور ایک کفارہ

واجب اور کئی جلسوں میں لگائی تو ہر بار کے لیے الگ الگ کفارہ ہے، خواہ پہلی بار کا کفارہ دے کر دوسری بار لگائی یا ابھی کسی کا

کفارہ نہ دیا ہو۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ کسی شے میں خوشبو لگی تھی اسے چھوا، اگر اس سے خوشبو چھوٹ کر بڑے عضوِ کامل کی قدر بدن کو لگی تو دم

دے اور کم ہو تو صدقہ اور کچھ نہیں تو کچھ نہیں مثلاً سنگِ اَسود شریف پر خوشبو ملی جاتی ہے اگر بحالتِ احرام بوسہ لیتے میں بہت سی لگی

تو دم دے اور تھوڑی سی تو صدقہ۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ خوشبو دار سُرْمہ ایک یا دو بار لگایا تو صدقہ دے، اس سے زیادہ میں دم اور جس سُرْمہ میں خوشبو نہ ہو اس

کے استعمال میں حرج نہیں، جب کہ بضرورت ہو اور بلا ضرورت مکروہ۔⁽⁵⁾ (منک، عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ اگر خالص خوشبو جیسے مشک، زعفران، لونگ، الاچھی، دارچینی اتنی کھائی کہ منہ کے اکثر حصہ میں لگ گئی تو

دم ہے ورنہ صدقہ۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ کھانے میں پکتے وقت خوشبو پڑی یا فنا ہوگئی تو کچھ نہیں، ورنہ اگر خوشبو کے اجزا زیادہ ہوں تو وہ خالص

خوشبو کے حکم میں ہے اور کھانا زیادہ ہو تو کفارہ کچھ نہیں مگر خوشبو آتی ہو تو مکروہ ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

① "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحنایات، ج ۳، ص ۶۵۳، وغیرہ.

② "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحنایات، ج ۳، ص ۶۵۴.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحنایات، ج ۳، ص ۶۵۴.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ" کتاب المناسک، الباب الثامن فی الحنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۱.

⑤ المرجع السابق. و "باب المناسک" و "المسلک المتقسط"، (باب الحنایات، فصل فی الکحل المطیب)، ص ۳۱۴.

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحنایات، ج ۳، ص ۶۵۴.

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ" کتاب المناسک، الباب الثامن فی الحنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۱.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحنایات، ج ۳، ص ۶۵۶.

مسئلہ ۱۷ پینے کی چیز میں خوشبو ملائی، اگر خوشبو غالب ہے یا تین بار یا زیادہ پیا تو دم ہے، ورنہ صدقہ۔ (1)
(ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۱۸ تمباکو کھانے والے اس کا خیال رکھیں کہ احرام میں خوشبودار تمباکو نہ کھائیں کہ پتیوں میں تو ویسے ہی کچی خوشبو ملائی جاتی ہے اور قوام میں بھی اکثر پکانے کے بعد مشک وغیرہ ملاتے ہیں۔

مسئلہ ۱۹ خمیرہ تمباکو نہ پینا بہتر ہے، کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے مگر پیا تو کفارہ نہیں۔

مسئلہ ۲۰ اگر ایسی جگہ گیا جہاں خوشبو سٹلگ رہی ہے اور اس کے کپڑے بھی بس گئے تو کچھ نہیں اور سٹلگا کر اس نے خود سائے تو قلیل میں صدقہ اور کثیر میں دم اور نہ بے تو کچھ نہیں اور اگر احرام سے پہلے بسایا تھا اور احرام میں پہنا تو مکروہ ہے مگر کفارہ نہیں۔ (2) (عالمگیری، منک)

مسئلہ ۲۱ سر پر منہدی کا پتلا خضاب کیا کہ بال نہ چھپے تو ایک دم اور گاڑھی تھوپی کہ بال چھپ گئے اور چار پہر گزرے تو مرد پر دو دم اور چار پہر سے کم میں ایک دم اور ایک صدقہ اور عورت پر بہر حال ایک دم، چوتھائی سر چھپنے کا بھی یہی حکم ہے اور چوتھائی سے کم میں صدقہ ہے اور سر پر دسمہ پتلا لگایا تو کچھ نہیں اور گاڑھا ہو تو مرد کو کفارہ دینا ہوگا۔ (3)
(جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ داڑھی میں منہدی لگائی جب بھی دم واجب ہے، پوری ہتھیلی یا تلوے میں لگائی تو دم دے، مرد ہو یا عورت اور چاروں ہاتھ پاؤں میں ایک ہی جلسہ میں لگائی جب بھی ایک ہی دم ہے، ورنہ ہر جلسہ پر ایک دم اور ہاتھ پاؤں کے کسی حصہ میں لگائی تو صدقہ۔ (4) (جوہرہ، ردالمحتار وغیرہما)

① "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۴، وغیرہ.

② "الفتاویٰ الہندیہ" کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۱.

و "باب المناسک"، (باب الجنایات، فصل فی تطیب الثوب... إلخ)، ص ۳۲۱.

③ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، باب الجنایات، ص ۲۱۷.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۱.

④ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۴، وغیرہما.

مخمسی سے سر یا داڑھی دھوئی تو دم ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳

عطر فروش کی دکان پر خوشبو سونگھنے کے لیے بیٹھا تو کراہت ہے ورنہ حرج نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴

چادر یا تہبند کے کنارہ میں مشک، عنبر، زعفران باندھا اگر زیادہ ہے اور چار پہر گزرے تو دم ہے اور کم ہے

مسئلہ ۲۵

تو صدقہ۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

خوشبو استعمال کرنے میں بقصد یا بلا قصد ہونا، یاد کر کے یا بھولے سے ہونا، مجبوراً یا خوشی سے ہونا، مرد

مسئلہ ۲۶

و عورت دونوں کے لیے سب کا یکساں حکم ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

خوشبو لگانا جب جرم قرار پایا تو بدن یا کپڑے سے دُور کرنا واجب ہے اور کفارہ دینے کے بعد زائل نہ کیا

مسئلہ ۲۷

تو پھر دم وغیرہ واجب ہوگا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

خوشبو لگانے سے بہر حال کفارہ واجب ہے، اگرچہ فوراً زائل کر دی ہو اور اگر کوئی غیر محرم ملے تو اس سے

مسئلہ ۲۸

دھلوائے اور اگر صرف پانی بہانے سے دُھل جائے تو یو ہیں کرے۔⁽⁶⁾ (منک)

روغنِ تمبلی وغیرہ خوشبودار تیل لگانے کا وہی حکم ہے جو خوشبو استعمال کرنے میں تھا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۹

تیل اور زیتون کا تیل خوشبو کے حکم میں ہے اگرچہ ان میں خوشبو نہ ہو، البتہ ان کے کھانے اور ناک میں

مسئلہ ۳۰

چڑھانے اور زخم پر لگانے اور کان میں پکانے سے صدقہ واجب نہیں۔⁽⁸⁾ (ردالمحتار)

مشک، عنبر، زعفران وغیرہ جو خود ہی خوشبو ہیں، ان کے استعمال سے مطلقاً کفارہ لازم ہے اگرچہ دواء

مسئلہ ۳۱

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۱.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۲.

③..... "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۴.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۱.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۱-۲۴۲.

⑥..... "باب المناسک" و "المسلک المتقسط"، (کتاب الحج، باب الجنایات، فصل لا یشرط بقاء الطیب)، ص ۳۱۹.

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۰.

⑧..... "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۵.

استعمال کیا ہو، یہ اس صورت میں ہے جب کہ ان کو خالص استعمال کریں اور اگر دوسری چیز جو خوشبو دار نہ ہو، اس کے ساتھ ملا کر استعمال کیا تو غالب کا اعتبار ہے اور دوسری چیز میں ملا کر پکا لیا ہو تو کچھ نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۲ زخم کا علاج ایسی دوا سے کیا جس میں خوشبو ہے پھر دوسرا زخم ہوا، اس کا علاج پہلے کے ساتھ کیا تو جب تک پہلا اچھا نہ ہو اس دوسرے کی وجہ سے کفارہ نہیں اور پہلے کے اچھے ہونے کے بعد بھی دوسرے میں وہ خوشبو دار دوا لگائی تو دو کفارے واجب ہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ کسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا چار پہر پہنا تو دم دے اور اس سے کم تو صدقہ، اگرچہ فوراً اتار ڈالا۔⁽³⁾ (منک، عالمگیری)

(۲) سارے کپڑے پہنا

مسئلہ ۱ محرم نے سلا کپڑا چار پہر⁽⁴⁾ کامل پہنا تو دم واجب ہے اور اس سے کم تو صدقہ اگرچہ تھوڑی دیر پہنا اور لگا تا رکئی دن تک پہنے رہا جب بھی ایک ہی دم واجب ہے، جب کہ یہ لگا تا پہنا ایک طرح کا ہو یعنی عذر سے یا بلا عذر اور اگر مثلاً ایک دن بلا عذر تھا، دوسرے دن بعدز یا بالعکس تو دو کفارے واجب ہوں گے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲ اگر دن میں پہنارات میں گرمی کے سبب اتار ڈالا یا رات میں سردی کی وجہ سے پہنا دن میں اتار ڈالا، باز آنے کی نیت سے نہ اتارا تو ایک کفارہ ہے اور توبہ کی نیت سے اتارا تو ہر بار میں نیا کفارہ واجب ہوگا۔ یوہیں کسی ایک دن گرتا پہنا تھا اور اتار ڈالا پھر پا جامہ پہنا اسے بھی اتار کر ٹوپی پہنی تو یہ سب ایک ہی پہنا ہے اور اگر ایک دن ایک پہنا دوسرے دن دوسرا تو دو کفارے واجب ہیں۔⁽⁶⁾ (عالمگیری، درمختار)

① "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۶.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۱.

③ "باب المناسک"، (باب الجنایات، فصل فی تطیب الثوب اذا كان الطیب فی ثوبہ شبراً فی شبر)، ص ۳۲۰.

④ چار پہر سے مراد ایک دن یا ایک رات کی مقدار ہے، مثلاً طلوع آفتاب سے غروب آفتاب یا غروب آفتاب سے طلوع آفتاب یا دو پہر

سے آدھی رات یا آدھی رات سے دو پہر تک۔ (حاشیہ "انور البشارة". "الفتاویٰ الرضویہ"، ج ۱۰، ص ۷۵۷).

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۲۴۲، وغیرہ.

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۲۴۲.

و "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۷.

مسئلہ ۳ بیماری کے سبب پہنا تو جب تک وہ بیماری رہے گی ایک ہی جرم ہے اور بیماری یقیناً جاتی رہی اور نہ اُتارنا تو یہ دوسرا جرم اختیاری ہے اور اگر وہ بیماری یقیناً جاتی رہی مگر دوسری بیماری معاشرع ہوگئی اور اُس میں بھی پہننے کی ضرورت ہے جب بھی یہ دوسرا جرم غیر اختیاری ہے۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴ باری کے ساتھ بخارا آتا ہے اور جس دن بخارا آیا کپڑے پہن لیے، دوسرے دن اُتار ڈالے تیسرے دن پھر پہنے، تو جب تک یہ بخارا آئے ایک ہی جرم ہے۔^(۲) (منک)

مسئلہ ۵ اگر سلا کپڑا پہنا اور اس کا کفارہ ادا کر دیا مگر اُتار نہیں، دوسرے دن بھی پہنے ہی رہا تو اب دوسرا کفارہ واجب ہے۔ یوں اگر احرام باندھتے وقت سلا ہوا کپڑا نہ اُتار تو یہ جرم ہے۔^(۳) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۶ بیماری وغیرہ کے سبب اگر سر سے پاؤں تک سب کپڑے پہننے کی ضرورت ہوئی تو ایک ہی جرم غیر اختیاری ہے اور بلاغند سب کپڑے پہنے تو ایک جرم اختیاری ہے یعنی چار پہر پہنے تو دونوں صورتوں میں دم ہے اور اس سے کم میں صدقہ اور اگر ضرورت ایک کپڑے کی تھی اُس نے دو پہنے تو اگر اسی موضع ضرورت پر دوسرا بھی پہنا تو ایک کفارہ ہے اور گنہگار ہوا۔ مثلاً ایک گرتے کی ضرورت تھی، دو پہن لیے یا ٹوپی کی ضرورت تھی عمامہ بھی باندھ لیا اور اگر دوسرا کپڑا اس جگہ کے سوا دوسری جگہ پہنا مثلاً ضرورت صرف عمامہ کی ہے اُس نے گرتا بھی پہن لیا تو دو جرم ہیں، عمامہ کا غیر اختیاری اور گرتے کا اختیاری۔ خلاصہ یہ کہ موضع ضرورت میں زیادتی کی تو ایک جرم ہے اور موضع ضرورت کے علاوہ اور جگہ بھی پہنا تو دو۔^(۴) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۷ بغیر ضرورت سب کپڑے ایک ساتھ پہن لیے تو ایک جرم ہے، دو جرم اس وقت ہیں کہ ایک بضرورت ہو دوسرا بضرورت۔^(۵) (منک)

مسئلہ ۸ دشمن کی وجہ سے کپڑے پہنے، ہتھیار باندھے اور وہ بھاگا اس نے اُتار ڈالے وہ پھر آ گیا، اس نے پھر پہنے تو یہ ایک ہی جرم ہے۔ یوں دن میں دشمن سے لڑنا پڑتا ہے یہ دن میں ہتھیار باندھ لیتا ہے رات میں اُتار ڈالتا ہے تو یہ ہر روز کا

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۸.

② "باب المناسک" و "المسلك المتقسط فی المنسک المتوسط"، (باب الجنایات)، ص ۳۰۳.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۲۴۲.

و "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۸.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الأول، ج ۱، ص ۲۴۲-۲۴۳، وغیرہ.

⑤ "باب المناسک"، (باب الجنایات)، ص ۳۰۲-۳۰۳.

باندھنا ایک ہی جرم ہے جب تک عذر باقی ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ - محرم نے دوسرے محرم کو سلا ہوا یا خوشبودار کپڑا پہنایا تو اس پہنانے والے پر کچھ نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ - مرد یا عورت نے مونہ کی نکلی ساری یا چہارم چھپائی یا مرد نے پورا یا چہارم سر چھپایا تو چار پہریا زیادہ لگاتار چھپانے میں دم ہے اور کم میں صدقہ اور چہارم سے کم کو چار پہر تک چھپایا تو صدقہ ہے اور چار پہر سے کم میں کفارہ نہیں مگر گناہ ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۱ - محرم نے سر پر کپڑے کی گھٹری رکھی تو کفارہ ہے اور غلہ کی گھٹری یا تختہ یا لگن وغیرہ کوئی برتن رکھ لیا تو نہیں اور اگر سر پر مٹی تھوپ لی تو کفارہ ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، منک)

مسئلہ ۱۲ - سلا ہوا کپڑا پہننے میں یہ شرط نہیں کہ قصد اپنے بلکہ بھول کر ہو یا نادانی میں بہر حال وہی حکم ہے۔ یوہیں سر اور مونہ چھپانے میں، یہاں تک کہ محرم نے سوتے میں سر یا مونہ چھپا لیا تو کفارہ واجب ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ - کان اور گدی کے چھپانے میں حرج نہیں۔ یوہیں ناک پر خالی ہاتھ رکھنے میں اور اگر ہاتھ میں کپڑا ہے اور کپڑے سمیت ناک پر ہاتھ رکھا تو کفارہ نہیں مگر مکروہ و گناہ ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۴ - پہننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا اس طرح پہنے جیسے عادتاً پہنا جاتا ہے، ورنہ اگر کرتے کا تہبند باندھ لیا یا پا جامہ کو تہبند کی طرح لپیٹا پاؤں پانچے میں نہ ڈالے تو کچھ نہیں۔ یوہیں انگرکھا پھیلا کر دونوں شانوں پر رکھ لیا، آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے تو کفارہ نہیں مگر مکروہ ہے اور مونڈھوں پر سلسے کپڑے ڈال لیے تو کچھ نہیں۔⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ - جوتے نہ ہوں تو موزے کو وہاں سے کاٹ کر پہنے جہاں عربی جوتے کا تسمہ ہوتا ہے اور بغیر کائے ہوئے

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۲۴۳.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۲۴۲.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۲۴۲، وغیرہ.

④..... المرجع السابق، و"لباب المناسک" و"المسلک المتقسط"، (باب الجنایات)، ص ۳۰۸.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۲۴۲.

⑥..... "الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۹.

⑦..... "الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۶.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۲۴۲.

پہن لیا تو پورے چار پہر پہننے میں دم ہے اور اس سے کم میں صدقہ اور جوتے موجود ہوں تو موزے کاٹ کر پہننا جائز نہیں کہ مال کو ضائع کرنا ہے پھر بھی اگر ایسا کیا تو کفارہ نہیں۔⁽¹⁾ (منک)

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احرام میں انگریزی جوتے پہننا جائز نہیں کہ وہ اُس جوڑ کو چھپاتے ہیں، پہنے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔

(۳) بال دُور کرنا

مسئلہ ۱ سر یا داڑھی کے چہارم بال یا زیادہ کسی طرح دُور کیے تو دم ہے اور کم میں صدقہ اور اگر چند لائے یا داڑھی میں کم بال ہیں، تو اگر چوتھائی کی مقدار ہیں تو کل میں دم ورنہ صدقہ۔ چند جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال لیے تو سب کا مجموعہ اگر چہارم کو پہنچتا ہے تو دم ہے ورنہ صدقہ۔⁽²⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ پوری گردن یا پوری ایک بغل میں دم ہے اور کم میں صدقہ اگرچہ نصف یا زیادہ ہو۔ یہی حکم زیرِ ناف کا ہے۔ دونوں بغلیں پوری مونڈائے، جب بھی ایک ہی دم ہے۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ پورا سر چند جلسوں میں مونڈایا، تو ایک ہی دم واجب ہے مگر جب کہ پہلے کچھ حصہ مونڈا کر اُس کا کفارہ ادا کر دیا پھر دوسرے جلسہ میں مونڈایا تو اب نیا کفارہ دینا ہوگا۔ یوں دونوں بغلیں دو جلسوں میں مونڈائیں تو ایک ہی کفارہ ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴ سر مونڈایا اور دم دیدیا پھر اسی جلسہ میں داڑھی مونڈائی تو اب دوسرا دم دے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ سر اور داڑھی اور بغلیں اور سارے بدن کے بال ایک ہی جلسہ میں مونڈائے تو ایک ہی کفارہ ہے اور اگر ایک ایک عضو کے ایک ایک جلسہ میں تو اتنے ہی کفارے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

① "لباب المناسک" و "المسلک المتقسط"، (باب الجنایات، فصل فی لبس الخفین)، ص ۳۰۹-۳۱۰.

② "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۹.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۹.

④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۹-۶۶۱.

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۲۴۳.

⑥ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۲۴۳.

مسئلہ ۶ سر اور داڑھی اور گردن اور بغل اور زپرناف کے سوا باقی اعضا کے مونڈانے میں صرف صدقہ ہے۔ (1) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ مونچھ اگرچہ پوری مونڈائے یا کتروائے صدقہ ہے۔ (2) (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ روٹی پکانے میں کچھ بال جل گئے تو صدقہ ہے، وضو کرنے یا کھانے یا کنگھا کرنے میں بال گرے، اس پر بھی پورا صدقہ ہے اور بعض نے کہا دو تین بال تک ہر بال کے لیے ایک مٹھی ناج یا ایک کلزاروٹی یا ایک چھوہارا۔ (3) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ اپنے آپ بے ہاتھ لگائے بال گر جائے یا بیماری سے تمام بال گر پڑیں تو کچھ نہیں۔ (4) (منک)

مسئلہ ۱۰ محرم نے دوسرے محرم کا سر مونڈا اس پر بھی صدقہ ہے، خواہ اُس نے اُسے حکم دیا ہو یا نہیں، خوشی سے مونڈایا ہو یا مجبور ہو کر اور غیر محرم کا مونڈا تو کچھ خیرات کر دے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ غیر محرم نے محرم کا سر مونڈا اُس کے حکم سے یا بلا حکم تو محرم پر کفارہ ہے اور مونڈنے والے پر صدقہ اور وہ محرم اس مونڈنے والے سے اپنے کفارہ کا تاوان نہیں لے سکتا اور اگر محرم نے غیر کی مونچھیں لیں یا ناخن تراشے تو مساکین کو کچھ صدقہ کھلا دے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ مونڈنا، کترنا، موچنے سے لینا یا کسی چیز سے بال اڈرانا، سب کا ایک حکم ہے۔ (7) (ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۱۳ عورت پورے یا چہارم سر کے بال ایک پورے برابر کترے تو دم دے اور کم میں صدقہ۔ (8) (منک)

① "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۶۰.

② "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ص ۶۶۹.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۲۴۳.

و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ص ۶۷۰.

④ "باب المناسک"، (باب الجنایات، فصل فی سقوط الشعر)، ص ۳۲۸.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۲۴۳.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۲۴۳.

⑦ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۶۰، وغیرہ.

⑧ "باب المناسک" و "المسلک المتقسط"، (باب الجنایات، فصل فی حکم التقصیر)، ص ۳۲۷.

بال مونڈا کر چھپنے لیے تو دم ہے ورنہ صدقہ۔⁽¹⁾ (درمختار)

آنکھ میں بال نکل آئے تو ان کے اوکھاڑنے میں صدقہ نہیں۔⁽²⁾ (منک)

(۴) ناخن کترنا

مسئلہ ۱ ایک ہاتھ ایک پاؤں کے پانچوں ناخن کترے یا بیسوں ایک ساتھ تو ایک دم ہے اور اگر کسی ہاتھ یا پاؤں کے پورے پانچ نہ کترے تو ہر ناخن پر ایک صدقہ، یہاں تک کہ اگر چاروں ہاتھ پاؤں کے چار چار کترے تو سولہ صدقے دے مگر یہ کہ صدقوں کی قیمت ایک دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر لے یا دم دے اور اگر ایک ہاتھ یا پاؤں کے پانچوں ایک جلسہ میں اور دوسرے کے پانچوں دوسرے جلسہ میں کترے تو دو دم لازم ہیں اور چاروں ہاتھ پاؤں کے چار جلسوں میں تو چار دم۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲ کوئی ناخن ٹوٹ گیا کہ بڑھنے کے قابل نہ رہا، اس کا بقیہ اُس نے کاٹ لیا تو کچھ نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ ایک ہی جلسہ میں ایک ہاتھ کے پانچوں ناخن تراشے اور چہارم سر مونڈا یا اور کسی عضو پر خوشبو لگائی تو ہر ایک پر ایک ایک دم یعنی تین دم واجب ہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴ حرم نے دوسرے کے ناخن تراشے تو وہی حکم ہے جو دوسرے کے بال مونڈنے کا ہے۔⁽⁶⁾ (منک)

مسئلہ ۵ چاقو اور ناخن گیر سے تراشنا اور دانت سے کھٹنا سب کا ایک حکم ہے۔

(۵) بوس و کنار وغیرہ

مسئلہ ۱ مباشرت فاحشہ اور شہوت کے ساتھ بوس و کنار اور بدن مَس کرنے میں دم ہے، اگرچہ انزال نہ ہو اور

① "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۵۹.

② "لباب المناسک"، (باب الجنایات، فصل فی سقوط الشعر)، ص ۳۲۸.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۲۴۴.

④ المرجع السابق.

⑤ المرجع السابق.

⑥ "المسلك المتقسط"، (باب الجنایات، فصل فی قلم الاظفار)، ص ۳۳۲.

بلا شہوت میں کچھ نہیں۔ یہ افعال عورت کے ساتھ ہوں یا مرد کے ساتھ دونوں کا ایک حکم ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ - مرد کے ان افعال سے عورت کو لذت آئے تو وہ بھی دم دے۔⁽²⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۳ - اندام نہانی پر نگاہ کرنے سے کچھ نہیں اگرچہ انزال ہو جائے اگرچہ بار بار نگاہ کی ہو۔ یوہیں خیال جمانے

سے۔⁽³⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۴ - جلق⁽⁴⁾ سے انزال ہو جائے تو دم ہے ورنہ مکروہ اور احتلام سے کچھ نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

(۶) جماع

مسئلہ ۱ - وقوف عرفہ سے پہلے جماع کیا تو حج فاسد ہو گیا۔ اُسے حج کی طرح پورا کر کے دم دے اور سال آئندہ ہی

میں اس کی قضا کر لے۔ عورت بھی احرام حج میں تھی تو اس پر بھی یہی لازم ہے اور اگر اس بلا میں پھر پڑ جانے کا خوف ہو تو

مناسب ہے کہ قضا کے احرام سے ختم تک دونوں ایسے جدار ہیں کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲ - وقوف کے بعد جماع سے حج تو نہ جائے گا مگر حلق و طواف سے پہلے کیا تو بدنہ دے اور حلق کے بعد تو دم اور

بہتر اب بھی بدنہ ہے اور دونوں کے بعد کیا تو کچھ نہیں۔ طواف سے مراد اکثر ہے یعنی چار پھیرے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - قصداً جماع ہو یا بھولے سے یا سوتے میں یا اکراہ کے ساتھ سب کا ایک حکم ہے۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴ - وقوف سے پہلے عورت سے ایسے بچہ نے وطی کی جس کا مثل جماع کرتا ہے یا مجنون نے تو حج فاسد ہو جائے

گا۔ یوہیں مرد نے مشتمتاً لڑکی یا مجنونہ سے وطی کی حج فاسد ہو گیا مگر بچہ اور مجنون پر نہ دم واجب ہے، نہ قضا۔⁽⁹⁾

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۶۷.

② "الجوهرة النيرة"، کتاب الحج، باب الجنایات فی الحج، ص، ۲۲۰.

③ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۲۴۴.

④ یعنی مشتمت زنی۔

⑤ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۲۴۴.

⑥ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۲۴۴.

⑦ المرجع السابق ص ۲۴۵.

⑧ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۲۴۴.

⑨ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۲.

(درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - وقف عرفہ سے پہلے چند بار جماع کیا اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو ایک دم واجب ہے اور دو مختلف مجلسوں میں تو دو دم اور اگر دوسری بار احرام توڑنے کے قصد سے جماع کیا تو بہر حال ایک ہی دم واجب ہے، چاہے ایک ہی مجلس میں ہو یا متعدد میں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ - وقف عرفہ کے بعد سر موٹانے سے پہلے چند بار جماع کیا اگر ایک مجلس میں ہے تو ایک بدنہ اور دو مجلسوں میں ہے تو ایک بدنہ اور ایک دم اور اگر دوسری بار احرام توڑنے کے ارادہ سے جماع کیا تو اس بار کچھ نہیں۔^(۲) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ - جانور یا مردہ یا بہت چھوٹی لڑکی سے جماع کیا توج فاسد نہ ہوگا، انزال ہو یا نہیں مگر انزال ہوا تو دم لازم۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - عورت نے جانور سے وطی کرائی یا کسی آدمی یا جانور کا کٹا ہوا آلہ اندر رکھ لیا حج فاسد ہو گیا۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - عمرہ میں چار پھیرے سے قبل جماع کیا عمرہ جاتا رہا، دم دے اور عمرہ کی قضا اور چار پھیروں کے بعد کیا تو دم دے عمرہ صحیح ہے۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۱۰ - عمرہ کرنے والے نے چند بار متعدد مجلس میں جماع کیا تو ہر بار دم واجب اور طواف وسعی کے بعد حلق سے پہلے کیا جب بھی دم واجب ہے اور حلق کے بعد تو کچھ نہیں۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ - قرآن والے نے عمرہ کے طواف سے پہلے جماع کیا توج وعمرہ دونوں فاسد مگر دونوں کے تمام افعال بجالائے اور دو دم دے اور سال آئندہ حج وعمرہ کرے اور اگر عمرہ کا طواف کر چکا ہے اور وقف عرفہ سے پہلے جماع کیا تو عمرہ

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۲۴۵.

② المرجع السابق، و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۵.

③ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۲.

④ "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۳.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۶.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الرابع، ج ۱، ص ۲۴۵.

فاسد نہ ہوا، حج فاسد ہو گیا دو دم دے اور سال آئندہ حج کی قضا دے اور اگر وقوف کے بعد کیا تو نہ حج فاسد ہوا، نہ عمرہ ایک بدنہ اور ایک دم دے اور ان کے علاوہ قرآن کی قربانی۔⁽¹⁾ (منک)

مسئلہ ۱۲ - جماع سے احرام نہیں جاتا وہ بدستور محرم ہے اور جو چیزیں محرم کے لیے ناجائز ہیں وہ اب بھی ناجائز ہیں اور وہی سب احکام ہیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ - حج فاسد ہونے کے بعد دوسرے حج کا احرام اسی سال باندھا تو دوسرا نہیں ہے بلکہ وہی ہے جسے اُس نے فاسد کر دیا، اس ترکیب سے سال آئندہ کی قضا سے نہیں بچ سکتا۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

(۷) طواف میں غلطیاں

مسئلہ ۱ - طواف فرض کُل یا اکثر یعنی چار پھیرے جنابت یا حیض و نفاس میں کیا تو بدنہ ہے اور بے وضو کیا تو دم اور پہلی صورت میں طہارت کے ساتھ اعادہ واجب، اگر مکہ سے چلا گیا ہو تو واپس آ کر اعادہ کرے اگر چہ میقات سے بھی آگے بڑھ گیا ہو مگر بارہویں تاریخ تک اگر کامل طور پر اعادہ کر لیا تو جرمانہ ساقط اور بارہویں کے بعد کیا تو دم لازم، بدنہ ساقط۔ لہذا اگر طواف فرض بارہویں کے بعد کیا ہے تو دم⁽⁴⁾ ساقط نہ ہوگا کہ بارہویں تو گزر گئی اور اگر طواف فرض بے وضو کیا تھا تو اعادہ مستحب پھر اعادہ سے دم ساقط ہو گیا اگر چہ بارہویں کے بعد کیا ہو۔⁽⁵⁾ (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۲ - چار پھیرے سے کم بے طہارت کیا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ اور جنابت میں کیا تو دم پھر اگر بارہویں تک اعادہ کر لیا تو دم ساقط اور بارہویں کے بعد اعادہ کیا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

① "باب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب الجنایات)، ص ۳۳۸.

② "الدر المختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۳.

③ المرجع السابق.

④ بہار شریعت کے نسخوں میں اس جگہ "دم" کے بجائے "بدنہ" لکھا ہے، جو کتابت کی غلطی ہے کیونکہ "طواف فرض بارہویں کے بعد کیا تو بدنہ ساقط ہو جائے گا"، ایسا ہی فتاویٰ عالمگیری میں ہے، اسی وجہ سے ہم نے لفظ "دم" کر دیا ہے۔ لہذا جن کے پاس بہار شریعت کے دیگر نسخے ہیں ان کو چاہیے کہ لفظ "بدنہ" کو قلم زد کر کے اس جگہ پر لفظ "دم" لکھ لیں۔

⑤ "الجوهرة النيرة"، کتاب الحج، باب الجنایات فی الحج، ص ۲۲۱.

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۲۴۵.

⑥ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۲۴۶.

مسئلہ ۳ طوافِ فرض گُل یا اکثر بلا عذر چل کر نہ کیا بلکہ سواری پر یا گود میں یا گھسٹ کر یا بے ستر کیا مثلاً عورت کی چہارم کلائی یا چہارم سر کے بال کھلے تھے یا اُلٹا طواف کیا یا حطیم کے اندر سے طواف میں گزرا یا بارہویں کے بعد کیا تو ان سب صورتوں میں دم دے اور صحیح طور پر اعادہ کر لیا تو دم ساقط اور بغیر اعادہ کیے چلا آیا تو بکری یا اُس کی قیمت بھیج دے کہ حرم میں ذبح کر دی جائے، واپس آنے کی ضرورت نہیں۔^(۱) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۴ جنابت میں طواف کر کے گھر چلا گیا تو پھر سے نیا احرام باندھ کر واپس آئے اور واپس نہ آیا بلکہ بدنہ بھیج دیا تو بھی کافی ہے مگر افضل واپس آنا ہے اور بے وضو کیا تھا تو واپس آنا بھی جائز ہے اور بہتر یہ کہ وہیں سے بکری یا قیمت بھیج دے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ طوافِ فرض چار پھیرے کر کے چلا گیا یعنی تین یا دو یا ایک پھیرا باقی ہے تو دم واجب، اگر خود نہ آیا بھیج دیا تو کافی ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ فرض کے سوا کوئی اور طواف گُل یا اکثر جنابت میں کیا تو دم دے اور بے وضو کیا تو صدقہ اور تین پھیرے یا اس سے کم جنابت میں کیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ پھر اگر مکہ معظمہ میں ہے تو سب صورتوں میں اعادہ کر لے، کفارہ ساقط ہو جائے گا۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ طوافِ رخصت گُل یا اکثر ترک کیا تو دم لازم اور چار پھیروں سے کم چھوڑا تو ہر پھیرے کے بدلے میں ایک صدقہ اور طوافِ قدم ترک کیا تو کفارہ نہیں مگر بُرا کیا اور طوافِ عمرہ کا ایک پھیرا بھی ترک کرے گا تو دم لازم ہوگا اور بالکل نہ کیا یا اکثر ترک کیا تو کفارہ نہیں بلکہ اُس کا ادا کرنا لازم ہے۔^(۵) (منک)

مسئلہ ۸ قارن نے طوافِ قدم و طوافِ عمرہ دونوں بے وضو کیے تو دسویں سے پہلے طوافِ عمرہ کا اعادہ کرے اور اگر اعادہ نہ کیا یہاں تک کہ دسویں تاریخ کی فجر طلوع ہوگئی تو دم واجب اور طوافِ فرض میں زَمَلِ وسعی کر لے۔^(۶) (منک)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۲۴۷.

و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۶۲.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۲۴۵، ۲۴۶.

③ المرجع السابق. ④ المرجع السابق.

⑤ "لباب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب الجنایات، فصل فی الجنایة فی طواف الصلن)، ص ۳۵۰-۳۵۳.

⑥ المرجع السابق، ص ۳۵۳.

مسئلہ ۹ - نجس کپڑوں میں طواف مکروہ ہے کفارہ نہیں۔^(۱) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۰ - طوافِ فرض جنابت میں کیا تھا اور بارہویں تک اس کا اعادہ بھی نہ کیا، اب تیرھویں کو طوافِ رخصت باطہارت کیا تو یہ طوافِ رخصت طوافِ فرض کے قائم مقام ہو جائے گا اور طوافِ رخصت کے چھوڑنے اور طوافِ فرض میں دیر کرنے کی وجہ سے اس پر دو دم لازم اور اگر بارہویں کو طوافِ رخصت کیا ہے تو یہ طوافِ فرض کے قائم مقام ہوگا اور چونکہ طوافِ رخصت نہ کیا، لہذا ایک دم لازم اور اگر طوافِ رخصت دوبارہ کر لیا تو یہ دم بھی ساقط ہو گیا اور اگر طوافِ فرض بے وضو کیا تھا اور یہ با وضو تو ایک دم اور اگر طوافِ فرض بے وضو کیا تھا اور طوافِ رخصت جنابت میں تو دو دم۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ - طوافِ فرض کے تین پھیرے کیے اور طوافِ رخصت پورا کیا تو اس میں کے چار پھیرے اس میں محسوب ہو جائیں گے اور دو دم لازم، ایک طوافِ فرض میں دیر کرنے، دوسرا طوافِ رخصت کے چار پھیرے چھوڑنے کا۔ اور اگر ہر ایک کے تین تین پھیرے کیے تو کل فرض میں شمار ہوں گے اور دو دم واجب۔^(۳) (عالمگیری) اس مسئلہ میں فروع کثیرہ ہیں، بخوف تطویل ذکر نہ کیے۔

(۸) سعی میں غلطیاں

مسئلہ ۱ - سعی کے چار پھیرے یا زیادہ بلا عذر چھوڑ دیے یا سواری پر کیے تو دم دے اور حج ہو گیا اور چار سے کم میں ہر پھیرے کے بدلے صدقہ اور اعادہ کر لیا تو دم و صدقہ ساقط اور عذر کے سبب ایسا ہوا تو معاف ہے۔ یہی ہر واجب کا حکم ہے کہ عذر صحیح سے ترک کر سکتا ہے۔^(۴) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ - طواف سے پہلے سعی کی اور اعادہ نہ کیا تو دم دے۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۳ - جنابت میں یا بے وضو طواف کر کے سعی کی تو سعی کے اعادہ کی حاجت نہیں۔^(۶) (درمختار)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۲۴۶، وغیرہ.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۲۴۶.

③ المرجع السابق.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۲۴۷.

و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۶۵.

⑤ "الدرالمختار" کتاب الحج، باب فی سعی بین الصفا والمروة، ج ۳، ص ۵۸۷.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۶۱.

مسئلہ ۳ سنی میں احرام یا زمانہ حج شرط نہیں، نہ کی ہو تو جب چاہے کر لے ادا ہو جائے گی۔^(۱) (جوہرہ)

(۹) وقوف عرفہ میں غلطی

مسئلہ ۱ جو شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے چلا گیا دم دے پھر اگر غروب سے پہلے واپس آیا تو ساقط ہو گیا اور غروب کے بعد واپس ہوا تو نہیں اور عرفات سے چلا آنا خواہ با اختیار ہو یا بلا اختیار ہو مثلاً اونٹ پر سوار تھا وہ اسے لے بھاگا دونوں صورت میں دم ہے۔^(۲) (عالمگیری، جوہرہ)

(۱۰) وقوف مزدلفہ

مسئلہ ۱ دسویں کی صبح کو مزدلفہ میں بلا عذر و قوف نہ کیا تو دم دے۔ ہاں کمزور یا عورت بخوف ازدحام و قوف ترک کرے تو جرم مانہ نہیں۔^(۳) (جوہرہ)

(۱۱) رمی کی غلطیاں

مسئلہ ۱ کسی دن بھی رمی نہیں کی یا ایک دن کی بالکل یا اکثر ترک کر دی مثلاً دسویں کو تین کنکریاں تک ماریں یا گیارہویں وغیرہ کو دس کنکریاں تک یا کسی دن کی بالکل یا اکثر رمی دوسرے دن کی تو ان سب صورتوں میں دم ہے اور اگر کسی دن کی نصف سے کم چھوڑی مثلاً دسویں کو چار کنکریاں ماریں، تین چھوڑ دیں یا اور دنوں کی گیارہ ماریں دس چھوڑ دیں یا دوسرے دن کی تو ہر کنکری پر ایک صدقہ دے اور اگر صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر دے۔^(۴) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

① "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، باب الجنایات فی الحج، ص ۲۲۲.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۲۴۷.

و "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، باب الجنایات فی الحج، ص ۲۲۲.

③ "الحوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، باب الجنایات فی الحج، ص ۲۲۳.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۲۴۷.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۶۶.

(۱۲) قربانی اور حلق میں غلطی

مسئلہ ۱ - حرم میں حلق نہ کیا، حدود حرم سے باہر کیا یا بارہویں کے بعد کیا یا رَمی سے پہلے کیا یا قارن و مُتَمَتِّع نے قربانی سے پہلے کیا یا ان دونوں نے رَمی سے پہلے قربانی کی تو ان سب صورتوں میں دَم ہے۔^(۱) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲ - عمرہ کا حلق بھی حرم ہی میں ہونا ضرور ہے، اس کا حلق بھی حرم سے باہر ہوا تو دَم ہے مگر اس میں وقت کی شرط نہیں۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۳ - حج کرنے والے نے بارہویں کے بعد حرم سے باہر سر موٹا یا تو دو دَم ہیں، ایک حرم سے باہر حلق کرنے کا دوسرا بارہویں کے بعد ہونے کا۔^(۳) (ردالمحتار)

(۱۳) شکار کرنا

مسئلہ ۱ - خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا یا اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اور کسی طرح بتانا، یہ سب کام حرام ہیں اور سب میں کفارہ واجب اگرچہ اُس کے کھانے میں مُضْطَر ہو۔ یعنی بھوک سے مرا جاتا ہو اور کفارہ اس کی قیمت ہے یعنی دو عادل وہاں کے حسابوں جو قیمت بتادیں وہ دینی ہوگی اور اگر وہاں اُس کی کوئی قیمت نہ ہو تو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہو وہ ہے اور اگر ایک ہی عادل نے بتا دیا جب بھی کافی ہے۔^(۴) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲ - پانی کے جانور کو شکار کرنا جائز ہے، پانی کے جانور سے مراد وہ جانور ہے جو پانی میں پیدا ہوا ہو اگرچہ خشکی میں بھی کبھی کبھی رہتا ہو اور خشکی کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش خشکی کی ہو اگرچہ پانی میں رہتا ہو۔^(۵) (منسک)

مسئلہ ۳ - شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ بکری وغیرہ اگر خرید سکتا ہے تو خرید کر حرم میں ذبح کر کے فقرا کو تقسیم کر دے یا اُس کا غلہ خرید کر مساکین پر صدقہ کر دے، اتنا اتنا کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی قدر پہنچے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کے غلہ میں جتنے صدقے ہو سکتے ہوں ہر صدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھے اور اگر کچھ غلہ بچ جائے جو پورا صدقہ نہیں تو

① "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الحنایات، ج ۳، ص ۶۶۶، وغیرہ.

② "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الحنایات، ج ۳، ص ۶۶۶.

③ "ردالمختار"، کتاب الحج، باب الحنایات، ج ۳، ص ۶۶۶.

④ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الحنایات، ج ۳، ص ۶۶۶، وغیرہ.

⑤ "لباب المناسک"، (باب الحنایات، فصل فی ترک الواجبات بعذر)، ص ۳۶۰.

اختیار ہے وہ کسی مسکین کو دیدے یا اس کی عوض ایک روزہ رکھے اور اگر پوری قیمت ایک صدقہ کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے کہ اتنے کا غلہ خرید کر ایک مسکین کو دیدے یا اس کے بدلے ایک روزہ رکھے۔⁽¹⁾ (درمختار، عالمگیری وغیرہما)

مسئلہ ۳ - کفارہ کا جانور حرم کے باہر ذبح کیا تو کفارہ ادا نہ ہو اور اگر اس میں سے خود بھی کھالیا تو اتنے کا تاوان دے اور اگر اس کفارہ کے گوشت کو ایک مسکین پر تصدق کیا جب بھی جائز ہے۔ یوں تاوان کی قیمت بھی ایک مسکین کو دے سکتا ہے اور اگر جانور کو باہر ذبح کیا اور اس کا گوشت ہر مسکین کو ایک ایک صدقہ کی قیمت کا دیا اور وہ سب گوشت اتنی قیمت کا ہے جتنی قیمت کا غلہ خریدا جاتا تو ادا ہو گیا۔⁽²⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - کفارہ کا جانور چوری گیا یا زندہ جانور ہی تصدق کر دیا تو نا کافی ہے اور اگر ذبح کر دیا اور گوشت چوری گیا تو ادا ہو گیا۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ - قیمت کا غلہ تصدق کرنے کی صورت میں ہر مسکین کو صدقہ کی مقدار دینا ضروری ہے کم و بیش دے گا تو ادا نہ ہوگا۔ کم دیا تو کل نفل صدقہ ہے اور زیادہ زیادہ دیا تو ایک صدقہ سے جتنا زیادہ دیا نفل ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک ہی دن میں دیا ہو اور اگر کئی دن میں دیا اور ہر روز پورا صدقہ تو یوں ایک مسکین کو کئی صدقہ دے سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مسکین کو ایک ایک صدقہ کی قیمت دیدے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ - محرم نے جنگل کے جانور کو ذبح کیا تو حلال نہ ہو بلکہ مُردار ہے ذبح کرنے کے بعد اُسے کھا بھی لیا تو اگر کفارہ دینے کے بعد کھایا تو اب پھر کھانے کا کفارہ دے اور اگر نہیں دیا تھا تو ایک ہی کفارہ کافی ہے۔⁽⁵⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۸ - جتنی قیمت اُس شکار کی تجویز ہوئی اُس کا جانور خرید کر ذبح کیا اور قیمت میں سے بچ رہا تو بقیہ کا غلہ خرید کر تصدق کرے یا ہر صدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھے یا کچھ روزے رکھے کچھ صدقہ دے سب جائز ہے۔ یوں اگر وہ قیمت دو جانوروں کے خریدنے کے لائق ہے تو چاہے دو جانور ذبح کرے یا ایک ذبح اور ایک کے بدلے کا صدقہ دے یا روزے رکھے ہر

① "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۱.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصید، ج ۱، ص ۲۴۸، وغیرہما.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، المرجع السابق ص ۲۴۸ و "ردالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۱.

③ "ردالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۱.

④ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۱-۶۸۳.

⑤ "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الحج، باب الجنایات فی الحج، ص ۲۲۸.

طرح اختیار ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ - اِحرام والے نے حرم کا جانور شکار کیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے، حرم کی وجہ سے دوہرا کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر بغیر احرام کے حرم میں شکار کیا تو اس کا بھی وہی کفارہ ہے جو حرم کے لیے ہے مگر اس میں روزہ کافی نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ - جنگل کے جانور سے مراد وہ ہے جو خشکی میں پیدا ہوتا ہے اگرچہ پانی میں رہتا ہو۔ لہذا مرغابی اور وحشی بط کے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے اور پانی کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش پانی میں ہوتی ہے اگرچہ کبھی کبھی خشکی میں رہتا ہو۔ گھریلو جانور جیسے گائے، بھینس، بکری اگر جنگل میں رہنے کے سبب انسان سے وحشت کریں تو وحشی نہیں اور وحشی جانور کسی نے پال لیا تو اب بھی جنگل ہی کا جانور شمار کیا جائے گا، اگر پلاؤ ہرن شکار کیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ جنگل کا جانور اگر کسی کی ملک میں ہو جائے مثلاً پکڑ لایا یا پکڑنے والے سے مول لیا تو اس کے شکار کرنے کا بھی وہی حکم ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری، جوہرہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ - حرام اور حلال جانور دونوں کے شکار کا ایک حکم ہے مگر حرام جانور کے قتل کرنے میں کفارہ ایک بکری سے زیادہ نہیں ہے اگرچہ اس جانور کی قیمت ایک بکری سے بہت زائد کی ہو مثلاً ہاتھی کو قتل کیا تو صرف ایک بکری کفارہ میں واجب ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ - سکھایا ہوا جانور قتل کیا تو کفارہ میں وہی قیمت واجب ہے جو بے سکھائے کی ہے، البتہ اگر وہ کسی کی ملک ہے تو کفارہ کے علاوہ اس کے مالک کو سکھائے ہوئے کی قیمت دے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۳ - کفارہ لازم آنے کے لیے قصداً قتل کرنا شرط نہیں بھول چوک سے قتل ہو واجب بھی کفارہ ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۴ - جانور کو زخمی کر دیا مگر مر نہیں یا اس کے بال یا پر نوچے یا کوئی عضو کاٹ ڈالا تو اس کی وجہ سے جو کچھ اُس

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۴۸.

② المرجع السابق.

③ المرجع السابق ص ۲۴۷. و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۶.

④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۱.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۱.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۸، وغیرہ.

جانور میں کمی ہوئی وہ کفارہ ہے اور اگر زخم کی وجہ سے مر گیا تو پوری قیمت واجب۔⁽¹⁾ (عامہ کتب)

مسئلہ ۱۵ زخم کھا کر بھاگ گیا اور معلوم ہے کہ مر گیا یا معلوم نہیں کہ مر گیا یا زندہ ہے تو قیمت واجب ہے اور اگر معلوم ہے کہ مر گیا مگر اس زخم کے سبب سے نہیں بلکہ کسی اور سبب سے تو زخم کی جزا دے اور بالکل اچھا ہو گیا، جب بھی کفارہ ساقط نہ ہوگا۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ جانور کو زخمی کیا پھر اُسے قتل کر ڈالا تو زخم و قتل دونوں کا کفارہ دے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ جانور جال میں پھنسا ہوا تھا یا کسی درندہ نے اسے پکڑا تھا اُس نے چھوڑا نا چاہا، تو اگر مر بھی جائے جب بھی کچھ نہیں۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۸ پرند کے پر نوچ ڈالے کہ اوڑنہ سکے یا چو پایہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے کہ بھاگ نہ سکے تو پورے جانور کی قیمت واجب ہے اور انڈا توڑا یا بھونا تو اس کی قیمت دے مگر جب کہ گندہ ہو تو کچھ واجب نہیں اگرچہ اس کا چھلکا قیمتی ہو جیسے شتر مرغ کا انڈا کہ لوگ اُسے خرید کر بطور نمائش رکھتے ہیں اگرچہ گندہ ہو۔ انڈا توڑا اس میں سے بچہ مرا ہوا نکلا تو بچہ کی قیمت دے اور جنگل کے جانور کا دودھ دوہا تو دودھ کی اور بال کترے تو بالوں کی قیمت دے۔⁽⁵⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۹ پرند کے پر نوچ ڈالے یا چو پایہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے پھر کفارہ دینے سے پہلے اُسے قتل کر ڈالا تو ایک ہی کفارہ ہے اور کفارہ ادا کرنے کے بعد قتل کیا تو دو کفارے، ایک زخم وغیرہ کا دوسرا قتل کا اور اگر زخمی کیا پھر وہ جانور زخم کے سبب مر گیا تو ایک ہی کفارہ ہے خواہ مرنے سے پہلے دیا ہو یا بعد۔⁽⁶⁾ (منک، عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ جنگل کے جانور کا انڈا بھونا یا دودھ دوہا اور کفارہ ادا کر دیا تو اب اس کا کھانا حرام نہیں اور بیچنا بھی جائز مگر مکروہ ہے اور جانور کا کفارہ دیا اور کھایا تو پھر کفارہ دے اور دوسرے محرم نے کھالیا تو اس پر کفارہ نہیں اگرچہ کھانا حرام تھا کہ وہ

① "تنویر الابصار" و "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۳.

② "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۳.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۴۸.

④ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۴.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۴، وغیرہ.

⑥ "المسلك المتقسط"، (باب الجنایات، فصل فی الجرح)، ص ۳۶۲.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۴۸.

مردار ہے۔^(۱) (جوہرہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱ جنگل کے جانور کا انڈا اٹھا لیا اور مرغی کے نیچے رکھ دیا اگر گندہ ہو گیا تو اس کی قیمت دے اور اس سے بچہ

نکلا اور بڑا ہو کر اڑ گیا تو کچھ نہیں اور اگر انڈے پر سے جانور کو اڑا دیا اور انڈا گندہ ہو گیا تو کفارہ واجب۔^(۲) (منسک)

مسئلہ ۲۲ ہرنی کو مارا اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ مرا ہوا اگر تو اس بچہ کی قیمت کفارہ دے اور ہرنی بعد کو مر گئی تو اس

کی قیمت بھی اور اگر نہ مری تو اس کی وجہ سے جتنا اس میں نقصان آیا وہ کفارہ میں دے اور اگر بچہ نہیں گرا مگر ہرنی مر گئی تو

حالت حمل میں جو اس کی قیمت تھی وہ دے۔^(۳) (جوہرہ)

مسئلہ ۲۳ کوا، چیل، بھیڑیا، بچھو، سانپ، چوہا، گھونس، چھچھو ندر، کنکھنا کتا، پٹو، مچھر، کٹی، کچھوا، کیکڑا، پتنگا، کانٹے

والی چیونٹی، مکھی، چھپکلی، بُر اور تمام حشرات الارض بچو، لومڑی، گیدڑ جب کہ یہ درندے حملہ کریں یا جو درندے ایسے ہوں جن کی

عادت اکثر ابتداء حملہ کرنے کی ہوتی ہے جیسے شیر، چیتا، تیندوا، ان سب کے مارنے میں کچھ نہیں۔ یوہیں پانی کے تمام جانوروں

کے قتل میں کفارہ نہیں۔^(۴) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار وغیرہ)

مسئلہ ۲۴ ہرن اور بکری سے بچہ پیدا ہوا تو اس کے قتل میں کچھ نہیں، ہرنی اور بکرے سے ہے تو کفارہ واجب۔^(۵)

(درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۵ غیر محرم نے شکار کیا تو محرم اُسے کھا سکتا ہے اگرچہ اُس نے اسی کے لیے کیا ہو، جب کہ اُس محرم نے نہ

اُسے بتایا، نہ حکم کیا، نہ کسی طرح اس کام میں اعانت کی ہو اور یہ شرط بھی ہے کہ حرم سے باہر اُسے ذبح کیا ہو۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۲۶ بتانے والے، اشارہ کرنے والے پر کفارہ اس وقت لازم ہے کہ ① جسے بتایا وہ اس کی بات جھوٹی نہ

① "الجوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الجنایات فی الحج ص ۲۲۶ .

و "ردالمحتار"، كتاب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۸ .

② "باب المناسك"، (باب الجنایات، فصل فی حکم البيض)، ص ۳۶۶ .

③ "الجوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الجنایات فی الحج ص ۲۲۶ .

④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۹-۶۹۱ .

و "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۵۲ .

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۹۲ .

⑥ "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۹۲ .

جانے اور ۲ بے اس کے بتائے وہ جانتا بھی نہ ہو اور ۳ اُس کے بتانے پر فوراً اُس نے مار بھی ڈالا ہو اور ۴ وہ جانور وہاں سے بھاگ نہ گیا اور ۵ یہ بتانے والا جانور کے مارے جانے تک احرام میں ہو۔ اگر ان پانچوں شرطوں میں ایک نہ پائی جائے تو کفارہ نہیں رہا گناہ وہ بہر حال ہے۔^(۱) (درمختار، جوہرہ)

مسئلہ ۲۷ ایک مُحْرَم نے کسی کو شکار کا پتا دیا مگر اس نے نہ اُسے سچا جانا نہ جھوٹا پھر دوسرے نے خبر دی، اب اس نے جستجو کی اور جانور کو مارا تو دونوں بتانے والوں پر کفارہ ہے اور اگر پہلے کو جھوٹا سمجھا تو صرف دوسرے پر ہے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ مُحْرَم نے شکار کا حکم دیا تو کفارہ بہر حال لازم اگرچہ جانور خود مارنے والے کے علم میں ہے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ ایک مُحْرَم نے دوسرے مُحْرَم کو شکار کرنے کا حکم دیا اور دوسرے نے خود نہ کیا بلکہ اُس نے تیسرے مُحْرَم کو حکم دیا، اب تیسرے نے شکار کیا تو پہلے پر کفارہ نہیں اور دوسرے اور تیسرے پر لازم اور اگر پہلے نے دوسرے سے کہا کہ تو فلاں کو شکار کا حکم دے اور اس نے حکم دیا تو تینوں پر جرمانہ لازم۔^(۴) (منک)

مسئلہ ۳۰ غیر مُحْرَم نے مُحْرَم کو شکار بتایا یا حکم کیا تو گنہگار ہوا تو بہ کرے، اس غیر مُحْرَم پر کفارہ نہیں۔^(۵) (منک)

مسئلہ ۳۱ مُحْرَم نے جسے بتایا وہ مُحْرَم ہو یا نہ ہو بہر حال بتانے والے پر کفارہ لازم۔^(۶) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ کئی شخصوں نے مل کر شکار کیا تو سب پر پورا پورا کفارہ ہے۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ بُدّی بھی خشکی کا جانور ہے، اُسے مارے تو کفارہ دے اور ایک کھجور کافی ہے۔^(۸) (جوہرہ)

① "الجوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الجنایات فی الحج ص ۲۲۴ .

و "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۷ .

② "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۷ .

③ المرجع السابق .

④ "لباب المناسك"، (باب الجنایات، فصل فی الدلالة والاشارة ونحو ذلك)، ص ۳۶۹ .

⑤ "لباب المناسك"، (باب الجنایات، فصل فی الدلالة والاشارة ونحو ذلك)، ص ۳۶۹ .

⑥ "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۷۷ .

⑦ "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۴۹ .

⑧ "الجوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الجنایات فی الحج ص ۲۲۷ .

مسئلہ ۳۴ - مُحْرَم نے جنگل کا جانور خریدا یا بیچا تو بیع باطل ہے پھر بائع و مشتری دونوں مُحْرَم ہیں اور جانور ہلاک ہو تو دونوں پر کفارہ ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ احرام کی حالت میں پکڑا اور احرام ہی میں بیچا اور اگر پکڑنے کے وقت مُحْرَم نہ تھا اور بیچنے کے وقت ہے تو بیع فاسد ہے اور اگر پکڑنے کے وقت مُحْرَم تھا اور بیچنے کے وقت نہیں ہے تو بیع جائز۔^(۱) (جوہرہ)

مسئلہ ۳۵ - غیر مُحْرَم نے غیر مُحْرَم کے ہاتھ جنگل کا جانور بیچا اور مشتری نے ابھی قبضہ نہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک نے احرام باندھ لیا تو اب وہ بیع باطل ہوگئی۔^(۲) (جوہرہ)

مسئلہ ۳۶ - احرام باندھا اور اس کے ہاتھ میں جنگل کا جانور ہے تو حکم ہے کہ چھوڑ دے اور نہ چھوڑا یہاں تک کہ مر گیا تو ضمان دے مگر چھوڑنے سے اس کی ملک سے نہیں نکلتا جب کہ احرام سے پہلے پکڑا تھا اور یہ بھی شرط ہے کہ بیرونِ حرم پکڑا ہو فلہذا اگر اسے کسی نے پکڑ لیا تو مالک اس سے لے سکتا ہے۔ جب کہ احرام سے نکل چکا ہو اور اگر کسی نے اس کے ہاتھ سے چھڑا دیا تو یہ تاوان دے اور اگر جانور اس کے گھر ہے تو کچھ مضائقہ نہیں یا پاس ہی ہے مگر پنجرے میں ہے تو جب تک حرم سے باہر ہے چھوڑنا ضروری نہیں۔ لہذا اگر مر گیا تو کفارہ لازم نہیں۔^(۳) (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ - مُحْرَم نے جانور پکڑا تو اس کی ملک نہ ہوا، حکم ہے کہ چھوڑ دے اگر چہ پنجرے میں ہو یا گھر پر ہو اور اُسے کوئی پکڑ لے تو احرام کے بعد اس سے نہیں لے سکتا اور اگر کسی دوسرے نے چھوڑ دیا تو اُس سے تاوان نہیں لے سکتا اور دوسرے مُحْرَم نے مار ڈالا تو دونوں پر کفارہ ہے مگر پکڑنے والے نے جو کفارہ دیا ہے، وہ مارنے والے سے وصول کر سکتا ہے۔^(۴) (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ - مُحْرَم نے جنگل کا جانور پکڑا تو اُس پر لازم ہے کہ جنگل میں یا ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں وہ پناہ لے سکے، اگر شہر میں لاکر چھوڑا جہاں اس کے پکڑنے کا اندیشہ ہے تو جرمانہ سے بری نہ ہوگا۔^(۵) (منک)

مسئلہ ۳۹ - کسی نے ایسی جگہ شکار دیکھا کہ مارنے کے لیے تیر کمان، غلیل، بندوق وغیرہ کی ضرورت ہے اور مُحْرَم نے یہ چیزیں اسے دیں تو اس پر پورا کفارہ لازم اور شکار ذبح کرنا ہے اُس کے پاس ذبح کرنے کی چیز نہیں، مُحْرَم نے مٹھری دی تو

① "الجوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الحنایات فی الحج ص ۲۲۹ .

② المرجع السابق .

③ المرجع السابق. و "الفتاویٰ الہندیة"، كتاب المناسك، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۵۰، ۲۵۱ .

④ المرجع السابق .

⑤ "لباب المناسك" و "المسلك المنقسط"، (باب الحنایات، فصل فی أخذ الصيد و ارساله)، ص ۳۶۸ .

کفارہ ہے اور اگر اس کے پاس ذبح کرنے کی چیز ہے اور محرم نے چھری دی تو کفارہ نہیں مگر کراہت ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ - محرم نے جانور پر اپنا کتا یا باز سکھایا ہوا چھوڑا، اُس نے شکار کو مار ڈالا تو کفارہ واجب ہے اور اگر احرام کی وجہ سے تعمیلِ حکمِ شرع کے لیے باز چھوڑ دیا، اُس نے جانور کو مار ڈالا یا سکھانے کے لیے جال پھیلایا، اس میں جانور پھنس کر مر گیا یا کو آں کھودا تھا اُس میں گر کر مرنا تو ان صورتوں میں کفارہ نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

(۱۴) حرم کے جانور کو ایذا دینا

مسئلہ ۱ - حرم کے جانور کو شکار کرنا یا اُسے کسی طرح ایذا دینا سب کو حرام ہے۔ محرم اور غیر محرم دونوں اس حکم میں یکساں ہیں۔ غیر محرم نے حرم کے جنگل کا جانور ذبح کیا تو اس کی قیمت واجب ہے اور اس قیمت کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتا اور محرم ہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲ - محرم نے اگر حرم کا جانور مارا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا ورنہ نہیں اور اگر وہ جانور کسی کا مملوک تھا تو مالک کو اس کی قیمت بھی دے۔ پھر اگر سکھایا ہوا ہو مثلاً طوطی تو مالک کو وہ قیمت دے جو سیکھے ہوئے کی ہے اور کفارہ میں بے سکھائے ہوئے کی قیمت۔⁽⁴⁾ (منک)

مسئلہ ۳ - جو حرم میں داخل ہوا اور اُس کے پاس کوئی وحشی جانور ہوا اگرچہ پنجرے میں تو حکم ہے کہ اُسے چھوڑ دے، پھر اگر وہ شکاری جانور باز، شکر، بہری وغیرہ ہے اور اس نے اس حکمِ شرع کی تعمیل کے لیے اُسے چھوڑا، اُس نے شکار کیا تو اُس کے ذمہ تاوان نہیں اور شکار پر چھوڑا تو تاوان ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۴ - ایک شخص دوسرے کا وحشی جانور غصب کر کے حرم میں لایا تو واجب ہے کہ چھوڑ دے اور مالک کو قیمت دے اور نہ چھوڑا بلکہ مالک کو واپس دیا تو تاوان دے۔ غصب کے بعد احرام باندھا جب بھی یہی حکم ہے۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار وغیرہ)

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۵۰.

② المرجع السابق ص ۲۵۱.

③ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۹۳.

④ "لباب المناسک" و "المسئل المتقسط"، (باب الجنایات، فصل فی صید الحرم)، ص ۳۷۴.

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۹۳، وغیرہ.

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۹۴.

مسئلہ ۵ دو غیر محرم نے حرم کے جانور کو ایک ضرب میں مار ڈالا تو دونوں آدمی آدمی قیمت دیں۔ یو ہیں اگر بہت سے لوگوں نے مارا تو سب پر وہ قیمت تقسیم ہو جائے گی اور اگر ان میں کوئی محرم بھی ہے تو علاوہ اُس کے جو اُس کے حصہ میں پڑا پوری قیمت بھی کفارہ میں دے اور ایک نے پہلے ضرب لگائی پھر دوسرے نے تو ہر ایک کی ضرب سے اس کی قیمت میں جو کمی ہوئی وہ دے۔ پھر باقی قیمت دونوں پر تقسیم ہو جائے گی اس بقیہ کا نصف نصف دونوں دیں۔^(۱) (عالمگیری، منسک)

مسئلہ ۶ ایک نے حرم کا جانور پکڑا، دوسرے نے مار ڈالا تو دونوں پوری پوری قیمت دیں اور پکڑنے والے کو اختیار ہے کہ دوسرے سے تاوان وصول کر لے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ چند شخص محرم مکہ کے کسی مکان میں ٹھہرے، اس مکان میں کبوتر رہتے تھے۔ سب نے ایک سے کہا، دروازہ بند کر دے، اس نے دروازہ بند کر دیا اور سب منیٰ کو چلے گئے، واپس آئے تو کبوتر پیاس سے مرے ہوئے ملے تو سب پورا پورا کفارہ دیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ جانور کا کچھ حصہ حرم میں ہو اور کچھ باہر تو اگر کھڑا ہو اور اس کے سب پاؤں حرم میں ہوں یا ایک ہی پاؤں تو وہ حرم کا جانور ہے، اُس کو مارنا حرام ہے اگرچہ سر حرم سے باہر ہے اور اگر صرف سر حرم میں ہے اور پاؤں سب کے سب باہر تو قتل پر جرمانہ لازم نہیں اور اگر لیٹا سویا ہے اور کوئی حصہ بھی حرم میں ہے تو اسے مارنا حرام۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ جانور حرم سے باہر تھا، اس نے تیر چھوڑا وہ جانور بھاگا اور تیر اُسے اس وقت لگا کہ حرم میں پہنچ گیا تھا تو جرمانہ لازم اور اگر تیر لگنے کے بعد بھاگ کر حرم میں گیا اور وہیں مر گیا تو نہیں مگر اس کا کھانا حلال نہیں۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ جانور حرم میں نہیں مگر یہ شکار کرنے والا حرم میں ہے اور حرم ہی سے تیر چھوڑا تو جرمانہ واجب۔^(۶) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ" کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۴۹.

و "باب المناسک" و "المسلک المتقسط"، (باب الجنایات)، ص ۳۶۴.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۵۰.

③..... المرجع السابق.

④..... "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۷.

⑤..... المرجع السابق، ص ۶۸۸.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۵۱.

مسئلہ ۱۱ جانور اور شکاری دونوں حرم سے باہر ہیں مگر تیر حرم سے ہوتا ہوا گزرا تو اسمیں بھی بعض علما تاوان واجب کرتے ہیں۔ درمختار میں یہی لکھا مگر بحر الرائق ولباب میں تصریح ہے کہ اس میں تاوان نہیں اور علامہ شامی نے فرمایا کلام علما سے یہی ثابت۔ کتایا باز وغیرہ چھوڑا اور حرم سے ہوتا ہوا گزرا، اس کا بھی یہی حکم ہے۔^(۱)

مسئلہ ۱۲ جانور حرم سے باہر تھا اس پر کتا چھوڑا، کتے نے حرم میں جا کر پکڑا تو اُس پر تاوان نہیں مگر شکار نہ کھایا جائے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ گھوڑے وغیرہ کسی جانور پر سوار جا رہا تھا یا اسے ہانکتا یا کھینچتا لیے جا رہا تھا، اُس کے ہاتھ پاؤں سے کوئی جانور دب کر مر گیا یا اس نے کسی جانور کو دانت سے کاٹا اور مر گیا تو تاوان دے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ بھیڑیے پر کتا چھوڑا، اُس نے جا کر شکار پکڑا یا بھیڑیا پکڑنے کے لیے جال تانا، اُس میں شکار پھنس گیا تو دونوں صورتوں میں تاوان کچھ نہیں۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ جانور کو بھگایا وہ کونیس میں گر پڑا یا پھسل کر گرا اور مر گیا یا کسی چیز کی ٹھوکری وہ مر گیا تو تاوان دے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ حرم کا جانور پکڑ لایا اور اسے بیرون حرم چھوڑ دیا، اب کسی نے مار ڈالا تو پکڑنے والے پر کفارہ لازم ہے اور اگر کسی نے نہ بھی مارا تو جب تک امن کے ساتھ حرم کی زمین میں پہنچ جانا معلوم نہ ہو، کفارہ سے بری نہ ہوگا۔^(۶) (منک)

مسئلہ ۱۷ جانور حرم سے باہر تھا اور اس کا بہت چھوٹا بچہ حرم کے اندر، غیر محرم نے اُس جانور کو مارا تو اس کا کفارہ نہیں مگر بچہ بھوک سے مر جائے گا تو بچہ کا کفارہ دینا ہوگا۔^(۷) (منک)

مسئلہ ۱۸ ہرنی کو حرم سے نکالا وہ بچے جتنی پھر وہ مر گئی اور بچے بھی تو سب کا تاوان دے اور اگر تاوان دینے کے بعد

① انظر: "الدر المختار" و "رد المحتار"، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۷. و "البحر الرائق"، کتاب الحج، باب الجنایات،

فصل ان قتل محرم صیداً، ج ۳، ص ۶۹. و "لباب المناسک"، (باب الجنایات، فصل فی صید الحرم)، ص ۳۷۶.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصید، ج ۱، ص ۲۵۱.

③ المرجع السابق، ص ۲۵۲.

④ المرجع السابق. ⑤ المرجع السابق.

⑥ "لباب المناسک"، (باب الجنایات، فصل فی أخذ الصید و ارسالہ)، ص ۳۶۸.

⑦ "لباب المناسک"، (باب الجنایات، فصل فی صید الحرم)، ص ۳۷۷.

جنتی تو بچوں کا تاوان لازم نہیں۔^(۱) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۹ پرنس درخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ درخت حرم سے باہر ہے مگر جس شاخ پر بیٹھا ہے وہ حرم میں ہے تو اُسے مارنا حرام ہے۔^(۲) (درمختار وغیرہ)

(۱۵) حرم کے پیڑ وغیرہ کاٹنا

مسئلہ ۱ حرم کے درخت چار قسم ہیں: ① کسی نے اُسے بویا ہے اور وہ ایسا درخت ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں۔ ② بویا ہے مگر اس قسم کا نہیں جسے لوگ بویا کرتے ہیں۔ ③ کسی نے اسے بویا نہیں مگر اس قسم سے ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں۔ ④ بویا نہیں، نہ اس قسم سے ہے جسے لوگ بوتے ہیں۔

پہلی تین قسموں کے کاٹنے وغیرہ میں کچھ نہیں یعنی اس پر جرمانہ نہیں۔ رہا یہ کہ وہ اگر کسی کی ملک ہے تو مالک تاوان لے گا، چوتھی قسم میں جرمانہ دینا پڑے گا اور کسی کی ملک ہے تو مالک تاوان بھی لے گا اور جرمانہ اسی وقت ہے کہ تر ہو اور ٹوٹا یا اکھڑا ہوا نہ ہو۔ جرمانہ یہ ہے کہ اُس کی قیمت کا غلہ لے کر مساکین پر تصدق کرے، ہر مسکین کو ایک صدقہ اور اگر قیمت کا غلہ پورے صدقہ سے کم ہے تو ایک ہی مسکین کو دے اور اس کے لیے حرم کے مساکین ہونا ضرور نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت ہی تصدق کر دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کا جانور خرید کر حرم میں ذبح کر دے روزہ رکھنا کافی نہیں۔^(۳) (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۲ درخت اکھیڑا اور اس کی قیمت بھی دیدی، جب بھی اُس سے کسی قسم کا نفع لینا جائز نہیں اور اگر بیج ڈالا تو بیج ہو جائے گی مگر اُس کی قیمت تصدق کر دے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ جو درخت سوکھ گیا اُسے اکھاڑ سکتا ہے اور اس سے نفع بھی اٹھا سکتا ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ درخت اکھاڑا اور تاوان بھی ادا کر دیا پھر اسے وہیں لگا دیا اور وہ جم گیا پھر اسی کو اکھاڑا تو اب تاوان

① "الدر المختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۷۰۴، وغیرہ.

② المرجع السابق ص ۶۸۶.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۵۲-۲۵۳.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۵۳.

⑤ المرجع السابق.

نہیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ درخت کے پتے توڑے اگر اس سے درخت کو نقصان نہ پہنچا تو کچھ نہیں۔ یوہیں جو درخت پھلتا ہے اُسے

بھی کاٹنے میں تاوان نہیں جب کہ مالک سے اجازت لے لی ہو اُسے قیمت دیدے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ چند شخصوں نے مل کر درخت کا ٹاٹا تو ایک ہی تاوان ہے جو سب پر تقسیم ہو جائے گا، خواہ سب مُحرّم ہوں یا غیر

مُحرّم یا بعض مُحرّم بعض غیر مُحرّم۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ حرم کے پیلو یا کسی درخت کی مسواک بنانا جائز نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ جس درخت کی جڑ حرم سے باہر ہے اور شاخیں حرم میں وہ حرم کا درخت نہیں اور اگر تنے کا بعض حصہ حرم

میں ہے اور بعض باہر تو وہ حرم کا ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۹ اپنے یا جانور کے چلنے میں یا خیمہ نصب کرنے میں کچھ درخت جاتے رہے تو کچھ نہیں۔⁽⁶⁾ (درمختار،

ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ ضرورت کی وجہ سے فتویٰ اس پر ہے کہ وہاں کی گھاس جانوروں کو چرانا جائز ہے۔ باقی کاٹنا، اُکھاڑنا، اس

کا وہی حکم ہے جو درخت کا ہے۔ سوا اذخرا اور سوکھی گھاس کے کہ ان سے ہر طرح انتفاع جائز ہے۔ کھنسی کے توڑنے،

اُکھاڑنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

(۱۶) جوں مارنا

مسئلہ ۱ اپنی جوں اپنے بدن یا کپڑوں میں ماری یا پھینک دی تو ایک میں روٹی کا ٹکڑا اور دو یا تین ہوں تو ایک مُٹھی

① "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۵۳۔

② "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۵۔

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۵۳۔

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب السابع عشر فی النذر بالحج، ج ۱، ص ۲۶۴۔

⑤ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۶، وغیرہ۔

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۶۔

⑦ المرجع السابق، ص ۶۸۸۔

ناج اور اس سے زیادہ میں صدقہ۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲ - بُوئیں مرنے کو سر یا کپڑا دھویا یا دھوپ میں ڈالا، جب بھی یہی کفارے ہیں جو مارنے میں تھے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳ - دوسرے نے اُس کے کہنے یا اشارہ کرنے سے اُس کی جوں ماری، جب بھی اُس پر کفارہ ہے اگرچہ دوسرا احرام میں نہ ہو۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴ - زمین وغیرہ پر گری ہوئی جوں یا دوسرے کے بدن یا کپڑوں کی مارنے میں اس پر کچھ نہیں اگرچہ وہ دوسرا بھی احرام میں ہو۔⁽⁴⁾ (بحر)

مسئلہ ۵ - کپڑا بھیگ گیا تھا سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھا، اس سے جوئیں مر گئیں مگر یہ مقصود نہ تھا تو کچھ حرج نہیں۔⁽⁵⁾ (منک متوسط)

مسئلہ ۶ - حرم کی خاک یا کنکری لانے میں حرج نہیں۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

(۱۷) بغیر احرام میقات سے گزرنا

مسئلہ ۱ - میقات کے باہر سے جو شخص آیا اور بغیر احرام مکہ معظمہ کو گیا تو اگرچہ نہ حج کا ارادہ ہو، نہ عمرہ کا مگر حج یا عمرہ واجب ہو گیا پھر اگر میقات کو واپس نہ گیا، یہیں احرام باندھ لیا تو دم واجب ہے اور میقات کو واپس جا کر احرام باندھ کر آیا تو دم ساقط اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے جو اُس پر حج یا عمرہ واجب ہوا تھا اس کا احرام باندھا اور ادا کیا تو بری الذمہ ہو گیا۔ یو ہیں اگر حجۃ الاسلام یا نفل یا منت کا عمرہ یا حج جو اُس پر تھا، اُس کا احرام باندھا اور اسی سال ادا کیا جب بھی بری الذمہ ہو گیا اور اگر اس سال ادا نہ کیا تو اس سے بری الذمہ نہ ہوا، جو مکہ میں جانے سے واجب ہوا تھا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری، درمختار، رد المحتار)

① "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۶۸۹.

② المرجع السابق. ③ المرجع السابق.

④ "البحر الرائق"، کتاب الحج، باب الجنایات، فصل ان قتل محرم صیداً، ج ۳، ص ۶۱.

⑤ "باب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب الجنایات، فصل في قتل القمل)، ص ۳۷۸.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب السابع عشر فی النذر بالحج، ج ۱، ص ۲۶۴.

⑦ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب العاشر فی مجاوزة الميقات بغیر احرام، ج ۱، ص ۲۵۳.

و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، مطلب لایجب الضمان بکسر آلات اللہ، ج ۳، ص ۷۱۱.

مسئلہ ۲ چند بار بغیر احرام مکہ معظمہ کو گیا، پچھلی بار میقات کو واپس آ کر حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر ادا کیا تو صرف اس بار حج یا عمرہ واجب ہوا تھا، اس سے بری الذمہ ہوا، پہلوں سے نہیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ حج یا عمرہ کا ارادہ ہے اور بغیر احرام میقات سے آگے بڑھا تو اگر یہ اندیشہ ہے کہ میقات کو واپس جائے گا تو حج فوت ہو جائے گا تو واپس نہ ہو، وہیں سے احرام باندھ لے اور دم دے اور اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو واپس آئے۔ پھر اگر میقات کو بغیر احرام آیا تو دم ساقط۔ یوہیں اگر احرام باندھ کر آیا اور لبیک کہہ چکا ہے تو دم ساقط اور نہیں کہا تو نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ میقات سے بغیر احرام گیا پھر عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کو فاسد کر دیا، پھر میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کی قضا کی تو میقات سے بے احرام گزرنے کا دم ساقط ہو گیا۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۵ متمتع نے حرم کے باہر سے حج کا احرام باندھا، اُسے حکم ہے کہ جب تک وقوفِ عرفہ نہ کیا اور حج فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو حرم کو واپس آئے اگر واپس نہ آیا تو دم واجب ہے اور اگر واپس ہوا اور لبیک کہہ چکا ہے تو دم ساقط ہے نہیں تو نہیں اور باہر جا کر احرام نہیں باندھا تھا اور واپس آیا اور یہاں سے احرام باندھا تو کچھ نہیں۔ مکہ میں جس نے اقامت کر لی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے اور اگر مکہ والا کسی کام سے حرم کے باہر گیا تھا اور وہیں سے حج کا احرام باندھ کر وقوف کر لیا تو کچھ نہیں اور اگر عمرہ کا احرام حرم میں باندھا تو دم لازم آیا۔^(۴) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ نابالغ بغیر احرام میقات سے گزرا پھر بالغ ہو گیا اور وہیں سے احرام باندھ لیا تو دم لازم نہیں اور غلام اگر بغیر احرام گزرا پھر اُس کے آقا نے احرام کی اجازت دے دی اور اُس نے احرام باندھ لیا تو دم لازم ہے جب آزاد ہو ادا کرے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ میقات سے بغیر احرام گزرا پھر عمرہ کا احرام باندھا اس کے بعد حج کا یا قرآن کیا تو دم لازم ہے اور اگر پہلے

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب العاشر فی مجاوزۃ المیقات بغیر احرام، ج ۱، ص ۲۵۳، ۲۵۴.

② المرجع السابق ص ۲۵۳.

③ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۷۱۳.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب العاشر فی مجاوزۃ المیقات بغیر احرام، ج ۱، ص ۲۵۴.

و"ردالمحتار"،

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب العاشر فی مجاوزۃ المیقات بغیر احرام، ج ۱، ص ۲۵۳.

حج کا باندھا پھر حرم میں عمرہ کا تو دو دم۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

(۱۸) احرام ہوتے ہوئے دوسرا احرام باندھنا

مسئلہ ۱ جو شخص میقات کے اندر رہتا ہے اُس نے حج کے مہینوں میں عمرہ کا طواف ایک پھیرا بھی کر لیا، اُس کے بعد حج کا احرام باندھا تو اسے توڑ دے اور دم واجب ہے۔ اس سال عمرہ کر لے، سال آئندہ حج اور اگر عمرہ توڑ کر حج کیا تو عمرہ ساقط ہو گیا اور دم دے اور دونوں کر لیے تو ہو گئے مگر گنہگار ہو اور دم واجب۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲ حج کا احرام باندھا پھر عرفہ کے دن یارات میں دوسرے حج کا احرام باندھا تو اسے توڑ دے اور دم دے اور حج و عمرہ اُس پر واجب اور اگر دسویں کو دوسرے حج کا احرام باندھا اور حلق کر چکا ہے تو بدستور احرام میں رہے اور دوسرے کو سال آئندہ میں پورا کرے اور دم واجب نہیں اور حلق نہیں کیا ہے تو دم واجب۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ عمرہ کے تمام افعال کر چکا تھا صرف حلق باقی تھا کہ دوسرے عمرہ کا احرام باندھا تو دم واجب ہے اور گنہگار ہوا۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴ باہر کے رہنے والے نے پہلے حج کا احرام باندھا اور طواف قدوم سے پیشتر عمرہ کا احرام باندھا تو قارن ہو گیا مگر اساءت ہوئی اور شکرانہ کی قربانی کرے اور عمرہ کے اکثر طواف یعنی چار پھیرے سے پہلے وقوف کر لیا تو عمرہ باطل ہو گیا۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ طواف قدوم کا ایک پھیرا بھی کر لیا تو عمرہ کا احرام باندھنا جائز نہیں پھر بھی اگر باندھا تو بہتر یہ ہے کہ عمرہ توڑ دے اور قضا کرے اور دم دے اور اگر نہیں توڑا اور دونوں کر لیے تو دم دے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ دسویں سے تیرھویں تک حج کرنے والے کو عمرہ کا احرام باندھنا ممنوع ہے، اگر باندھا تو توڑ دے اور اُس کی قضا کرے اور دم دے اور کر لیا تو ہو گیا مگر دم واجب ہے۔⁽⁷⁾ (درمختار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب العاشر فی مجاوزۃ المیقات بغیر احرام، ج ۱، ص ۲۵۳.

② "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۷۱۳.

③ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، مطلب لایجب الضمان بکسر آلات اللہو، ج ۳، ص ۷۱۵.

④ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۷۱۶.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الجنایات، مطلب لایجب الضمان... إلخ، ج ۳، ص ۷۱۷.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳، ص ۷۱۷.

⑦ المرجع السابق ص ۷۱۸.

مُحْصِرُ كَا بِيَان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ ﴾ (1)

اگر حج و عمرہ سے تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے کرو اور اپنے سر نہ منڈاؤ، جب تک قربانی اپنی جگہ (حرم) میں نہ پہنچ جائے۔

اور فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ

فِيهِ وَالْبَادِ ۗ وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمٍ لُّذْمُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِيمِ ۗ ﴾ (2)

پیشک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ (عزوجل) کی راہ سے اور مسجد حرام سے، جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا، اس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر والے برابر حق رکھتے ہیں اور جو اس میں ناحق زیادتی کا ارادہ کرے، ہم اُسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔

احادیث

حدیث ۱ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، کفار قریش کعبہ تک جانے سے مانع ہوئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانیاں کیں اور سر موٹا دیا اور صحابہ نے بال کتروائے۔ (3) نیز بخاری میں مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلق سے پہلے قربانی کی اور صحابہ کو بھی اسی کا حکم فرمایا۔ (4)

حدیث ۲ ابوداؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی حجاج بن عمرو و انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ

① پ ۲، البقرة: ۱۹۶.

② پ ۱۷، الحج: ۲۵.

③ "صحیح البخاری"، کتاب المغازی، باب غزوة الحديبية، الحديث: ۴۱۸۵، ج ۳، ص ۷۵.

④ "صحیح البخاری"، أبواب المحصر و جزاء الصيد، باب النحر قبل الحلق في المحصر، الحديث: ۱۸۱۱، ج ۱، ص ۵۹۷.

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے تو احرام کھول سکتا ہے اور سال آئندہ اُس کو حج کرنا ہوگا۔“ (1) اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، یا بیمار ہو جائے۔ (2)

مسئلہ ۱ - جس نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا مگر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا، اُسے محصر کہتے ہیں۔ جن وجوہ سے حج یا عمرہ نہ کر سکے وہ یہ ہیں: ① دشمن۔ ② درندہ۔ ③ مرض کہ سفر کرنے اور سوار ہونے میں اس کے زیادہ ہونے کا گمان غالب ہے۔ ④ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانا۔ ⑤ قید۔ ⑥ عورت کے محرم یا شوہر جس کے ساتھ جارہی تھی اُس کا انتقال ہو جانا۔ ⑦ عدت۔ ⑧ مصارف یا سواری کا ہلاک ہو جانا۔ ⑨ شوہر حج نفل میں عورت کو اور مولیٰ لونڈی غلام کو منع کر دے۔

مسئلہ ۲ - مصارف چوری گئے یا سواری کا جانور ہلاک ہو گیا، تو اگر پیدل نہیں چل سکتا تو محصر ہے ورنہ نہیں۔ (3)
(عالمگیری)

مسئلہ ۳ - صورت مذکورہ میں فی الحال تو پیدل چل سکتا ہے مگر آئندہ مجبور ہو جائے گا، اُسے احرام کھول دینا جائز ہے۔ (4) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ - عورت کا شوہر یا محرم مر گیا اور وہاں سے مکہ معظمہ مسافت سفر یعنی تین دن کی راہ سے کم ہے تو محصر نہیں اور تین دن یا زیادہ کی راہ ہے تو اگر وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے تو محصر ہے ورنہ نہیں۔ (5) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - عورت نے بغیر شوہر یا محرم کے احرام باندھا تو وہ بھی محصر ہے کہ اُسے بغیر ان کے سفر حرام ہے۔ (6)
(عالمگیری)

مسئلہ ۶ - عورت نے حج نفل کا احرام بغیر اجازت شوہر باندھا تو شوہر منع کر سکتا ہے، لہذا اگر منع کر دے تو محصر ہے

① ”سنن أبي داود“، كتاب المناسك، باب الاحصار، الحديث: ۱۸۶۲، ج ۲، ص ۲۵۱.

② ”سنن أبي داود“، كتاب المناسك، باب الاحصار، الحديث: ۱۸۶۳، ج ۲، ص ۲۵۲.

③ ”الفتاوى الهندية“، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج ۱، ص ۲۵۵.

④ ”ردالمحتار“، كتاب الحج، باب الاحصار، ج ۴، ص ۵.

⑤ ”ردالمحتار“، كتاب الحج، باب الاحصار، ج ۴، ص ۵.

و ”الفتاوى الهندية“، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج ۱، ص ۲۵۵.

⑥ ”الفتاوى الهندية“، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج ۱، ص ۲۵۵.

اگرچہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو اور حج فرض کو منع نہیں کر سکتا، البتہ اگر وقت سے بہت پہلے احرام باندھا تو شوہر کھلوا سکتا ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ مولیٰ نے غلام کو اجازت دیدی پھر بھی منع کرنے کا اختیار ہے اگرچہ بغیر ضرورت منع کرنا مکروہ ہے اور لونڈی کو مولیٰ نے اجازت دیدی تو اُس کے شوہر کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ عورت نے احرام باندھا اس کے بعد شوہر نے طلاق دیدی، تو محصرہ ہے اگرچہ محرم بھی ہمراہ موجود ہو۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ محصر کو یہ اجازت ہے کہ حرم کو قربانی بھیج دے، جب قربانی ہو جائے گی اس کا احرام کھل جائے گا یا قیمت بھیج دے کہ وہاں جانور خرید کر ذبح کر دیا جائے بغیر اس کے احرام نہیں کھل سکتا، جب تک مکہ معظمہ پہنچ کر طواف وسعی و حلق نہ کر لے، روزہ رکھنے یا صدقہ دینے سے کام نہ چلے گا اگرچہ قربانی کی استطاعت نہ ہو۔ احرام باندھتے وقت اگر شرط لگائی ہے کہ کسی وجہ سے وہاں تک نہ پہنچ سکوں تو احرام کھول دوں گا، جب بھی یہی حکم ہے اس شرط کا کچھ اثر نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ یہ ضروری امر ہے کہ جس کے ہاتھ قربانی بھیجے اس سے ٹھہرا لے کہ فلاں دن فلاں وقت قربانی ذبح ہو اور وہ وقت گزرنے کے بعد احرام سے باہر ہوگا پھر اگر اسی وقت قربانی ہوئی جو ٹھہرا تھا یا اس سے پیشتر فیہا اور اگر بعد میں ہوئی اور اُسے اب معلوم ہوا تو ذبح سے پہلے چونکہ احرام سے باہر ہوا لہذا دم دے۔ محصر کو احرام سے باہر آنے کے لیے حلق شرط نہیں مگر بہتر ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۱ محصر اگر مفرد ہو یعنی صرف حج یا صرف عمرہ کا احرام باندھا ہے تو ایک قربانی بھیجے اور دو بھیجیں تو پہلی ہی کے ذبح سے احرام کھل گیا اور قارن ہو تو دو بھیجے ایک سے کام نہ چلے گا۔⁽⁶⁾ (درمختار وغیرہ)

① "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الاحصار، ج ۴، ص ۶.

② "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الاحصار، ج ۴، ص ۶.

③ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الاحصار، ج ۴، ص ۶.

④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الاحصار، ج ۴، ص ۶.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثانی عشر فی الاحصار، ج ۱، ص ۲۵۵.

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب الثانی عشر فی الاحصار، ج ۱، ص ۲۵۵.

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الاحصار، ج ۴، ص ۶، وغیرہ.

مسئلہ ۱۲ اس قربانی کے لیے حرم شرط ہے بیرون حرم نہیں ہو سکتی، دسویں، گیارہویں، بارہویں تاریخوں کی شرط نہیں، پہلے اور بعد کو بھی ہو سکتی ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۱۳ قارن نے اپنے خیال سے دو قربانیوں کے دام بھیجے اور وہاں ان داموں کی ایک ہی ملی اور ذبح کر دی تو یہ ناکافی ہے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۴ قارن نے دو قربانیاں بھیجیں اور یہ معین نہ کیا کہ یہ حج کی ہے اور یہ عمرہ کی تو بھی کچھ مضائقہ نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ معین کر دے کہ یہ حج کی ہے اور یہ عمرہ کی۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ قارن نے عمرہ کا طواف کیا اور وقوفِ عرفہ سے پیشتر محصر ہوا تو ایک قربانی بھیجے اور حج کے بدلے ایک حج اور ایک عمرہ کرے دوسرا عمرہ اس پر نہیں۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ اگر احرام میں حج یا عمرہ کسی کی نیت نہیں تھی تو ایک جانور بھیجنا کافی ہے اور ایک عمرہ کرنا ہوگا اور اگر نیت تھی مگر یہ یاد نہیں کہ کا ہے کی نیت تھی تو ایک جانور بھیج دے اور ایک حج اور ایک عمرہ کرے اور اگر دو حج کا احرام باندھا تو دو دم دے کر احرام کھولے اور دو عمرے کا احرام باندھا اور ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ کو چلا مگر نہ جاسکا تو ایک دم دے اور چلانہ تھا کہ محصر ہو گیا تو دو دم دے اور اس کو دو عمرے کرنے ہوں گے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ عورت نے حج نفل کا احرام باندھا تھا اگر چہ شوہر کی اجازت سے پھر شوہر نے احرام کھلوادیا، تو اس کا احرام کھلنے کے لیے قربانی کا ذبح ہو جانا ضرور نہیں بلکہ ہر ایسا کام جو احرام میں منع تھا اس کے کرنے سے احرام سے باہر ہو گئی مگر اس پر بھی قربانی یا اس کی قیمت بھیجنا ضرور ہے اور اگر حج کا احرام تھا تو ایک حج اور ایک عمرہ قضا کرنا ہوگا اور اگر شوہر یا محرم کے مرجانے سے محصر ہوئی یا حج فرض کا احرام تھا اور بغیر محرم جا رہی تھی شوہر نے منع کر دیا تو اس میں بغیر قربانی ذبح ہوئے احرام سے باہر نہیں ہو سکتی۔^(۶) (مسک)

① "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الاحصار، ج ۴، ص ۷.

② "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الاحصار، ج ۴، ص ۷.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الثانی عشر فی الاحصار، ج ۱، ص ۲۵۵.

④ المرجع السابق.

⑤ المرجع السابق، ص ۲۵۵-۲۵۶.

⑥ "باب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب الاحصار)، ص ۴۲۲-۴۲۳.

مسئلہ ۲ دارقطنی نے ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کا وقوف عرفہ رات تک میں فوت ہو گیا، اُس کا حج فوت ہو گیا تو اب اسے چاہیے کہ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے اور سال آئندہ حج کرے۔“ (1)

مسائل فقہیہ

مسئلہ ۱ جس کا حج فوت ہو گیا یعنی وقوف عرفہ اسے نہ ملا تو طواف وسعی کر کے سر موٹا کر یا بال کتر واکر احرام سے باہر ہو جائے اور سال آئندہ حج کرے اور اُس پر دم واجب نہیں۔ (2) (جوہرہ)

مسئلہ ۲ قارن کا حج فوت ہو گیا تو عمرہ کے لیے سعی و طواف کرے پھر ایک اور طواف وسعی کر کے حلق کرے اور دم قران جاتا رہا اور پچھلا طواف جسے کر کے احرام سے باہر ہوگا اُسے شروع کرتے ہی لبیک موقوف کر دے اور سال آئندہ حج کی قضا کرے، عمرہ کی قضا نہیں کیونکہ عمرہ کر چکا۔ (3) (منک، عالمگیری)

مسئلہ ۳ تمتع والا قربانی کا جانور لایا تھا اور تمتع باطل ہو گیا تو جانور کو جو چاہے کرے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ عمرہ فوت نہیں ہو سکتا کہ اس کا وقت عمر بھر ہے اور جس کا حج فوت ہو گیا اس پر طواف صدر نہیں۔ (5) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۵ جس کا حج فوت ہو اس نے طواف وسعی کر کے احرام نہ کھولا اور اسی احرام سے سال آئندہ حج کیا تو یہ حج صحیح نہ ہوا۔ (6) (منک)

حج بدل کا بیان

خلاصہ ۱ دارقطنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو اپنے والدین کی

①..... ”سنن الدار قطنی“، کتاب الحج، باب المواقیف، الحدیث: ۲۴۹۶، ج ۲، ص ۳۰۵.

②..... ”الجوہرۃ النیرۃ“، کتاب الحج، باب الفوات، ص ۲۳۲.

③..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب المناسک، الباب الثالث عشر فی فوات الحج، ج ۱، ص ۲۵۶.

و”لباب المناسک“، (باب الفوات)، ص ۴۳۰.

④..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب المناسک، الباب الثالث عشر فی فوات الحج، ج ۱، ص ۲۵۶.

⑤..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب المناسک، الباب الثالث عشر فی فوات الحج، ج ۱، ص ۲۵۶.

⑥..... ”لباب المناسک“، (باب الفوات)، ص ۴۳۱.

طرف سے حج کرے یا ان کی طرف سے تاوان ادا کرے، روز قیامت ابرار کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔“ (1)

حدیث ۲ — نیز جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”جو اپنے ماں باپ کی طرف سے

حج کرے تو ان کا حج پورا کر دیا جائے گا اور اس کے لیے دس حج کا ثواب ہے۔“ (2)

حدیث ۳ — نیز زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی اپنے

والدین کی طرف سے حج کرے گا تو مقبول ہوگا اور ان کی رُو میں خوش ہوں گی اور یہ اللہ (عزوجل) کے نزدیک نیکو کار لکھا

جائیگا۔“ (3)

حدیث ۴ — ابو حفص کبیر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہ ہم

اپنے مُردوں کی طرف سے صدقہ کرتے اور ان کی طرف سے حج کرتے اور ان کے لیے دُعا کرتے ہیں، آیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟

فرمایا: ”ہاں بیشک ان کو پہنچتا ہے اور بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسے تمہارے پاس طبق میں کوئی چیز ہدیہ کی جائے تو تم

خوش ہوتے ہو۔“ (4)

حدیث ۵ — صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم) میرے باپ پر حج فرض ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا:

”ہاں۔“ (5)

حدیث ۶ — ابوداؤد و ترمذی و نسائی ابی رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میرے باپ بہت بوڑھے ہیں حج و عمرہ نہیں کر سکتے اور ہودج پر بھی

نہیں بیٹھ سکتے۔ فرمایا: ”اپنے باپ کی طرف سے حج و عمرہ کرو۔“ (6)

①..... ”سنن الدار قطنی“، کتاب الحج، باب المواقیف، الحدیث: ۲۵۸۵، ج ۲، ص ۳۲۸.

②..... ”سنن الدار قطنی“، کتاب الحج، باب المواقیف، الحدیث: ۲۵۸۷، ج ۲، ص ۳۲۹.

③..... ”سنن الدار قطنی“، کتاب الحج، باب المواقیف، الحدیث: ۲۵۸۴، ج ۲، ص ۳۲۸.

④..... ”المسلک المتقسط“ للفقاری، (باب الحج عن الغیر)، ص ۴۳۳.

”ردالمحتار“، کتاب الحج، مطلب فیمن أخذ فی عبادتہ شیئاً من الدنیا، ج ۴، ص ۱۵.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة... إلخ، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ص ۶۹۶، ۶۹۷.

⑥..... ”جامع الترمذی“، أبواب الحج، ۸۷-باب، الحدیث: ۹۳۱، ج ۲، ص ۲۷۲.

مسئلہ ۱ عبادت تین قسم ہے: ① بدنی۔ ② مالی۔ ③ مرکب۔

عبادت بدنی میں نیابت نہیں ہو سکتی یعنی ایک کی طرف سے دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے نماز، روزہ۔

مالی میں نیابت بہر حال جاری ہو سکتی ہے جیسے زکاۃ و صدقہ۔

مرکب میں اگر عاجز ہو تو دوسرا اس کی طرف سے کر سکتا ہے ورنہ نہیں جیسے حج۔

رہا ثواب پہنچانا کہ جو کچھ عبادت کی اُس کا ثواب فلاں کو پہنچے، اس میں کسی عبادت کی تخصیص نہیں ہر عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ نماز، روزہ، زکاۃ، صدقہ، حج، تلاوت قرآن، ذکر، زیارت قبور، فرض و نفل سب کا ثواب زندہ یا مردہ کو پہنچا سکتا ہے اور یہ نہ سمجھا چاہیے کہ فرض کا پہنچا دیا تو اپنے پاس کیا رہ گیا کہ ثواب پہنچانے سے اپنے پاس سے کچھ نہ گیا، لہذا فرض کا ثواب پہنچانے سے پھر وہ فرض عود نہ کرے گا کہ یہ تو ادا کر چکا، اس کے ذمہ سے ساقط ہو چکا ورنہ ثواب کس شے کا پہنچاتا ہے۔^(۱) (ردالمحتار، عالمگیری)

اس سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ فاتحہ مرؤجہ جائز ہے کہ وہ ایصالِ ثواب ہے اور ایصالِ ثواب جائز بلکہ محمود، البتہ کسی معاوضہ پر ایصالِ ثواب کرنا مثلاً بعض لوگ کچھ لے کر قرآن مجید کا ثواب پہنچاتے ہیں یہ ناجائز ہے کہ پہلے جو پڑھ چکا ہے اس کا معاوضہ لیا، تو یہ بیع ہوئی اور بیع قطعاً باطل و حرام اور اگر اب جو پڑھے گا اس کا ثواب پہنچائے گا تو یہ اجارہ ہوا اور طاعت پر اجارہ باطل ہوا ان تین چیزوں کے جن کا بیان آئے گا۔^(۲) (ردالمحتار)

حج بدل کے شرائط

مسئلہ ۱ حج بدل کے لیے چند شرطیں ہیں:

- ① جو حج بدل کرانا ہو اس پر حج فرض ہو یعنی اگر فرض نہ تھا اور حج بدل کر لیا تو حج فرض ادا نہ ہوا، لہذا اگر بعد میں حج اس پر فرض ہوا تو یہ حج اس کے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ اگر عاجز ہو تو پھر حج کرائے اور قادر ہو تو خود کرے۔
- ② جس کی طرف سے حج کیا جائے وہ عاجز ہو یعنی وہ خود حج نہ کر سکتا ہو اگر اس قابل ہو کہ خود کر سکتا ہے، تو اس کی طرف سے نہیں ہو سکتا اگر چہ بعد میں عاجز ہو گیا، لہذا اس وقت اگر عاجز نہ تھا پھر عاجز ہو گیا تو اب دوبارہ حج کرائے۔

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب فی اهداء ثواب الاعمال للغير، ج ۴، ص ۱۲-۱۷.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغير ج ۱، ص ۲۵۷.

② "ردالمختار"، کتاب الحج، مطلب فی اهداء ثواب الاعمال، ج ۴، ص ۱۳.

③ وقت حج سے موت تک عذر برابر باقی رہے اگر درمیان میں اس قابل ہو گیا کہ خود حج کرے تو پہلے جو حج کیا جا چکا ہے وہ ناکافی ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی ایسا عذر تھا، جس کے جانے کی امید ہی نہ تھی اور اتفاقاً جاتا رہا تو وہ پہلا حج جو اس کی طرف سے کیا گیا کافی ہے مثلاً وہ نابینا ہے اور حج کرانے کے بعد انکھیا رہا ہو گیا تو اب دوبارہ حج کرانے کی ضرورت نہ رہی۔

④ جس کی طرف سے کیا جائے اس نے حکم دیا ہو بغیر اس کے حکم کے نہیں ہو سکتا۔ ہاں وارث نے مورث کی طرف سے کیا تو اس میں حکم کی ضرورت نہیں۔

⑤ مصارف اُس کے مال سے ہوں جس کی طرف سے حج کیا جائے، لہذا اگر مامور نے اپنا مال صرف کیا حج بدل نہ ہوا یعنی جب کہ تبرعاً ایسا کیا ہو اور اگر گل یا اکثر اپنا مال صرف کیا اور جو کچھ اس نے دیا ہے اتنا ہے کہ خرچ اس میں سے وصول کر لے گا تو ہو گیا اور اتنا نہیں کہ جو کچھ اپنا خرچ کیا ہے وصول کر لے گا تو اگر زیادہ حصہ اس کا ہے جس نے حکم دیا ہے تو ہو گیا ورنہ نہیں۔

مسئلہ ۲ اپنا اور اُس کا مال ایک میں ملا دیا اور جتنا اُس نے دیا تھا اتنا یا اس میں سے زیادہ حصہ کی برابر خرچ کیا تو حج بدل ہو گیا اور اس ملانے کی وجہ سے اُس پر تاوان لازم نہ آئے گا بلکہ اپنے ساتھیوں کے مال کے ساتھ بھی ملا سکتا ہے۔^(۱)
(عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ وصیت کی تھی کہ میرے مال سے حج کر دیا جائے اور وارث نے اپنے مال سے تبرعاً کرایا تو حج بدل نہ ہوا اور اگر اپنے مال سے حج کیا یوں کہ جو خرچ ہوگا ترکہ میں سے لے لے گا تو ہو گیا اور لینے کا ارادہ نہ ہو تو نہیں اور اجنبی نے حج بدل اپنے مال سے کر دیا تو نہ ہوا اگر چہ واپس لینے کا ارادہ ہو اگر چہ وہ خود اسی کو حج بدل کرنے کے لیے کہہ گیا ہو اور اگر یوں وصیت کی کہ میری طرف سے حج بدل کر دیا جائے اور یہ نہ کہا کہ میرے مال سے اور وارث نے اپنے مال سے حج کر دیا اگر چہ لینے کا ارادہ بھی نہ ہو، ہو گیا۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ میت کی طرف سے حج کرنے کے لیے مال دیا اور وہ کافی تھا مگر اُس نے اپنا مال بھی کچھ خرچ کیا ہے تو جو خرچ ہوا وصول کر لے اور اگر ناکافی تھا مگر اکثر میت کے مال سے صرف ہوا تو میت کی طرف سے ہو گیا، ورنہ نہیں۔^(۳)
(عالمگیری)

⑥ جس کو حکم دیا وہی کرے، دوسرے سے اُس نے حج کرایا تو نہ ہوا۔

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۲۵۷. و "ردالمحتار"، کتاب

الحج، باب الحج عن الغیر، مطلب فی الاستحجار علی الحج، ج ۴، ص ۲۳. ②..... "ردالمحتار"، کتاب الحج، ج ۴، ص ۲۸.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۲۵۷.

مسئلہ ۵ میت نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے فلاں شخص حج کرے اور وہ مر گیا یا اُس نے انکار کر دیا، اب دوسرے سے حج کرایا گیا تو جائز ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

⑦ سواری پر حج کو جائے پیدل حج کیا تو نہ ہوا، لہذا سواری میں جو کچھ صرف ہوا دینا پڑے گا۔ ہاں اگر خرچ میں کمی پڑی تو پیدل بھی ہو جائے گا۔ سواری سے مراد یہ ہے کہ اکثر راستہ سواری پر قطع کیا ہو۔

⑧ اس کے وطن سے حج کو جائے۔

⑨ میقات سے حج کا احرام باندھے اگر اس نے اس کا حکم کیا ہو۔

⑩ اُس کی نیت سے حج کرے اور افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ^(۲) کہہ لے اور اگر اس کا نام

بھول گیا ہے تو یہ نیت کر لے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی طرف سے کرتا ہوں اور ان کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں جو ضمناً مذکور ہوگی۔ یہ شرطیں جو مذکور ہوئیں حج فرض میں ہیں، حج نفل ہو تو ان میں سے کوئی شرط نہیں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ احرام باندھتے وقت یہ نیت نہ تھی کہ کس کی طرف سے حج کرتا ہوں تو جب تک حج کے افعال شروع نہ کیے اختیار ہے کہ نیت کر لے۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ جس کو بھیجے اس سے یوں نہ کہے کہ میں نے تجھے اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے اجیر بنایا یا نوکر رکھا کہ عبادت پر اجارہ کیسا، بلکہ یوں کہے کہ میں نے اپنی طرف سے تجھے حج کے لیے حکم دیا اور اگر اجارہ کا لفظ کہا جب بھی حج ہو جائے گا مگر اجرت کچھ نہ ملے گی صرف مصارف ملیں گے۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ حج بدل کی سب شرطیں جب پائی جائیں تو جس کی طرف سے کیا گیا اس کا فرض ادا ہوا اور یہ حج کرنے والا بھی ثواب پائے گا مگر اس حج سے اُس کا حجۃ الاسلام ادا نہ ہوگا۔^(۶) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ بہتر یہ ہے کہ حج بدل کے لیے ایسا شخص بھیجا جائے جو خود حجۃ الاسلام (حج فرض) ادا کر چکا ہو اور اگر ایسے کو

① "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغير، مطلب في الفرق بين العبادۃ والقربة والطاعة، ج ۴، ص ۱۹.

② فلاں کی جگہ جس کے نام پر حج کرنا چاہتا ہے اُس کا نام لے مثلاً لَبَّيْكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

③ "ردالمحتار"، کتاب الحج، مطلب شروط الحج عن الغير عشرون، ج ۴، ص ۲۰.

④ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغير، مطلب في الفرق بين العبادۃ والقربة والطاعة، ج ۴، ص ۱۸.

⑤ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغير، مطلب في الاستحجار على الحج، ج ۴، ص ۲۲.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغير، مطلب في الاستحجار على الحج، ج ۴، ص ۲۴.

بھیجا جس نے خود نہیں کیا ہے، جب بھی حج بدل ہو جائے گا۔⁽¹⁾ (عالمگیری) اور اگر خود اس پر حج فرض ہو اور ادا نہ کیا ہو تو اسے بھیجنا مکروہ تحریمی ہے۔⁽²⁾ (منک)

مسئلہ ۱۰ - افضل یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجیں جو حج کے طریقے اور اس کے افعال سے آگاہ ہو اور بہتر یہ ہے کہ آزاد مرد ہو اور اگر آزاد عورت یا غلام یا باندی یا مراہق یعنی قریب البلوغ بچہ سے حج کرایا جب بھی ادا ہو جائے گا۔⁽³⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۱ - مجنون یا کافر (مثلاً وہابی زمانہ وغیرہ) کو بھیجا تو ادا نہ ہوا کہ یہ اس کے اہل ہی نہیں۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۲ - دو شخصوں نے ایک ہی کو حج بدل کے لیے بھیجا، اس نے ایک حج میں دونوں کی طرف سے لبیک کہا تو دونوں میں کسی کی طرف سے نہ ہوا بلکہ اس حج کرنے والے کا ہوا اور دونوں کو تاوان دے اور اب اگر چاہے کہ دونوں میں سے ایک کے لیے کر دے تو یہ بھی نہیں کر سکتا اور اگر ایک کی طرف سے لبیک کہا مگر یہ معین نہ کیا کہ کس کی طرف سے تو اگر یوہیں مبہم رکھا جب بھی کسی کا نہ ہو اور اگر بعد میں یعنی افعال حج ادا کرنے سے پہلے معین کر دیا تو جس کے لیے کیا اس کا ہو گیا اور اگر احرام باندھتے وقت کچھ نہ کہا کہ کس کی طرف سے ہے نہ معین نہ مبہم جب بھی یہی دونوں صورتیں ہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ - ماں باپ دونوں کی طرف سے حج کیا تو اسے اختیار ہے کہ اس حج کو باپ کے لیے کر دے یا ماں کے لیے اور اس کا حج فرض ادا ہوگا یعنی جب کہ ان دونوں نے اسے حکم نہ کیا اور اگر حج کا حکم دیا ہو تو اس میں بھی وہی احکام ہیں جو اوپر مذکور ہوئے اور اگر بغیر کہے اپنے آپ دو شخصوں کی طرف سے حج نفل کا احرام باندھا تو اختیار ہے جس کے لیے چاہے کر دے مگر اس سے اس کا فرض ادا نہ ہوگا جب کہ وہ اجنبی ہے۔ یوہیں ثواب پہنچانے کا بھی اختیار ہے بلکہ ثواب تو دونوں کو پہنچا سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۴ - حج فرض ہونے کے بعد مجنون ہو گیا تو اس کی طرف سے حج بدل کرایا جاسکتا ہے۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر فی الوصیۃ بالحج، ج ۱، ص ۲۵۷.

② "المسئلۃ المتقسط" للفقاری، (باب الحج عن الغیر)، ص ۴۵۳.

③ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۴، ص ۲۵، وغیرہ.

④ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۴، ص ۲۶.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۲۵۷.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۲۵۷.

و"ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر مطلب العمل علی القیاس دون الاستحسان هنا، ج ۴، ص ۳۱.

⑦ "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر مطلب شروط الحج عن الغیر عشرون، ج ۴، ص ۲۱.

مسئلہ ۱۵ - صرف حج یا صرف عمرہ کو کہا تھا اُس نے دونوں کا احرام باندھا، خواہ دونوں اُسی کی طرف سے کیے یا ایک اس کی طرف سے، دوسرا اپنی یا کسی اور کی طرف سے بہر حال اس کا حج ادا نہ ہوا تاوان دینا آئے گا۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ - حج کے لیے کہا تھا اُس نے عمرہ کا احرام باندھا، پھر مکہ معظمہ سے حج کا جب بھی اُس کی مخالفت ہوئی لہذا تاوان دے۔^(۲) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ - حج کے لیے کہا تھا اُس نے حج کرنے کے بعد عمرہ کیا یا عمرہ کے لیے کہا تھا اس نے عمرہ کر کے حج کیا، تو اس میں مخالفت نہ ہوئی اُس کا حج یا عمرہ ادا ہو گیا۔ مگر اپنے حج یا عمرہ کے لیے جو خرچ کیا خود اس کے ذمہ ہے، بھیجنے والے پر نہیں اور اگر اولٹا کیا یعنی جو اُس نے کہا اسے بعد میں کیا تو مخالفت ہوگئی، اس کا حج یا عمرہ ادا نہ ہوا تاوان دے۔^(۳) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۸ - ایک شخص نے اس سے حج کو کہا دوسرے نے عمرہ کو مگر ان دونوں نے جمع کرنے کا حکم نہ دیا تھا، اس نے دونوں کو جمع کر دیا تو دونوں کا مال واپس دے اور اگر یہ کہہ دیا تھا کہ جمع کر لینا تو جائز ہو گیا۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ - افضل یہ ہے کہ جسے حج بدل کے لیے بھیجا جائے، وہ حج کر کے واپس آئے اور جانے آنے کے مصارف بھیجنے والے پر ہیں اور اگر وہیں رہ گیا جب بھی جائز ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ - حج کے بعد قافلہ کے انتظار میں جتنے دن ٹھہرنا پڑے، ان دنوں کے مصارف بھیجنے والے کے ذمہ ہیں اور اس سے زائد ٹھہرنا ہو تو خود اس کے ذمہ مگر جب وہاں سے چلا تو واپسی کے مصارف بھیجنے والے پر ہیں اور اگر مکہ معظمہ میں بالکل رہنے کا ارادہ کر لیا تو اب واپسی کے اخراجات بھی بھیجنے والے پر نہیں۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ - جس کو بھیجا وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہو گیا اور حج فوت ہو گیا تو تاوان لازم ہے، پھر اگر سال آئندہ اس نے اپنے مال سے حج کر دیا تو کافی ہو گیا اور اگر وقوفِ عرفہ سے پہلے جماع کیا جب بھی یہی حکم ہے اور اُسے اپنے مال سے سال آئندہ حج و عمرہ کرنا ہوگا اور اگر وقوف کے بعد جماع کیا تو حج ہو گیا اور اُس پر اپنے مال سے دم دینا لازم اور اگر غیر اختیاری آفت

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۲۵۸.

② المرجع السابق. و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، مطلب العمل علی القیاس... إلخ، ج ۴، ص ۳۶.

③ المرجع السابق.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۲۵۸.

⑤ المرجع السابق. ⑥ المرجع السابق.

میں مبتلا ہو گیا تو جو کچھ پہلے خرچ ہو چکا ہے، اُس کا تاوان نہیں مگر واپسی میں اب اپنا مال خرچ کرے۔⁽¹⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ - نزدیک راستہ چھوڑ کر دُور کی راہ سے گیا، کہ خرچ زیادہ ہوا اگر اس راہ سے حاجی جایا کرتے ہیں تو اس کا اُسے اختیار ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ - مرض یا دشمن کی وجہ سے حج نہ کر سکا یا اور کسی طرح پر مُحصِر ہوا تو اس کی وجہ سے جو دم لازم آیا، وہ اُس کے ذمہ ہے جس کی طرف سے گیا اور باقی ہر قسم کے دم اس کے ذمہ ہیں۔ مثلاً سلا ہوا کپڑا پہنایا خوشبو لگائی یا بغیر احرام میقات سے آگے بڑھا یا شکار کیا یا بھیجنے والے کی اجازت سے قرآن و تمتع کیا۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۴ - جس پر حج فرض ہو یا قضا یا منت کا حج اُس کے ذمہ ہو اور موت کا وقت قریب آ گیا تو واجب ہے کہ وصیت کر جائے۔⁽⁴⁾ (منک)

مسئلہ ۲۵ - جس پر حج فرض ہے اور نہ ادا کیا نہ وصیت کی تو بالاجماع گنہگار ہے، اگر وارث اُس کی طرف سے حج بدل کرانا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ادا ہو جائے اور اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال سے کرایا جائے اگر چہ اُس نے وصیت میں تہائی کی قید نہ لگائی۔ مثلاً یہ کہہ مرا کہ میری طرف سے حج بدل کرایا جائے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۶ - تہائی مال کی مقدار اتنی ہے کہ وطن سے حج کے مصارف کے لیے کافی ہے تو وطن ہی سے آدمی بھیجا جائے، ورنہ بیرون میقات جہاں سے بھی اُس تہائی سے بھیجا جاسکے۔ یوہیں اگر وصیت میں کوئی رقم معین کر دی ہو تو اس رقم میں اگر وہاں سے بھیجا جاسکتا ہے تو بھیجا جائے ورنہ جہاں سے ہو سکے اور اگر وہ تہائی یا وہ رقم معین بیرون میقات کہیں سے بھی کافی نہیں تو وصیت باطل۔⁽⁶⁾ (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۲۵۸.

و "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۴، ص ۳۶.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۲۵۸.

③ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۴، ص ۳۶-۳۷.

④ "باب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب الحج عن الغیر)، ص ۴۳۴.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۲۵۸.

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۲۵۹.

و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر مطلب العمل علی القیاس... إلخ، ج ۴، ص ۳۷.

مسئلہ ۲۷ کوئی شخص حج کو چلا اور راستہ میں یا مکہ معظمہ میں وقوف عرفہ سے پہلے اُس کا انتقال ہو گیا تو اگر اسی سال اُس پر حج فرض ہوا تھا تو وصیت واجب نہیں اور اگر وقوف کے بعد انتقال ہوا تو حج ہو گیا، پھر اگر طوافِ فرض باقی ہے اور وصیت کر گیا کہ اُس حج پورا کر دیا جائے تو اُس کی طرف سے بدنہ کی قربانی کر دی جائے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ راستہ میں انتقال ہوا اور حج بدل کی وصیت کر گیا تو اگر کوئی رقم یا جگہ معین کر دی ہے تو اس کے کہنے کے موافق کیا جائے، اگر چہ اس کے مال کی تہائی اتنی تھی کہ اُس کے وطن سے بھیجا جاسکتا اور اس نے غیر وطن سے بھیجنے کی وصیت کی یا وہ رقم اتنی تہائی کہ اس میں وطن سے نہیں جایا جاسکتا تو گنہگار ہوا اور معین نہ کی تو وطن سے بھیجا جائے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ وصی نے یعنی جس کو کہہ گیا کہ تو میری طرف سے حج کر دینا، غیر جگہ سے بھیجا اور تہائی اتنی تھی کہ وطن سے بھیجا جاسکتا ہے تو یہ حج میت کی طرف سے نہ ہوا بلکہ وصی کی طرف سے ہوا، لہذا میت کی طرف سے یہ شخص دوبارہ اپنے مال سے حج کرائے مگر جب کہ وہ جگہ جہاں سے بھیجا ہے وطن سے قریب ہو کہ وہاں جا کر رات کے آنے سے پہلے واپس آسکتا ہو تو ہو جائے گا۔^(۳) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ مال اس قابل نہیں کہ وطن سے بھیجا جائے تو جہاں سے ہو سکے بھیجیں، پھر اگر حج کے بعد کچھ بچ رہا جس سے معلوم ہوا کہ اوراد ہر سے بھیجا جاسکتا تھا تو وصی پر اس کا تاوان ہے، لہذا دوبارہ حج بدل وہاں سے کرائے جہاں سے ہو سکتا تھا مگر جب کہ بہت تھوڑی مقدار بچی مثلاً توشہ وغیرہ۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ اگر اس کے لیے وطن نہ ہو تو جہاں انتقال ہوا وہاں سے حج کو بھیجا جائے اور اگر متعدد وطن ہوں تو ان میں جو جگہ مکہ معظمہ سے زیادہ قریب ہو وہاں سے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ اگر یہ کہہ گیا کہ تہائی مال سے ایک حج کر دینا تو ایک حج کرادیں اور چند حج کی وصیت کی اور ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو ایک حج کرادیں اس کے بعد جو بچے وارث لے لیں اور اگر یہ وصیت کی کہ میرے مال کی تہائی سے حج کرایا

① "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغير مطلب في حج الصرورة، ج ۴، ص ۲۷.

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغير مطلب في حج الصرورة، ج ۴، ص ۲۷.

③ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر في الوصیۃ بالحج، ج ۱، ص ۲۵۹.

و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغير مطلب العمل علی القیاس دون الاستحسان هنا، ج ۴، ص ۲۷.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر في الوصیۃ بالحج، ج ۱، ص ۲۵۹.

⑤ المرجع السابق.

جائے یا کئی حج کرائے جائیں اور کئی ہو سکتے ہیں تو جتنے ہو سکتے ہیں کرائے جائیں، اب اگر کچھ بچ رہا جس سے وطن سے نہیں بھیجا جاسکتا تو جہاں سے ہو سکے اور کئی حج کی صورت میں اختیار ہے کہ سب ایک ہی سال میں ہوں یا کئی سال میں اور بہتر اول ہے۔ یوہیں اگر یوں وصیت کی کہ میرے مال کی تہائی سے ہر سال ایک حج کرایا جائے تو اس میں بھی اختیار ہے کہ سب ایک ساتھ ہوں یا ہر سال ایک اور اگر یوں کہا کہ میرے مال میں ہزار روپے سے حج کرایا جائے تو اس میں جتنے حج ہو سکیں کرادیے جائیں۔ (1) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۳ اگر وصی سے یہ کہا کہ کسی کو مال دے کر میری طرف سے حج کرادینا تو وصی خود اس کی طرف سے حج بدل نہیں کر سکتا اور اگر یہ کہا کہ میری طرف سے حج بدل کرادیا جائے تو وصی خود بھی کر سکتا ہے اور اگر وصی وارث بھی ہے یا وصی نے وارث کو مال دے دیا کہ وہ وارث حج بدل کرے تو اب باقی ورثہ اگر بالغ ہوں اور ان کی اجازت سے ہو تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ حج کی وصیت کی تھی اس کے انتقال کے بعد حج کے مصارف نکالنے کے بعد ورثہ نے مال تقسیم کر لیا، پھر وہ مال جو حج کے لیے نکالا تھا ضائع ہو گیا تو اب جو باقی ہے اس کی تہائی سے حج کا خرچ نکالیں پھر اگر تلف ہو جائے تو بقیہ کی تہائی سے وعلیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ مال ختم ہو جائے اور وہ مال وصی کے پاس سے ضائع ہوا ہو یا اس کے پاس سے جس کو حج کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں دونوں کا ایک حکم ہے۔ (3) (منک)

مسئلہ ۳۵ جسے حج کرنے کو بھیجا و قوف عرفہ سے پیشتر اس کا انتقال ہو گیا یا مال چوری گیا پھر جو مال باقی رہ گیا، اس کی تہائی سے دوبارہ وطن سے حج کرنے کے لیے کسی کو بھیجا جائے اور اگر اتنے میں وطن سے نہیں بھیجا جاسکتا تو جہاں سے ہو سکے اور اگر دوسرا شخص بھی مر گیا یا پھر مال چوری ہو گیا تو اب جو کچھ مال ہے، اس کی تہائی سے بھیجا جائے اور یکے بعد دیگرے یوہیں کرتے رہیں، یہاں تک کہ مال کی تہائی اس قابل نہ رہی کہ اس سے حج ہو سکے تو وصیت باطل ہوگئی اور اگر قوف عرفہ کے بعد مرا تو وصیت پوری ہوگئی۔ (4) (درمختار وغیرہ)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر فی الوصیۃ بالحج، ج ۱، ص ۲۵۹.

و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر مطلب العمل علی القیاس دون الاستحسان ہنا، ج ۴، ص ۲۷.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر فی الوصیۃ بالحج، ج ۱، ص ۲۵۹.

③ "باب المناسک" و "المسلک المتقسط"، (باب الحج عن الغیر)، ص ۴۵۴-۴۵۵.

④ "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۴، ص ۳۷، وغیرہ.

مسئلہ ۳۶ جسے بھیجا تھا وہ وقوف کر کے بغیر طواف کیے واپس آیا تو میت کا حج ہو گیا مگر اسے عورت کے پاس جانا حلال نہیں، اُسے حکم ہے کہ اپنے خرچ سے واپس جائے اور جو افعال باقی ہیں ادا کرے۔^(۱) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۳۷ وصی نے کسی کو اس سال حج بدل کے لیے مقرر کیا اور خرچ بھی دے دیا مگر وہ اس سال نہ گیا، سال آئندہ جا کر ادا کیا تو ہو گیا اُس پر تاوان نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ جسے بھیجا وہ مکہ معظمہ میں جا کر بیمار ہو گیا اور سارا مال خرچ ہو گیا تو وصی کے ذمہ واپسی کے لیے خرچ بھیجنا لازم نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ جسے حج کے لیے مقرر کیا وہ بیمار ہو گیا تو اُسے یہ اختیار نہیں کہ دوسرے کو بھیج دے، ہاں اگر بھیجنے والے نے اُسے اجازت دیدی ہو تو دوسرے کو بھیج سکتا ہے۔ لہذا بھیجتے وقت چاہیے کہ یہ اجازت دیدی جائے۔^(۴) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۴۰ اگر اس سے یہ کہہ دیا کہ خرچ ختم ہو جائے تو قرض لے لینا اور اُس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے تو جائز ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۴۱ احرام کے بعد راستہ میں مال چوری گیا، اُس نے اپنے پاس سے خرچ کر کے حج کیا اور واپس آیا تو بغیر حکم قاضی بھیجنے والے سے وصول نہیں کر سکتا۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۴۲ یہ وصیت کی کہ فلاں شخص میری طرف سے حج کرے اور وہ شخص مر گیا تو کسی اور کو بھیج دیں مگر جب کہ حصر کر دیا ہو کہ وہی کرے دوسرا نہیں تو مجبوری ہے۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۴۳ ایک شخص نے اپنی طرف سے حج بدل کے لیے خرچ دے کر بھیجا، بعد اس کے اس کا انتقال ہو گیا اور حج کی وصیت نہ کی تو وارث اُس شخص سے مال واپس لے سکتے ہیں اگرچہ احرام باندھ چکا ہو۔^(۸) (درمختار)

① "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر فی الوصیۃ بالحج، ج ۱، ص ۲۶۰.

② المرجع السابق. ③ المرجع السابق.

④ المرجع السابق. و "الدر المختار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۴، ص ۲۶.

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر فی الوصیۃ بالحج، ج ۱، ص ۲۶۰.

⑥ المرجع السابق. ⑦ المرجع السابق.

⑧ "الدر المختار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۴، ص ۴۰.

مسئلہ ۳۳ مصارفِ حج سے مراد وہ چیز ہیں جن کی سفرِ حج میں ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً کھانا پانی، راستہ میں پہننے کے کپڑے، احرام کے کپڑے، سواری کا کرایہ، مکان کا کرایہ، مشکیزہ، کھانے پینے کے برتن، جلانے اور سر میں ڈالنے کا تیل، کپڑے دھونے کے لیے صابون، پہرا دینے والے کی اجرت، حجامت کی بنوائی غرض جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کے اخراجات متوسطہ کہ نہ فضول خرچی ہو، نہ بہت کمی اور اُس کو یہ اختیار نہیں کہ اس مال میں سے خیرات کرے یا کھانا فقیروں کو دیدے یا کھاتے وقت دوسروں کو بھی کھلائے ہاں اگر بھیجنے والے نے ان اُمور کی اجازت دیدی ہو تو کر سکتا ہے۔^(۱) (الباب)

مسئلہ ۳۵ جس کو بھیجا ہے اگر وہ اپنا کام اپنے آپ کیا کرتا تھا اور اب خادم سے کام لیا تو اس کا خرچ خود اس کے ذمہ ہے اور اگر خود نہیں کرتا تھا تو بھیجنے والے کے ذمہ۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ حج سے واپسی کے بعد جو کچھ بچا واپس کر دے، اُسے رکھ لینا جائز نہیں اگرچہ وہ کتنی ہی تھوڑی سی چیز ہو، یہاں تک کہ توشہ میں سے جو کچھ بچا وہ اور کپڑے اور برتن غرض تمام سامان واپس کر دے بلکہ اگر شرط کر لی ہو کہ جو بچے گا واپس نہ کروں گا جب بھی کہ یہ شرط باطل ہے مگر دو صورتوں میں، اول یہ کہ بھیجنے والا اسے وکیل کر دے کہ جو بچے اُسے اپنے کو تو ہبہ کر دینا اور قبضہ کر لینا، دوم یہ کہ اگر قریب بمرگ ہو تو اُسے وصیت کر دے کہ جو بچے اُس کی میں نے تجھے وصیت کی اور اگر یوں وصیت کی کہ وصی سے کہہ دیا کہ جو بچے وہ اُس کے لیے ہے جو بھیجا جائے یا تو جسے چاہے دیدے تو یہ وصیت باطل ہے وارث کا حق ہو جائے گا اور واپس کرنا پڑے گا۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۷ یہ وصیت کی کہ ایک ہزار فلاں کو دیا جائے اور ایک ہزار مسکینوں کو اور ایک ہزار سے حج کرایا جائے اور ترکہ کی تہائی کل دو ہزار ہے تو دو ہزار میں برابر برابر کے تین حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ تو اُسے دیں جس کے لیے کہا اور حج و مساکین کے دونوں حصے ملا کر جتنے سے حج ہو سکے حج کرایا جائے اور جو بچے مسکینوں کو دیا جائے۔^(۴) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۳۸ زکاۃ حج اور کسی کو دینے کی وصیت کی تو تہائی کے تین حصے کریں اور زکاۃ حج میں جسے اُس نے پہلے کہا اُسے پہلے کریں۔ اُس سے جو بچے دوسرے میں صرف کریں، فرض اور منت کی وصیت کی تو فرض مقدم ہے اور نفل و نذر میں نذر

① "الباب المناسک"، (باب الحج عن الغير، فصل فی النفقة)، ص ۴۵۶-۴۵۷.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر فی الوصیۃ بالحج، ج ۱، ص ۲۶۰.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغير مطلب العمل علی القیاس... إلخ، ج ۴، ص ۳۸.

④ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر فی الوصیۃ بالحج، ج ۱، ص ۲۶۰، وغیرہ.

مقدم ہے اور سب فرض یا نفل یا واجب ہیں تو مقدم وہ ہے جسے اُس نے پہلے کہا۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

ہدی کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۗ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۗ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيُذَكَّرُوا فِيهَا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ﴾⁽²⁾

اور جو اللہ (عزوجل) کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں ایک مقرر میعاد تک فائدے ہیں پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی کہ اللہ (عزوجل) کا نام ذکر کریں، اُن بے زبان چوپایوں پر جو اُس نے انھیں دیے۔

اور فرماتا ہے:

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِبَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۗ لَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَسْأَلُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۗ﴾⁽³⁾

اور قربانی کے اونٹ، گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ (عزوجل) کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو اُن پر اللہ (عزوجل) کا نام لو، ایک پاؤں بندھے، تین پاؤں سے کھڑے پھر جب اُن کی کروٹیں گر جائیں تو اُن میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ یوہیں ہم نے ان کو تمہارے قابو میں کر دیا کہ تم احسان مانو، اللہ (عزوجل) کو ہرگز نہ اُن کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ اُن کے خون، ہاں اُس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یوہیں اُن کو تمہارے قابو میں کر دیا کہ تم اللہ (عزوجل) کی بڑائی بولو، اُس پر کہ اُس نے تمہیں ہدایت فرمائی اور خوشخبری پہنچا دینیکی کرنے والوں کو۔

①..... "رد المحتار"، کتاب الحج، باب الحج عن الغير، ج ۴، ص ۴۱.

②..... پ ۱۷، الحج: ۳۲-۳۴.

③..... پ ۱۷، الحج: ۳۶-۳۷.

احادیث

حدیث ۱ صحیحین میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہتی ہیں: میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار اپنے ہاتھ سے بنائے پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اُن کے گلوں میں ڈالے اور اُن کے کوہان چیرے اور حرم کو روانہ کیں۔^(۱)

حدیث ۲ صحیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دسویں ذی الحجہ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ اور دوسری روایت میں ہے۔ کہ ازواجِ مطہرات کی طرف سے حج میں گائے ذبح کی۔^(۲)

حدیث ۳ صحیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: کہ ”جب تو مجبور ہو جائے تو ہدی پر معروف کے ساتھ سوار ہو، جب تک دوسری سواری نہ ملے۔“^(۳)

حدیث ۴ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سولہ اونٹ ایک شخص کے ساتھ حرم کو بھیجے۔ انھوں نے عرض کی، ان میں سے اگر کوئی تھک جائے تو کیا کروں؟ فرمایا: ”اُسے نحر کر دینا اور خون سے اُس کے پاؤں رنگ دینا اور پہلو پر اُس کا چھاپا لگا دینا اور اس میں سے تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی نہ کھائے۔“^(۴)

حدیث ۵ صحیحین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانوروں پر مامور فرمایا اور مجھے حکم فرمایا: کہ ”گوشت اور کھالیں اور جھول تصدق کر دوں اور قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دوں۔ فرمایا کہ ہم اُسے اپنے پاس سے دیں گے۔“^(۵)

حدیث ۶ ابوداؤد عبد اللہ بن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ پانچ یا چھ اونٹ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں قربانی کے لیے پیش کیے گئے، وہ سب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے قریب ہونے لگے کہ کس سے شروع فرمائیں (یعنی ہر

① ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب استحباب بحث الہدیٰ الی الحرم... إلخ، الحدیث: ۳۶۲- (۱۳۲۱)، ص ۶۸۶.

② ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب جواز الاشتراك فی الہدیٰ... إلخ، الحدیث: ۳۵۶- (۱۳۱۹)، ۳۵۷- (۱۳۱۹)، ص ۶۸۴، ۶۸۵.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة... إلخ، الحدیث: ۱۳۲۴، ص ۶۸۸.

④ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب ما یفعل بالہدیٰ إذا عطب فی الطریق، الحدیث: ۱۳۲۵، ص ۶۸۸.

⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب الصدقة بلحوم الہدیٰ... إلخ، الحدیث: ۱۳۱۷، ص ۶۸۳.

ایک کی یہ خواہش تھی کہ پہلے مجھے ذبح فرمائیں یا اس لیے کہ پہلے جسے چاہیں ذبح فرمائیں) پھر جب اُن کی کروٹیں زمین سے لگ گئیں تو فرمایا: ”جو چاہے ٹکڑا لے لے۔“ (1)

مسئلہ ۱ - ہدی اُس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے۔ یہ تین قسم کے جانور ہیں: ① بکری، اس میں بھیڑ اور ذنب بھی داخل ہے۔ ② گائے، بھینس بھی اسی میں شمار ہے۔ ③ اونٹ۔ ہدی کا ادنیٰ درجہ بکری ہے تو اگر کسی نے حرم کو قربانی بھیجنے کی منت مانی اور معین نہ کی تو بکری کافی ہے۔ (2) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲ - قربانی کی نیت سے بھیجا یا لے گیا جب تو ظاہر ہے کہ قربانی ہے اور اگر بدنہ کے گلے میں ہار ڈال کر ہانکا جب بھی ہدی ہے اگرچہ نیت نہ ہو۔ اس لیے کہ اس طرح قربانی ہی کو لے جاتے ہیں۔ (3) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - قربانی کے جانور میں جو شرطیں ہیں وہ ہدی کے جانور میں بھی ہیں مثلاً اونٹ پانچ سال کا، گائے دو سال کی، بکری ایک سال کی مگر بھیڑ ذنب چھ مہینے کا اگر سال بھر والی کی مثل ہو تو ہو سکتا ہے اور اونٹ گائے میں یہاں بھی سات آدمی کی شرکت ہو سکتی ہے۔ (4) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۴ - اونٹ، گائے کے گلے میں ہار ڈال دینا مسنون ہے اور بکری کے گلے میں ہار ڈالنا سنت نہیں مگر صرف شکرانہ یعنی تمتع و قرآن اور نفل اور منت کی قربانی میں سنت ہے، احصار اور جرمانہ کے دم میں نہ ڈالیں۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ - ہدی اگر قرآن یا تمتع کا ہو تو اس میں سے کچھ کھالینا بہتر ہے۔ یوہیں اگر نفل ہو اور حرم کو پہنچ گیا ہو اور اگر حرم کو نہ پہنچا تو خود نہیں کھا سکتا، فقرا کا حق ہے اور ان تین کے علاوہ نہیں کھا سکتا اور جسے خود کھا سکتا ہے، مالداروں کو بھی کھا سکتا ہے، نہیں تو نہیں اور جس کو کھا نہیں سکتا اس کی کھال وغیرہ سے بھی نفع نہیں لے سکتا۔ (6) (درمختار)

مسئلہ ۶ - تمتع و قرآن کی قربانی دسویں سے پہلے نہیں ہو سکتی اور دسویں کے بعد کی تو ہو جائے گی مگر دم لازم ہے کہ تاخیر جائز نہیں اور ان دو کے علاوہ کے لیے کوئی دن معین نہیں اور بہتر دسویں ہے۔ حرم میں ہونا سب میں ضروری ہے، منیٰ کی

① ”منن ابی داود“، کتاب المناسک، ۱۸۔ باب، الحدیث: ۱۷۶۵، ج ۲، ص ۲۱۱۔

② ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۴۱، وغیرہ۔

③ ”ردالمحتار“، کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۴۲۔

④ ”الدرالمختار“، کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۴۲، وغیرہ۔

⑤ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب المناسک، الباب السادس عشر فی الہدی، ج ۱، ص ۲۶۱۔

⑥ ”الدرالمختار“، کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۴۵۔

خصوصیت نہیں ہاں دسویں کو ہو تو منی میں ہونا سنت ہے اور دسویں کے بعد مکہ میں۔ منت کے بدنہ کا حرم میں ذبح ہونا شرط نہیں جبکہ منت میں حرم کی شرط نہ لگائی۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ ۷ ہدی کا گوشت حرم کے مساکین کو دینا بہتر ہے، اس کی تکمیل اور جھول کو خیرات کر دیں اور قصاب کو اس کے گوشت میں سے کچھ نہ دیں۔ ہاں اگر اُسے بطور تصدق دیں تو حرج نہیں۔⁽²⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۸ ہدی کے جانور پر بلا ضرورت سوار نہیں ہو سکتا نہ اس پر سامان لاد سکتا ہے اگرچہ نفل ہو اور ضرورت کے وقت سوار ہو یا سامان لاد اور اس کی وجہ سے اُس میں کچھ نقصان آیا تو اتنا محتاجوں پر تصدق کرے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ اگر وہ دودھ والا جانور ہے تو دودھ نہ دو ہے اور تھن پر ٹھنڈا پانی چھڑک دیا کرے کہ دودھ موقوف ہو جائے اور اگر ذبح میں وقفہ ہو اور نہ دوہنے سے ضرر ہوگا تو دوہ کر دودھ خیرات کر دے اور اگر خود کھالیا یا غنی کو دید یا یا ضائع کر دیا تو اتنا ہی دودھ یا اس کی قیمت مساکین پر تصدق کرے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ اگر وہ بچہ جنی تو بچہ کو تصدق کر دے یا اُسے بھی اُس کے ساتھ ذبح کر دے اور اگر بچہ کو بیچ ڈالا یا ہلاک کر دیا تو قیمت کو تصدق کرے اور اس قیمت سے قربانی کا جانور خرید لیا تو بہتر ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ غلطی سے اُس نے دوسرے کے جانور کو ذبح کر دیا اور دوسرے نے اُس کے جانور کو تو دونوں کی قربانیاں ہو گئیں۔⁽⁶⁾ (منک)

مسئلہ ۱۲ اگر جانور حرم کو لے جا رہا تھا راستہ میں مرنے لگا تو اُسے وہیں ذبح کر ڈالے اور خون سے اُس کا ہارنگ دے اور کوہان پر چھاپا لگا دے تاکہ اُسے مالدار لوگ نہ کھائیں، فقرا ہی کھائیں پھر اگر وہ نفل تھا تو اُس کے بدلے کا دوسرا جانور لے جانا ضرور نہیں اور اگر واجب تھا تو اس کے بدلے کا دوسرا لے جانا واجب ہے اور اگر اس میں کوئی ایسا عیب آ گیا کہ قربانی

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۴۷.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب السادس عشر فی الہدی، ج ۱، ص ۲۶۱.

② "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۴۷، وغیرہ.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب السادس عشر فی الہدی، ج ۱، ص ۲۶۱.

④ المرجع السابق. و "ردالمحتار" کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۴۸.

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب السادس عشر فی الہدی، ج ۱، ص ۲۶۱.

⑥ "باب المناسک"، (باب الہدایا)، ص ۴۷۴.

کے قابل نہ رہا تو اسے جو چاہے کرے اور اُس کے بدلے دوسرا لے جائے جب کہ واجب ہو۔⁽¹⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۳ - جانور حرم کو پہنچ گیا اور وہاں مرنے لگا تو اسے ذبح کر کے مساکین پر تصدق کرے اور خود نہ کھائے اگرچہ

نفل ہو اور اگر اس میں تھوڑا سا نقصان پیدا ہوا ہے کہ ابھی قربانی کے قابل ہے تو قربانی کرے اور خود بھی کھا سکتا ہے۔⁽²⁾

(عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ - جانور چوری گیا اُس کے بدلے کا دوسرا خرید اور اُسے ہار ڈال کر لے چلا پھر وہ مل گیا تو بہتر یہ ہے کہ

دونوں کی قربانی کر دے اور اگر پہلے کی قربانی کی اور دوسرے کو بیچ ڈالا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر پچھلے کو ذبح کیا اور پہلے کو بیچ ڈالا تو

اگر وہ اُس کی قیمت میں برابر تھا یا زیادہ تو کافی ہے اور کم ہے تو جتنی کمی ہوئی صدقہ کر دے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

حج کی منت کا بیان

حج کی منت مانی تو حج کرنا واجب ہو گیا، کفارہ دینے سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ خواہ یوں کہا کہ اللہ (عزوجل) کے لیے مجھ

پر حج ہے یا کسی کام کے ہونے پر حج کو مشروط کیا اور وہ ہو گیا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱ - احرام باندھنے یا کعبہ معظمہ یا مکہ مکرمہ جانے کی منت مانی تو حج یا عمرہ اُس پر واجب ہے اور ایک کو معین

کر لینا اُس کے ذمہ ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲ - پیدل حج کرنے کی منت مانی تو واجب ہے کہ گھر سے طوافِ فرض تک پیدل ہی رہے اور پورا سفر یا اکثر

سواری پر کیا تو دم دے اور اگر اکثر پیدل رہا اور کچھ سواری پر تو اُسی حساب سے بکری کی قیمت کا جتنا حصہ اس کے مقابل آئے

خیرات کرے۔ پیدل عمرہ کی منت مانی تو سر مونڈانے تک پیدل رہے۔⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - ایک سال میں جتنے حج کی منت مانی سب واجب ہو گئے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

① "الدرالمختار"، کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۴۹، وغیرہ.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب السادس عشر فی الہدی، ج ۱، ص ۲۶۱.

③ المرجع السابق.

④ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب السابع عشر فی النذر بالحج، ج ۱، ص ۲۶۲.

⑤ المرجع السابق.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۵۲.

⑦ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المناسک، الباب السابع عشر فی النذر بالحج، ج ۱، ص ۲۶۳.

مسئلہ ۴ لونڈی غلامِ محرم کو خریدنا جائز ہے اور مشتری کو اختیار ہے کہ احرام توڑوادے اگرچہ انھوں نے اپنے پہلے مولیٰ کی اجازت سے احرام باندھے ہوں اور احرام توڑنے کے لیے فقط یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ احرام توڑ دیا بلکہ کوئی ایسا کام کرنا ضروری ہے جو احرام میں منع تھا مثلاً بال یا ناخن ترشوانا یا خوشبو لگانا۔ اس کی ضرورت نہیں کہ حج کے افعال بجالا کر احرام توڑے اور قربانی بھیجنا بھی ضروری نہیں مگر آزادی کے بعد قربانی اور حج و عمرہ واجب ہے اگر حج کا احرام تھا اور عمرہ اگر عمرہ کا احرام تھا۔^(۱) (درمختار ردالمحتار)

مسئلہ ۵ افضل یہ ہے کہ اس خریدی ہوئی لونڈی کا احرام جماع کے علاوہ کسی اور چیز سے کھلوادے اور جماع سے بھی احرام کھل جائے گا مگر جب کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ احرام سے ہے اور جماع کر لیا تو حج فاسد ہو جائے گا۔^(۲) (درمختار ردالمحتار)

مسئلہ ۶ اگر مولیٰ نے احرام کھلوادیا پھر اس نے باندھا پھر کھلوادیا، اگر چند بار اسی طرح ہوا پھر اسی سال احرام باندھ کر حج کر لیا تو کافی ہو گیا اور اگر سال آئندہ میں حج کیا تو ہر بار احرام کھولنے کا ایک ایک عمرہ کرے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے کسی احرام والی عورت سے نکاح کیا تو اگر نفل کا احرام ہے کھلواسکتا ہے اور فرض کا ہے تو دو صورتیں ہیں۔ اگر عورت کا محرم ساتھ میں ہے تو نہیں کھلواسکتا اور محرم ساتھ میں نہ ہو تو فرض کا احرام بھی کھلواسکتا ہے اور اگر اس کا محرم ہونا معلوم نہ ہو اور جماع کر لیا تو حج فاسد ہو گیا۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ مسافر خانہ بنانا، حج نفل سے افضل ہے اور حج نفل صدقہ سے افضل یعنی جب کہ اس کی زیادہ حاجت نہ ہو ورنہ حاجت کے وقت صدقہ حج سے افضل ہے۔

علامہ شامی نے نہایت نفیس حکایت اس بیان میں نقل فرمائی کہ ایک صاحب ہزار اشرفیاں لیکر حج کو جا رہے تھے، ایک سیدانی تشریف لائیں اور اپنی ضرورت ظاہر فرمائی۔ انھوں نے سب اشرفیاں نذر کر دیں اور واپس آئے، جب وہاں کے لوگ حج سے واپس ہوئے تو ہر حاجی ان سے کہنے لگا، اللہ (عزوجل) تمہارا حج قبول فرمائے۔ انھیں تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، میں تو حج کو گیا نہیں، یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ خواب میں زیارتِ اقدس سے مشرف ہوئے، ارشاد فرمایا: کیا تجھے لوگوں کی بات سے تعجب ہوا؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرمایا کہ: ”تو نے جو میری اہلبیت کی خدمت کی، اس کی عوض میں اللہ عزوجل

① ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۵۲.

② ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحج، باب الہدی، ج ۴، ص ۵۳.

③ ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب المناسک، الباب السابع عشر فی النذر بالحج، ج ۱، ص ۲۶۴.

④ المرجع السابق.

نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا، جس نے تیری طرف سے حج کیا اور قیامت تک حج کرتا رہے گا۔“ (1)

مسئلہ ۹ حج تمام گناہوں کا کفارہ ہے یعنی فرائض کی تاخیر کا جو گناہ اس کے ذمہ ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ محو ہو جائے گا،

واپس آکر ادا کرنے میں پھر دیر کی تو پھر یہ نیا گناہ ہوا۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۱۰ وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس میں بہت ثواب ہے کہ یہ دو عیدوں کا اجتماع ہے اور اسی کو لوگ حج اکبر

کہتے ہیں۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ حَرَمِكَ وَحَرَمَ حَبِيبِكَ بِجَاهِهِ عِنْدَكَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَآبِنِهِ وَحِزْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

فضائل مدینہ طیبہ

حدیث ۱ صحیح مسلم و ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مدینہ کی

تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔“ (3)

مدینہ طیبہ کی اقامت

حدیث ۲ و ۳ نیز مسلم میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”مدینہ لوگوں کے

لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اُسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا

اور مدینہ کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا روز قیامت میں اس کا شفیع یا شہید ہوں گا۔“ (4)

اور ایک روایت میں ہے، ”جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ (عزوجل) اُسے آگ میں اس طرح

پگھلائے گا جیسے سیسہ یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔“ (5) اسی کی مثل بزار نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

حدیث ۳ صحیحین میں سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

① ”ردالمحتار“، کتاب الحج، باب الہدی، مطلب فی تفصیل الحج علی الصدقة، ج ۴، ص ۵۴.

② ”الدرالمختار“، کتاب الحج، باب الہدی، مطلب فی تکفیر الحج الکبائر، ج ۴، ص ۵۶.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب الترغیب فی سکنی المدینة... إلخ، الحدیث: ۱۳۷۸، ص ۷۱۶.

④ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب فی فضل المدینة... إلخ، الحدیث: ۱۳۶۳، ص ۷۰۹.

⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب فی فضل المدینة... إلخ، الحدیث: ۴۶۰- (۱۳۶۳)، ص ۷۱۰.

فرماتے سنا: کہ ”یمن فتح ہوگا، اس وقت کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی اطاعت میں ہیں لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور شام فتح ہوگا کچھ لوگ دوڑتے آئیں گے اپنے گھر والوں اور فرمانبرداروں کو لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور عراق فتح ہوگا کچھ لوگ جلدی کرتے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور فرمانبرداروں کو لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔“ (1)

حدیث ۵ طبرانی کبیر میں ابی اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر تھے (ان کے کفن کے لیے صرف ایک کملی تھی) جب لوگ اسے کھینچ کر ان کا مونہ چھپاتے قدم کھل جاتے اور قدم پر ڈالتے تو چہرہ کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کملی سے مونہ چھپا دو اور پاؤں پر یہ گھاس ڈال دو۔“ پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے سراقس اٹھایا، صحابہ کو روتا پایا۔ ارشاد فرمایا: ”لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ سرسبز ملک کی طرف چلے جائیں گے، وہاں کھانا اور لباس اور سواری انھیں ملے گی پھر وہاں سے اپنے گھر والوں کو لکھ بھیجیں گے کہ ہمارے پاس چلے آؤ کہ تم حجاز کی خشک زمین پر پڑے ہو حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔“ (2)

حدیث ۸۲۶ ترمذی وابن ماجہ وابن حبان و بیہقی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے کہ جو شخص مدینہ میں مرے گا، میں اُس کی شفاعت فرماؤں گا۔“ (3) اور اسی کی مثل صمدیہ اور سبیحہ اسمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی۔

مدینہ طیبہ کے برکات

حدیث ۹ صحیح مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ لوگ جب شروع شروع پھل دیکھتے، اُسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر لاتے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اسے لے کر یہ کہتے: الہی! تو ہمارے لیے ہماری کھجوروں میں برکت دے اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت کر اور ہمارے صاع و مُد میں برکت کر، یا اللہ! (عزوجل) بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انھوں نے مکہ کے لیے

① ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل المدینہ، باب من رغب عن المدینہ، الحدیث: ۱۸۷۵، ج ۱، ص ۶۱۸.

② ”المعجم الکبیر“ للطبرانی، الحدیث: ۵۸۷، ج ۱۹، ص ۲۶۵.

③ ”جامع الترمذی“، أبواب المناقب، باب ماجاء فی فضل المدینہ، الحدیث: ۳۹۴۳، ج ۵، ص ۴۸۳.

تجھ سے دُعا کی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے دُعا کرتا ہوں، اُسی کی مثل جس کی دعا مکہ کے لیے انھوں نے کی اور اتنی ہی اور (یعنی مدینہ کی برکتیں مکہ سے دوچند ہوں)۔ پھر جو چھوٹا بچہ سامنے ہوتا اُسے بلا کر وہ کھجور عطا فرمادیتے۔⁽¹⁾

حدیث ۱۳ تا ۱۰ صحیح مسلم میں اُم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یا اللہ! (عزوجل) تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ اور اُس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرمادے اور اُس کے صاع و مُد میں برکت عطا فرما اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جحفہ میں بھیج دے۔“⁽²⁾ (یہ دعا اُس وقت کی تھی، جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے اور یہاں کی آب و ہوا صحابہ کرام کو ناموافق ہوئی کہ پیشتر یہاں وبائی بیماریاں بکثرت ہوتیں) یہ مضمون کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے مدینہ طیبہ کے واسطے دعا کی کہ مکہ سے دوچند یہاں برکتیں ہوں۔⁽³⁾ مولیٰ علی و ابوسعید و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی۔

اہل مدینہ کے ساتھ بُرائی کرنے کے نتائج

حدیث ۱۴ صحیح بخاری و مسلم میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا، ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔“⁽⁴⁾

حدیث ۱۵ ابن حبان اپنی صحیح میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا، اللہ (عزوجل) اُسے خوف میں ڈالے گا۔“⁽⁵⁾

حدیث ۱۶ و ۱۷ طبرانی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یا اللہ (عزوجل)! جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انھیں ڈرائے تو اُسے خوف میں مبتلا کر اور اس پر اللہ (عزوجل) اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے، نہ نفل۔“⁽⁶⁾ اسی کی مثل نسائی و طبرانی نے سائب بن خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

حدیث ۱۸ طبرانی کبیر میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو

① ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب فضل المدینة... إلخ، الحدیث: ۱۳۷۳، ص ۷۱۳.

② ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب الترغیب فی سکنی المدینة... إلخ، الحدیث: ۱۳۷۶، ص ۷۱۵.

③ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب الترغیب فی سکنی المدینة... إلخ، الحدیث: ۱۳۷۴، ص ۷۱۳.

④ ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل المدینة، باب اثم من کاد اهل المدینة، الحدیث: ۱۸۷۷، ج ۱، ص ۶۱۸.

⑤ ”الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان“، کتاب الحج، باب فضل المدینة، الحدیث: ۳۷۳۰، ج ۶، ص ۲۰.

⑥ ”المعجم الأوسط“ للطبرانی، الحدیث: ۳۵۸۹، ج ۲، ص ۳۷۹.

اہل مدینہ کو ایذا دے گا، اللہ (عزوجل) اُسے ایذا دے گا اور اس پر اللہ (عزوجل) اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے، نہ نفل۔“ (1)

حدیث ۱۹ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے ایک ایسی بستی کی طرف (ہجرت) کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی (سب پر غالب آئے گی) لوگ اسے یثرب (2) کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے، لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔“ (3)

حدیث ۲۰ صحیحین میں انھیں سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مدینہ کے راستوں پر فرشتے (پہرا دیتے ہیں) اس میں نہ دجال آئے، نہ طاعون۔“ (4)

حدیث ۲۱ صحیحین میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مکہ و مدینہ کے سوا کوئی شہر ایسا نہیں کہ وہاں دجال نہ آئے، مدینہ کا کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر ملائکہ پر اباندھ کر پہرا نہ دیتے ہوں، دجال (قریب مدینہ) شور زمین میں آ کر اترے گا، اس وقت مدینہ میں تین زلزلے ہوں گے جن سے ہر کافر و منافق یہاں سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔“ (5)

حاضری سرکارِ اعظمِ مدینہ طیبہ حضورِ حبیبِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

رَّحِيمًا﴾ (6)

- ① ”مجمع الزوائد“، کتاب الحج، باب فیمن اخاف اهل المدينة... إلخ، الحدیث: ۵۸۲۶، ج ۳، ص ۶۵۹.
- ② ہجرت سے پیشتر لوگ یثرب کہتے تھے مگر اس نام سے پکارنا جائز نہیں کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی، بعض شاعر اپنے اشعار میں مدینہ طیبہ کو یثرب لکھا کرتے ہیں انھیں اس سے احتراز لازم اور ایسے شعر کو پڑھیں تو اس لفظ کی جگہ طیبہ پڑھیں کہ یہ نام حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے رکھا ہے، بلکہ صحیح مسلم شریف میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ ۱۲ منہ حفظ رہے.
- ③ ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل المدینہ، باب فضل المدینہ... إلخ، الحدیث: ۱۸۷۱، ج ۱، ص ۶۱۷.
- ④ ”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب صیانة المدينة من دخول الطاعون... إلخ، الحدیث: ۱۳۷۹، ص ۷۱۶.
- ⑤ ”صحیح مسلم“، کتاب الفتن... إلخ، باب قصة الحساسة، الحدیث: ۲۹۴۳، ص ۱۵۷۷.
- ⑥ پ ۵، النساء: ۶۴.

اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہارے حضور حاضر ہو کر اللہ (عزوجل) سے مغفرت طلب کریں اور رسول بھی اُن کے لیے استغفار کریں تو اللہ (عزوجل) کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔

حدیث ۱ — دارقطنی و بیہقی وغیرہما عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو میری قبر کی زیارت کرے، اس کے لیے میری شفاعت واجب۔“ (1)

حدیث ۲ — طبرانی کبیر میں انھیں سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو میری زیارت کو آئے سوا میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اُس کا شفیع بنوں۔“ (2)

حدیث ۳ — دارقطنی و طبرانی انھیں سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے حج کیا اور بعد میری وفات کے میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے میری حیات میں زیارت سے مشرف ہوا۔“ (3)

حدیث ۴ — بیہقی نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اُس نے میری زندگی میں زیارت کی اور جو حرمین میں مرے گا، قیامت کے دن امن والوں میں اُٹھے گا۔“ (4)

حدیث ۵ — بیہقی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا: ”جو شخص میری زیارت کرے گا، قیامت کے دن میں اُس کا شفیع یا شہید ہوں گا اور جو حرمین میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن امن والوں میں اُٹھائے گا۔“ (5)

حدیث ۶ — ابن عدی کامل میں انھیں سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اُس نے مجھ پر جفا کی۔“ (6)

(۱) زیارت اقدس قریب بواجب ہے۔ بہت لوگ دوست بن کر طرح طرح ڈراتے ہیں راہ میں خطر ہے، وہاں

① ”سنن الدار قطنی“، کتاب الحج، باب المواقیف، الحدیث: ۲۶۶۹، ج ۲، ص ۳۵۱.

② ”المعجم الکبیر“ للطبرانی، باب العین، الحدیث: ۱۳۱۴۹، ج ۱۲، ص ۲۲۵.

③ ”سنن الدار قطنی“، کتاب الحج، باب المواقیف، الحدیث: ۲۶۶۷، ج ۲، ص ۳۵۱.

④ ”شعب الإيمان“، باب فی المناسک، فضل الحج و العمرة، الحدیث: ۴۱۵۱، ج ۳، ص ۴۸۸.

⑤ ”السنن الکبری“ للبیہقی، کتاب الحج، باب زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۱۰۲۷۳، ج ۵، ص ۴۰۳.

⑥ ”الکامل فی ضعفاء الرجال“، الحدیث: ۱۹۵۶، ج ۸، ص ۲۴۸، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما.

بیماری ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ خبردار! کسی کی نہ سُو اور ہرگز محرومی کا داغ لے کر نہ پلٹو۔ جان ایک دن ضرور جانی ہے، اس سے کیا بہتر کہ اُن کی راہ میں جائے اور تجربہ ہے کہ جو اُن کا دامن تھام لیتا ہے، اُسے اپنے سایہ میں آرام لے جاتے ہیں، کیل کا کھٹکا نہیں ہوتا۔

ہم کو تو اپنے سایہ میں آرام ہی سے لائے حیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے

والحمد للہ (۲) حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت کرو، یہاں تک کہ امام ابن الہمام فرماتے ہیں: اس بار مسجد

شریف کی نیت بھی شریک نہ کرے۔^(۱)

(۳) حج اگر فرض ہے تو حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو۔ ہاں اگر مدینہ طیبہ راستہ میں ہو تو بغیر زیارت حج کو جانا سخت

محرومی و قساوت قلبی ہے اور اس حاضری کو قبول حج و سعادت دینی و دنیوی کے لیے ذریعہ و وسیلہ قرار دے اور حج نفل ہو تو اختیار ہے کہ پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب کے دربار میں حاضر ہو یا سرکار میں پہلے حاضری دے کر حج کی مقبولیت و نورانیت کے لیے وسیلہ کرے۔ غرض جو پہلے اختیار کرے اسے اختیار ہے مگر نیت خیر درکار ہے کہ: **اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ اَمْرٍ مَّا نَوَىٰ**۔^(۲) اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہ ہے، جو اُس نے نیت کی۔

(۴) راستے بھر درود و ذکر شریف میں ڈوب جاؤ اور جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے، شوق و ذوق زیادہ ہوتا جائے۔

(۵) جب حرم مدینہ آئے بہتر یہ کہ پیادہ ہولو، روتے، سر جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، درود شریف کی اور کثرت کرو

اور ہو سکے تو ننگے پاؤں چلو بلکہ۔

جائے سرست اینکہ تو پامی نہی پائے نہ بینسی کہ کجامی نہی

حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے

جب قبہ انور پر نگاہ پڑے، درود سلام کی خوب کثرت کرو۔

(۶) جب شہر اقدس تک پہنچو، جلال و جمال محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصور میں غرق ہو جاؤ اور دروازہ شہر میں داخل

ہوتے وقت پہلے دہنا قدم رکھو اور پڑھو:

①..... "فتح القدیر"، کتاب الحج، مسائل منشورہ، ج ۳، ص ۹۴.

②..... "صحیح البخاری"، [کتاب بدء الوحي] الحدیث: ۱، ج ۱، ص ۵.

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ اَللّٰهُمَّ
اَفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاَرْزُقْنِيْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيَا نَكَ
وَاهْلَ طَاعَتِكَ وَاَنْقِذْنِيْ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْ لِيْ وَاَرْحَمْنِيْ يَا خَيْرَ مَسْئُوْلٍ . (1)

(۷) حاضری مسجد سے پہلے تمام ضروریات سے جن کا لگاؤ دل بٹنے کا باعث ہو، نہایت جلد فارغ ہوان کے سوا
کسی بیکاریات میں مشغول نہ ہو معاً وضو و مسواک کرو اور غسل بہتر، سفید پاکیزہ کپڑے پہنو اور نئے بہتر، سُرمہ اور خوشبو لگاؤ
اور مشک افضل۔

(۸) اب فوراً آستانہ اقدس کی طرف نہایت خشوع و خضوع سے متوجہ ہو، رونانہ آئے تو رونے کا مونہ بناؤ اور دل کو
بزرورونے پر لاؤ اور اپنی سنگ دلی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف التجا کرو۔

(۹) جب در مسجد پر حاضر ہو، صلوٰۃ و سلام عرض کر کے تھوڑا ٹھہرو جیسے سرکار سے حاضری کی اجازت مانگتے ہو، بِسْمِ
اللہ کہہ کر سیدھا پاؤں پہلے رکھ کر ہمہ تن ادب ہو کر داخل ہو۔

(۱۰) اس وقت جو ادب و تعظیم فرض ہے ہر مسلمان کا دل جانتا ہے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل سب خیال غیر
سے پاک کرو، مسجد اقدس کے نقش و نگار نہ دیکھو۔

(۱۱) اگر کوئی ایسا سامنے آئے جس سے سلام کلام ضرور ہو تو جہاں تک بنے کتر اجاؤ، ورنہ ضرورت سے زیادہ نہ بڑھو
پھر بھی دل سرکار ہی کی طرف ہو۔

(۱۲) ہرگز ہرگز مسجد اقدس میں کوئی حرف چلا کر نہ نکلے۔

(۱۳) یقین جانو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات
شریف سے پہلے تھے، اُن کی اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تصدیق کو ایک آن کے لیے تھی، اُن کا انتقال
صرف نظر عوام سے چھپ جانا ہے۔ امام محمد ابن حاج کلمی مدخل اور امام احمد قسطلانی مواہب لدنیہ میں اور ائمہ دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

①..... اللہ (عزوجل) کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو اللہ (عزوجل) نے چاہا، نیکی کی طاقت نہیں مگر اللہ (عزوجل) سے، اے رب! سچائی کے
ساتھ مجھ کو داخل کر اور سچائی کے ساتھ باہر لے جا۔ الہی! تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
زیارت سے مجھے وہ نصیب کر جو اپنے اولیاء اور فرمانبردار بندوں کے لیے تو نے نصیب کیا اور مجھے جہنم سے نجات دے اور مجھ کو بخش دے اور مجھ پر
رحم فرما، اے بہتر سوال کیے گئے۔ ۱۲

فرماتے ہیں:

لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ
وَبِنِيَاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَاءَ بِهِ. (1)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، اُن کی نیتوں، اُن کے ارادوں، اُن کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتے ہیں اور یہ سب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر ایسا روشن ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں۔

امام رحمہ اللہ تلمیذ امام محقق ابن الہمام ”منک متوسط“ اور علی قاری مکی اس کی شرح ”مسلك متقسط“ میں فرماتے ہیں:
وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمٌ بِحُضُورِكَ وَقِيَامِكَ وَسَلَامِكَ أَيُّ بَلِّ بِجَمِيعِ أَعْمَالِكَ
وَأَحْوَالِكَ وَارْتِحَالِكَ وَمَقَامِكَ. (2)

ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام افعال و احوال و کوچ و مقام سے آگاہ ہیں۔

(۱۴) اب اگر جماعت قائم ہو شریک ہو جاؤ کہ اس میں تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی، ورنہ اگر غلبہ شوق مہلت دے اور وقت کراہت نہ تو دو رکعت تحیۃ المسجد و شکرانہ حاضری دربار اقدس صرف **قُلْ يَا** اور **قُلْ هُوَ اللَّهُ** سے بہت ہلکی مگر رعایت سنت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں اب وسط مسجد کریم میں محراب بنی ہے اور وہاں نہ ملے تو جہاں تک ہو سکے اُس کے نزدیک ادا کرو پھر سجدہ شکر میں گرو اور دعا کرو کہ الہی! اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب اور اُن کا اور اپنا قبول نصیب کر، آمین۔

(۱۵) اب کمال ادب میں ڈوبے ہوئے گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، لرزتے، کانپتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عفو و کرم کی امید رکھتے، حضور والا کی پائیں یعنی مشرق کی طرف سے مواجہہ عالیہ میں حاضر ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزار انور میں رُو بقبلہ جلوہ فرما ہیں، اس سمت سے حاضر ہو گے تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی نگاہ پیکس پناہ تمھاری طرف ہوگی اور یہ بات تمھارے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے، والحمد للہ۔

(۱۶) اب کمال ادب و ہیبت و خوف و امید کے ساتھ زیرِ قدم ایل اُس چاندی کی کیل کے سامنے جو حجرہ مطہرہ کی جنوبی

①....."المدخل" لابن الحاج، فصل فی زیارة القبور، ج ۱، ص ۱۸۷.

②....."لباب المناسک" و "المسلك المتقسط"، (باب زیارة سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)، ص ۵۰۸.

دیوار میں چہرہ انور کے مقابل لگی ہے، کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ سے قبلہ کو پیٹھ اور مزار انور کو مونہہ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہو۔

لباب و شرح لباب و اختیار شرح مختار و فتاویٰ عالمگیری وغیرہا معتمد کتابوں میں اس ادب کی تصریح فرمائی کہ: **يَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ** (1) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے سامنے ایسا کھڑا ہو، جیسا نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ عبارت عالمگیری و اختیار کی ہے۔

اور لباب میں فرمایا: **وَاضْعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ** (2) دست بستہ دہنا ہاتھ بائیں پر رکھ کر کھڑا ہو۔

(۱۷) خبردار! جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے، بلکہ چار ہاتھ فاصلہ سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلایا، اپنے مواجہہ اقدس میں جگہ بخشی، ان کی نگاہ کریم اگرچہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ ہے، واللہ الحمد۔

(۱۸) **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** اب دل کی طرح تمہارا مونہہ بھی اس پاک جالی کی طرف ہو گیا، جو اللہ عزوجل کے محبوب عظیم الشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، نہایت ادب و وقار کے ساتھ باواز حزیں و صوت درد آگین و دل شرمناک و جگر چاک چاک، معتدل آواز سے، نہ بلند و سخت (کہ ان کے حضور آواز بلند کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں)، نہ نہایت نرم و پست (کہ سنت کے خلاف ہے اگرچہ وہ تمہارے دلوں کے خطروں تک سے آگاہ ہیں جیسا کہ ابھی تصریحات ائمہ سے گزرا)، مجرا و تسلیم بجلاؤ اور عرض کرو:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُنْدَبِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْبِكِّ وَأَصْحَابِكَ وَأُمَّتِكَ أَجْمَعِيْنَ ط (3)

(۱۹) جہاں تک ممکن ہو اور زبان یاری دے اور ملال و کسل نہ ہو صلاۃ و سلام کی کثرت کرو، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے اپنے اور اپنے ماں باپ، پیر، استاد، اولاد، عزیزوں، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مانگو، بار بار عرض کرو:

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المناسک، خاتمہ فی زیارۃ قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج ۱، ص ۲۶۵.

②....."لباب المناسک" للسنندی، (باب زیارۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم)، ص ۵۰۸.

③.....المرجع السابق.

اے نبی! آپ پر سلام اور اللہ (عزوجل) کی رحمت اور برکتیں، اے اللہ (عزوجل) کے رسول! آپ پر سلام۔ اے اللہ (عزوجل) کی تمام مخلوق سے بہتر! آپ پر سلام۔ اے گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے! آپ پر سلام۔ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور آپ کی تمام امت پر سلام۔ ۱۲

أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . (1)

(۲۰) پھر اگر کسی نے عرض سلام کی وصیت کی بجالاؤ۔ شرعاً اس کا حکم ہے اور یہ فقیر ذلیل ان مسلمانوں کو جو اس رسالہ کو دیکھیں، وصیت کرتا ہے کہ جب انھیں حاضری بارگاہِ نصیب ہو، فقیر کی زندگی میں یا بعد کم از کم تین بار مواجہہ اقدس میں ضروریہ الفاظ عرض کر کے اس نالائق ننگِ خلائق پر احسان فرمائیں۔ اللہ (عزوجل) اُن کو دونوں جہان میں جزائے خیر بخشے آمین۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الْكَ وَذَوِيكَ فِي كُلِّ انٍ وَلِحُظَّةٍ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ
أَلْفَ مَرَّةٍ مِنْ عُبَيْدِكَ أَمَجَّدَ عَلِيٌّ يَسْتَلُكَ الشَّفَاعَةَ فَاشْفَعْ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ . (2)

(۲۱) پھر اپنے دہنے ہاتھ یعنی مشرق کی طرف ہاتھ بھرہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ نورانی کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرو:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيرَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ
رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . (3)

(۲۲) پھر اتنا ہی اور ہٹ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رُو برو کھڑے ہو کر عرض کرو:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُتِمِّمَ الْأَرْبَعِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عِزَّ الْإِسْلَامِ
وَالْمُسْلِمِينَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . (4)

(۲۳) پھر باشت بھر مغرب کی طرف پلٹو اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کھڑے ہو کر عرض کرو:

السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا خَلِيفَتَي رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيرَي رَسُولِ اللَّهِ ط السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا

①..... یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے شفاعت مانگتا ہوں۔ ۱۳

②..... یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) حضور اور حضور کی آل اور سب علاقہ والوں پر ہر آن اور ہر لحظہ میں ہر ہر ذرہ کی گنتی پر دس دس لاکھ درود سلام حضور کے حقیر غلام امجد علی کی طرف سے، وہ حضور سے شفاعت مانگتا ہے، حضور اس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں۔ ۱۳

③..... "لباب المناسک" للسندي، (باب زیارة سيد المرسلين، صلى الله تعالى عليه وسلم)، ص ۵۱۰.

اے خلیفہ رسول اللہ! آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے وزیر! آپ پر سلام، اے غارِ ثور میں رسول اللہ کے رفیق! آپ پر سلام اور اللہ (عزوجل) کی رحمت اور برکتیں۔ ۱۳

④..... "لباب المناسک" للسندي، (باب زیارة سيد المرسلين، صلى الله تعالى عليه وسلم)، ص ۵۱۱، وغیرہ.

اے امیر المؤمنین! آپ پر سلام، اے چالیس کا عدد پورا کرنے والے! آپ پر سلام، اے اسلام اور مسلمین کی عزت! آپ پر سلام اور اللہ (عزوجل) کی رحمت اور برکتیں۔ ۱۳

صَجِيْعِي رَسُوْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَسْأَلُكُمْا الشَّفَاعَةَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ط صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمْا وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . (1)

(۲۳) یہ سب حاضریاں محل اجابت ہیں، دُعا میں کوشش کرو۔ دُعاے جامع کرو اور دُرود پر قناعت بہتر اور چاہو تو یہ

دُعا پڑھو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَشْهَدُكَ وَاَشْهَدُ رَسُوْلَكَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاَشْهَدُ الْمَلٰٓئِكَةَ النَّازِلِيْنَ عَلٰى هٰذِهِ الرُّوْضَةِ الْكَرِيْمَةِ الْعَاكِفِيْنَ عَلَيْهَا اِنِّى اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى مُقِرٌّ بِجَنّٰتِيْ وَمَعْصِيَّتِيْ فَاغْفِرْ لِيْ وَاْمُنْ عَلٰى بِالِدِيْ مَنْنْتَ عَلٰى اَوْلِيَائِكَ فَاِنَّكَ اَلْمَنَّانُ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ رَبَّنَا اِنَّا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (2)

(۲۵) پھر منبر اطہر کے قریب دُعا مانگو۔

(۲۶) پھر جنت کی کیاری میں (یعنی جو جگہ منبر و حجرہ منورہ کے درمیان ہے، اسے حدیث میں جنت کی کیاری فرمایا)

آ کر دو رکعت نفل غیر وقت مکروہ میں پڑھ کر دُعا کرو۔

(۲۷) یوہیں مسجد شریف کے ہر ستون کے پاس نماز پڑھو، دُعا مانگو کہ محل برکات ہیں خصوصاً بعض میں خاص

خصوصیت۔

(۲۸) جب تک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو، ایک سانس بیکار نہ جانے دو، ضروریات کے سوا اکثر وقت مسجد

شریف میں باطہارت حاضر رہو، نماز و تلاوت و دُرود میں وقت گزارو، دنیا کی بات کسی مسجد میں نہ چاہیے نہ کہ یہاں۔

(۲۹) ہمیشہ ہر مسجد میں جاتے وقت اعتکاف (3) کی نیت کرلو، یہاں تمہاری یاد دہانی ہی کو دروازہ سے بڑھتے ہی

①..... اے رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پہلو میں آرام کرنے والے! آپ دونوں پر سلام اور اللہ (عزوجل) کی رحمت اور برکتیں، آپ

دونوں حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ہماری سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ ان پر اور آپ دونوں پر دُرود و برکت و سلام نازل فرمائے۔ ۱۲

②..... ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! میں تجھ کو اور تیرے رسول اور ابو بکر و عمر کو اور تیرے فرشتوں کو جو اس روضہ پر نازل اور معکف ہیں، اُن سب کو گواہ

کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تنہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے بندہ اور رسول ہیں، اے اللہ (عزوجل)! میں اپنے گناہ و معصیت کا اقرار کرتا ہوں تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر وہ احسان کر جو تو نے اپنے اولیا پر کیا۔ بیشک تو احسان کرنے

والا، بخشنے والا مہربان ہے۔ ۱۲

③..... اعتکاف کے معنی ہیں مسجد میں بالقصد نیت کر کے ٹھہرنا اس لیے کہ ذکر الہی کروں گا۔ ۱۲

کتبہ ملے گا۔ نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِغْتِكَافِ (۱)

(۳۰) مدینہ طیبہ میں روزہ نصیب ہو خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے۔

(۳۱) یہاں ہر نیکی ایک کی پچاس ہزار لکھی جاتی ہے، لہذا عبادت میں زیادہ کوشش کرو، کھانے پینے کی کمی ضرور کرو اور

جہاں تک ہو سکے تصدق کرو خصوصاً یہاں والوں پر خصوصاً اس زمانہ میں کہ اکثر ضرورت مند ہیں۔

(۳۲) قرآن مجید کا کم سے کم ایک ختم یہاں اور حطیم کعبہ معظمہ میں کر لو۔

(۳۳) روضہ انور پر نظر عبادت ہے جیسے کعبہ معظمہ یا قرآن مجید کا دیکھنا تو ادب کے ساتھ اسکی کثرت کرو اور دُرود

وسلام عرض کرو۔

(۳۴) ہجگانہ یا کم از کم صبح، شام مواجہہ شریف میں عرض سلام کے لیے حاضر ہو۔

(۳۵) شہر میں خواہ شہر سے باہر جہاں کہیں گنبد مبارک پر نظر پڑے، فوراً دست بستہ اُدھر منہ کر کے صلاۃ و سلام عرض

کرو، بے اس کے ہرگز نہ گزرو کہ خلاف ادب ہے۔

(۳۶) ترک جماعت بلا عذر ہر جگہ گناہ ہے اور کئی بار ہو تو سخت حرام و گناہ کبیرہ اور یہاں تو گناہ کے علاوہ کیسی سخت

محرومی ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جسے میری مسجد میں چالیس نمازیں

فوت نہ ہوں، اُس کے لیے دوزخ و نفاق سے آزادیاں لکھی جائیں۔“ (۲)

(۳۷) حتی الوسع کوشش کرو کہ مسجد اُول یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں جتنی تھی اس میں نماز پڑھو اور اس

کی مقدار سو ہاتھ طول و سو ہاتھ عرض ہے اگرچہ بعد میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اس میں نماز پڑھنا بھی مسجد نبوی ہی میں پڑھنا ہے۔

(۳۸) قبر کریم کو ہرگز پیٹھ نہ کرو اور حتی الامکان نماز میں بھی ایسی جگہ نہ کھڑے ہو کہ پیٹھ کرنی پڑے۔

(۳۹) روضہ انور کا نہ طواف کرو، نہ سجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اُن کی

اطاعت میں ہے۔

اہل بقیع کی زیارت

(۴۰) بقیع کی زیارت سنت ہے، روضہ اقدس کی زیارت کر کے وہاں جائے خصوصاً مجتہد کے دن۔ اس قبرستان میں

قریب دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدفون ہیں اور تابعین و تبع تابعین و اولیاء و علما و صلحاء وغیرہم کی گنتی نہیں۔ یہاں جب حاضر ہو

①..... میں نے سنت اغتکاف کی نیت کی۔ ۱۲

②..... ”المسند“ للإمام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۱۲۵۸۴، ج ۴، ص ۳۱۱.

پہلے تمام مدفونین مسلمین کی زیارت کا قصد کرے اور یہ پڑھے:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَإِنَّا لِنَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لِحَقُّونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِأَهْلِ الْبَقِيعِ بَقِيعِ الْغُرَقِدِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ. (1) اور اگر کچھ اور پڑھنا چاہے تو یہ پڑھے:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِنَا وَلِأَسْتَاذِينَا وَلِأَخْوَانِنَا وَوَالِدَاتِنَا وَأَوْلَادِنَا وَلَا حَفَادِنَا وَلَا صَحَابِنَا وَلَا حَبَابِنَا
وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِمَنْ أَوْ صَانَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. (2)

اور درود شریف و سورہ فاتحہ و آیہ الکرسی و **قُلْ هُوَ اللَّهُ** وغیرہ جو کچھ ہو سکے پڑھ کر ثواب اُس کا نذر کرے، اس کے بعد
بقیع شریف میں جو مزارات معروف و مشہور ہیں اُن کی زیارت کرے۔ تمام اہل بقیع میں افضل امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اُن کے مزار پر حاضر ہو کر سلام عرض کرے:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
صَاحِبَ الْهَجْرَتَيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِالنَّقْدِ وَالْعَيْنِ جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ
سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ. (3)

قبہ حضرت سیدنا ابراہیم ابن سردارِ دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسی قبہ شریف میں ان حضراتِ کرام کے بھی
مزارات طیبہ ہیں، حضرت رقیہ (حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی) حضرت عثمان بن مظعون (یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں) عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص (یہ دونوں حضرات عشرہ مبشرہ سے ہیں) عبداللہ بن مسعود
(نہایت جلیل القدر صحابی خلفائے اربعہ کے بعد سب سے آفقہ) حنیس بن حذافہ سہمی و اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان
حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرے۔

①..... تم پر سلام اے قومِ مؤمنین کے گھر والو! تم ہمارے پیشوا ہو اور ہم ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ (عزوجل)! بقیع والوں کی
مغفرت فرما، اے اللہ (عزوجل)! ہم کو اور انھیں بخش دے۔ ۱۲

②..... اے اللہ (عزوجل)! ہم کو اور ہمارے والدین کو اور استادوں اور بھائیوں اور بہنوں اور ہماری اولاد اور پوتوں اور ساتھیوں اور دوستوں کو اور
اُس کو جس کا ہم پر حق ہے اور جس نے ہمیں وصیت کی اور تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کو بخش دے۔ ۱۲

③..... "المسلك المتقسط"، (باب زیارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم)، ص ۵۲۰، وغیرہ.

اے امیر المؤمنین! آپ پر سلام اور اے خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ! آپ پر سلام، اے دو ہجرت کرنے والے! آپ پر سلام، اے
غزوہ تبوک کی نقد و جنس سے طیاری کرنے والے! آپ پر سلام، اللہ (عزوجل)! آپ کو اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بدلا دے، آپ
سے اور تمام صحابہ سے اللہ (عزوجل)! راضی ہو۔ ۱۲

قبۃ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی قبہ میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ و سر مبارک سیدنا امام حسین و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات طیبات ہیں، ان پر سلام عرض کرے۔
قبۃ ازواج مطہرات حضرت اُم المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار مکہ معظمہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سرف میں ہے۔ بقیہ تمام ازواج مکرّمات اسی قبہ میں ہیں۔

قبۃ حضرت عقیل بن ابی طالب اس میں سفیان بن حارث بن عبدالمطلب و عبد اللہ بن جعفر طیار بھی ہیں اور اس کے قریب ایک قبہ ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین اولادیں ہیں۔ قبۃ کھفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی، قبۃ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبۃ نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

ان حضرات کی زیارت سے فارغ ہو کر مالک بن سنان و ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما و اسماعیل بن جعفر صادق و محمد بن عبد اللہ بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم و سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے مشرف ہو۔

بتّیح کی زیارت کس سے شروع ہو، اس میں اختلاف ہے بعض علما فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا کرے کہ یہ سب میں افضل ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع کرے اور بعض فرماتے ہیں کہ قبۃ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا ہو اور قبۃ صفیہ پر ختم کہ سب سے پہلے وہی ملتا ہے، تو بغیر سلام عرض کیے وہاں سے آگے نہ بڑھے اور یہی آسان بھی ہے۔^(۱)

قبا شریف کی زیارت

(۴۱) قبا شریف کی زیارت کرے اور مسجد شریف میں دو رکعت نماز پڑھے۔ ترمذی میں مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”مسجد قبا میں نماز، عمرہ کی مانند ہے۔“^(۲) اور احادیث صحیحہ سے ثابت کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ہفتہ کو قبا تشریف لے جاتے کبھی سوار، کبھی پیدل۔ اس مقام کی بزرگی میں اور بھی احادیث ہیں۔

①.....”المسلك المتقسط“، (باب زیارة سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)، ص ۵۲۱.

②.....”جامع الترمذی“، ابواب الصلاة، باب ماجاء فی الصلاة فی مسجد قباء، الحدیث: ۳۲۴، ج ۱، ص ۳۴۸.

احد کی زیارت

(۴۲) شہدائے اُحد شریف کی زیارت کرے۔ حدیث میں ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں قبور شہدائے اُحد پر آتے اور یہ فرماتے: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ" (1) اور کوہ اُحد کی بھی زیارت کرے کہ صحیح حدیث میں فرمایا: "کوہ اُحد ہمیں محبوب رکھتا ہے اور ہم اُسے محبوب رکھتے ہیں۔" (2) اور ایک روایت میں ہے کہ: "جب تم حاضر ہو تو اُس کے درخت سے کچھ کھاؤ اگر چہ بول ہو۔" (3) بہتر یہ ہے کہ پنجشنبہ (4) کے دن صبح کے وقت جائے اور سب سے پہلے حضرت سید الشہدا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہو کر سلام عرض کرے اور عبداللہ بن جحش و مُصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سلام عرض کرے کہ ایک روایت میں ہے یہ دونوں حضرات یہیں مدفون ہیں۔ (5)

سید الشہدا کی پائیں جانب اور صحن مسجد میں جو قبر ہے، یہ دونوں شہدائے اُحد میں نہیں ہیں۔

(۴۳) مدینہ طیبہ کے وہ کوئیں جو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف منسوب ہیں یعنی کسی سے وضو فرمایا اور کسی کا پانی پیا اور کسی میں لعاب دہن ڈالا۔ اگر کوئی جاننے بتانے والا ملے تو اُن کی بھی زیارت کرے اور اُن سے وضو کرے اور پانی پیے۔

(۴۴) اگر چاہو تو مسجد نبوی میں حاضر رہو۔ سیدی ابن ابی جمرہ قدس سرہ جب حاضر حضور ہوئے، آٹھوں پہر برابر حضوری میں کھڑے رہتے ایک دن بقیع وغیرہ زیارات کا خیال آیا پھر فرمایا یہ ہے اللہ (عزوجل) کا دروازہ بھیک مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا، اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں۔

سر این جا، سجدہ این جا، بندگی این جا، قرار این جا

(۴۵) وقتِ رخصت مواجہہ انور میں حاضر ہو اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے بار بار اس نعمت کی عطا کا سوال کرو اور

①....."المسلك المتقسط في المنسك المتوسط"، (باب زيارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم)، ص ۵۲۵.

②....."صحيح البخاري"، كتاب الجهاد، باب فضل الخدمة في الغزو، الحديث: ۲۸۸۹، ج ۲، ص ۲۷۸.

③....."المعجم الاوسط" للطبراني، الحديث: ۱۹۰۵، ج ۱، ص ۵۱۶.

④.....جمرات۔

⑤....."لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب زيارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم)، ص ۵۲۵.

تمام آداب کہ کعبہ معظمہ سے رخصت میں گزرے ملحوظ رکھو اور سچے دل سے دعا کرو کہ الہی! ایمان و سنت پر مدینہ طیبہ میں مرنا اور بقیع پاک میں دفن ہونا نصیب کر۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا آمِنًا آمِنًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَآبِنِهِ وَجَزَيْهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

ت

اس کتاب کی تصنیف شب بستم ماہِ فَاخِرِ رَجَبِ الْآخِرِ ۱۳۳۲ھ کو ختم ہوئی اور تھوڑے دنوں بعد امام اہلسنت اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ الاقدس کو سنا بھی دی تھی۔ فقیر جب حرین طہین روانہ ہوا اس رسالہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور بمبئی کے ایک ہفتہ قیام میں مبیضہ کیا (۱) مگر اس کی طبع میں موانع پیش آتے گئے، جن کی وجہ سے بہت تاخیر ہوئی خدا کا شکر ہے کہ اب طبع ہو گیا۔ مولیٰ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچائے اور ان صاحبوں سے نہایت عجز کے ساتھ التجا ہے کہ اس فقیر کے لیے ایمان پر ثبات اور حسن خاتمہ کی دعا فرمائیں۔


اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز کا رسالہ ”انور البشارہ“ پورا اس میں شامل کر دیا ہے یعنی متفرق طور پر مضامین بلکہ عبارتیں داخل رسالہ ہیں کہ اولاً: تبرک مقصود ہے۔ دوم: اُن الفاظ میں جو خوبیاں ہیں فقیر سے ناممکن تھیں لہذا عبارت بھی نہ بدلی۔

فقیر ابو العلاء محمد امجد علی اعظمی عنی عنہ ۲۵ رمضان مبارک ۱۳۳۱ھ

①..... یعنی چھپنے کے لیے تیار کیا۔

حج و عمرہ کے اعمال کا نقشہ ایک نظر میں

ذیل کے نقشہ سے عمرہ، حج افراد، قرآن اور تمتع کے مناسک معلوم کیے جاسکتے ہیں، یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ ان میں سے شرط، رکن، واجب، سنت اور اختیاری کون کون سے مناسک ہیں۔



حج تمتع


(جب کہ قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو)

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------------------------------|
| 8 | رمی جمرہ عقبہ
واجب | 1 | احرام عمرہ
شرط |
| 9 | قربانی
واجب | 2 | طواف عمرہ مع رمل
رکن (فرض) |
| 10 | سرمنڈانا یا بال کتروانا
واجب | 3 | سعی عمرہ
واجب |
| 11 | طواف زیارت
رکن (فرض) | 4 | سرمنڈانا یا بال کتروانا
واجب |
| 12 | سعی
واجب | 5 | ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا
شرط |
| 13 | رمی جمار
واجب | 6 | وقوف عرفات
رکن (فرض) |
| 14 | طواف وداع
واجب | 7 | وقوف مزدلفہ
واجب |

حج قرآن

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-------------------------------|
| 7 | وقوف مزدلفہ
واجب | 1 | احرام حج و عمرہ
شرط |
| 8 | رمی جمرہ عقبہ
واجب | 2 | طواف عمرہ مع رمل
رکن (فرض) |
| 9 | قربانی
واجب | 3 | سعی عمرہ
واجب |
| 10 | سرمنڈانا یا بال کتروانا
واجب | 4 | طواف قدم مع رمل
سنت |
| 11 | طواف زیارت
رکن (فرض) | 5 | سعی
واجب |
| 12 | رمی جمار
واجب | 6 | وقوف عرفات
رکن (فرض) |
| | | 13 | طواف وداع
واجب |

پاکستان اور ہندوستان سے آنے والے عموماً حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں۔ ذیل کے نقشہ میں نہایت اختصار سے اس کا طریقہ (جب کہ قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو) گھر سے روانہ ہو کر اختتام حج تک پیش خدمت ہے۔



اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن تحریر فرماتے ہیں: علماء مختلف ہیں کہ پہلے حج کرے یا زیارت۔ ”باب“ میں ہے: حج نفل میں مختار ہے اور فرض ہو تو پہلے حج مگر مدینہ طیبہ راہ میں آئے تو تقدیم زیارت لازم آتی۔ یعنی بے زیارت گزر جانا گستاخی اور فقیر کو علامہ سبکی (رحمہ اللہ تعالیٰ) کا یہ ارشاد بہت بھایا کہ: پہلے حج کرے تاکہ پاک کی زیارت پاک ہو کر ملے۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۷۹۸)

مآخذ و مراجع

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف / مؤلف	مطبوعات
1	قرآن مجید	کلام الہی	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ
2	کنز الایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ

کتب التفسیر

1	جامع البیان فی تلویل القرآن	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۳۰ھ
2	معالم التنزیل (تفسیر البغوی)	امام ابو محمد حسین بن مسعود ذہبی متوفی ۵۱۶ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۴ھ
3	مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)	امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین رازی متوفی ۶۰۶ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۲۰ھ
4	الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبی)	ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی متوفی ۶۷۱ھ	دار الفکر العلمیہ، بیروت ۱۳۲۰ھ
5	مدارک التنزیل و حقائق التلویل	امام عبد اللہ بن احمد بن محمود نسلی متوفی ۷۱۰ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۳۲۱ھ
6	تفسیر العازن	علاء الدین علی بن محمد بغدادی متوفی ۷۳۱ھ	اکوڑہ تنگ نوشہرہ
7	تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر)	عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی متوفی ۷۷۴ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۹ھ
8	أنوار التنزیل و أسرار التلویل	ناصر الدین عبد اللہ ابو عمر بن محمد شیرازی بیضاوی متوفی ۷۹۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۳۲۰ھ
9	تفسیر الجلالین	امام جلال الدین محلی متوفی ۸۶۳ھ و امام جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ	باب المدینہ کراچی
10	الدر المنثور	امام جلال الدین ابن ابی بکر سیوطی متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۳۰۳ھ
11	الإتقان فی علوم القرآن	امام جلال الدین ابن ابی بکر سیوطی متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۳۲۳ھ
12	حاشیة شیخ زادہ علی بیضاوی	محمد الدین محمد بن مصلح الدین مصطفیٰ قوجوی حنفی متوفی ۹۵۱ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۹ھ
13	تفسیر روح البیان	مولیٰ الروم شیخ اسماعیل حقی بروسی متوفی ۱۱۳۷ھ	کونست ۱۳۱۹ھ
14	تفسیر أبی السعود	علامہ ابو السعود محمد بن مصطفیٰ عمادی متوفی ۹۸۲ھ	دار الفکر، بیروت
15	التفسیرات الأحمدیة فی بیان الآیات الشرعیة	شیخ احمد بن ابی سعید المعروف بمولانا جیون جوہدری متوفی ۱۱۳۰ھ	پشاور
16	افتوحات الإلهیة حاشیة الحمل علی (الحلالین)	علامہ شیخ سلیمان حمل متوفی ۱۲۰۳ھ	باب المدینہ کراچی
17	حاشیة الصاوی علی الحلالین	احمد بن محمد صاوی ماکی خلونی متوفی ۱۲۳۱ھ	باب المدینہ کراچی ۱۳۲۱ھ
18	روح المعانی	ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۳۰ھ
19	غرائب القرآن و رغائب الفرقان	علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری، متوفی ۷۲۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت
20	تفسیر مظہری (مترجم)	مؤلف علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی متوفی ۱۸۱۰ھ مترجم: ادارہ ضیاء المصطفین	ضیاء القرآن پبلی کیشنز ۱۳۲۳ھ

21	تفسیر نعیمی	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ	ضیاء القرآن پبلی کیشنز
----	-------------	------------------------------------------------	------------------------

کتاب الحدیث

1	الموطا	امام مالک بن انس اصبحی متوفی ۱۷۹ھ	دارالمعرفہ، بیروت ۱۳۲۰ھ
2	المسند	امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت
3	المصنف	امام ابوبکر عبدالرزاق بن حمام بن نافع صنعانی متوفی ۲۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۳۱ھ
4	المصنف فی الأحادیث والآثار	حافظ عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ کوفی عسی متوفی ۲۳۵ھ	دارالفکر، بیروت ۱۳۱۳ھ
5	المسند	امام احمد بن محمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ	دارالفکر، بیروت ۱۳۱۳ھ
6	سنن الدارمی	امام عبداللہ بن عبدالرحمن، متوفی ۲۵۵ھ	دارالکتب العربی، بیروت
7	نصب الرایة	علامہ جمال الدین ابومحمد عبداللہ بن یوسف متوفی ۲۵۵ھ	پشاور
8	صحیح البخاری	امام ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۹ھ
9	صحیح مسلم	امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ	دارالمغنی، عرب شریف ۱۳۱۹ھ
10	سنن ابن ماجہ	امام ابوعبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ	دارالمعرفہ، بیروت ۱۳۲۰ھ
11	سنن أبی داود	امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث جستانی متوفی ۲۷۵ھ	داراحیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۳۱ھ
12	مراسیل أبی داود	امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث جستانی، متوفی ۲۷۵ھ	دہلی الہند
13	سنن الدار قطنی	امام علی بن عمر دارقطنی، متوفی ۲۸۵ھ	مکتبۃ الاولیاء، ملتان
14	سنن الترمذی	امام ابویسعی محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ	دارالمعرفہ، بیروت ۱۳۱۳ھ
15	نوادر الأصول	امام ابویسعی محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ	دارصادر، بیروت
16	المسنة	امام ابوبکر احمد بن عمرو متوفی ۲۸۷ھ	دار ابن حزم ۱۳۲۳ھ
17	لبحر الزخار المعروف بمسند البزار	امام ابوبکر احمد عمرو بن عبدالقالب بزار متوفی ۲۹۲ھ	مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورہ ۱۳۲۳ھ
18	سنن النسائی	امام ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۶ھ
19	عمل اليوم والليلة	امام ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت
20	مسند أبی یعلی	شیخ الاسلام ابویعلیٰ احمد بن علی بن شی موسیٰ متوفی ۳۰۷ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۸ھ
21	صحیح ابن عزیمة	امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ، متوفی ۳۱۱ھ	الکتب الاسلامی، بیروت
22	شرح معانی الآثار	امام احمد بن محمد طحاوی، متوفی ۳۲۱ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت
23	المسند الشاشی	یثیم بن کلیب شاشی متوفی ۳۳۵ھ	بیروت
24	الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان	علامہ امیر علاء الدین علی بن بلبان فارسی، متوفی ۳۳۹ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۷ھ
25	المعجم الكبير	امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	داراحیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۲۲ھ

26	المعجم الأوسط	امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۲۲ھ
27	المعجم الصغير	امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
28	الکامل فی ضعفاء الرجال	امام ابو احمد عبداللہ بن عدی جرجانی، متوفی ۳۶۵ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
29	المستدرک علی الصحیحین	امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۳۱۸ھ
30	حلیۃ الأولیاء	حافظ ابویقین احمد بن عبداللہ صنفانی شافعی متوفی ۳۳۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۹ھ
31	شعب الإیمان	امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن ابی عمیر متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۱ھ
32	البعث والنشور	امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن ابی عمیر متوفی ۳۵۸ھ	مؤسسۃ الکتب الثقافیہ، بیروت
33	السنن الکبری	امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن ابی عمیر متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۳ھ
34	إثبات عذاب القبر	امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن ابی عمیر متوفی ۳۵۸ھ	بیروت
35	السنن الصغری	امام ابو بکر احمد بن حسین بن ابی عمیر متوفی ۳۵۸ھ	دار المعرفہ، بیروت
36	معرفة السنن والآثار	امام ابو بکر احمد بن حسین بن ابی عمیر متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
37	تاریخ بغداد	حافظ ابو بکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۳۶۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
38	الفردوس بما ثور الحطاب	حافظ ابو شجاع شیرویه بن شمر دار بن شیرویه دیلمی، متوفی ۵۰۹ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
39	شرح السنة	امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۳ھ
40	الترغیب والترہیب	امام زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری متوفی ۶۵۶ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۸ھ
41	شرح النووی علی المسلم	امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ	باب المدینہ کراچی
42	مشکاۃ المصابیح	علامہ دلی الدین تہمیزی، متوفی ۷۳۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۱ھ
43	سنن الدارمی	حافظ عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی متوفی ۷۹۷ھ	باب المدینہ کراچی ۱۳۰۷ھ
44	مجمع الزوائد	حافظ نور الدین علی بن ابی بکر عینی متوفی ۸۰۷ھ	دار الفکر، بیروت ۱۳۲۰ھ
45	فتح الباری	امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۰ھ
46	عمدة القاری	امام بدر الدین ابومحمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ	دار الحدیث، ملتان ۱۳۱۸ھ
47	الجامع الصغير	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی متوفی ۹۱۱ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۵ھ
48	إرشاد الساری	شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ	دار الفکر، بیروت ۱۳۲۱ھ
49	کنز العمال	علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری، متوفی ۹۷۵ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۹ھ
50	التیسیر	علامہ عبدالرؤف مناوی، متوفی ۱۰۰۳ھ	دار الحدیث، مصر
51	مرقاۃ المفاتیح	علامہ ملا علی بن سلطان قاری، متوفی ۱۰۱۳ھ	دار الفکر، بیروت ۱۳۱۳ھ
52	فیض القادیر	علامہ محمد عبدالرؤف مناوی متوفی ۱۰۳۱ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۲ھ
53	أشعة للمعات	شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	کوئٹہ ۱۳۳۲ھ

دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۲ھ	شیخ اسماعیل بن محمد عجیلونی متوفی ۱۱۶۲ھ	کشف الحفاء	54
باب المدینہ کراچی	علامہ وصی احمد محدث سورتی متوفی ۱۳۳۳ھ	حاشیہ سنن النسائی	55
ضیاء القرآن پبلی کیشنز	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ	مرآة المناجیح	56
برکاتی پبلشرز کھارادر کراچی	علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی متوفی ۱۳۲۰ھ	زہد القاری شرح صحیح البخاری	57

کتب العقائد

باب المدینہ کراچی	امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ھ	الفہم الأكبر	1
	ابو شکور سالمی حنفی معاصر سید علی ہجویری علیہما الرحمہ	تمہید اسی شکور	2
باب المدینہ کراچی	نجم الدین عمر بن محمد نسلی متوفی ۵۳۷ھ	العقائد النسفیة	3
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۹ھ	قاضی عہد الدین عبدالرحمن انجلی متوفی ۷۵۶ھ	شرح المواقف	4
نوریہ رضویہ پبلی کیشنز، لاہور ۱۳۲۵ھ	امام تقی الدین علی بن عبدالکافی سبکی متوفی ۷۵۶ھ	شفاء السقام	5
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۲ھ	علامہ مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی متوفی ۷۹۳ھ	شرح المقاصد	6
باب المدینہ کراچی	علامہ مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی متوفی ۷۹۳ھ	شرح العقائد النسفیة	7
مطبعة السعادة بمصر	کمال الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن ہمام متوفی ۹۰۶ھ	المسایرة	8
مطبعة السعادة بمصر	کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی شریف متوفی ۹۰۶ھ	المسایرة شرح المسایرة	9
کاسی روڈ، کوئٹہ	عصام الدین ابراہیم بن محمد متوفی ۹۳۳ھ	حاشیہ عصام الدین علی شرح العقائد	10
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۹ھ	عبدالوہاب بن احمد بن علی بن احمد شعرانی متوفی ۹۷۳ھ	الیواقیت والحواهر	11
مدینۃ الاولیاء، ملتان	حافظ احمد بن حجر کلبی متوفی ۹۷۳ھ	الصواعق المحرقة	12
باب المدینہ کراچی	شیخ علی بن سلطان المعروف بسلا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ	منح الروض الأزهر	13
باب المدینہ کراچی	شیخ علی بن سلطان المعروف بسلا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ	شرح الفہم الأكبر	14
باب المدینہ کراچی ۱۳۲۱ھ	حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ	تکمیل ایمان	15
کوئٹہ	علامہ ولی الدین متوفی ۱۱۱۹ھ	حاشیہ ولی الدین علی حاشیہ مولانا عصام الدین علی شرح العقائد	16
باب المدینہ کراچی	شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۳۳۹ھ	تحفہ اثنا عشریہ	17
مدینۃ الاولیاء، ملتان	علامہ محمد عبدالعزیز قرہ ہاری متوفی ۱۳۳۹ھ	النبراس	18
المتاز پبلی کیشنز لاہور ۱۳۳۱ھ	مصنف: امام حکمت وکلام علامہ محمد فضل حق خیر آبادی متوفی ۱۲۷۸ھ مترجم: علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری متوفی ۱۳۲۸ھ	شفاعت مصطفیٰ ترجمہ تحقیق فتویٰ فی ابطال الطغویٰ	19
برکاتی پبلشرز، کراچی ۱۳۲۰ھ	علامہ فضل الرسول بدایونی متوفی ۱۲۸۹ھ	المعتقد المتنفذ	20

برکاتی پبلشرز، کراچی ۱۳۳۰ھ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	المعتمد المستند	21
	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	مطلع القمرین فی إبانة سبقة العمرین	22
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	تحلی الیقین	23
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	الأمن والعلیٰ لناصی المصطفیٰ بدافع البلاء	24
برکاتی پبلشرز، کراچی ۱۳۳۰ھ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	أنوار العنان فی توحید القرآن	25
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	خالص الاعتقاد	26
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	إنباء الحمی	27
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	إزاحة العیب بسیف الغیب	28
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	ثلج الصدر لإیمان القدر	29
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	منہ العنیة بوصول الحمیب الی العرش والرؤیة	30
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	الزلزال الأنقی	31
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	صلاة الصفاء	32
مؤسسہ رضا بھینہ، لاہور ۱۳۳۲ھ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	الدولة المکبة	33
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	سبحان السبوح	34
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	حیة العوات	35
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	اعتقاد الأحباب	36
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	إسماع الأربین	37
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	منیة اللیب	38
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	فہر الدیان علی مرتد بقادیان	39
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	الحرراز الدہانی علی المرتد القادیانی	40
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	السوء والعقاب علی المسیح الکذاب	41
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	الکوکبة الشہایة	42
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	سل السیوف الہندیة	43
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	إنباء المصطفیٰ بحال سر وأحقی	44
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	الحمین ختم النبیین	45
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	جزاء اللہ علوہ بإبائہ ختم النبوة	46

47	تمہید ایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	مکتبہ المدینہ، کراچی
48	حسام الحرمین	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	مکتبہ المدینہ، کراچی
49	جاء الحق	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ	ضیاء القرآن پبلی کیشنز

کتاب الفقہ

1	تحفة الفقہاء	علاء الدین سمرقندی متوفی ۵۳۹ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت
2	خلاصۃ الفتاوی	علامہ طاہر بن عبدالرشید بخاری، متوفی ۵۳۲ھ	کوئٹہ
3	بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع	ملک العلماء امام علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی متوفی ۵۸۷ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۲۱ھ
4	الفتاویٰ الخانیہ	قاضی حسن بن منصور بن محمود اوزجندی متوفی ۵۹۲ھ	پشاور
5	التحسین و المزید	برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی، متوفی ۵۹۳ھ	باب المدینہ، کراچی
6	الہدایہ	برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی متوفی ۵۹۳ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت
7	فتح القدر	کمال الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ	کوئٹہ
8	منیۃ المصلی	علامہ سدید الدین محمد بن محمد کاشغری، متوفی ۷۰۵ھ	ضیاء القرآن، لاہور
9	المدخل	علامہ محمد بن محمد، المشہور ابن الحاج، متوفی ۷۳۷ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۶۵ھ
10	شرح الوقاہ	علامہ صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود، متوفی ۷۳۷ھ	باب المدینہ کراچی
11	الفتاویٰ التاتاریخانیہ	علامہ عالم بن علاء انصاری دہلوی متوفی ۷۸۶ھ	باب المدینہ کراچی ۱۳۱۶ھ
12	الجوہرۃ النیرۃ	علامہ ابوبکر بن علی حداد، متوفی ۸۰۰ھ	باب المدینہ کراچی
13	الجامع الوجیز (الفتاویٰ البزازیہ)	حافظ الدین محمد بن محمد بن المعروف بابن بزار متوفی ۸۲۷ھ	کوئٹہ ۱۳۰۳ھ
14	فتاویٰ قارئ الہدایہ	علامہ سراج الدین عمر بن علی حنفی، متوفی ۸۲۹ھ	دار الفرقان، بیروت
15	البنیۃ فی شرح الہدایہ	امام بدر الدین ابویوسف محمد بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ	مدینۃ الاولیاء ملتان
16	الحلیۃ	علامہ ابن امیر الحاج، متوفی ۸۷۹ھ	مخطوطہ
17	درر الحکام شرح غرر الاحکام	علامہ قاضی شہیر ملا خسرو حنفی، متوفی ۸۸۵ھ	باب المدینہ کراچی
18	الحاوی للفتاوی	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۳۲۰ھ
19	فتاویٰ امام سراج الدین بلقینی	امام سراج الدین بلقینی	باب المدینہ کراچی ۱۳۱۶ھ
20	غنیۃ المتملّی	علامہ محمد ابراہیم بن حلبي، متوفی ۹۵۶ھ	سینٹل اکیڈمی، لاہور
21	البحر الرائق	علامہ ذین الدین بن نجیم، متوفی ۹۷۰ھ	کوئٹہ ۱۳۲۰ھ
22	فتاویٰ زینیۃ	علامہ ذین الدین بن نجیم، متوفی ۹۷۰ھ	باب المدینہ کراچی
23	المیزان الکبری	عبدالوہاب بن احمد بن علی احمد شعرانی متوفی ۹۷۳ھ	مصطفیٰ البابی، مصر

24	الفتاویٰ الحدیثیہ	شیخ الاسلام احمد بن محمد بن علی بن حجر ترمذی متوفی ۹۷۳ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۱۹ھ
25	تنویر الأبصار	علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ بن احمد ترمذی، متوفی ۱۰۰۳ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۳۲۰ھ
26	النہر الفائق	علامہ سراج الدین عمر بن ابراہیم، متوفی ۱۰۰۵ھ	کوئٹہ
27	لباب العناصک	شیخ رحمۃ اللہ سندھی، متوفی ۱۰۱۳ھ	باب المدینہ کراچی ۱۳۲۵ھ
28	المسک المتقسط فی المنسک المتوسط	ملا علی بن سلطان قاری، متوفی ۱۰۱۳ھ	باب المدینہ کراچی ۱۳۲۵ھ
29	حاشیہ الشلبیہ	علامہ احمد بن محمد ہلمی، متوفی ۱۰۲۱ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
30	نور الإیضاح و مرافی الفلاح	علامہ حسن بن عمار بن علی شرنبلالی، متوفی ۱۰۶۹ھ	عدیۃ الاولیاء، ملتان
31	نور الإیضاح مع حاشیہ ضوء المصباح	علامہ حسن بن عمار بن علی شرنبلالی ۱۰۶۹ھ	مکتبہ برکات المدینہ کراچی
32	مجمع الأنہر	عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان کلیبی، متوفی ۱۰۷۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۹ھ
33	الدر المختار	محمد بن علی المعروف بلاء الدین حصکفی، متوفی ۱۰۸۸ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۳۲۰ھ
34	حاشیہ الطحطاوی علی مرافی الفلاح	علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی، متوفی ۱۲۳۱ھ	باب المدینہ، کراچی
35	حاشیہ الطحطاوی علی الدر المختار	علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی، متوفی ۱۲۳۱ھ	کوئٹہ
36	رد المختار	محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۳۲۰ھ
37	الفتاویٰ الہندیہ	علامہ ہمام مولا نا شیخ نظام متوفی ۱۱۶۱ھ و ہجرت من علماء الہند	دار الفکر، بیروت ۱۳۰۳ھ
38	الفتاویٰ الرضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۳۰ھ	رضا فاؤنڈیشن، لاہور
39	جد الممتار	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۳۰ھ	مکتبہ المدینہ، کراچی
40	إعلام الأعلام	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۳۰ھ	رضا فاؤنڈیشن، لاہور
41	احکام شریعت	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۳۰ھ	مکتبہ المدینہ، کراچی
42	رکن دین	علامہ مولا نا محمد رکن الدین، متوفی ۱۳۳۵ھ	مکتبہ المدینہ، کراچی
43	بہار شریعت	مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبہ رضویہ، کراچی
44	فتاویٰ امجدیہ	علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبہ رضویہ، کراچی ۱۳۱۹ھ
45	ہمارا اسلام	مولانا مفتی محمد ظلیل خان برکاتی، متوفی ۱۳۰۵ھ	فرید بک اسٹال لاہور
46	وقار الفتاویٰ	مولانا مفتی محمد وقار الدین، متوفی ۱۳۱۳ھ	بزم وقار الدین کراچی ۲۰۰۱م
47	فتاویٰ فقیہ ملت	مولانا مفتی جلال الدین امجدی، متوفی ۱۳۲۲ھ	شہیر برادرز لاہور ۲۰۰۵م
48	فتاویٰ فیض الرسول	مولانا مفتی جلال الدین امجدی، متوفی ۱۳۲۲ھ	شہیر برادرز لاہور ۱۳۱۱ھ
49	نماز کے احکام	علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبہ المدینہ، باب المدینہ کراچی
50	رفیق الحرمین	علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبہ المدینہ، باب المدینہ کراچی

کتب اصول الفقہ

باب المدینہ کراچی	عبد اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ	التوضیح و التلویح	1
مدینہ الاولیاء ملتان	مولوی ابو محمد عبدالحق الحقانی بن محمد امیر	النامی شرح الحماسی	2
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۶۹ھ	اشیخ زین الدین بن ابراہیم الشہیر بانن نجم متوفی ۹۷۰ھ	الاشباہ و النظائر	3
مدینہ الاولیاء ملتان	علامہ احمد ابن ابی سعید حنفی المعروف بسلا جیون متوفی ۱۱۳۰ھ	نور الأنوار	4
باب المدینہ کراچی	علامہ عبد اعلیٰ محمد بن نظام الدین لکھنوی متوفی ۱۲۲۵ھ	فواتح الرحموت	5

کتب التصوف

دار الکتب العلمیہ، بیروت	امام عبد اللہ بن مبارک مروزی متوفی ۱۸۱ھ	کتاب الزهد	1
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۸ھ	امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری متوفی ۳۶۵ھ	الرسالہ القشیریہ	2
دار صادر، بیروت ۲۰۰۰ء	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ	إحیاء علوم الدین	3
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۳۶ھ	ابو حفص عمر بن محمد سہروردی شافعی متوفی ۶۳۲ھ	عوارف المعارف	4
دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ	شیخ ابو عبد اللہ محمد محی الدین ابن عربی متوفی ۶۳۸ھ	الفتوحات المکیہ	5
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۳ھ	ابو الحسن نور الدین علی بن یوسف شطرنجی متوفی ۷۱۳ھ	بہجۃ الأسرار	6
دار الفکر، بیروت ۱۳۱۸ھ	عبدالوہاب بن احمد بن علی احمد شعرانی متوفی ۹۷۳ھ	الطبقات الکبری	7
مکتبہ قادریہ لاہور ۱۳۰۲ھ	میر عبدالواحد بگلرامی متوفی ۱۰۱۷ھ	سبع سنابل	8
مکتبہ القدوس کوئٹہ	مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی متوفی ۱۰۳۳ھ	مکتوبات امام ربانی	9
پشاور	عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی حنفی متوفی ۱۱۳۱ھ	الحدیقۃ الندیہ	10
بیروت	ابوسعید محمد بن مصطفیٰ نقشبندی حنفی متوفی ۱۱۷۶ھ	البریقۃ المحمودیہ علی الطریقۃ المحمدیہ	11
مرکز اہلسنت برکات رضا ہند ۱۳۲۲ھ	امام یوسف بن اسماعیل مہبانی متوفی ۱۳۵۰ھ	جامع کرامات الأولیاء	12

کتب السیرۃ

دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۳ھ	امام ابوبکر احمد بن حسین بن علی بن ہبیبی متوفی ۳۵۸ھ	دلایل النبوة	1
مرکز اہلسنت برکات رضا ہند ۱۳۲۳ھ	القاضی ابوالفضل عیاض مالکی متوفی ۵۳۳ھ	الشفاعۃ بتعریف حقوق المصطفیٰ	2
حزب القادریہ، لاہور	امام شرف الدین محمد بن سعید بوسیری متوفی ۶۹۵ھ	أم القرى فی مدح نیر الوری (قصیدہ ہمزہ)	3
دار الفکر، بیروت ۱۳۱۸ھ	عماد الدین اسماعیل بن عمران بن کثیر دمشقی متوفی ۷۷۳ھ	البدایۃ و النہایۃ	4
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۷ھ	امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ	أسد الغابۃ	5

دارالکتب العلمیہ، بیروت	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی متوفی ۹۱۱ھ	الخصائص الكبرى	6
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۶۶ھ	شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ	المواهب اللدنیة	7
	المعین الحاج محمد القزازی المعروف بملا مسکین متوفی ۹۵۳ھ	معارض النبوة	8
	شیخ الاسلام احمد بن محمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۹۷۳ھ	أفضل القرى شرح أم القرى	9
مکتبہ قادریہ، لاہور	شیخ الاسلام احمد بن محمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۹۷۳ھ	الحوهر المنظم	10
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۳۱ھ	ملا علی قاری ہروی حنفی متوفی ۱۰۱۳ھ	شرح الشفا	11
نور بیہ رضویہ لاہور ۱۹۹۷ء	شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۳ھ	مدارج النبوة	12
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۳۱ھ	شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر خفاجی متوفی ۱۰۶۹ھ	نسیم الرياض	13
محمد سعید اینڈ سنز، کراچی	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۶ھ	فیوض الحرمین	14
مرکز اہل سنت برکات رضا، ہند	امام یوسف بن اسماعیل مہمانی متوفی ۱۳۵۰ھ	حجة الله على العالمین	15
مرکز اہل سنت برکات رضا ہند ۱۳۲۳ھ	امام یوسف بن اسماعیل مہمانی متوفی ۱۳۵۰ھ	جواهر البحار	16

کتب الأعلام

دارالکتب العلمیہ ۱۳۲۳ھ	امام جمال الدین ابی الفرج ابن جوزی متوفی ۵۹۷ھ	صفة الصفوة	1
مؤسسۃ الرسالہ ۱۳۱۳ھ	عمر رضا کمالہ متوفی ۱۳۰۸ھ	معجم المؤلفین	2
خیر پور پاکستان	شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۳ھ	أخبار الأخبار	3
باب المدینہ کراچی	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۶ھ	إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء	4
ادارۃ القرآن، کراچی ۱۳۶۹ھ	مولانا عبدالحق لکھنوی متوفی ۱۳۰۳ھ	الفوائد البیہة	5
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۶۳ھ	اسماعیل کمال پاشا متوفی ۱۳۳۹ھ	هدية العارفين	6
دارالعلم للملایین، بیروت ۲۰۰۵ء	خیر الدین زرنکی متوفی ۱۳۹۶ھ	الأعلام	7
دارالفکر، بیروت ۱۳۱۷ھ	شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۷۲۸ھ	سير أعلام النبلاء	8

کتب اللغات

دارالمنار للطباعة والنشر	سید شریف علی بن محمد بن علی الجرجانی ۸۱۶ھ	التعريفات للحرجاني	1
دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۱۷ھ	نجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ھ	القاموس المحيط	2
ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی	محمد رؤف، حامد صادق	معجم لغة الفقهاء	3
فیروز سنز ۲۰۰۵ء	الحاج فیروز الدین	فیروز اللغات	4
ترقی اردو لغت بورڈ کراچی ۲۰۰۶ء	ادارہ ترقی اردو بورڈ	أردو لغت	5

سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور ۲۰۰۲ء	احمد بلوی	فرہنگ آصفیہ	6
---------------------------------	-----------	-------------	---

کتاب الشیعة

تہران	مرزا محمد تقی پسران الملک متوفی ۲۹۷ھ	ناسخ التواریخ	1
دارالکتب الاسلامیہ، تہران	ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی متوفی ۳۲۸ھ	أصول کافی	2
دارالکتب الاسلامیہ، تہران	محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۸ھ	الروضة من الکافی (فروع کافی)	3
نجف اشرف، طبع قدیم ۱۲۸۶ھ	ابو منصور احمد بن علی طبری متوفی ۵۳۸ھ	احتجاج طبرسی	4
نجف (عراق)	محمد بن علی بن شہر آشوب متوفی ۵۸۸ھ	مناقب آل ائیی طالب	5
بیروت ۱۳۷۵ھ	ابوالخامد عبد الحمید متوفی ۶۵۶ھ	شرح نهج البداية ابن ائیی حدید	6
طبع قدیم، تہران ۱۳۹۸ھ	باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ	جلاء العیون	7
کتب فروشہ اسلامیہ، تہران	باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ	حق الیقین	8
کتب فروشہ اسلامیہ، تہران	باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ	حیات القلوب	9
مؤسسہ الاعلیٰ، کربلا	محمد بن عمر کشی (القرن الرابع)	رجال الکشی	10
دہلی	مظہر حسین سہارن پوری	تہذیب المتین فی تاریخ امیر المؤمنین	11
ایران	مرزا حسین بن محمد تقی طبری	نفس الرحمان فی فضائل سلیمان	12
تہران	نعمت اللہ جزائری	أنوار نعمانیہ	13
تہران	مرزا محمد رفیع مشہدی	حملہ حیدری	14
قم (ایران)	جمال الدین احمد بن حسن	عمدۃ المطالب	15
	مرزا عباسی	طراز المذہب مظفری	16
تہران	عباس قتی	منتہی الإکمال	17
تہران، تہران	نور اللہ شوستر	محاسن المؤمنین	18
تہران	ابو علی فضل بن حسن طبری	تفسیر مجمع البیان	19
تہران ۱۳۳۱م	محمد ہاشم بن محمد علی خراسانی	تتحب التواریخ	20
تہران	محمد بن مرتضیٰ المعروف فیض کاشانی	التفسیر الصافی	21
مؤسسہ الاعلیٰ، بیروت ۱۳۳۱ھ	حسن قباچی	مسند امام علی	22

کتاب القادیانی

ریاض الہند، امرتسر	مرزا غلام احمد قادیانی متوفی ۱۹۰۱ء	إزالہ اوہام	1
--------------------	------------------------------------	-------------	---

2	أنعام آتھم	مرزا غلام احمد قادیانی متوفی ۱۹۰۱ء	مطبع ضیاء الاسلام، قادیان
3	دافع البلاء	مرزا غلام احمد قادیانی متوفی ۱۹۰۱ء	مطبع ضیاء الاسلام، قادیان
4	توضیح المرام	مرزا غلام احمد قادیانی متوفی ۱۹۰۱ء	ریاض الہند، امرتسر
5	أربعین	مرزا غلام احمد قادیانی متوفی ۱۹۰۱ء	مطبع ضیاء الاسلام، قادیان
6	معیار أهل الاصطفاء	مرزا غلام احمد قادیانی متوفی ۱۹۰۱ء	مطبع ضیاء الاسلام، قادیان
7	کشتی نوح	مرزا غلام احمد قادیانی متوفی ۱۹۰۱ء	مطبع ضیاء الاسلام، قادیان
8	اعجاز احمدی	مرزا غلام احمد قادیانی متوفی ۱۹۰۱ء	مطبع ضیاء الاسلام، قادیان
9	ضمیمہ انعام آتھم	مرزا غلام احمد قادیانی متوفی ۱۹۰۱ء	مطبع ضیاء الاسلام، قادیان
10	براہین احمدیہ	مرزا غلام احمد قادیانی متوفی ۱۹۰۱ء	سفیر ہند پریس، امرتسر، پنجاب
11	روحانی خزائن	(مجموعہ کتب و رسائل قادیانی)	زیر طبع U.S.A.

کتب الوہابیہ

1	حاشیہ شرح الصدور	محمد بن عبدالوہاب نجدی متوفی ۱۲۰۶ھ	مطبوعہ سعودیہ
2	رسالہ یک روزہ	اسماعیل دہلوی متوفی ۱۲۳۶ھ	فاروقی کتب خانہ، ملتان
3	ایضاح الحق	اسماعیل دہلوی متوفی ۱۲۳۶ھ	قدیمی کتب خانہ کراچی
4	تقویۃ الإیمان	اسماعیل دہلوی متوفی ۱۲۳۶ھ	میر محمد کتب خانہ کراچی
5	صراط مستقیم	مرتب اسماعیل دہلوی متوفی ۱۲۳۶ھ	مکتبہ سلفیہ، لاہور
6	تحذیر الناس	محمد قاسم نانوتوی متوفی ۱۲۹۷ھ	دارالاشاعت، کراچی
7	فتاویٰ رشیدیہ	رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۲۳ھ	محمد علی کارخانہ اسلامی کتب ۲۰۰۱ء
8	براہین قاطعہ	خلیل احمد ایٹھوی سہارن پوری متوفی ۱۳۳۶ھ	دارالاشاعت کراچی ۱۹۸۷ء
9	حفظ الإیمان	اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ	قدیمی کتب خانہ کراچی
10	الدرر السنیة فی الأجوبة النجدیة	عبدالرحمن بن محمد بن قاسم عاص متوفی ۱۳۹۲ھ	مکتبہ الکواثر، ریاض ۱۴۱۳ھ

الکتب المتفرقة

1	طوالع الأنوار	قاضی ناصر الدین عبداللہ بن ابی عمرو بیضاوی متوفی ۷۹۱ھ	
2	حیة الحيوان الكبرى	کمال الدین محمد بن موسیٰ دیمیری متوفی ۸۰۸ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ
3	تاریخ الخلفاء	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی متوفی ۹۱۱ھ	ضیاء القرآن پبلی کیشنز
4	البدور المسافرة فی أمور الآخرة	ابوالفضل جلال الدین عبدالرحمن سیوطی متوفی ۹۱۱ھ	مؤسسہ اکتب الثقافیہ، بیروت ۱۳۲۵ھ

5	الجوائک فی أخبار الملائک	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی متوفی ۹۱۱ھ
6	سبل الہدی والرشد	محمد بن یوسف صالحی شامی متوفی ۹۳۲ھ
7	أحسن الوعاء	رئیس المحکمین مولانا تقی علی خان بن علی رضا متوفی ۱۲۹۷ھ
8	الملفوظ (ملفوظات اعلیٰ حضرت)	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ
9	مقال عرفا باعزاز شرع و علماء	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ
10	حدائق بحشش	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ
11	ذیل المدعا لأحسن الوعاء	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ
12	تحفة جعفریہ	محمد علی نقشبندی علیہ رحمۃ اللہ القوی
13	عقائد جعفریہ	محمد علی نقشبندی علیہ رحمۃ اللہ القوی
14	تسهيل النحو	حافظ محمد خان نوری ابدالوی
15	علم التجويد	قاری غلام رسول
16	تحفة حسینیہ	علامہ محمد اشرف سیالوی

ثواب سے محرومی

طبرانی نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے عظیم، مَنزَّہ عن الخیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا، جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے اور محل اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے، دیکھیں گے۔

پکارا جائے گا کہ انھیں واپس کرو، جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ لوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے، کہ ایسی حسرت کسی کو نہیں ہوئی اور یہ لوگ کہیں گے کہ اے رب! اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا، ہمیں تو نے ثواب اور جو کچھ اپنے اولیاء کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا تو یہ ہم پر آسان ہوتا۔

ارشاد فرمائے گا: ”ہمارا مقصد ہی یہ تھا اے بد بختو! جب تم تنہا ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے، لوگوں سے تم ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے، لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نہیں کی، لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میرے لیے نہیں چھوڑے، لہذا تم کو آج عذاب چکھاؤں گا اور ثواب سے محروم کروں گا۔“

(”المعجم الکبیر“ للطبرانی، الحدیث: ۱۹۹، ج ۱۰، ص ۸۵، و ”مجمع الزوائد“، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الریاء،

الحدیث: ۱۷۶۴۹، ج ۱۰، ص ۳۷۷)